

حُكْمَاتٌ
حُكْمُ الْأُمَّةِ

ادارهٔ تبلیغات اشرفیه

پوک فواره نہت ان پرستان نون: 4540513-4519240

بسیلہ خطبات حکیم الامت جلد - ۳

دین و دنیا

(جدید ایڈیشن)

حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نوال شریفہ

عنوانات و ترتیب

مشی عبد الرحمن خان رحمہ اللہ

تصحیح و ترئیں تحریج احادیث

صوفی محمد اقبال قریشی مدظلہ مولانا زاہد محمود قادری

ادارہ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ نلمت ان پاکستان

(061-4540513-4519240)

دین و دنیا

تاریخ اشاعت ربیع المرجب ۱۴۳۰ھ
 ناشر ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
 طباعت سلامت اقبال پر لیس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
 کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

قیصر احمد خان

(ایڈ، دیکٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
 الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود ہوتی ہے۔
 پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرمایا کر منون فرمائیں
 تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ پوک فوارہ ملتان مکتبہ الفردوس مصریاں دہلی پرانی دہلی

ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور دارالاشاعت اردو بازار کراچی

مطبع سید احمد شفیع اردو بازار لاہور مطبع القرآن تحریک اون کراچی

مطبع حمایی اردو بازار لاہور مکتبہ دارالخلاف قصہ خوانی بازار پشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD
 (ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BL1 3NE. (U.K.)

مدد
کرنے



عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے اکابرین کی دعاؤں کے طفیل "خطبات حکیم
الامت" مکمل ۳۲ جلدوں میں شائع کر چکا ہے۔
بہت سے بزرگوں کی تمنا تھی کہ خطبات میں آنے والی احادیث مبارکہ کی تحریج
ہو جائے اور فارسی اشعار وغیرہ کا ترجمہ ہو جائے۔

بوفیقہ تعالیٰ ادارے نے زرکشی خرچ کر کے یہ کام کیا۔ محترم جناب مولانا زاہد
 محمود صاحب نے تحریج احادیث اور حضرت صوفی محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ
 نے فارسی اشعار کے ترجمہ وغیرہ کے کام انعام دیئے۔
 اس طرح الحمد للہ یہ جدید ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
 اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے آمین۔

احقر: محمد الحق عفی عنہ

رجب المرجب ۱۴۳۰ھ بمقابل جولائی 2009ء

المال في حياة

الدين الخالص

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر: ١١)

تفصيل الدين

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا (مريم: ٩٦)
الكمال في الدين

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ (بقرة: ١٢٩)

ضرورة الاعتناء بالدين

رَبَّنَا وَابْعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُ الْخَ (بقرة: ١٢٩)

ضرورة العلم بالدين

رَبَّنَا وَابْعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُ الْخَ (بقرة: ١٢٩)

ضرورة العلماء

أَدْعُوكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً طَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ (الاعراف: ٥٥)

أسباب الغفلة

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ الْخَ (منافقون: ٩)

مظاهر الامال

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيرَاتُ الصَّلِحَاتُ الْخَ (كهف: ٣٦)

سبيل النجاح

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا الْخَ (آل عمران: ٢٠٠)

طريقة النجاة

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعْيِرِ (الملک: ١٠)

اللَّهُمَّ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ مُنْذِكٌ مُّبْرِيكٌ
اللَّهُمَّ
بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ مُنْذِكٌ مُّبْرِيكٌ

كتاب الفقير لغرس الحسيني الذهبي عمدة الصدقة كوفي غوري في رحلات العمارنة ١٤٢٠

فہرست مضمون

نمبر	تفصیل الدین	نمبر	خطبہ ما ثورہ
۳۸		۱۵	خطبہ ما ثورہ
۳۹	خطبہ ما ثورہ	۱۵	عوام و خواص کی غلطی
۴۰	تمہید	۱۸	مقام مسلم
۵۰	درجہ تفریج و تجدید	۲۰	واقف و ناواقف سے سلوک
۵۱	درجہ توضیح و تفصیل	۲۲	تعہ بالکفار کی صورت
۵۲	دین کی بے قدری	۲۳	اخلاص کی اہمیت
۵۳	دعا اور وظیفہ کافر ق	۲۵	اخلاص کی ضرورت
۵۷	دعا کا طریق	۲۷	تكلفات کا اثر
۵۹	شیطانی اغوا	۲۸	مجاہدہ کے طریقے
۶۱	استقلال کی ضرورت	۳۱	تصوف کی حقیقت
۶۲	مقام دعا	۳۲	علم میں اخلاص کی ضرورت
۶۳	تبرکات کا مسئلہ	۳۶	عبدیت کا تقاضا
۶۷	نسبت کا اثر	۳۸	نیک نیت کی ضرورت
۶۹	نفع تبرکات کی صورت	۳۰	عدم اخلاص کی خرابیاں
۷۰	شرف نسب کی حیثیت	۳۳	اہل باطن کا اخلاص
۷۳	عقائد کی غلطیاں	۳۵	خلوص کے طریقے

۱۰۷	مسئلہ استیزان	خرابی کی وجہ
۱۰۹	تصوف کی حقیقت	خود رائی کا مرض
۱۰۹	اسلام کی حقیقت	خلاف عادت اور خلاف عقل کا فرق
۱۱۱	اقسام اعمال	
۱۱۲	الکمال فی الدین	ثبوت کی حقیقت
۱۱۳	(للرجال)	بل صراط کی حقیقت
۱۱۵	خطبہ ما ثورہ	طریق شریعت
۱۱۵	تمہید	عقل کی حد
۱۱۵	نا کامی کاراز	تقلید کی ضرورت
۱۱۶	تمنا اور طریق کا فرق	نتیجہ افراط و تفریط
۱۱۷	دین میں تنگی نہیں	روح شریعت
۱۱۸	آج کل کے اعتراضات	انکشاف اسرار و حقائق
۱۱۹	وضاحتی تمثیلات	عقل کا معارضہ
۱۲۲	تنگی کی حقیقت	اعتقاد رسالت کی ضرورت
۱۲۵	شرات کا وعدہ	اجزاء دین کی اہمیت
۱۲۸	تعلق مع اللہ کی صورت	اجزائے دین کی تفصیل
۱۲۹	نازو نیاز کا مقام	بری صحبت کا اثر
۱۳۱	ہر کام کا طریق کار	ہماری کوتا ہیاں
۱۳۳	دین و دنیا کا فرق	جاائزونا جائز کی بحث
۱۳۳	اسباب میہشت کی رعایت	اسلامی تہذیب
۱۳۸	نفس کے بہانے	جدید معاشرت


۱۶۷	مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت	اللہ سے ہمکلامی
۱۶۸	اولیاء اللہ کا احترام	قبول طاعات کی علامت
۱۷۱	صبر کی حقیقت اور اس کے اقسام	دین میں ناکامی کی وجہ
۱۷۲	شہوت بالامارو	تفسیر آیت کریمہ
۱۷۳	شہوت بالامارو کی ابتداء	سمیٰ کمال
۱۷۴	لفظ لواطت کا غلط استعمال	دین داری اور رقابت
۱۷۵	نظر کا مرض	ایک طالب خدا کا قصہ
۱۷۶	سمیٰ وصول الی اللہ	جاہل متوكل کا قصہ
۱۷۸	صورت وصول الی اللہ	ایک طالب خدا کی حکایت
۱۸۰	خدا کی کمند	اعانت الہیہ
۱۸۰	شہوت کے اقسام	فلکر کا فقدان
۱۸۱	ایک جامع خلق	ایک عجیب مضمون
۱۸۳	کامل بننے کا طریقہ	صحابہ کرامؓ کی حالت
۱۸۲	تقاضائے نفس کی مزاحمت	تقویٰ کی تفصیل
۱۸۵	ولایت عامہ اور خاصہ کا فرق	صادقین کی تشریع
۱۸۶	صحبت کا ملین کی شرط	تفسیر آیت البر
۱۸۷	صحبت کا ملین کا اثر	عقائد کا بیان
۱۸۸	صدق کے معنی و تفسیر	اعمال شرعیہ کی اقسام
۱۸۸	اصطلاحات شرعیہ	عاشق کا مقام
۱۸۹	تقویٰ کی فضیلت	حقوق العباد کے اقسام
۱۹۲	تقویٰ کے درجات	جسم اور روح کا تعلق
۱۳۹		اللہ سے ہمکلامی
۱۴۰		قبول طاعات کی علامت
۱۴۱		دین میں ناکامی کی وجہ
۱۴۲		تفسیر آیت کریمہ
۱۴۳		سمیٰ کمال
۱۴۵		دین داری اور رقابت
۱۴۶		ایک طالب خدا کا قصہ
۱۴۷		جاہل متوكل کا قصہ
۱۴۹		ایک طالب خدا کی حکایت
۱۵۰		اعانت الہیہ
۱۵۰		فلکر کا فقدان
۱۵۱		ایک عجیب مضمون
۱۵۲		صحابہ کرامؓ کی حالت
۱۵۳		تقویٰ کی تفصیل
۱۵۶		صادقین کی تشریع
۱۵۷		تفسیر آیت البر
۱۵۹		عقائد کا بیان
۱۶۰		اعمال شرعیہ کی اقسام
۱۶۲		عاشق کا مقام
۱۶۳		حقوق العباد کے اقسام
۱۶۶		جسم اور روح کا تعلق

۲۲۰	ضرورة العلم بالدين	حکایت لطیفہ
۲۲۱	خطبہ ماثورہ	لئے کے معنی
۲۲۱	قرآن کی حیثیت	ضرورة الاعتناء بالدين
۲۲۳	قرآن اور سائنسی تعلیم	خطبہ ماثورہ
۲۲۴	قرآن فہمی کی صورت	اصلی نفع دیتی نفع ہے
۲۲۵	آج کل کا مرض	اولاد کی دینی تربیت
۲۲۸	مضامین قرآن کی نوعیت	معاش اور معاد کی اصلاح
۲۳۰	قرآن کی تعلیم امن	قلت اہتمام دین ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔
۲۳۱	روحانی امراض کی تشخیص	انکار رسالت کا نتیجہ
۲۳۳	دین کی آسانی	اعمال میں اختصار کا اثر
۲۳۶	قرآن میں تحریف کی کوشش	فضل تعلیم
۲۳۷	علم و عمل کی کمی	تعلیم و تربیت کے آداب
۲۳۰	حفظ قرآن کی ضرورت	اسوہ حسنہ کا اتباع
۲۳۲	دنیا کی حقیقت	شادی کا نمونہ
۲۳۳	اہتمام خدمت دین	غمی میں حضور گی سیرت
۲۳۵	خدمات دین کی خدمت	حضور کافقر
۲۳۸	اہل اللہ خوارجیں	وضاحتی حکایت
۲۵۰	حافظت قرآن کی ذمہ داری	غربا کا خلوص
۲۵۱	علم دین کی ارزانی	عظمت کا اثر
۲۵۲	علوم عربیہ کی اہمیت	

۲۷۹	فاسد اور اصلاح	۲۵۳	الفاظ قرآن کی اہمیت
۲۸۰	دین کی حقیقت	۲۵۴	آخرت کا مسئلہ
۲۸۱	عقائد اور امن عامہ	۲۵۶	تعلیم قرآن کا صحیح وقت
۲۸۲	اعمال شرعیہ اور امن عامہ	۲۵۶	مسئلہ استیدان کی حکمت
۲۸۳	معاشرت شرعیہ اور امن عامہ	۲۵۸	دماغی کمزوری کا عذر
۲۸۶	بغاویت کا انجام	۲۶۰	ضرورۃ العلماء
۲۸۸	طلباء اور عوام	۲۶۱	خطبہ ما ثورہ
۲۸۸	غیر اہل علم کو خطاب	۲۶۱	اہم ترین وجود
۲۹۱	اسباب الغفلہ	۲۶۲	علماء عوام کی نظر میں
۲۹۲	خطبہ ما ثورہ	۲۶۳	ایک غلط فہمی کا ازالہ
۲۹۲	نداق کی رعایت	۲۶۵	فقر کی اہمیت
۲۹۳	صدور و معاصبی کے اسباب	۲۶۶	دین میں عدم دلچسپی
۲۹۵	مال و اولاد کے درجے	۲۶۷	فکر آخوند کی ضرورت
۲۹۶	تحصیل مال میں بے احتیاطی	۲۶۹	محض اعتقاد کافی نہیں
۲۹۷	حفاظت مال کے لئے حیلہ سازیاں	۲۷۰	اولاد کے لئے ضروری تعلیم
۲۹۹	خرچ کرنے میں عدم احتیاط	۲۷۱	کھانے کمانے کی حاجت
۳۰۰	معین علی المعصیت	۲۷۲	ترقی دنیوی مطلوب نہیں ہے
۳۰۲	میل جوں کا اثر	۲۷۳	امراء کی دلچسپی کا اثر
۳۰۲	عورتوں کے عیوب	۲۷۵	ہبہ حق
۳۰۵	عورتیں اور چندہ	۲۷۶	دین کی دوستی
		۲۸	علم دین کی خاصیت

۳۲۳	تعلق مع اللہ کا اثر	خاوند سے مشورے کی ضرورت
۳۲۷	خلافت کی حقیقت	شادی کے لئے موزوں رشتہ
۳۲۸	باقیات الصالحات	شادی بیانہ کا خرچ
۳۲۹	عمل کی وقت	صرف مال کی خرابیاں
۳۲۲	دنیا کی حقیقت	زوجہ صالحہ کی شناخت
۳۲۵	رجاء کی اہمیت	اولاد کا وباں
۳۲۶	اعمال کا شرہ	قضايا کا کفارہ
۳۲۸	صدقة جاریہ	مستقبل کی غلط فکر
۳۵۱	سبیل النجاح	اہل خسارہ
۳۵۲	خطبہ ما ثورہ	مظاہر الاعمال
۳۵۲	شفقت الہی	خطبہ ما ثورہ
۳۵۳	عصمت انبیاء	طلب دنیا
۳۵۵	ربط کلام الہی	طلب جاہ
۳۵۹	قرآن کا طرز کلام	اعوذ باللہ کا اثر
۳۶۲	مصالح دینیویہ کا اثر	تکرار کی ضرورت
۳۶۶	طاعت اور فلاح	اسرار دیقائقہ
۳۶۹	آیت کے معنی و تفسیر	جنیوں کی اقسام
۳۷۱	سلامتی کی تعریف	عشق حق
۳۷۳	انتظام شریعت کے مجازین	مشابہہ حق
۳۷۴	مجذوبوں کا معاملہ	آیت کی تفسیر
۳۷۶	دین اور ترقی	پردہ اور تعلیم

۳۱۰	مسلمانوں کے امراض	۳۸۰	فلاح کی حقیقت
۳۱۲	قلب سلیم کی خاصیت	۳۸۲	تمول اور کامیابی
۳۱۳	دریافت احکام شرعیہ	۳۸۳	اولاد کا عذاب
۳۱۵	دین و دنیا کا تعلق	۳۸۵	پریشانی افکار کی وجہ
۳۲۰	اجزائے دین	۳۸۷	امراء سے ہمدردی کا فقدان
۳۲۰	قومی شعار	۳۸۸	مطبع اور باغی کا فرق
۳۲۲	شرعی دلائل کی بنیاد	۳۹۱	فلاح کا انحصار
۳۲۳	ہماری اخلاقی حالت	۳۹۲	رابطوا کی تفسیر
۳۲۳	علاح کی قسمیں	۳۹۳	تعلق باللہ کی صورت
۳۲۴	بنیادی امراض	۳۹۵	لذت مقصود نہیں
۳۲۵	مقصود علماء	۳۹۷	بزرگوں کی آزمائش
۳۲۹	نیک صحبت کی ضرورت	۳۹۹	اعمال کی اقسام
۳۳۰	طریق تعلیم و تربیت	۴۰۱	طريق النجاهہ
۳۳۲	صحبت نیک کے فوائد	۴۰۲	خطبہ ماثورہ
۳۳۵	اولاد کی ذمہ داری	۴۰۲	مقصود حیات
۳۳۷	منہب کی روح	۴۰۳	کفار کی حرست
۳۳۸	صاحب کمال کی علامتیں	۴۰۴	مرض اور علاج
۳۳۹	نیک صحبت کے آداب	۴۰۵	دین کی آسانی
۳۴۰	صحبت نیک کا بدل	۴۰۸	اصلاح کی صورت



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحٰمِدُ لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ

آلِدِینُ الْخَالِصُ

اخلاص یہ ہے کہ کوئی غرض نفسانی اپنی نہ ہو۔ صرف رضاۓ حق مطلوب ہوا اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھ لجھے کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں اگر کوئی بات فاسد نظر آئے تو اسے تکب سے نکال ڈالئے اور نیت خالص خدا کے لئے کرنی چاہئے۔

اخلاص کے متعلق یہ وعظ ۹ ذی قعده ۱۳۲۹ھ کو چٹائی محل کانپور میں ہوا۔ ۱۲۰۰ کا مجمع تھا اور تین گھنٹے میں وعظ ختم ہوا۔

خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَوَّكُلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَبْرَارِ وَبَارَكَ وَسِلَّمَ.

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ
إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر آیت نمبر ۲۳) حدق الله العظيم
(ترجمہ) آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو (منجانب اللہ) حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس
طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لئے خالص رکھوں۔

عوام و خواص کی غلطی

یہ ایک آیت ہے سورۃ زمر کی جس کے شروع میں بھی اجمالاً اس کی طرف اشارہ تھا۔
الا لِلَّهِ الَّذِينَ الْخَالِصُ (یعنی یاد رکھو جو عبادت شرک سے خالی ہو وہ خدا تعالیٰ ہی کے لئے سزاوار
ہے) اس میں ایک ضروری مضمون مذکور ہے جو کسی حالت میں قابل فروگذاشت نہیں۔ کیونکہ اول تو خود
اس کا مامور بہونا اس کے ضروری ہونے کی قطعی دلیل ہے ایک تو یہ جو ہے اسکے ضروری ہوئیکی۔
دوسری یہ کہ دو قسم کے امور ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ ان کا اہتمام اکثر طبائع میں ہوتا ہے
دوسرے وہ کہ ان کا اہتمام نہیں ہوتا اور ہیں واقع میں قابل اہتمام تو جس کا اس آیت میں بیان
ہے وہ ایسا امر ہے جس کا اہتمام باوجود اس کے مہتم بالشان ہونے کے لوگوں میں کم ہے یا نہیں
ہے اور نیز وہ تمام اجزاء دین کو عام ہے بعض کے ساتھ خاص نہیں اس حیثیت سے بھی ضروری

ہوا۔ چنانچہ عموم ترجمہ سے معلوم ہو جاوے گا۔ فرماتے ہیں کہ۔

”اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ دین کو اس کے لئے خاص رکھوں۔

یہ ترجمہ ہے اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس میں مضمون اخلاص کا ہے۔ اور اخلاص کے معنی ہیں خالص کرنے کے اور یہ لفظ کوئی نیا نہیں ہے بارہ دفعہ کا سانا سایا ہے۔ ہاں عوام نے اس کے معنی میں غلطی کر رکھی ہے کہ پیار محبت کے معنی لیتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ یہ رسم ہے کہ قل ہو اللہ ہبہن کی پیشانی پر لکھتے ہیں تو قل ہو اللہ میں تو اخلاص کا مضمون ہے ہبہن سے اس کو کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی مگر اسی خیال سے لکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت و اخلاص رہے۔ پس اخلاص کے معنی محبت کے سمجھئے ورنہ آیات حب لکھتے۔ سو اول تو اخلاص کے یہ معنی (محبت) ہی غلط ہیں۔ دوسرے تعلویذ لکھنا اصل میں پڑھنے کا ناسب ہے یہ دوسرے درجہ کی چیز ہے مگر عام مذاق یہ ہے کہ پڑھنے کی اتنی وقت نہیں ہے جتنا تعلویذوں کی وقت ہے۔

حدیث سے تعلویذوں کی جو حالت معلوم ہوتی ہے اس پر وہ عبد اللہ بن عمرؓ کی عادت دال ہے جو حصہ حصین میں مذکور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک دعا

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ (صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا: ۵۵۵۳)

(یعنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں) پڑھاتے تھے اور جو سیانے نہ تھے ان کو برکت پہنچانے کا یہ طریقہ تھا کہ دعا لکھ کر گلے میں ڈال دیتے تھے۔ یہ حدیث ہے ماخذ تعلویذ کا اس سے تصریح معلوم ہوا کہ اصل مقصد پڑھانا تھا مگر جو سیانے نہ تھا ان کو برکت پہنچانے کا یہ طریقہ تھا کہ دعا لکھ کر گلے میں ڈال دیتے تو تعلویذ باندھنے کا دوسرا درجہ ہے مگر بعضنا حقیقت شناسی کے عکس ہو گیا کہ تعلویذ کا اثر زیادہ سمجھنے لگے اور پڑھنے کا کم۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اکثر اونگ اس زمانہ میں جاہل ہوتے ہیں اس لئے ہمارے بزرگوں نے تعلویذ کا طریق اختیار کیا دوسرے پڑھنے میں وقت ہے اور نفس ہمیشہ اپنی آسانی کی صورت نکال لیتا ہے۔ بہر حال اسماء الہبیہ میں برکت ضرور ہے مگر جب کہ مناسبت بھی ہو تو قل ہو اللہ کو اس واقعہ سے کوئی مناسبت نہیں۔ کوئی دوسری آیات مناسبہ پڑھ لی جائیں۔ نیز اگر لکھنا ہی تجویز ہو تو آیات مناسبہ لکھوائی جائیں پھر ہبہن کی پیشانی پر لکھوانے کے لئے محرم بھی شرط ہے۔ نامحرم سے لکھواتے ہیں یہ ہرگز

جانز نہیں۔ اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یہ ایک جملہ مفترضہ یاد آگیا بوجہ لفظ اخلاق کے۔ غرض بعض الفاظ کے معنی غلط مشہور ہو جاتے ہیں یہ تو عوام کی غلطی ہے بعض الفاظ کے معانی میں خواص بھی غلطی کرتے ہیں۔ مثلاً خوش خلقی کے معنی خواص میں بھی غلط مشہور ہیں چنانچہ دیکھ لیں کہ خوش اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کہ ذرا نرم ہو غصہ نہ کرتا ہو حالانکہ یہ اخلاق نہیں بلکہ آثار ہیں اخلاق کے اور اخلاق ایک ملکہ باطنی ہے یعنی صفات حمیدہ میں وجہہ ملکہ کا حاصل ہو جائے تو اس شخص کو صاحب اخلاق کہیں گے۔ مثلاً تواضع اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھے۔ نہیں کہ ظاہراً منکر ہو کر ملے۔ یہ اس کا ایک اثر ہے اور اس کے محمودہ و نے کی شرط اس کا موقع پر ہونا ہے چنانچہ اس کے آثار محمودہ کی مدح قرآن سے بھی ثابت ہے۔ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُطُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا یعنی خدا تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں تو اس آیت میں تواضع کا ایک اثر بتایا ہے کیونکہ بھی کسی شے کو ماہیت سے بتایا جاتا ہے اور بھی اثر سے تو نرمی و خشوع سے چنان حقیقت میں اثر ہے تواضع کا۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے ڈاڑھی سے کھیل رہا تھا جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ نماز کے اندر کپڑوں سے یا بالوں سے شغل کیا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو ڈاڑھی سے نہ کھیلتا تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ خوف و خشیت قلب میں ہے اور اس کا یہ اثر ہے کہ نماز میں اہم و اعب نہ ہو۔ غرض نرمی سے چلننا آثار میں سے ہے اس کو تواضع سمجھنے میں دو غلطیاں ہوں گیں ایک تو یہ کہ اخلاق بالمعنی احتقانی کو غیر ضروری الحصول سمجھے کیونکہ اس کے معنی بدل کر اپنے کو اس کا عامل سمجھے اور فارغ ہو گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ دل میں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اس کا امتحان یہ ہے کہ جب بتکلف متواضع بننے والا کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کوئی شخص جرات کر کے یہ کہہ دے کہ واقعی میں سخت غلطی میں بتلارہا آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں۔ مخف ناکارہ ہیں۔ پھر دیکھئے کتنے خفا ہوتے ہیں۔ صاحبو! اگر حقیقت میں ایسا سمجھتے تھے تو ناراض کیوں ہوئے معلوم ہوا کہ ہرگز اپنے کو ایسا نہیں سمجھتے بلکہ اس لئے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ یہ عادت عرف امداد ہے۔ دوسرے لوگ اس پر اور مدح کرتے ہیں گویا اور مدح کرانے کے

لئے نفس نے یہ طریقہ نکال لیا ہے۔ اس کی یہ تواضع بھی بغرض تکبر ہے۔ جس کا امتحان یہی ہے جو عرض کیا گیا۔ اس طریقہ سے اصلی متواضع اور تصنیع کرنے والے کا خوب پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری غلطی یہ کہ جب نرمی کو تواضع سمجھا گیا تو سختی کو بد خلقی پر مجموع کیا جائے گا۔ چنانچہ بعض مرتبہ اہل اللہ اپنے متعلقین پر سختی کرتے ہیں اور دیکھنے والے ان پر تہمت لگاتے ہیں کہ بد خلق ہیں۔ صاحبو! اصلاح کا نام بد خلقی اس وجہ سے ہوا کہ اخلاق کے معنی بدل دیئے بلکہ سختی کے موقع پر نرمی کرنا یہ بد خلقی ہے۔

صاحب۔ اگر بچہ سنکھیا یا افیون کھانے لگے اور معلوم ہو کہ ابھی نگل جائے گا۔ اس وقت کیا اخلاق یہی ہے کہ دل شکنی نہ کرو یا یہ کہ اس کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کو نکال لو اور سزا دو۔ اب بتلائیے اس میں سے کون سا برتا و خوش خلقی ہے۔ حقیقت میں اس کو ہلاکت سے نہ روکنا یہ بد خلقی ہے اور راحت رسانی یہ خوش خلقی ہے۔ یا مثلاً ایک اندھا جا رہا ہے اور کنوں آ گیا اور کہنے سے رک نہیں سکتا۔ تو کیا خوش خلقی یہی ہے کہ نہایت متاثر سے کہے حافظ صاحب آپ کے آگے کنوں ہے ذرا فیک کے چلنے یا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دینا خلق ہے۔

اگر یہ نہ کہ نایبنا و چاہ سے اگر خاموش بنشیتم گناہ سے ”یعنی اگر دیکھیں اندھا جا رہا ہے اور اس کے سامنے کنوں ہے اس وقت خاموش بیٹھنا اور اس کو شہ بچانا گناہ ہے۔“

مشہور ہے کہ ایک قاری صاحب جوانی میں مرور کر پڑتے تھے انہوں نے شاگردوں سے کہہ رکھا تھا کہ گفتگو بھی قرات سے کیا کرو۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب حقہ پی رہے تھے ایک چنگاری پکڑی میں جا گئی تو ایک شاگرد نے بڑی دری میں قرات سے یہ مضمون ادا کیا کہ جناب حافظ صاحب آپ کی دستار مبارک میں ایک چنگاری لگ گئی ہے۔ اتنی دری میں حافظ صاحب کی دستار بہتی بُل گئی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قرات کا موقع ہے۔ اس نے بڑی غلطی کی کہ غیر موقع قرات میں قرات استعمال کی۔

اسی طرح جو نرمی غیر موقع میں ہو گی وہ بھی نہ موم ہو گی اور اخلاق میں شمار نہ ہو گی۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ بزرگوں سے جو سختی صادر ہوتی ہے اس کو سختی کہنا عجیب ہے۔ وہ صرف اپنے لوگوں سے سختی کرتے ہیں۔ جس سے اصلاح مقصود ہوتی ہے۔

مقام مسلم

حضرتؐ کے سامنے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس میں آپؐ نے بہت نرمی فرمائی۔ اس کے بتانے

سے معلوم ہو گا کہ نرمی کے موقع پر نرمی کرنے والا حضورؐ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا سختی کا واقعہ بھی بتاؤں گا کہ سختی کے موقع میں آپؐ نے کس درجہ سختی فرمائی ہے۔

(۲) ایک مرتبہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہؓ نے اس کو گھورا اور دھمکانا چاہا۔ حضورؐ نے فرمایا اس کا پیشاب قطع نہ کرو۔ سبحان اللہ کیسی حکمت کی بات ہے۔ اس لئے کہ یا تو وہ پیشاب روکتا یا بھاگتا۔ روکنے میں تو اس کو سخت تکلیف ہوتی اور بھاگنے سے مسجد اور زیادہ خراب ہوتی۔ جب وہ باطمینان پیشاب کر چکا تو آپؐ نے ایک ڈول اس جگہ بہادر یعنی کا حکم صادر فرمادیا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں عبادت کی جاتی ہے۔ اس کو ناپاکی سے ملوث نہیں کرنا چاہئے۔

(صحیح البخاری، کتاب الوضوء باب: ۵۵، صحیح مسلم کتاب الطهارة باب: ۱۳۳ المول في المسجد)

اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھنی چاہئے کہ مسلمان کی وقت خدا اور رسولؐ کے نزدیک مسجد سے زیادہ ہے کہ آپؐ نے اس مسلمان کی رعایت مسجد سے زیادہ فرمائی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپؐ نے خانہ کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو بہت عظمت والا ہے مگر مومن اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ اکرم ہے۔ اسی کو کہا ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
”یعنی کسی کا دل خوش کرنا حج اکبر ہے۔ ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔“
اس شعر کا مطلب سمجھنے میں بھی لوگوں کو غلطی ہوتی ہے۔ بعض اپنے یار و مستوں کے کہنے سے ناج میں بھی جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است

یعنی ایک مسلمان کا جی خوش کرنا حج سے افضل ہے تو ناج میں شرکیں ہونے سے بھی ایک دوست کا جی خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے اس کا کیا خوب جواب دیا کہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا دل مراد نہیں اپنادل مراد ہے یعنی اپنے دل کو قبضہ میں لاو۔ اور اس کو احکام الہیہ کا تابع بنادو۔ یہ توجیہ نہایت لطیف ہے۔ گوشا عرب کا یہ مطلب نہیں بلکہ دوسرے ہی کا دل مراد ہے مگر مواقع مخالفت نصوص شرعاً و عقلًا اس سے مخصوص نہیں۔ بہر حال یہ شuras حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کعبہ سے افضل ہے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ۔

۱۔ (اس کو طبرانی وغیرہ نے بعد حسن روایت کیا ہے۔ ۱۲۔ سید عبدالکریم متحصلی)

دل گزر گاہ جلیل اکبر است
 (یعنی دل اللہ تعالیٰ کی گزر گاہ ہے) تو جب مومن کعبہ سے افضل ہے تو دوسری مساجد
 سے تو یقیناً افضل ہے چونکہ پیشاب روکنے میں حضور مسیح کی بیماری اور تکلیف
 کا اندر یشہ تھا اس لئے مسجد کے ملوث ہونے کی پرواہ فرمائی۔

آج یہ حالت ہے کہ مومن کی تذلیل کرتے ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ غیر قومیں مومن کی اتنی
 تذلیل نہیں کرتیں جتنی یعنی روشنی والے غریب مسلمانوں کی تحقیر کرتے ہیں خاص ہماری قوم میں جو
 ایک طبقہ ذرا کھاتے پیتے لوگوں کا ہے وہ لوگوں کو بد تہذیب کہتے ہیں اور ان کو چوپاؤں سے بدتر سمجھتے
 ہیں اور پھر مسلمان کھلاتے ہیں اور اپنے آپ کو خیر خواہ قوم کہتے ہیں۔ بس ان کا یہی جواب ہے۔

قُلْ بِسْمَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

”آپ فرمادیجئے کہ یہ افعال بہت بڑے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے۔“

ہر کس از دست غیر نالہ کند سعدی زدت خویشن فریاد
 ”ہر شخص غیروں کا شاکی ہے اور ان سے نالاں مگر سعدی کو اپنوں ہی کی شکایت ہے۔“
 مسلمانوں کو آپس میں متدرہ نہ چاہئے۔ اگر کسی کی غیبت ہوتی ہو تو غیبت کرنے والے کو
 روکنا چاہئے۔ اگر وہ نہ مانتے تو خود انہوں جانا چاہئے۔ اسی طرح ہر شخص کو ضروری ہے کہ اپنے کو
 سب سے کم سمجھے۔ اس طرح سے ان شاء اللہ تعالیٰ مخالفتیں بہت کم ہوں گی۔ کیونکہ اکثر جو
 عداوتوں ہو جاتی ہیں ان کا بڑا سبب یہی تکبر ہے جس سے غیبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ علی ہذا ہر
 مسلمان کو اپنے دوسرے بھائی مسلمان کے لئے دعائے خیر کرنی چاہئے۔ غرض ہر مسلمان سے
 اگر وہ بتلائے معاصی بھی ہو وہ برتاؤ کرو جو اپنے بیمار بھائی سے کرتے ہو کیونکہ مسلمان سب
 بھائی بھائی ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے۔ وَ كُونُوا عَبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

(یعنی تم اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ) غرض ایک تو حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے جو اس اعرابی کے قصے میں سن۔

واقف و ناواقف سے سلوک

دوسراؤ اقعہ یہ ہے کہ حضور ایک مرتبہ مسجد شریف میں تشریف لائے اور دیوار مسجد پر تھوک
 لگا دیکھا تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے اس کو لکڑی سے کھرچ دیا۔ ایک صحابی خوشبو

لائے اور اس جگہ مل دی۔ اب دیکھئے کہ وہی ذات با برکات جنہوں نے وہاں سختی نہیں کی جب کہ ایک شخص نے مسجد میں پیشتاب کر دیا تھا یہاں صرف تھوکنے پر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تو فرق یہ تھا کہ پہلا آدمی دیہاتی تھا اور یہ دوسرے شخص آپ کی صحبت کے فیض یافتہ تھے تو معلوم ہوا کہ غیر واقف سے دوسرا برتاؤ ہوتا ہے اور واقف سے دوسرا اپس اگر ہر سختی بد خلقی ہوتی تو حضورؐ سے کبھی صادر نہ ہوتی جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ کا ہے۔ انکَ لَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (بلاشک آپ اخلاقِ حسن کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں) اور مجھے ایک مرتبہ ایک صحابی لقطہ کے پارہ میں حضورؐ سے سوال کر رہے تھے کہ اگر بکری جنگل میں ملے تو اس کو حفاظت کے لئے اپنے قبضہ میں کر لیا جاوے یا نہیں حضورؐ نے فرمایا کہ ہاں اس کو لے آنا چاہئے ورنہ درندے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اگر اونٹ ملے تو اس کو بھی ایسا ہی کیا جائے۔ اس پر آپ کو غصہ آگیا اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے وہ خود موزی جانوروں کے دفع کرنے پر قادر ہے۔ درختوں سے پتے کھاتا ہوا اپنے مالک سے آ ملے گا۔

اس بات پر حضورؐ کو غصہ اس لئے آیا کہ اس سوال سے حرص اور طمع مترشح ہو رہی تھی۔ کیا اب بھی یہ کہا جائیگا کہ بد خلقی مطلق سختی اور غصہ کا نام ہے۔ آج علماء پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ذرا سی بات میں خفا ہو جاتے ہیں۔ انکے اخلاقِ عمدہ نہیں سو بحمد اللہ ان واقعات کے معلوم کرنیکے بعد یہ الزام رفع ہو گیا ہو گا۔ اس سے ایک اور بات بھی نکل آئی۔ وہ یہ کہ بعض طلباءِ استادوں کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ بڑے سخت ہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ سنت ہے کہ بے موقع بات پر غصہ کیا جائے اور بعض طالب علم بھی بہت بکھیرے نکالا کرتے ہیں اور استاد کو تنگ کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اگر استاد سے غلطی بھی ہو جائے تو اس وقت خاموش ہو جانا چاہئے دوسرے وقت ادب سے عرض کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اپنی غلطی ہو تو فوراً جو ع کرنا چاہئے اب تو طالب علم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے خواہ مخواہ غصہ ہی آؤے اور حق یہ ہے کہ طالب علم ہی کم رہ گئے ہیں۔ چنانچہ بعضے طالب علم استاد کی تقریر بہت بے پرواہی سے سنائے کرتے ہیں اور جب مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو استاد سے جھگڑتے ہیں۔ اس کو غصہ کیسے نہیں آئے گا؟

میں لکھنؤ کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ ایک جگہ صدر اہوا کرتا تھا کسی مقام میں سختی کی غلطی کا احتمال ہوا طالب علموں کے سب نسخوں میں دیکھا گیا۔ ایک طالب علم ان میں ایسے تھے کہ ان نے جو پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے تو وہ ڈھونڈنے لگے۔ استاد جو بہم ہوئے تو کہنے

لگے کہ ابھی نظر سے نکل گیا ہے بتلاتا ہوں۔ جب زیادہ دیر ہوئی استاد نے کتاب ان کے ہاتھ سے لے کر خود دیکھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ کتاب ٹمپس بازغہ ہے۔

پوچھا کر تم روزانہ اس نسخہ میں پڑھتے ہو کہنے لگا جی ہاں۔ سوان بزرگ کو اب تک یہ خبر بھی نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے کچھ حد ہے اس بے پرواٹی کی۔

اسی طرح ایک طالب علم فارغین کی نسبت کہتے تھے کہ یہ لوگ بڑے بے وقوف ہیں جو فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں کیونکہ پھر روئی موقوف ہو جاتی ہے۔ ہم تو کئی سال سے نور الانوار پڑھ رہے ہیں اور اب بھی اسی کے حل کرنے کا قصد ہے۔

ہمارے دیوبند میں ایک طالب علم تھے بڑھے۔ ان کی تمام عمر پڑھنے ہی میں گزر گئی تھی جب دیوبند میں آئے تو ہر جگہ شریک ہوتے تھے۔ ان کا بے ڈھنگا پن آپ کو بتلاتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار استاد سے سوال کیا کہ اس میں تو ایک خرابی لازم آتی ہے۔ استاد نے فرمایا کہ دلیل تو آپ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ دعویٰ بھی ہم ہی کریں۔ دلیل بھی ہم بیان کریں۔ ہم نے دعویٰ کر دیا۔ آپ دلیل بیان کیجئے بھلا بتلائیے ایسی بے ڈھنگی بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو ایسی باتوں پر بحث کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

دیکھتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون خوش خلق ہو گا مگر آپ نے بھی بعضی باتوں پر بحثی اور غصہ کا اظہار فرمایا ہے تو بزرگوں کی نسبت یہ خیال کرنا کہ یہ بد اخلاق ہیں بالکل بے جا ہے۔ بعض بزرگوں نے ایسا کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے بہت بڑی بات پر استدلال کرتے تھے اور اس کے مقضا پر عمل کرتے تھے۔

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب کوئی ان کے پاس بیعت ہونے آتا تو وہ اس کے لئے کھانا کچھ زیادہ بھیجتے اور جب وہاں سے نیچ کر آتا تو یہ دیکھتے کہ روئی اور سالم تناسب سے بجا ہے یا بلاناسب۔ اول صورت میں بیعت کرتے دوسرا صورت میں انکار کر دیتے۔ تو ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات پر وہ ایسی بحثی کرتے تھے مگر حقیقت میں وہ اس سے استدلال کرتے تھے اس کی بے انتظامی پر۔ اور بدانظام شخص کو وہ اپنی خدمت میں نہیں رکھتے تھے۔ کیونکہ کوئی کام بدون انتظام کے نہیں ہو سکتا اور واقعی جس میں انتظام کام ادا نہ ہو وہ کسی کام کو نباہ نہیں سکتا۔ کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا۔

تشہہ بالکفار کی صورت

تو بعضی بات ظاہر میں چھوٹی معلوم ہوتی ہے مگر اس کا نشاء بڑا ہوتا ہے۔ عوام اس کو نہیں سمجھتے۔ اسی

لئے خدا تعالیٰ کے معاملات میں بھی ایسے لوگوں سے سخت غلطی ہوتی ہے کہ بعض امور عظیمہ کو چھوٹا سمجھ کر اس پر دلیر ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ خدا کی ذات بہت بے پرواہ ہے ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہیں ہوتی۔ سو یہ سخت غلطی ہے جس کو تم چھوٹی سمجھتے ہو وہ ممکن ہے کہ واقعہ میں بہت بڑی ہو۔

صاحب۔ اول تو خدا تعالیٰ کے بہت حقوق ہیں۔ اس کے اعتبار سے وہاں کوئی مخالفت چھوٹی نہیں ہوتی اور اس پر اگر یہ شبہ ہو کہ پھر کیا صغیرہ پر بھی عذاب ہو گا تو صغیرہ و کبیرہ میں کیا فرق رہا۔ جواب یہ ہے کہ اہلسنت نے اس حقیقت کو سمجھا ہے۔ صغیرہ پر بھی تعزیب کو جائز رکھا ہے اور صغیرہ کو جو صغیرہ کہتے ہیں وہ دوسرے اس سے بڑے گناہ کے اعتبار سے ہے نہ یہ کہ واقعہ میں چھوٹا ہے۔ پس یہ فرق اعتباری ہے ورنہ حقیقت میں عظمت خداوندی پر نظر کرنے کے بعد تو ہر گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے اس سے قطع نظر کر کے بھی بعض گناہ کی حقیقت شدید ہوتی ہے۔ گھصوہ تاکسی نظر سے بوجہ تامل خفیف معلوم ہو۔

چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ ایک دن جارہے تھے۔ ہوئی کادن تھا ہندو آپس میں ایک دوسرے پر رنگ ڈال رہے تھے۔ بازار میں ہر شے نگین نظر آتی تھی۔ انہوں نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس پر رنگ نہیں توہنس کر کہا مجھے کسی نے نہیں رنگا۔ لا مجھ کو میں رنگ دوں اور پان کی پیک اس پر ڈال دی۔ جب مر گئے تو کسی کو مکشوف ہوا کہ ان کی نسبت حکم ہوا کہ ان کو ہوئی والوں میں لے جاؤ کیونکہ انہوں نے گدھے پر پان کی پیک ڈال کر ہوئی والوں میں شرکت کی تھی۔

صاحب۔ پان کی پیک ڈالنا چھوٹی بات نہیں۔ اس میں شبہ بالکفار تھا جو بڑی بات ہے تو گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے اور اس پر موافذہ سننے سے بھی خدا پر بھی لوگوں کا یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اللہ میاں بہت غصہ فرماتے ہیں۔ ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ غرض اخلاق کی تفسیر میں ایسا ہی لوگوں کو دھوکا ہو گیا ہے۔ جس میں خواص تک بتلا ہیں۔ یہ بات بھی جملہ مفترضہ کے طور پر بیان ہو گئی۔

اخلاص کی اہمیت

اب سمجھ لینا چاہئے کہ اخلاص کے جو معنی مشہور ہیں۔ عنایت و محبت وہ صحیح نہیں۔ اس لئے میں نے کہا تھا کہ اخلاص کا لفظ تو سب نے سنا ہو گا مگر اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کسی نے فکر نہیں کی۔ سو بعض تو معنی ہی غلط سمجھے اور بعض نے گو منی صحیح سمجھے مگر اس کو ضروری الحصول نہ سمجھا۔ میں اسی کی شکایت کرتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی اپنی حالت کو غور کر کے نہیں دیکھتے کہ ہم میں کیا کمی ہے۔ اس لئے میں نے اس آیت کو اس وقت اختیار کیا ہے تاکہ لوگ سن لیں اور معلوم کر لیں کہ یہ کتنی ضروری بات ہے اور اس کے نہ ہونے سے دین میں کتنی کمی ہے۔ اس کو اول تو

قرآن سے پھر نظر اور امثلہ سے ثابت کروں گا۔

قرآن سے تو اس کا مہتمم بالشان ہونا یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اول قل فرمایا جس میں حضورؐ کو حکم ہے کہ یہ بات کہہ دیجئے اور یقینی ہے کہ اگر قل نہ بھی فرماتے جب بھی تو حضورؐ بیان فرماتے ہیں۔ جہاں اور احکام کی تبلیغ آپؐ نے فرمائی اس کی بھی تبلیغ فرماتے ہیں۔ اس کے لئے لفظ قل کا زیادہ فرمانا بتلا رہا ہے کہ کوئی مہتمم بالشان حکم ہے۔ دوسرے انی امرت (تحقیق مجھ کو حکم ہوا ہے) فرمایا۔ انی میں دوسری تاکید ہے۔ پھر (امرт) (مجھ کو حکم ہوا ہے) تیسری تاکید اس طرح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی محبو بیت میں نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر احکام میں رعایت ہوتی تو حضورؐ کی سب سے بڑھ کر رعایت ہونی چاہئے اور رعایت یہ ہوتی کہ بعض احکام سب پر واجب ہوتے اور آپؐ پر نہ ہوتے چنانچہ اس خصوصیت کو اس آیت میں ظاہر بھی فرمایا ہے۔ **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ**
”یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ آپؐ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیں۔“

تو باوجود اس کے جب انی امرت فرمایا کہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے۔ اب یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ دوسری پر واجب نہ ہو البتہ اگر تخصیص کی دلیل موجود ہو تو وہ دوسری بات ہے اور یہاں مقتضی تخصیص کی کوئی چیز نہیں تو جب ایسی ذات با برکات کو بھی یہ فرمایا گیا کہ سناؤ و مجھ کو حکم ہوا ہے اس بات کا تو سمجھ لجئے کہ دوسرے لوگ تو کس حساب میں ہیں۔ ان پر تو یقیناً یہ فرض ہو گا۔

نیز ایک اور بھی تاکید ہے وہ یہ کہ فرماتے ہیں۔ **أَمْرُكَ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لِّهِ الدِّينِ** کہ مجھ کو اس طرح عبادت کرنے کا حکم ہوا ہے کہ جس میں اخلاص ہو۔ تو عبادت گوئی نفسہ خود بھی ایک امر مقصود ہے مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس وقت معبر ہے جب کہ اخلاص کے ساتھ ہو کیونکہ **أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ أَمْرُكَ** کا معمول ہے اور مخلصاً قید ہے اور کلام مقید میں محظ۔ فائدہ قید ہوا کرتی ہے تو اس آیت سے مقصود بالامر اخلاص ہوا یعنی مطلق عبادت کا حکم نہیں بلکہ عبادت مع الاخلاق کا حکم کیا گیا ہے۔ اسی لئے **أَمْرُكَ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا** (مجھ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی ہی کے لئے خالص رکھوں۔ فرمایا امرت ان اخلاص (مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اخلاص کروں) نہیں فرمایا کیونکہ اگر امرت ان اخلاص فرماتے تو اس سے یہ نہ معلوم ہوتا کہ اخلاص اتنی ضروری ہے کہ عبادت تک اس کے بغیر معبر نہیں۔ جب عبادت کے ساتھ بھی

(حالانکہ وہ خود ایک عمدہ و مقصود شے ہے) اخلاص کا ہوتا ضروری ہے تو اس سے اخلاص کی عظمت شان اور زیادہ معلوم ہو گئی کہ عبادت جیسی چیز بھی بدون اس کے بیچ ہے۔

اور جس طرح مخلصاً کی قید واضح ہونے سے اخلاص کا تم بالشان ہونا معلوم ہوا۔ اسی طرح ان اعبد اللہ کے امرت کے لئے مفعول بہ واقع ہونے سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ جیسے عبادت کے لئے اخلاص ضروری ہے ایسے ہی اخلاص کے لئے عبادت بھی ضروری ہے کیونکہ صرف اخلاص ہی مامور ہے نہیں امرت ان اخلاص (مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اخلاص کروں) نہیں فرمایا گیا۔ عبادت اور اخلاص دلوں مامور ہے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی ثابت ہو گئی جو عبادت کو ضروری نہیں سمجھتے مگر چونکہ یہاں محظ فائدہ اخلاص ہے۔ اس لئے یہ زیادہ مامور ہے ہوا۔ حتیٰ کہ عبادت کے ہونے پر بھی اس سے چھٹکارا نہیں۔

اس آیت میں ایک اور نکتہ ہے وہ یہ کہ مخلصالہ العباد (اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے عبادت کو خالص کروں) نہیں فرمایا جیسا کہ ان اعبد اللہ (یہ کہ عبادت کروں میں اللہ تعالیٰ کی) کے مناسب ظاہر آئی ہی تھا۔ حالانکہ مراد یہی ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کروں کہ عبادت اس کے لئے خالص ہو بلکہ یہ فرمایا کہ مخلصالہ الدین (اس طرح کہ اس ہی کے لئے دین کو خالص رکھوں) جس سے معلوم ہوا کہ عبادت دینی جب ہی ہے کہ اس میں اخلاص بھی ہو۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صورت عبادت جب تک اس میں اخلاص نہ ہو دین نہیں اور جب روح یعنی اخلاص بھی ہوتی البتہ یہ عبادت دین اور خدا کے یہاں قابل قبول ہے۔ افسوس اتنے بڑے اہتمام کی چیز اور ہماری اس سے اتنی غفلت۔ یہ تو نقلي طور پر ضرورت اخلاص ثابت ہوئی۔

اخلاص کی ضرورت

اب عقلی طور پر سمجھتے۔ اخلاص کی ضرورت اس کے ترجمہ سے سمجھ میں آؤے گی۔ اخلاص کا ترجمہ ہے خالص کروں۔ خالص اسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو جیسے عوام خالص کہتے ہیں۔ مثلاً خالص لمحی وہ ہے جس میں تیل کا ملاؤ نہ ہو۔ تو اخلاص کے لغوی معنی خالص کرنے کے ہوئے۔ اب اپنے برتاو کو دیکھئے۔ آپ کے ساتھ جب کوئی محبت ظاہر کرتا ہے تو آپ اس کی نیت کو بھی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ اگر ایک شخص نذر بھی دے اور پھر کہے کہ میری سفارش کر دیجئے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ نذر اپنی غرض کے لئے تھی یا مثلاً کوئی آپ کی دعوت کرے اور چلتے وقت کہے کہ میرے ذمہ قرض ہے کیا آپ کو یہ دعوت ناگوار نہ گزرے گی۔

غرض صحیح سے شام تک اپنے معاملات پر نظر کر لجھئے کہ جو محبت خالص ہوتی ہے اسی کی قدر ہوتی ہے۔ آپ بھی اسی دوستی کو پسند کرتے ہیں جس میں آمیزش نہ ہو۔ تو خدا تعالیٰ جو کہ طیب ہے آمیزش دار عبادت و محبت کی کیوں کر قدر کریں گے۔

افسوس مجبوبان دنیا کے واسطے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ہدیہ خالص ہو۔ اس میں کسی چیز کا میل نہ ہوا اور خدائی دربار میں جو عبادت پیش کی جاتی ہے اس کے خالص ہونے کی کوشش نہیں کی جاتی غرض نعلیٰ اور عقلی طور پر اخلاص کی ضرورت ثابت ہو گئی۔

اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص بھی ہے یا نہیں کیونکہ جب وہ ضروری چیز ہے تو اس کا دیکھنا ضروری ہے جب قرآن میں اس کا بتا کیا حکم ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کو فرض نہ کیجئے۔
فَإِن كُنتُ لَا تَدْرِي فَتَلَكُ مُصِيبَةً وَ إِن كُنْتُ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ
یعنی اگر جانتے نہ تو یہ ایک ہی مصیبت ہے اور اگر جانتے ہو اور پھر عمل نہیں کرتے تو یہ دوسری مصیبت ہے اس کا کوئی بھی تذکر نہیں۔ کیونکہ جتنے افعال اختیار یہ ہیں سب قصد پوچنی ہیں۔ بدون قصد وارادہ کے متحقق نہیں ہوتے۔ اخلاص بھی انہی میں سے ہے اگر وارادہ نہ کرو گئے تو اخلاص کیسے حاصل ہو جائیگا۔

یہ غلطی بعض طالبان باطن کو بھی پیش آتی ہے کہ درخواست کیا کرتے ہیں کوئی دعا کر دیجئے کہ دل سے خطرات دور ہو جاویں۔ ان حضرات سے کوئی پوچھئے کہ فقط درخواست ہی کرنی آتی ہے یا کبھی اس کی فکر بھی ہوئی ہے اصلاح کا قصد بھی کیا ہے۔ حالت دیکھو تو سبحان اللہ کسی ادا سے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو اپنی اصلاح کا خیال ہے۔ اگر اپنی اصلاح کا خیال ہو تو اول پختہ وارادہ کر کے اس کے ذرائع بہم پہنچاؤتا کہ تصفیہ میسر ہو۔

صوفی نہ شود صافی تادر نہ کشد جامی بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی
(جب تک جام الفت نوش کر کے بہت سا مجاہدہ اور ریاضت نہ کرے اس وقت تک تصفیہ میسر نہیں ہو سکتا۔ میری یہ مراد نہیں کہ کم کھاؤ کم پیو جیسا کہ آپ نے سنا ہو گا کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں زیادہ محنت آپ سے نہیں لیتا۔ آپ کو اجازت ہے کہ کھائیے اور چیجے اور اگر کسی دن عین اور اوواز کا رہا میں نیند آجائے سو بھی رہے اور پریشان نہ ہو جائیے مگر اصلاح کی دھن میں لگے رہے۔ مولا تا کا قول ہے۔ اندر میں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دنے فارغ مباش (اسی اصلاح کی ادھیز بن میں لگے رہا اور آخر وقت تک ایک لمحہ بھی فارغ نہ ملتا ہو)

تکلفات کا اثر

اور میں نے جو کہا ہے آپ سے محنت نہیں لیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل کے قوی زیادہ محنت کے قابل ہی نہیں۔ اور سب اس کا ہجوم افکار ہے۔ سوجس کا دماغ فکر میں زیادہ منہمک ہو گا وہ ضعیف ہو جائے گا۔ پہلے لوگوں کے دماغ افکار فضول سے خالی ہوتے تھے اس لئے قوی بھی ہوتے تھے۔ آج کل تو آدمی بچپن سے ابھرنا اور فکر میں متلا ہوا کچھ تو اس زمانہ میں افکار پہلے کی نسبت زیادہ ہی ہیں۔ کچھ لوگ خود اپنے سر تھوپ لیتے ہیں۔ خصوص بعض آدمی وضع اور فیشن ہی کے فکر میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کی حالت دیکھی گئی ہے کہ ہر کام کے لئے الگ لباس مقرر ہے۔ کھانے کا الگ سواری کا الگ سونے کا الگ کچھری میں جانے کا الگ پاخانہ میں جانے کا الگ لباس کیا ہوا ہے۔ ایک وبال جان ہو گیا۔

ایک شخص کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی ان کو پکارتا تو آئینہ دیکھ کر بناو سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتے تھے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک شخص کچھری میں ملازم تھے۔ وہ پرانے زمانے کے سید ہے سادھے مسلمان تھے عمامہ جلدی جلدی باندھ لیا کرتے تھے تو وہ خراب بندھتا تھا اور جتنے کچھری والے تھے وہ آئینہ سامنے رکھ کہ پھروں میں باندھ کر آتے تھے۔ تو ان کے عما می خوبصورت بندھے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حاکم نے ان سے کہا کہ مشی جی آپ کو عمامہ باندھنا نہیں آتا۔ دیکھئے اور سب کیا خوبصورت عمامہ باندھتے ہیں تو انہوں نے کہا جتاب یہ لوگ اپنی بیویوں سے بندھوا کر آتے ہیں میں خود باندھ لیتا ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو سب سے کہئے کہ عما می اتار کر پھر باندھ میں اگر خراب باندھ میں تو سمجھئے کہ یہ خود نہیں باندھتے۔ حاکم نے سب کے عما می کھلوا کر از سر نو باندھنے کا حکم دیا۔ ان صاحب نے تو ویسا ہی باندھا جیسا ہمیشہ باندھتے تھے اور لوگوں کا بہت ہی خراب بندھا۔ کیونکہ آئینہ تو سامنے تھا، ہی نہیں۔ حاکم نے کہا تم صح کہتے ہو۔ واقعی یہ لوگ اپنی بیویوں سے بندھوا کر آتے ہیں سب لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی۔

غرض بعض آدمی بناو سنگار میں ہی کچھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے افکار لائق ہو جاتے ہیں کیونکہ اول تو اس کے لئے آمدی بہت چاہئے اس کی فکر پھر خود بھی ہر وقت کا جنجال غرض فکر ہی فکر ہے۔ میں نے ایک عہدہ دار کو دیکھا ایک سفر میں جہاں میں مہماں تھا وہیں وہ بھی مہماں تھے ان کا ہر وقت کا لباس الگ تھا۔ جس سے وہ محنت مصیبت میں تھے۔ ہر وقت یہی فکر سوار تھی کہ اب کیا پہنؤں۔ افسوس یہ لوگ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آزادی کا نام ہی نام ہے ورنہ ان کو آزادی کہاں نصیب۔ یہ تو ہر وقت افکار کے شکنخ میں جکڑے ہوئے ہیں آزادی اہل اللہ کو ہے۔

لنکے زیر و لنکے بالا نے غم دزو نے غم کالا

(یعنی ایک معمولی تہ بند ایک معمولی چادر ہے نہ چور کا کھانا نہ مال و اساب کا غم ہے)
 غرض تکلف حد سے بڑھ گیا۔ اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ دماغ پریشان وضعیف ہو گئے ہیں
 بلکہ ان کی وجہ سے اہل اللہ کو بھی کچھ فکر میں لگ گئیں کہ ان کی خاطر و مدارات کے لئے ان کو کچھ نہ کچھ
 کرنا پڑتا ہی ہے۔ مثلاً اگر ان لوگوں میں سے کوئی ان کے یہاں مہمان ہو تو اس کے لئے ریل پر
 گاڑی سمجھنے کی فکر ہوتی ہے کیونکہ یہ بے چارے پیادہ پا چلنے کے عادی نہیں۔ اگر سواری نہ سمجھی
 جائے تو کئی روز تک ان کی تھکن بھی نہ اترے یہ تکلیف دیکھ کر اللہ والوں کا بھی جی دکھتا ہے۔ اہل اللہ
 کا تو اپنے نفس کے لئے یہ برتاؤ ہوتا ہے تا نو تھے میں ایک طبیب ہیں۔ ان کے یہاں ایک بزرگ
 مہمان ہوئے تو وہ میزبان مہمان سے کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ آج میرے
 گھر فاقہ ہے۔ اگر اجازت ہو تو کسی اور کو خدمت کی اجازت دوں۔ چونکہ ان حضرات میں بے
 تکلفی ہوتی ہے اس لئے مہمان بزرگ نے کہا بہت اچھا جب آپ کے یہاں فاقہ ہے تو ہم بھی
 آپ ہی کی طرح ہیں۔ کبھی بھوکا بھی رہنا چاہئے۔ چنانچہ دلوں بھوکے پیٹھے رہے حتیٰ کہ مغرب
 کے وقت ایک شخص نے حکیم صاحب کی خدمت میں کچھ روپے نذر کئے اور کہا ناپاکا کر کھایا گیا۔
 غرض اللہ والے بڑی راحت میں ہیں۔ سو وہ ضعف کے اس سبب سے تو مبراہیں۔ لیکن دوسرے
 عوارض مثل اثر آب وہ و اوغیرہ کے سبب ضعیف ہیں جس سے زیادہ مشقت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

مجاہدہ کے طریقے

ایک تو یہ سبب ہے زیادہ محنت کا مشورہ نہ دینے کا دوسرے طبیعت بھی اکتا جاتی ہے۔ اور
 گھبرا کر کام چھوڑ دیتا ہے۔ اور آرام سے رہنے میں طبیعت میں نشاط رہتا ہے اور نشاط میں کام
 سہل ہوتا ہے اسی واسطے ہمارے حضرت کی رائے یہ تھی کہ نفس کو خوب خوش رکھو مگر کام بھی بہت
 لو اور چکلی پسواو۔ اور جب کام نہ کرو تب بھی یہ سزا نہ دو کہ غذا کم کر دو بلکہ کثرت نوافل سے اس
 کا مذارک کرو۔ چنانچہ نماز کی شان ہے انہا لکبیڑة (وہ نماز گراں ہے) وہ اس سے گھبرا تا
 ہے۔ بس اس طور پر وہ معمول روزانہ میں سستی نہ کرے گا۔

اکثر لوگ مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ ایسی ترکیب بتلادو کہ کھانا کم کھانے کی عادت ہو جائے۔
 میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کھانا کم ہو گیا اور کمزور اور لا غرہ ہو گئے تو اتنا کام بھی نہ کر سکو گے جتنا اب کر رہے ہو۔

اس کے علاوہ مجاہد کے اور طریقے بھی تو ہیں۔ حضرت شلی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جس روز تجد کے لئے آنکھ نہ کھلتی تو اپنے بدن پر چھپیاں مار مار کر توڑ دیتے تھے اور فرماتے کہ وان علنتم علنناً اگر اس کے بعد پھر ایسا ہوا تو ہم پھر ایسا ہی کریں گے تو کھانا کم کرنا کیا ضروری ہے؟ مجاہد سے اور بھی تو ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اسکی محنت میرا مقصود نہیں۔ میرا مقصود یہ ہے کہ اصلاح کی دھن میں لگ جاوہاتی کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ دین میں دشواری نہیں۔ جو کچھ تم کو دشواری معلوم ہو رہی ہے سبب اس کا صرف یہ ہے کہ تم نے ارادہ نہیں کیا۔ اور ارادہ نہ کرنے سے ہر کام گووہ کتنا ہی آسان ہو مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حکایت یاد آئی کہ زمانہ شاہی میں دو احادی آدمی تھے ایک پڑا تھا دوسرا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ راستہ میں ایک شخص گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ ایک احادی نے اس کو آواز دی کہ اے میاں گھوڑے سوار ذرا میری ایک بات سنتا جا۔ وہ اس کے پاس آیا کہ کہہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ جو بیر میرے سینہ پر پڑا ہے۔ ذرا میرے منہ میں ڈال دے۔ اس نے ایک کوڑا مارا کہ بلا ضرورت مجھے چلتے ہوئے کو راستہ سے بلا یا اور اتنانہ ہوا کہ خود کھالے یا اس سے کہ دے۔ جو پاس بیٹھا ہے۔ اس نے کہا صاحب میں کبھی اس کام کو نہ کروں گا کیونکہ صحیح کتاب میرے منہ میں موستار ہا اور یہ پاس بیٹھا تھا مگر اس نے ہٹایا نہیں سوار نے ایک کوڑا اس کے بھی مارا اور بر بھلا کہتا ہوا چلا گیا۔

غرض یہ ہے کہ ارادہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آسان سے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بھی ہم لوگوں کے پاس سے کچھ نہیں گیا۔ صرف ایک چیز گئی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی دولت سے کہ اس میں ارادہ بھی ہے کام نہیں لیتے۔ باوجود دولت مند ہونے کے ہماری وہ حالت ہے کہ۔

یک بد پرناں ترا بر فرق سر تو ہی جوئی لب ناں در بدر
جیسے ایک شخص کے سر پر روٹیوں کا بھرا لو کر کھا ہوا اور وہ در بدر بھیک مانگتا پھرتا ہے۔

حضرات آپ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور پھر اجتنیانہ دھونڈھتے پھرتے ہو کہ کچھ بتا دیجئے مگر آپ چاہتے ہی نہیں اور بغیر آپ کے چاہتے اور کام کے کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ جو حکایتیں مشہور ہیں کہ بعض اولیاء کو ایک دن میں سب کچھ مل گیا تو اس کی حقیقت سن لیجئے۔

حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قسم کی حکایت ہے کہ انہوں نے شاہ بھیک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن میں سب کچھ دے دیا مگر یہ غلطی ہے کہ ایک دن میں سب ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ علم تامہ کا جزو اخیر اس ایک دن میں پایا گیا۔ یہ نہیں کہ تمام اجزاء اسی دن میں پائے

گئے لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں کامل کر دیا یا نہیں و میکھتے کہ اس ایک دن سے پہلے انہوں نے کتنی مشقت برداشت کی تھی۔ شاہ بھیک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت تھی کہ ایک مدت دراز تک شیخ کی خدمت میں تکلیفیں اٹھائیں۔

ایک واقعہ ان کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیخ ان پر خفا ہو گئے اور فرمایا کہ ہمارے سامنے نہ آنا۔ چنانچہ یہ ران و پریشان اپنہ کے چاروں طرف پھرتے تھا اور امثال امر کے سبب سامنے نہ آتے تھے اس میں یہ حال تھا۔

ترک ما ارید لہایرید
رید و صالحہ و یوید هجری

یعنی میں ملتا چاہتا ہوں محبوب ملنا نہیں چاہتا۔ تو میں اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں۔ عشق اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ مدت تک سامنے نہ آئے۔ برسات کا موسم آیا اور کثرت بارش سے شیخ کا مکان گر گیا۔ اب مکان بنانے کو مزدور کہاں سے آئے۔ کیونکہ تاداری اس قدر تھی کہ اکثر فاقہ کی نوبت آتی تھی۔ سہارنپور کے لوگ دعوت کیا کرتے تھے تو حضرت شاہ بھیک صاحب اس قدر جان ثار خادم تھے کہ اہل و عیال کے لئے بعد عشاء کے پیارہ پا انہوں کھانا پہنچا کر تجد کے وقت آ کر شیخ کو وضو کراتے۔ تو یہوی صاحب بولیں کہ یہ جتنے خادم یہاں پڑے ہیں سب اپنی غرض کے ہیں۔ ایک بیچارہ گنوار سامل گیا تھا۔ وہ کام کا ج کر دیا کرتا تھا۔ اسی کو آپ نے نکال باہر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ہی تو نکالا ہے تم نے تو نہیں نکالا۔ تم بلا لو میں کب منع کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دل سے تو نفرت نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہلا بھیجا کہ مکان گر گیا ہے اس کے بنانے کے لئے حضرت نے تمہارے بلاں کی مجھ کو اجازت دے دی ہے۔ یہ تو مشتاق تھے ہی فوراً حاضر ہوئے مگر خوف کے مارے حضرت کے سامنے نہیں گئے۔

ایک دن چھت کوٹ رہے تھے کہ حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب گھر میں کھانا کھانے تشریف لائے۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمه ہاتھ میں لے کر حضرت شاہ بھیک کو دکھایا کہ لے بھیک۔ یہ ایسے بے تاب ہوئے کہ فوراً چھت پر سے کوڈ پڑے اور حاضر ہوئے شیخ نے منہ میں لقمه دیا اور گلے لگالیا اور خلعت خلافت عطا کیا۔

اس حکایت کو سن کر لوگ کہتے ہیں کہ ایک نظر میں کام ہو گیا۔ ایک دن میں کامل بنادیا۔ مگر دیکھتے وہ ایک نظر کرنے والوں میں ہوئی۔ ایک دیساں میں لکڑی جل جاتی ہے مگر نشک لکڑی وہ تو جل جاتی ہے تو دیکھواں کے خشک ہونے میں کتنا زمانہ صرف ہوتا ہے۔ اور اگر ایک مونا تازہ درخت یہ سوچنے لگے کہ

مجھ میں تو آگ لگتی ہی نہیں دیا سلامی جلاتی ہی نہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا یہ خیال صحیح ہے۔ ہرگز نہیں
یہی کہا جائے گا کہ وہ لکڑی تو سوکھ چکی تھی۔ اس میں رطوبت کم ہو گئی تھی۔ اس لئے ایک دیا سلامی سے
جل گئی۔ درخت میں رطوبتیں بہت ہیں نیز موٹا بہت ہے اس لئے ایک دیا سلامی کافی نہیں۔

ایسے ہی جن کو ایک نظر کافی ہو گئی ہے خبر بھی ہے ان کے نفس پہلے کتنے صاف ہو چکے
تھے۔ تمہارے نفوس مولے ہور ہے ہیں ان میں فاسد مادہ بہت بھر رہا ہے اس لئے ایک نظر
کافی نہیں ہو سکتی تو لوگوں کو یہ دھوکے ہو گئے ہیں ایک دوسری غلطی اس کے مقابل یہ ہے کہ کوئی
اس کو بہت مشکل سمجھ رہا ہے اس لئے اپنی اصلاح سے ہاتھ دھو بیٹھا اور کوئی اتنا آسان سمجھے
ہوئے ہے کہ صرف ایک نگاہ کا کام سمجھتا ہے حالانکہ۔

صوفی نہ شود صافی تادر نہ کشد جائے بسیار سفر باید تا پختہ شود خاء
(یعنی جب تک جام الفت نوش کر کے خوب مجاہدات اور ریاضات نہ کرے اس وقت
تک اصلاح اور تصفیہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے) اور فرماتے ہیں

شندیم رہ روے در سرزینے ہمیں گفت اس معما باقرینے
(ایک سالک کو سنا کہ اپنے ہم نشین سے یہ نکتہ بیان کر رہا تھا)

کہ اے صوفی شراب آنگہ شود صاف کہ در شیشه بماندار بعینے
(کہ اے صوفی شراب اس وقت صاف اور عمدہ ہوتی ہے کہ چالیس دن تک شیشه میں رکھی ہے)
اور فرماتے ہیں۔

عاشقی چیست بگو بندہ جاتاں بودن دل بدست دیگرے دادن و حیراں بودن
(یعنی عاشقی کیا ہے؟ محبوب کا بندہ ہو جاتا۔ دل دوسرے کے ہاتھ میں دے کر خود حیراں ہو جانا)
سوئے زلف نظرے کر دن درویش دیدن گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن
(اس کے زلف کی طرف نظر کرنا اور اس کے چہرہ کو دیکھنا۔ کبھی فانی ہونا ہے اور کبھی باقی رہنا)
کافرو مسلمان ایک اصطلاح ہے (فنا کو کفر اور اسلام کو بقاء کے تعبیر کرتے ہیں اور فنا کی جگہ کو
زلف اور بقاء کی تجھی کو رخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام نہ اتنا آسان ہے
جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی نہ پڑے اور ایسا مشکل بھی نہیں جس سے ڈر کر ہاتھ دھو کر بیٹھ جاویں۔

تصوف کی حقیقت

وجہاں غلطیوں کی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی حقیقت کی خبر نہیں اس لئے کوئی بہت مشکل سمجھ

رہا ہے اور کوئی بہت آسان خیال کر رہا ہے۔ تو سننے تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ تفسیر الفاظہ والباطن۔ سو یہ اختیاری امر ہے۔ اس لئے تو اس قدر دشوار نہیں اور بوج اختیاری ہونے کے موقوف ہے قصد پر۔ اس لئے اس قدر بہل نہیں کہ قصد و ارادہ بھی نہ کرنا پڑے اور گو حقیقت میں یہ فضل خدا ہی پر موقوف ہے مگر تا ہم صرف ایک چیز اپنے اختیار میں بھی ہے ارادہ اور سعی۔ اور سعی بھی ارادہ ہی سے ہوتی ہے مگر اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ارادہ بھی کچھ نہ کرنا پڑے اور کام ہو جائے مگر صاحبو! بدون ارادہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

دیکھنے کھانا کھانا کتنا آسان کام ہے مگر وہ بھی جب تک ارادہ نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ غلہ خریدنا پڑے گا۔ پھر پوانا۔ پکوانا برتن میں نکالنا پھر کہیں جا کر کھانا نصیب ہو گا اور ہر کوئی پکا ہوا بھی دے جائے تب بھی منہ چلانا تو پڑے ہی گا۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر سعی کریں تو جانے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ یہوی چھوڑنی پڑے گی۔ کھانا پینا کم کرنا ہو گا۔ غرض بہت مشکل ہے۔ تو انہوں نے یہ تدبیر نکالی کہ کسی بزرگ کے پاس چلو۔ ایک ہی نظر میں کامل بنادیں گے۔

چنانچہ ایک ڈپی گلکشہ پیشہ ای خیال سے ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ خدا تک پہنچنے کی کوئی آسان ترکیب بتا دیجئے کہ جلدی کامیاب ہو جاؤں تھوڑی دیر وہ بزرگ چپ ہو رہے پھر کہا کہا اپ کی کیا عمر ہے؟ انہوں نے عمر بتلائی۔ پوچھا کہ پڑھنا کب شروع کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ چوتھے برس ہوئی تھی۔ آج کل بسم اللہ کے لئے چار برس کی رسم بھی مسلمانوں میں بہت راجح ہے۔ حدیث و قرآن میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ غرض انہوں نے بیان کیا کہ ارادو اتنے برس میں ہوئی فارسی اتنے دنوں میں ہوئی پھر انگریزی شروع ہوئی۔ پھر انگریزی میں پاس حاصل کیا۔ اتنی عمر میں ملازمت ملتی۔ اس وقت سے ترقی پا کر ڈپی گلکشہ ہوا۔ اب پیش ملی ہے انہوں نے فرمایا کہ اتنی مدت میں آپ کو ترقی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ قاعدہ ہے کہ ایک چیز حاصل شدہ کے بعد جب دوسرا چیز حاصل کرتے ہیں تو اس کو پہلے سے فضل سمجھتے ہیں۔ آپ نے دنیاوی ترقی کے لئے جس کوادنی بھی سمجھتے ہو اتنی مدت صرف کی اور خدا سے ملنے کے لئے کہتے ہو کہ ایک قدم میں پہنچ جاؤں۔ کچھ تو شرم کرنی چاہئے۔ تو وہ ڈپی صاحب کہتے تھے کہ واقعی ایسا جواب دیا کہ میں بالکل چپ ہو گیا۔ یہ فرمائش تو بہت اچھی ہے کہ خدا تک پہنچنے کی ترکیب بتا دو مگر آسانی کی فرمائش نازیبا ہے طالب کو تو ایسا ہونا چاہئے کہ دست از طلب ندارم تا کام من برآید۔ یا تن رسد بجاناں یا جاں زتن برآید۔

(یعنی جب تک مقصد برا آری نہ ہوگی اس وقت تک طلب سے بازنہ رہوں گا۔ یا تو تن محظوظ کے پاس پہنچ جائے یا جان تن سے نکل جائے)

اپنی طرف سے ارادہ اور طلب کرو اس طرف سے بہت فضل ہوگا۔ حدیث قدسی میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ من تقرب الى شبر اقربت اليه ذراعاً (کنز العمال: ۱۱۸۰، ۱۱۷۹)

کہ جو میری طرف ایک باشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف مقدار بارع (دونوں ہاتھ لسما کرنے کی مقدار) جاتا ہوں۔ جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ غرض تمہاری تھوڑی سی توجہ پر اس طرف سے عنایت ہی عنایت ہوتی ہے۔

آب کم جو تخفیگی آور بدست تابجو شد آب از بالاؤ پست تشنگاں گر آب جوئند از جہاں آب ہم جوید بعالم تشنگاں (پانی مت تلاش کرو پیاس پیدا کروتا کہ پستی و بلندی سے تمہارے لئے پانی جوش مارے یعنی اپنے اندر طلب پیدا کرو عنایت حق خود بخود متوجہ ہوگی۔ اگر پانی کے پیاس سے طالب ہیں تو پانی بھی پیاسوں کا طالب ہے۔ اسی طرح جیسے تم طالب عنایات حق ہو عنایات حق بھی تمہاری طالب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا سی توجہ پر بے حد عنایت ہوتی ہیں۔ تم اندر طلب پیدا کر لو محبوب خود بخود متوجہ ہو گا کہتے ہیں۔ عاشق کہ شد کہ یار بحاش نظر نہ کرد اے خواجہ در دنیست و گرنہ طبیب ہست (جو بھی عاشق ہوا ہے محبوب نے ضرور اس کے حال پر نظر کی ہے حق یہ ہے کہ درد یعنی طلب ہی نہیں ورنہ طبیب یعنی عنایت حق تو ہر وقت موجود ہے)

حقیقت میں طلب ہی نہیں ورنہ خدا کے یہاں سے کوئی کمی نہیں۔ غرض اس بھروسہ سے نہ رہنا کہ بدلون کچھ کئے ایک نظر پڑ جاوے گی اور کامل ہو جاؤ گے۔ نظر بھی جب ہی پڑے گی جب طلب ہوگی۔ دیکھو بعض مرتبہ اساتذہ حساب وغیرہ کا کوئی آسان قاعدہ بھی بتلا دیتے ہیں مگر ہر ایک کو نہیں بتاتے۔ جس میں شوق و طلب دیکھتے ہیں اسی کو بتلاتے ہیں۔ حاصل یہ کہ اخلاص بھی کچھ مشکل نہیں آسان ہے مگر بلا طلب حاصل نہیں ہوتا۔

اب اپنی حالت میں غور کرو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر کبھی اس طرف توجہ نہ ہوئی کہ نیت خالص

ہے یا نہیں اور اگر کسی کے کہنے سے توجہ ہوئی بھی تو یوں چاہتے ہیں کہ خود کچھ نہ کریں اپنے آپ اخلاص ہونے لگے جب اس قدر بے توجہی ہے۔ تو انلزِ مُکْمُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا كُرِهُونکی اپنی رحمت تمہارے سرچ پکا دیں حالانکہ تم کو اس کی پرواہ بھی نہیں۔ تو اخلاص اتنا آسان نہیں کہ بلا طلب بھی مل جاوے۔

علم میں اخلاص کی ضرورت

چونکہ دین کے دو شعبے ہیں ایک علم و سر عمل تو جیسے عمل میں اخلاص ضروری ہے ایسے ہی علم میں بھی ضروری ہے۔ اب دیکھئے کہ تحصیل علم میں تمہاری کیا نیت ہوتی ہے۔ ایسے بہت کم ہیں کہ جن کی نیت ہو کہ غیر مردیات حق سے بچیں اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہو گا۔ جب علم میں اخلاص نہیں تو عمل میں کہاں سے آئے۔ اول علم میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر نیت خالص نہ ہو تو تحصیل علم ہی چھوڑ دو۔ نہیں پڑھنا تو بہر حال ضروری ہے کیونکہ اگر تحصیل کے وقت اخلاص نہیں ہے تاہم امید ہے کہ علم حاصل کر لینے سے پھر بھی پیدا ہو جائے گا اور اگر علم بھی حاصل نہ کیا تو یہ امید بھی نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر عمل میں اخلاص نہ ہوتا ہم عمل نہ چھوڑو کہ بھی عمل کرتے کرتے اس کی برکت سے بھی اخلاص پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں میں تجاذب بھی ہے۔ بھی عمل سے بھی نیت درست ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ علم سے اکثر یہ بات ہو جاتی ہے۔ تو اگر نیت خالص نہ ہوئی تو توبہ بھی چھوڑنے دے۔ کیونکہ آئندہ حاصل ہو جانے کی تو امید ہے۔ بزرگوں کا قول ہے۔

تعلمنا العلم لغير الله فابي العلم الا ان يكون لله

(علم ہم نے غیر اللہ کیلئے پڑھا تھا مگر وہ مانا ہی نہیں کہ وہ غیر اللہ کا ہو کر رہے۔ لہذا وہ اللہ ہی کا ہو کر رہا)

ہم نے فقہ اس لئے سیکھی تھی کہ فتویٰ لکھیں گے۔ مفتی کہلائیں گے۔ یا حدیث پڑھتے ہیں تاکہ وعظ کہیں گے۔ لوگ ہم کو نذرانے دیں گے۔ دانت گھسائی دیں گے۔ یا بعضوں نے مباحثہ کے لئے پڑھا تھا کہ بڑی عزت ہو گی مگر علم خدا ہی کا ہو کر رہا۔ علم نے مانا ہی نہیں کہ وہ غیر کا ہو کر رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً قرآن میں کوئی آیت وعید پڑھی جس میں علم سے دنیا کمانے کی نذمت تھی اور قلب میں ایک کھٹکا پیدا ہوا کہ میں بھی تو اسی مرض میں مبتلا ہوں۔ تو اپنے کو ملامت کرتا ہے اور روتا ہے۔ پس اس طرح عالم باعمل ہو گیا۔ یہ ہے۔ ابی العلم الا ان یکون لله (یعنی علم مانا ہی نہیں بجز اس کے کہ وہ اللہ ہی کا ہو کر رہے) کہ علم سے کبھی نہ کبھی اخلاص ہو ہی جاتا ہے۔

اس سے ان لوگوں کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا جو کہتے ہیں کہ اگر انگریزی سیکھنا برا ہے تو آج کل کے طالب علموں کا عربی سیکھنا بھی اچھا نہیں کیونکہ اسی میں ان کی کونسی نیت اچھی ہے۔ دونوں سے مقصود دنیا ہے بس دونوں برے ہوئے۔ اور اگر یہ کہو کہ انگریزی میں عقائد خراب ہوتے ہیں تو عربی کے ساتھ بھی تو فلسفہ ہے اس کے ساتھ بھی عقائد خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیں اقوال اہل شہادت کے۔ مگر یہ سب تلمیذات ہیں۔ دونوں ہرگز برابر نہیں کیونکہ علوم محمودہ حدیث و قرآن جب عربی پڑھنے والے کی زبان سے ادا ہوں گے کان سے بھی نہ گا۔ اس میں غور و فکر بھی کرے گا تو اس کے ساتھ ایک ہادی تو موجود ہے کبھی تو اثر پڑے گا اور اصلاح ہو جاوے گی۔ انگریزی میں کوئی امید بھی اصلاح کی نہیں۔ پڑا اخلاق افرقہ ہے۔ غرض

ابی العلم الا ان یکون اللہ

کے یہ معنی ہیں کہ علم خدا کا ہو کر کے رہتا ہے۔ اس لئے اول تو اس کی کوشش کرنا چاہئے کہ پہلے ہی تھیں علم میں نیت خالص ہو۔ اور اگر کسی کی نیت ابھی خالص نہ ہو تو اس کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہئے۔ امید ہے کہ بھی اخلاص حاصل ہو جائے گا۔ اسی لئے اہل اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کام کرتا ہے گوریاء ہی سے ہواں شخص سے اچھا ہے جو کام کرتا ہی نہیں۔ کیونکہ کبھی نہ کبھی ریاء بھی جانتی رہے گی۔ اور عمل رہ جاوے گا مثلاً کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو وہ سرا آدمی اس کو ریا کار کہے تو اس سے کہا جائے گا کہ میاں تم نے تو ریاء کے لئے بھی نہ کیا۔ تم کس منہ سے طعن کرتے ہو۔ سو انے کیا خوب کہا ہے۔

سودا تمار عشق میں شیریں سے کوہکن بazi اگرچہ نہ پاسکا سر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے رویاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
تو کرنے والا نہ کرنے والے سے پھر بھی اچھا ہے البتہ اگر کرنے والوں کی یہ شکایت ہے کہ نیت کو
خالص کرنا بھی تو فرض ہے اسے کیوں چھوڑ رکھا ہے۔ مثلاً ایک شخص بے چیائے کھاتا کھاتا ہے تو اس سے
یہ نہ کہا جائے گا کہ کھاتے کیوں ہو۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ اچھی طرح چبا کر کیوں نہیں کھاتے۔ بعض
لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ جیسی پڑھنی چاہئے ویسی تو ادا ہوتی نہیں پھر پڑھنے سے کیا فائدہ۔ سو یہ لوگ سخت
غلطی میں بتلا ہیں کیا کوئی کام اچھی طرح نہ ہو سکے تو اس کو بالکل بھی نہ کرنا چاہئے؟ اگر ایک ایسا کھنکی لکھتا
چھوڑ دے کہ اچھا تو لکھا نہیں جاتا کیا کوئی اس عذر کو مانے گا ہرگز نہیں۔ بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ تو
خراب ہی لکھتا رہ کبھی نہ خط عمدہ ہو ہی جائے گا۔ ویسے ہی یہاں بھی سمجھلو۔

رہایہ کہنا کہ جیسی ہونی چاہئے ویسی ادا نہیں ہو سکتی یعنی ناممکن ہے یہ بھی غلط ہے ضرور ہو سکتی

ہے۔ شریعت میں کوئی ایسا کام نہیں کہ نہ ہو سکے ہاں ارادہ اور طلب پہلی شرط ہے۔ اب میں ایسے لوگوں کو جو اس لئے کام نہیں کرتے کہ عمل کامل تو ہوتا نہیں پھر کیا کام کریں۔ ایک بات سنا تا ہوں کہ جس کو آپ کامل سمجھتے ہیں اس کی توفیق کے بعد بھی چونکہ اس وقت نظر صحیح ہو گی اب اس کو ناقص ہی دیکھنے گا۔ بہر حال کام کئے جاؤ کامل ہو خواہ ناقص ہو۔ انشاء اللہ ناقص ہی سے کامل ہو جائے گا۔ دیکھو ایک شخص نے لکھنا شروع کیا اور خراب جیم لکھی گئی اور میر پنجہ کش کی جیم دیکھ کر مایوس ہو گیا تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ ابتداء میں انتہاء پر نظر نہیں کیا کرتے جیسا کچھ ہے کئے جاؤ۔ ہوتے ہوتے کام ہوتا ہے ایک دم سے نہیں ہو جاتا۔

اندریں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش
(اسی اوہیزہ بن میں لگے رہو۔ آخر دم تک فارغ ہو کر مت بیٹھو)

تادم آخر دے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سربود (آخری وقت تک تو کوئی گھڑی آخر ایسی ضرور ہو گی جس میں عنایت ربائی تمہاری بھرازو رفیق بن جاویگی) کام کئے جاؤ کسی نہ کسی روز ان شاء اللہ فضل ہو جاویگا۔ حافظ علیہ الرحمۃ کہتے ہیں۔ یوسف گم گثہ باز آید بکتعان غم مخور کلبہ احرزاں شود روزے گلستان غم مخور (یعنی یوسف گم شدہ کنعان میں واپس آ جائیں گے غم مت کرو۔ فکر نہ کرو۔ کسی روز رنج و الم کی کوٹھڑی چمن ہو جائے گی۔ یعنی کام اور طلب میں لگے رہو۔ غلگٹین نہ ہوان شاء اللہ تعالیٰ کسی روز فضل ایزدی بھی ہو جائے گا۔)

عبدیت کا تقاضا

باتی تقاضا اور جامدی خرابی کی بات ہے اور وجہ مایوسی کی یہ ہوتی ہے کہ آج کل لوگ کسی ایک خاص شے کو اپنا مطلوب قرار دے لیتے ہیں جب وہ حاصل نہ ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ سو خوب سمجھ لو کہ۔ لا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا و سمعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ انسان جتنی اصلاح پر اس وقت قادر ہے اس وقت میں اسی قدر کا مکلف ہے۔ اور جیسے سو برس کا مجاهدہ کرنے والا خدا کا محظوظ ہے ایسے ہی یہ بھی محظوظ ہے جس نے ابھی کام شروع کیا اگرچہ درجہ تکمیل کوئی نہیں پہنچا۔ محظوظ دونوں ہیں اگرچہ مراتب کا فرق ہے۔ دیکھئے اگر طالب علموں کو شیرینی تقسیم ہو تو الف بے پڑھنے والے کو

بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا شس بازغہ پڑھنے والے کو۔ تو پڑھتے رہئے اور ارادہ نہ توڑئے۔ مشکل وہی ہے کہ اپنے نزدیک ایک خاص مطلوب تراش لیا ہے اور یوں چاہتے ہیں کہ ہم آج ہی جنید کے برابر ہو جائیں پھر اپنے اندر جب کمی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور نہ ہونے کی امید ہے۔ بعضے اس سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ کامل تو وہی ہے جو جنید کے برابر ہو۔ اور ان کی برابری ممکن نہیں۔ سو اول تو کمال منحصر نہیں مماثلت جنید میں۔ دوسرے تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ جنید کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خداوند تعالیٰ کا فیض ہر وقت اور ہر زمانہ میں یکساں ہے۔ ان کی رحمت سے کچھ بعد نہیں کہاب بھی جنید و شبلی جیسے بنادیں۔

ہنوز آں ابر رحمت در فشاں است خم و خم خانہ با مہر و نشان ست
(یعنی اب بھی وہ ابر رحمت در فشاں ہے۔ خم اور خم خانہ اب بھی مہر و نشان کے ساتھ ہے۔ رحمت الہی اب بھی ایسی ہی ہے جیسے پہلے تھی) البتہ یہ ضروری نہیں کہ تم کو بھی اپنا جنید ہونا معلوم ہو جائے۔ اور کیا خبر ہے کہ اگر تم کو یہ مساوات معلوم بھی ہو جائے تو تم عجب میں بنتا ہو کر فاسق سے بھی بدتر ہو جاؤ۔ تو اس کا طالب ہونا کہ ہم کو بھی معلوم ہو جاوے کہ ہم کس مرتبے کے ہیں اپنے تنزل کا طالب ہونا ہے اس راہ میں ترقی یہی ہے کہ اپنے کو سب سے حریر سمجھے اور کسی درجہ کا مستحق نہ سمجھے۔ جو کچھ مل جائے وہ محض انعام خداوندی ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص کو اپنی ترقی محسوس ہو جایا کرے۔
مثلاً اگر ایک شخص مرے اور نابالغ بچہ چھوڑے اور جائیداد کو رث ہو جائے تو یہ بچہ زمین کا مالک ہے اور زمیندار ہے اگر چہ اس کو اس کی خبر بھی نہیں کہ میں کتنے کامالک ہوں۔ تو ایسی خبر کا طالب ہونا یہ اپنے کو گرانا ہے اس اعلیٰ درجے سے جو اس کو حاصل ہے آپ کو کام کے لئے کہا گیا ہے اپنا کام کئے جاؤ۔
کار خود کن کار بیگانہ مکن

آپ کا کام انتہا امر ہے وہ سمجھے پھر جس مرتبہ کا ارادہ واستعداد ہو گی اس کے مطابق کامیابی ہو گی پھر تشویش کیوں کی جاوے۔ اکثر کام کرنے والوں سے ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے درپے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ حاصل ہوا یا نہیں۔ اس کا وسوسہ بھی دل میں نہ لانا چاہئے۔ اب لوگوں میں یہ عیب ہے کہ جو چیزان کے اختیار میں نہیں ہیں (جیسے ثمرات مخصوصہ کا مرتب ہونا) ان کی طلب میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھو جو شخص غیر اختیاری امور کی طلب کرے گا وہ ہمیشہ پریشانی میں بنتا رہے گا۔ بعض ثمرات تو موعود بھی نہیں۔ ان کا ترتیب تو یقینی بھی نہیں ان کی فکر میں پڑتا تو پوری پریشانی ہے۔ باقی جو موعود بھی ہیں جیسے اجر و ثواب کا وعدہ آخرت میں ہے۔

یہاں ان کا انتظار کرنا بھی ظاہر ہے کہ پریشانی، ہی پریشانی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو ایک کام بتایا ہے اور ایک شے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارا کام عبادت ہے وہ اپنا وعدہ آخرت میں خود پورا کر دیں گے۔ ہمارا طالب ثمرات ہونا خلاف عبادت ہے اور اسی طرح یہ دیکھنا کہ میں اتنے دنوں سے کام کر رہا ہوں کچھ ملا بھی یا نہیں خلاف اخلاص بھی ہے۔ کیونکہ ثمرات عاجله کا طالب ہونا ہے۔ حالانکہ اب بھی جو اس کو ملائے یعنی اصلاح کے تدریجی مراتب اس کا اس کو پڑھنی بھی نہیں چلتا۔

ایسی مثال ہے یعنی بچہ پڑھتا ہے اور آج اور کل میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا حالانکہ بالکل اول اور بہت آخر کو ملا کر دیکھو تو معلوم ہو گا کہ لتنا بڑا فرق ہو گیا ہے۔ صاحبو ایسے ہی مومن کے اول و آخر کو دیکھو تو معلوم ہو گا کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا۔ تو فرق یقیناً ہوتا ہے مگر یہ بات کہ کرنے والے کو بھی معلوم ہو سو یہ ضروری نہیں اول تو ثمرات عاجله کا ہونا ہی ضروری نہیں اور ہوں بھی تو خبر ہونا ضروری نہیں۔ اس کو خوب سمجھ لینا ورنہ اس سے بہت سے وساوس و خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کسی کو بسط عنایت کرتے ہیں کسی کو حزن و غم عطا فرماتے ہیں اور یہ ہر ایک کے حال کے موافق ہوتا ہے کیونکہ اگر بسط والے کو حزن و غم دے تو وہ عمل ہی چھوڑ بیٹھے یا اگر حزن والے کو بسط دے تو وہ اپنے کو بڑا سمجھنے لگے تو ہر ایک کے لئے وہی مناسب ہے جو اس کو ملے۔ اسی کو کہتے ہیں۔

بدر دو صاف ترا حکم نیست دم در کش کے آنچے ساقی ماریخت میں الطاف ست
(قبض و بسط کی خواہش یا انکار کا تم کو حق نہیں ہے جو کچھ عطا ہو جائے وہی تربیت باطنی کے لئے مصلحت اور وہی عین لطف ہے)

نیک نیت کی ضرورت

تو ارادہ کرنے کے بعد یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے ارادہ میں سستی ہو جاتی ہے۔ غرض بعض تو سرے سے ارادہ ہی نہیں کرتے اور بعض شروع کرتے ہیں مگر ان وساوس کی وجہ سے ان کو تعطل ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کی شرح کر دی کہ ارادہ کرو اور ان قصوں کو چھوڑ دو۔ تم ارادہ کئے جاؤ اور جس کے مکلف ہو اس کے درپے ہو اور وہ مکلف یہ ہے کہ نیت کو خالص کرو علوم میں بھی اور اعمال میں بھی تحصیل علم میں جو خرابیاں لوگوں نے کر رکھی ہیں اس کی تفصیل کی مجھ کو اس وقت اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس وقت مخاطب اہل علم ہیں۔ تو ان کو یہ نیت کرنا چاہئے کہ علم حاصل کر کے ہم احکام الہی پر خود کار بند ہوں گے اور لوگوں کو ہدایت کریں گے اور میں وصیت کرتا ہوں کہ نوکری کی نیت نہ کرو۔ گوانشاء اللہ وہ ملے گی ضرور۔ مگر نیت اس کی مت رکھو اور بعد میں

جب مل جاوے تو کرلو اور پڑھانے پر تխواہ لیتا بھی جائز ہے۔ یہ غلطی ہے کہ تعلیم پر تخواہ لینا جائز نہیں۔ اور یہ جواز حنفیہ کے اصول پر بھی ہے کیونکہ جو شخص کسی کے کام میں مجبوس ہوتا ہے اس کا نفقہ اسی کے ذمہ واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ دیکھو قضاۃ کو وظیفہ اس لئے دیا جاتا ہے کہ وہ مجبوس ہیں۔

دوسرا دیکھو بیت المال کیا ہے وہ مجموعہ ہے مسلمانوں کے مال کا جس کو سلطان حسب ضرورت مختلف مقاموں میں صرف کرتا ہے۔ علماء کو بھی اس میں سے وطاائف دیئے جاتے تھے اور کسی نے اس کو حرام نہیں کہا۔ تو چندہ کی بھی تو یہی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے مال کا مجموعہ ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ بیت المال سلطان کی طرف منسوب ہوتا ہے اس لئے لوگوں کی نظرؤں میں اس کی وقعت ہے چندہ کی وقت نہیں ورنہ اصل میں دونوں یکساں ہیں۔ پھر چندہ میں سے علماء کو وطاائف لینا کیوں حرام ہونے لگا ہے اور عین مقدار سے اس کے اجرت ہونے کا شہرہ کیا جائے تعین تو اس لئے کی جاتی ہے تاکہ بعد میں زیاد نہ ہو۔ ورنہ اگر تعین نہ کی جائے اور موافق ضرورت دیا جائے تو اس میں اختلاف و مزاع کا بڑا اندیشہ ہے۔ تم کہو کہ مجھے اتنی مقدارنا کافی ہے دوسرا کہے کہ کافی ہے اس مزاع کے رفع کرنے کو پہلے ہی سے مقدار معین کر دی جاتی ہے۔ غرض تخواہ کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اس کا انتظام کرنا تو یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ آپ اس کی فکر میں کیوں پڑیں۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے خدمت دین آپ اس کی نیت رکھیں اور اسے بلا تخواہ شروع کر دیں۔ مسلمان اپنا کام کریں گے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ امام مصلیٰ پر پہنچ کر یہ قصد کرے کہ میں اس وقت نیت باندھوں جب پہلے مقدومی نیت باندھ چکیں تو تم اپنا کام شروع کر لوگ اپنا کام کریں گے اور میں وحدہ بلکہ وعویٰ کرتا ہوں کہ اگر تم اپنا کام شروع کر دو گے تو لوگ زبردستی تمہاری خدمت کریں گے تم ان کو دھکیلوں گے اور وہ ہاتھ جوڑ کر دیں گے۔ اسی لئے میں اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ میاں تخواہ میں جھگڑانہ کیا کرو۔

صاحب۔ خدمت دین تو خود ہمارا کام ہے اس میں بھاؤ تاؤ کیسا کیا وہ کرنا چاہتے ہو جیسا ہندوؤں کے ساتھ بڑھن کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی دعوت کرتے ہیں تو کچھ کھا کر ہاتھ پہنچ لیتے ہیں۔ ہندوان کی خوشامدیں کرتے ہیں کہ اور کھاؤ۔ پوچھتے ہیں کہ کیا دو گے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک لذو پر ایک روپیہ۔ وہ ایک دو لقے کھا کر پھر ہاتھ روک لیتے ہیں پھر وہ ایک لذو پر دو روپے دیتے ہیں۔

میں تو یہ کہتا ہوں کہ تخواہ پر بھی جھگڑا ملت کر جو خدمت کریں خوشی سے قبول کرلو۔ جب لوگوں کو معلوم ہو گا کہ تمہارا کام نہیں چلتا، وہ خود بخود تمہاری امداد کریں گے آپ اللہ کے واسطے اپنا کام کیجئے یہ تو مضمون تھا اخلاص فی العلم کا۔

عدم اخلاص کی خرابیاں

اب رہے اعمال سوان میں عدم اخلاص کے سبب جو خرابیاں ہیں ان میں عوام بھی شرکیں ہیں کیونکہ علوم میں تو عوام بہت اچھے ہیں وہ کوئی مسئلہ اس نیت سے نہیں پوچھتے کہ اس سے نوکری ملے گی البتہ بعض اوقات ایک فعل عبث میں تو بتلا ہو جاتے ہیں کہ بلا ضرورت مسئلے پوچھتے ہیں۔ اور بعض دوسری اغراض فاسدہ میں بھی بتلا ہو جاتے ہیں اس لئے مسئلے پوچھتے ہیں تاکہ جھکڑا کریں مگر ایسے لوگ کم ہیں۔ زیادہ بھی حالت ہے کہ پوچھ لیا اور عمل کر لیا۔ ہاں عمل کی خرابی میں خواص و عام دونوں شرکیں ہیں گو خواص کا محل ریاء دوسرا ہے ان کا دوسرا مسئلہ بعض خواص غور کر کے دیکھ لیں کہ وہ ذکر و تلاوت کس غرض سے کرتے ہیں محض اس لئے کہتا ہو نہ ہو جاہ ہو جلے اس واسطے کرتے ہیں کہ ہمارا گزر ہو آمدی ہو۔ شہرت ہو۔ پیری مریدی کرتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ آمدی بڑھے بعض پیرا یے بھی ہیں کہ مال نہیں لیتے نذرانے قبول نہیں کرتے۔ مگر وہاں بھی نیت خالص نہیں ہوتی۔ نہ لینے کے اندر بھی دنیاوی غرض ہوتی ہے کہ وقت ہو عزت ہو لوگ مستغفی سمجھیں۔ چونکہ اخلاص نہیں اس لئے ایسوں کے لینے میں بھی خرابی اور نہ لینے میں بھی خرابی وہ حال ہے کہ۔

چوں گر سہ می شوی سگ شوی چونکہ خوردی تند و بدرج می شوی
(جب بھوکے ہوتے ہو تو سگ ہو جاتے ہو اور جب کھایتے ہو تو تند خوار بدرج ہو جاتے ہو)

عوام کی یہ حالت ہے کہ مسجد بناتے ہیں فخر و مبارکات کے لئے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں کی بنوائی ہوئی ہے اور اسی لئے آج کل لوگ کثرت سے مسجدیں بناتے ہیں باوجود یہ کہ ضرورت بھی نہیں۔ صاحبو سجدیں تو پچھے بنائے گا پہلے مسجد والے تو بناو بہت سی مسجدیں آج کل دیران نظر آتی ہیں جن میں نہ اذان ہونے جماعت۔

اسی طرح اکثر لوگ وعظ کے بعد مخالفی تقسیم کرتے ہیں جس سے صرف نام ہی مقصود ہوتا ہے۔ قسمی کپڑے پہننے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بخے کے لئے میں یہ نہیں کہتا کہ قسمی کپڑے نہ پہنون۔ نہیں خوب پہنون مگر نیت یہ ہو کہ اس سے ہمارا جی خوش ہو گا۔ خدا تعالیٰ کی نعمت پر شکر کی توفیق ہو گی دوسروں کو دکھانے کی نیت نہ ہو۔ یہ ناجائز ہے اور اس کی پیچان یہ ہے کہ اگر ہم تنہا ہوں تو دیکھ لیں کہ اسی زینت کے ساتھ اس وقت بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ تکلف والے گھر میں معمولی حالت سے بھی کمتر ہوتے ہیں۔ ہاں باہر جانے کے لئے ساری زینت کی جاتی ہے پھر یہ کیسے کہیں کہ دکھلا و مقصود نہیں۔

ویکھو اگر عمدہ غذا کھانے کی عادت ہو تو تہائی میں بھی عمدہ کھاؤ گے اور سب کے سامنے بھی۔ تو اگر عمدہ کپڑا پہننا اپنا جی خوش کرنے کے لئے ہے تو تہائی میں اس کو کیوں اتنا راجاتا ہے۔ بعض لوگ اس نماش کی بدولت ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً گرمی کے وقت گرم اچکن، تو ریاء میں آخرت اور دنیا دونوں کا زیاد ہی ہے۔ باقی اگر قیمتی لباس پہننے کے ساتھ اس طرف التفات نہ ہو اور مالی گنجائش بھی ہو تو عمدہ لباس پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اثر ایسا ہی دیکھا ہے کہ گنجائش والے کو لباس کی طرف زیادہ مشغول نہیں ہوتی۔

بھوپال کی حکایت سنی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے وقت بارش آگئی فرض تو ہو چکے تھے لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے اور تو سب جلدی جلدی نماز ختم کر کے اندر چلے گئے مگر ایک رئیس جو قیمتی کپڑے پہننے ہوئے تھے انہوں نے جلدی نہیں کی بلکہ بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے رہے جب نماز ختم کر کے اندر گئے تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے نماز میں اختصار کیوں نہ کر لیا۔ بارش سے آپ کے تمام کپڑے خراب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے تو میرے پاس اور بہت ہیں۔ میں ان کو اتار کر دو میرے پہن سکتا ہوں مگر جلدی سے جو نماز میں خرابی آتی اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسے شخص کا البتہ حق ہے کہ اپنے کپڑے پہننے جس کو پہن کر اس کو نماز پر ترجیح نہیں دی۔

جیسے ایک خطی شاعر کی حکایت ہے کہ نماز میں ایک مصرع یاد آیا فوراً نماز توڑ کر مصرع کو قلمبند کر کے پھر نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی۔ نماز کے بعد شعر لکھ لیا ہوتا تو اس نے کہا کہ نماز کی تو قضا بھی ہے مصرع اگر بھول جاتا تو اس کی کوئی قضانہ تھی۔

مگر یہ ان لوگوں کی حکایت ہے جو پورے شاعر نہ تھے۔ کامیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ ذوق کہا کرتا تھا کہ یہ کیا شاعری ہے کہ ایک کوئی میں بند ہو کر شعر لکھے جائیں۔ شاعری اسے کہتے ہیں کہ میرے اور میرے کسی معاصر کی کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دو اور رسی کاٹ دو۔ پانی کی سطح پر پہنچتے پہنچتے جو شخص زیادہ شعر لکھ لائے وہی شاعر ہے۔ تو جو صاحب کمال ہوتا ہے اس کو زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس کے پاس کپڑا گنجائش کا ہو گا اس کو زیادہ پروا بھی نہیں ہوتی۔ اور ان کے پاس گنجائش نہیں وہ اگر اس میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ان کو انہا ک ہو جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ گبرون کا بھی کپڑا لیں گے تو ایسا کہ ذرالینا معلوم ہو۔

ایک بزرگ بیان کرتے تھے کہ ایک وفعہ ریل میں ایک جنگل میں گبرون کا کوت پہننے ہوئے تھے۔ جاڑوں کا موسم تھا نہ اس کے پاس رضائی نہ گرم کپڑا۔ یہ بھی آج کل تہذیب ہے

کہ جاڑوں میں روئی کا کپڑا نہیں پہنچتے۔ ایک اسٹیشن پر انگریزوں نے ہوٹل میں جا کر برف پیا تو ان کی بھی شامت آئی۔ برف پی کر آئے تو کاپنے لگے۔ غرض جو شخص اپنی وسعت سے زیادہ کام کرتا ہے، ہمیشہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ بعضوں کو وسعت نہیں مگر تجھے کے پیچھے مرے جاتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے ان سے کہا کہ میرے پاس کپڑے تو بہت ہیں مگر روئی کے ہیں شاید آپ کو ناپسند ہوں مگر انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہو گاروئی کا ہی کپڑے دے دیجئے۔

ایک اور حکایت یاد آئی۔ ایک صاحب گرمیوں کے موسم میں صراحی لے کر ریل میں سوار ہوئے۔ تو ایک جنگل میں نے کہا کہ یہ کیا بھنگیوں کے سے برتن لئے پھرتے ہیں۔ یہ چپ ہو رہے۔ اتفاق سے مہذب صاحب کو لگی پیاس۔ اسٹیشن پر پانی ملائیں تو اب بار بار صراحی کو دیکھتے ہیں۔ یہ صاحب قصد آنکھیں بند کر کے لیٹ رہے۔ جب دیر ہو گئی تو جنگل میں صاحب سویا ہوا سمجھ کر اٹھے اور صراحی سے پانی پی لیا۔ جب پانی پی چکے تو ان حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا کہ صاحب آپ نے بھنگی کے برتن سے کیوں پانی پیا؟ چپ ہو گیا معافی چاہئے لگا۔

یہ ذکر تھا نمائشی لباس کا جس میں اکثر عوام بتلا ہیں۔ علی ہذا دعوت کرتے ہیں۔ برادری کی اور اس میں حد سے زیادہ اسراف کرتے ہیں جس سے صرف نام و نمود ہی مقصود ہوتا ہے۔ اور اب علماء اس کو منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء مباحثات سے منع کرتے ہیں حالانکہ وہ مباحثات سے روکتے نہیں۔ جنہیں میں بے حد اسراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صلد رحمی ہے حالانکہ اگر صلد رحمی ہے تو چھپا کر کیوں نہ دے دیا۔ اگر صلد رحمی میں اعلان ضروری ہے تو روزانہ سب کو دھلا کر اپنے بچوں کو کیوں نہ کھلایا پہنایا کرو۔ یہ سب بہانے ہیں بلکہ یوں سننا چاہتے ہو کہ فلاں نے اپنے بیٹی کا جنیز بساط سے زیادہ دیا۔ حالانکہ یہ حماقت ہے اور بھویخ ہے مگر لوگوں کے مذاق کچھ ایسے بدلتے ہیں کہ مذمت کو بھی تعریف سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ برادری کا کھانا فقط اسی واسطے ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کیا کھلایا تھا۔

غمی میں دیکھتے کہ زبان سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ثواب کے لئے کھانا کھلاتے ہیں مگر امتحان یہ ہے کہ اگر اس شخص سے خلوت میں یہ کہا جائے کہ قاعدہ یہ ہے جس مصرف میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس میں روپیہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور جن کی تم دعوت کرتے ہوئے سب کھاتے پیتے غمی ہیں۔ تم یہ دعوت کا روپیہ فلاں مدرسے یا مسجد میں دے دو یا فلاں آبرودار غریب آدمی کو چکے

سے دے دوا اور اس کا ثواب میت کو بخش دو۔ تو اب دیکھئے کہ اس شخص کے دل پر کیا گزر تی ہے۔ کہہ گا کہ سبحان اللہ! رہ پیسے بھی خرج ہوا اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ تو بتلائیے کہ یہ صاف ریاء ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب دکھلوائے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب یہ حال ہے تو ثواب کہاں سے ہو گا۔ اور جب اس کو ثواب نہ ملا تو میت کو کیا بخشنے گا۔ کیونکہ ثواب پہنچانے کا خلاصہ تو یہ ہے کہ تم نے ایک نیک کام کیا اور جو ثواب تم کو اس کا ملتا وہ تم نے کسی دوسرے کو بخش دیا اور جب یہاں ہی صفر ہے تو وہاں کیا بخشو گے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ رام پور کے ایک شخص کسی جھوٹے پیر سے مرید ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ ہو پیر صاحب سے کیا فیض پہنچا۔ یہ تھے صاف آدمی کہا جب سقاوہ ہی میں نہ ہو تو بدھنے میں کہاں سے آؤے۔ تو یہی صورت ہے ثواب ملنے کی پہلے کرنے والے کو ملتا ہے پھر وہ دوسرے کو دیتا ہے تو جب اسی کو نہ ملا تو یہ کسی کو کیا دے گا۔ گویا سارا رہ پیسے ضائع گیا اور یہ تو سب دعوے ہی دعوے ہیں کہ ثواب کے لئے کھاتا کھلاتے ہیں۔ صرف برادری سے شرم اکر کیا جاتا ہے اور لوگ اس کا زبان سے اقرار بھی کر لیتے ہیں۔

کیرانہ میں ایک گوجری بنا رہا۔ اس کا لڑکا حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حکیم جی اس مرتبہ تو میرے باپ کو کسی طرح اچھا کر دو۔ مجھے اس بدھنے کے مرنے کا تو غم نہیں مگر آج کل چاول بہت گراں ہیں برادری کو کھانا کھلانا بہت مشکل ہو گا۔

وہ بے چارہ سیدھا تھا۔ اس نے کچی بات کہہ دی۔ ہم باوضع ہیں زبان سے ظاہر نہیں کرتے مگر دل میں سب کے بھی ہے۔ یہ تو کھلانے والوں کی حالت ہے باقی کھانے والے دہ تو پورے ہی بے حیا ہیں کہ ایسے غم میں جائے ہمدردی کے اثناس پر بارڈا لتے ہیں۔

اس باب میں ایک صاحب حکایت بیان کرتے تھے کہ ضلع بلند شہر میں ایک رئیس کا انتقال ہو گیا۔ چالیسویں دن رسم ادا کرنے کو ان کے تمام عزیز و اقارب دوست احباب ہاتھی گھوڑے لے کر جمع ہوئے رئیس زادے نے سب کی خاطر و مدارات کی اور عمدہ عمدہ کھانے پکوانے۔ جب کھانے کا وقت آیا اور تمام لوگ دستِ خوان پر جمع ہو گئے اور سب کے آگے کھانے چن دئے گئے، رئیس زادے نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ صاحبو کھانے سے پہلے میری ایک بات سن لیجئے پھر کھانا شروع کیجئے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ اس وقت کس لئے جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ مجھ پر ایک بڑا حادثہ گزرا ہے کہ میرے والد کا سایہ میرے سر پر سے اٹھ گیا ہے۔ اس لئے آپ لوگ میرے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمدردی اسی کا نام ہے کہ

میں تو غم میں بدلاؤں اور اس کی وجہ سے نہ کھانے کا رہانہ پینے کا اور آپ لوگ آستینیں چڑھا کر
عده عمدہ کھانے کھانے بیٹھ گئے۔ تم کو شرم نہیں آتی۔ بس اب کھانا شروع کیجئے۔

مگر اب کون کھاتا تمام شرما کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا
کہ واقعی یہ چالیسویں کی رسم اٹھادیئے کے قابل ہے۔ چنانچہ سب نے متفق ہو کر اس رائے پر
دستخط کر دیئے اور وہ تمام کھانا غرباؤں کو تقسیم کرایا گیا۔ حقیقت میں اگر غور کرو تو یہ سارے
کھانے جو برادری کو کھلانے جاتے ہیں اسی قسم کے ہیں جن سے کھلانے والے کو بجز تکلیف
کے اور کھانے والے کو بجز بے حیائی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب بھی لوگ مولویوں ہی کو
بدنام کرتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب سے منع کرتے ہیں۔ صاحبو۔۔۔ ایصال ثواب سے کوئی
منع نہیں کرتا البتہ بے ڈھنگے پن سے منع کیا جاتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی قبلہ کی طرف پشت کر کے
نمایز پڑھے تو اس کو منع کریں گے یا نہیں۔ اگر شریعت کے موافق عمل ہو تو پھر دیکھو کون منع کرتا
ہے۔ جس کی بڑی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ یعنی ثواب کی نیت سے کیا جائے۔

اہل باطن کا اخلاص

یہ سب اہل ظاہر کے اخلاص کا ذکر تھا اور اہل باطن کا اخلاص یہ ہے کہ اصلی غرض ذکر
وغیرہ سے محض رضاۓ حق ہو یعنی صرف یہ نیت ہو کہ اس سے خداراضی ہوگا۔ اس کے خلاف
جب کوئی نیت ہوگی گوہ امر دینیوی نہ ہو مثلاً ثمرات باطنہ وہ اخلاص کے خلاف ہوگی۔

حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں
فَإِذْ كُرُونَى أَذْكُرْتُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہماری تو نیت ذکر کرنے
سے یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے دربار میں ہمارا ذکر ہوگا۔ یہ وہ غرض ہے کہ شیطان اس میں کسی
قسم کا وسوسہ بھی نہیں ڈال سکتا کہ شاید حق تعالیٰ تم کو یاد نہ کریں۔ کیونکہ اس کا تو قرآن میں صریح
 وعدہ ہے۔ میں اسی تقریر کو دوسری طرح کہتا ہوں کہ ثمر و قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو موعود ہیں جیسے
تمہارے ذکر اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تم کو یاد فرماتا۔ اس کا طالب ہونا تو مذموم نہیں بلکہ مطلوب
ہے۔ دوسرے وہ جو موعود ہیں جیسے کیفیات و احوال اس کے طلب کرنے میں یہ کوتا ہی ہے کہ جو
موعود ہیں تو اس کا طالب کیوں ہے اور جب مطلوب نہیں تو مقصود کیوں بنایا جائے۔ حاصل یہ کہ
اور غرضوں کامل جانا یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ طالب کا نہ ہب تو یہ ہونا چاہئے۔

زندہ کنی عطاۓ تو وربکشی فدائے تو دل شدہ بدلائے تو ہرچہ کنی رضاۓ تو

(یعنی زندہ رکھیں آپ کی عنایت ہے۔ اگر قتل کریں آپ پر قربان ہیں۔ دل آپ پر فریفہ ہو گیا۔ جو کچھ ہمارے ساتھ تصرف کریں ہم راضی ہیں) اس کی تو یہ شان اور یہ کیفیت ہونی چاہئے جو حضرت سرمد فرماتے ہیں۔

سرمد گلہ اختصار می باید کرو یک کار ازیں دو کار می باید کرو یا تن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیارے می باید کرو (یعنی سرمد! گلہ شکوہ چھوڑنا چاہئے۔ دو کاموں میں سے ایک کام کرنا چاہئے یا تو اس کی رضا جوئی میں جان دے دو نہیں تو یار ہی کو چھوڑ دینا چاہئے۔ بے شک صاحب باطن کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔ تو بندگی چو گدا یاں بشرط مزد مکن کہ خواجہ و خود روشن بندہ پروری داند (تم بندگی مزدوروں کی طرح بشرط اجرت مت کرو۔ اس لئے کہ آقا بندہ پروری کی روشن کو خود جانتے ہیں۔ یعنی کیفیات و احوال کے لئے طاعت مت کرو خدا کی رضا جوئی کے لئے کرو) غرض کیفیات و احوال سب خدا کے قبضہ میں ہیں۔ تم اپنا کام کئے جاؤ اور غیر اختیاری امور کی فکر میں مت پڑو اور اس وقت ان باتوں کا یعنی اخلاق کے متعلق جزئیات کا استیعاب (احاطہ) مقصود نہیں۔ صرف نمونہ کے طور پر چند باتیں بیان کر دی ہیں اور یہ بھی بتلا دیا کہ ان کا علاج یہ ہے۔ بہر حال اخلاق کی حقیقت تو سمجھ میں آگئی کہ کوئی غرض نفسانی اپنی نہ ہو۔ صرف رضاۓ حق مطلوب ہو۔

خلوص کے طریقے

اب اسکے حاصل کرنے کا طریقہ اور علاج سمجھئے وہ یہ کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں۔ اگر کوئی نیت فاسد ہو تو اس کو قلب سے نکال ڈالنے اور نیت خالص خدا کے لئے کرنی چاہئے۔ اس علاج کی آسانی کیلئے بہتر یہ ہے کہ مخلصین کی حکایات دیکھا کریں۔ اس سے بہت اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت بیان فرمائی ہے۔

او خدو انداخت بروئے علیؑ افتخار ہر نبی و ہر ولی (اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر جن پرانبیاء و اولیاء کو افتخار ہے تھوک دیا) اور افتخار ہر نبی سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی سے بڑھ کر ہیں کیونکہ فخر ہمیشہ بڑے ہی سے نہیں ہوا کرتا۔ بھی بڑے چھوٹوں سے بھی فخر کیا کرتے ہیں جیسا کہ استاذ فخر کرتے ہیں اپنے لاٹ شاگروں پر۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک یہودی کو لڑائی میں زیر کر دیا اور سینہ پر بیٹھ کر قصد کیا کہ فخر سے ذبح کر دیں۔ یہودی نے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ آپ نے فوراً چھوڑ دیا۔ یہودی

نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے چھوڑ کیوں دیا۔ اب تو میں اور زیادہ قابل قتل تھا۔ فرمایا میں پہلے خالص اللہ قتل کرتا اور اب نفس کی بھی آمیزش ہو جاتی اس لئے میں نے چھوڑ دیا۔ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا۔ حقیقت میں یہ ہے اخلاص اگر اسی حکایت کو یاد رکھیں تو کافی ہے۔

دوسرا مل اخلاص کی صحبت اختیار کر جئے۔ ان کے اقوال و افعال پر نظر کر جئے تو آنکھیں کھل جاویں گی۔ مجھے دو حکایتیں یاد آ گئیں ایک بلگرام کی وہاں ایک بزرگ تھے۔ ان سے ایک شخص کچھ پڑھتے تھے۔ ایک دن جو پڑھنے آئے تو دیکھا کہ استاد کچھ مضمضھل ہو رہے ہیں اس روزان کے گھر میں فاقہ تھا۔ یہ شخص بالدب تھے استاد پر فاقہ کا اثر دیکھ کر پڑھنے سے عذر کر دیا اور اپنے گھر جا کر کچھ کھانا ان کے لئے لائے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ کھانا ایسے وقت آیا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے مگر مجھے اس کے لینے سے معاف کرو۔ کیونکہ اس وقت اس کا قبول کرنا حدیث کے خلاف ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔

هاتاک من غير اشراف نفس فخذہ

یعنی جو چیز تمہارے پاس بلا انتظار نفس آجائے اس کو لے لو۔

توجہ تم میرے پاس سے گئے ہواں وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا تھا کہ تم کچھ لاوے گے۔ یہ آدمی سلیقہ مند تھے کچھ بھی اصرار نہیں کیا اور کھانا لے کر انہوں کھڑے ہوئے۔ جب ان کی نگاہ سے دور ہو گئے تو پھر لوٹے اور آ کر عرض کیا کہ اب تو یہ کھانا لینا آپ کو حدیث کے خلاف نہ ہو گا کیونکہ جب میں لے کر چلا ہوں اس وقت تو آپ کو مایوس ہو چکی تھی۔ وہ بزرگ بہت خوش ہونے اور دعا میں دیں۔

ہم اگر ہوتے تو کہتے ابھی حضرت خدا کے لئے لو۔ آج کل یہ بات بھی عدمہ خصلتوں میں شمار ہوتی ہے کہ بزرگوں پر ہدیہ قبول کرنے میں زور دالا جائے اور خوب اصرار کیا جائے یہ بالکل نامناسب ہے۔ یہ عادت محمود نہیں۔ خدمت کے پچاس طریقے ہیں۔ ہدیہ دینے ہی میں خدمت منحصر نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان بزرگ کی کیسی خالص نیت تھی۔ اتنی آمیزش بھی نہ ہونے دی اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات جو بزرگ لوگ کسی کا ہدیہ نہیں لیتے اس کی کبھی یہ وجہ بھی ہوتی ہے اس لئے ہدیہ دینے والے کو یہ سمجھ کرنا خوش نہ ہونا چاہئے کہ میرے ہدیہ کو حقیر سمجھا۔

دوسری حکایت حضرت حامی صنم کی ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک روپیہ لایا۔ آپ نے پہلے تو انکار کر دیا اور نہ لیا مگر جب اس نے اصرار کیا تو لے لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ کو لینا حرام تھا تو پھر کیوں لیا اور حلال تھا تو پہلے انکار کیوں کیا۔ فرمایا فتویٰ کے موافق تھا اور فتویٰ کے خلاف

پہلے میں نے انکار کیا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ نہ لینے میں اس کی ذلت ہے اور میری عزت اور لینے میں اس کی عزت ہے میری ذلت تو میں نے اپنے بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دی اور لے لیا۔ حضرات۔۔۔ اگر بزرگان دین کبھی لیتے ہیں تو اس میں ان کی یہ نیت ہوتی ہے نہ ان کے لینے پر اعتراض کرو نہ انکار پر۔ مگر بشرطیکہ بزرگ ہوں۔ ورنہ

اینکہ می بینی خلاف آدم اند نیستند آدم خلاف آدم اند (یعنی جن لوگوں میں آدمیت کے خلاف باقی دیکھتے ہو واقع میں آدمی نہیں بلکہ صورت میں آدمیوں کے مشابہ ہیں) بہت سے آدمی کے مشابہ ہوتے ہیں مگر واقع میں آدمی نہیں ہوتے در پردہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بزرگ ہو یعنی قبیع سنت ہو ظالبوں پر شفیق ہو، منکرات سے بچتا ہو اس کی صحبت سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہو اس کے سب افعال خلوص پرمنی ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ چند حکایتیں بیان کر دی ہیں۔ ان کو یاد رکھئے اور اگر ایسے لوگوں کی صحبت میسر ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھ کر حاصل کیجئے۔ اس وقت دیکھئے گا کہ آپ کو خود ایسے امور کی تمیز ہو جائے گی۔

بہر حال میں نے اخلاص کی ماہیت بھی بتلا دی اور طریقہ بھی بتلا دیا اور علاج بھی بتلا دیا۔ اب آگے کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ توفیق عمل عطا فرماؤ۔ آمین۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه

سیدنا محمد و على آلہ و اصحابہ اجمعین۔

تَفْصِيلُ الدِّينُ

جس طرح ہر قوت محدود ہے اسی طرح انسان کی عقل بھی محدود ہے۔ عقل سے اس وقت تک کام لو جب تک وہ کام دے سکے اور جہاں اس کا کام نہیں وہاں اس کو چھوڑ دو اور حکم کا اتباع کرو۔ شریعت کے معاملہ میں اصول تک تو عقل کام دیتی ہے اور فروع میں یہ تنہابی کار ہے آگے وحی سے کام لو رہنے یا درکھو عمر بھرستہ نہ ملے گا کیونکہ سمعیات میں عقل کا کام نہیں وہاں تو اتباع رسول کی ضرورت ہے۔

ایمان و عمل کے متعلق یہ وعظ ۲۳ محرم ۱۳۳۱ھ کو جامع مسجد غازی پور میں اہل شهر کی درخواست پر ہوا۔ ۲۰ گھنٹے میں ختم ہوا اور مولا نا سعید احمد صاحب تھانوی نے قلمبند کیا اور مولا ناظر احمد صاحب نے تسویہ و تفصیل کی۔

خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَلٰهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

آمَّا بَعْدُ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وَدًا (مریم آیت نمبر ۹۶)

باشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔ اللہ تعالیٰ ان کیلئے محبت پیدا کرو یا گا۔

تمہیں

صاحب۔ یہ وہی آیت ہے جس کے متعلق کل ایک ضروری بیان کیا گیا تھا۔ چونکہ وہ دو اجزاء سے مرکب تھا اور کل ایک ہی جزو کا تفصیل ادا کر رہا تھا اور دوسرا جزو تفصیل سے رہ گیا تھا۔ گوئیجا اسکا ذکر بھی ہو چکا تھا۔ اور وہ اجمال گوشانی نہ تھا مگر کافی ضرور تھا۔ حتیٰ کہ اگر آج کا بیان نہ بھی ہوتا بھی کچھ ضرر نہ تھا۔ کیونکہ ایک جزو کی تو تفصیل بھی ہو چکی تھی اور دوسرے جزو کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا تھا۔ جس کے پیش نظر رکھنے کے بعد تفصیل کا نہ ہونا مضر نہ تھا مگر جب تفصیل کا موقع مل گیا تو میں نے چاہا کہ اس کی بھی کسی قدر تفصیل کر دی جائے۔

کسی قدر کی قید اس لئے بڑھا دی کہ تفصیل علی قدر اتم کے لئے ایک جلسہ کافی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ بر س تک اس کی تفصیل فرمائی پھر بھی اس کے لئے توضیح کی ضرورت ہوئی۔ اور اس کے لئے حق تعالیٰ نے حضور کے بعد ہر زمانہ میں حاملان دین کو پیدا فرمایا جو

برابر اکر کی توضیح کرتے رہے۔ حتیٰ کہ خیر القرون کے ختم تک (یعنی قرن ثالث پر جو تنقیح تابعین کا زمانہ ہے اور جملہ آئمہ مجتہدین اسی زمانہ میں ہوئے ہیں) وہ توضیح بھی علی وجہ الکمال ہو گئی (تو جس مضمون کی تفصیل اتنے عرصہ دراز میں ہوئی ہواں کو علی قدراً تم ایک جلسہ میں کیونکر بیان کیا جاسکتا ہے۔ اب سمجھئے کہ اس مضمون کی تفصیل و توضیح تو خیر القرون کے ختم تک پوری ہو گئی)

درجہ تفریغ و تجدید

لیکن اب دو مرتبے باقی رہ گئے۔ ایک تفریغ کہ قیامت تک انہی اصول پر حادث جزئیہ کے احکام کی تفریغ کرتے رہنا۔ یہ کام علم و فہم کا ہے۔

اگرچہ حق تعالیٰ نے اجتہاد مطلق کو ختم کر دیا ہے۔ نہ اس وجہ سے کہ خداوند کریم کی رحمت (معاذ اللہ) ختم ہو گئی بلکہ اس لئے کہ خداوند تعالیٰ کا قاعدہ اور ان کی عادت مسترد یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی اس وقت اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عادت کے موافق چونکہ حضرات مجتہدین کے بعد اجتہاد کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اس لئے اس کو ختم کر دیا البتہ تفریغ کی ضرورت قیامت تک رہے گی۔ اس لئے اتنا اجتہاد اور اتنا فہم قیامت تک کے لئے باقی ہے جس سے مجتہدین کے اصول پر علماء جزئیات کو متفرع کرتے رہیں۔ چنانچہ ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو نئے نئے جزئیات میں حکم شرعی بتلاتے رہتے ہیں اور مجتہدین کے اصول ہی پر جزئیات حادثہ کو متفرع کرتے رہتے ہیں۔

دوسرے اس کی ضرورت بھی باقی ہے کہ ہر زمانہ میں حق کو باطل سے ممتاز کر دیا جائے کیونکہ زمانہ نبوت سے بعد ہو جانے کی وجہ سے بعض دفعہ حق و باطل مختلط ہو جاتا ہے خواہ عوام کی بے تمیزی سے یا اہل غرض علماء کی وجہ سے۔ تو ایسے وقت میں حق تعالیٰ کسی ایسے مقبول بندے کو پیدا فرماتے ہیں جو حق کو باطل سے ممتاز کر کے صراط مستقیم کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ درجہ تجدید ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں پیشین گوئی ہے۔

ان الله يبعث في امتى على رأس كل مائة من يجدد لها دينه (کنز العمال: ۳۳۸۲۳، مکملۃ المصانع: ۲۷۴)

کہ حق تعالیٰ میری امت میں ہر سو برس کے بعد ایک ایسے شخص کو مبعوث فرماتے ہیں جو دین کی تجدید کر دیتا ہے۔

یعنی حق کو باطل سے ممتاز کروتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر صدی پر کوئی نہ کوئی مجدد ضرور ہوا ہے تو یہ وو درجے اب بھی باقی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ایک تفریج ایک تجدید ہے۔ اور یہ دنون خدستیں الگ الگ ہیں اور اگر کوئی اللہ کا بنہ دنون کا جامع قلت و من الجمیع نہ لہما سیدی حکیم الامۃ مجدد الاملۃ امام اللہ فیوضہم و برکاتہم سالۃ العارف باللہ سیدی مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ الحام الخاص سیدی قطب زمان اشیخ مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ عن مجددہ بہاد رحمۃ اللہ علیہ الحاضرة فقال كنت انہ اولاً ائمۃ شیخی مولانا رشید احمد قدس سرہ ثم راحۃ قد انتقل الی ریہ علی رأس الماء و الا ان مجددہ الاملۃ عندی خالک مولانا اشرف علی ادام اللہ فیوضہ قلت وقد اذعن بہذا اہم تو یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔

درجہ توضیح و تفصیل

توا ب تو ضیح و تفصیل کا درجہ ہے اس کا ابہام کے ساتھ بیان ہو سکتا ہے مگر یہ بیکار ہے کیونکہ جس تفصیل کو کوئی نہ سمجھے وہ فضول ہے اور پوری طرح بیان کیا جائے تو بتائیے اس کے لئے ایک جلسہ کیسے کافی ہو سکتا ہے۔ اس لئے میں نے کسی قدر کی قید لگائی یعنی یہ تفصیل اضافی ہو گی جو تفصیل اتم کے مقابلہ میں توا جمال ہے اور اجمال سابق کے مقابلہ میں تفصیل ہے تو یہ درجہ تفصیل اضافی کا باقی رہ گیا تھا اس کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اور اسی لئے اسی آیت کو اختیار کیا گیا جس کو کل بیان کیا گیا تھا باقی یہ جو میں نے کہا ہے کہ کل جزو ثانی کو بھی اجمالاً بیان کر چکا ہوں تو شاید کسی کے ذہن میں وہ اجمال نہ رہا ہو۔ اس لئے میں اس کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ میں نے اخیر مضمون میں کہا تھا کہ حق تعالیٰ نے ود (او محبو بیت) کا مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا ہے۔ اس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس کا طریقہ علوم دین ہیں جو دو طرح سے حاصل ہو سکتے ہیں یا تعلیم و تعلم سے یا علماء کی مخالفت اور ان کے اقوال و مواعظ سننے سے۔ پس کل گواں مضمون کی تفصیل نہ کی گئی مگر وہ طریقہ بتلا دیا گیا تھا جس سے عمر بھر تفصیل ہو سکتی تھی۔ تو وہ بیان بھی مکمل تھا۔ اس میں ابہام نہ تھا کیونکہ ابہام کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کلام مفہوم مراد نہ ہو۔ اور یہ اجمالی بیان غیر مفہوم نہ تھا بلکہ کافی تھا۔ اگر آج کا بیان نہ ہوتا تب بھی کوئی جزو سمجھنے سے باقی نہ رہا تھا البتہ ایک جزو کی تفصیل پہلے جزو کے برابر نہ ہوئی تھی تو اس کے بیان کے لئے خدا تعالیٰ نے اس وقت موقع دے دیا ہے، تو اس وقت میں اس کی بھی تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حاصل ہے آج کے بیان کا تو توضیح اس کی یہ ہے کہ ہر مقصود میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نفس مقصود اور ایک اس کا ذریعہ۔

اب سمجھو کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان عمل صالح پر ود کا مدار کھا ہے۔ اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک مقصود جس کا بیان۔

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا۔

میں ہے اور ایک طریق یعنی ایمان عمل صالح جس کا بیان۔

الَّذِينَ افْتَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔ میں ہے تو کل کے بیان کا حاصل مقصود کی تفصیل تھی اور آج طرق کی تفصیل ہے اور مقصود بہت مختصر ہے اور اس کی تفصیل بھی کچھ طویل نہیں ہے یعنی محبوبیت اس کی بہت سی اقسام بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ پس یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے محبوب بن جاویں گے اور اس کے فروع میں سے یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ شخص خلق کا بھی محبوب ہو جاوے گا تو یہ مضمون زیادہ تفصیل کا محتاج نہ تھا مگر اس کی تفصیل اس لئے بیان کی گئی تھی کہ آج کل لوگ ثمرات آخرت کو بہت ہی بے وقت سمجھتے ہیں۔

دین کی بے قدری

بس ان کے نزدیک بڑا شرہ یہ ہے کہ کچھ روپیہ میل جائے چنانچہ ایک عہدہ دار کی یہوی نماز پڑھتی تھی تو اس سے وہ پوچھا کرتے تھے تجھ کو نماز پڑھ کر کیا ملا۔

اسی طرح سودا کی حکایت ہے کہ وہ اپنی یہوی سے ایک دن پوچھنے لگا کہ تو نماز کس واسطے پڑھا کرتی ہے۔ اس نے کہا ہمیں جنت ملے گی۔ تو سودا کیا کہتا ہے کہ جا با ولی تو وہاں بھی غریبوں، ملannoں طالب علموں اور جولاہوں کے ساتھ رہے گی۔ اور دیکھو ہم جہنم میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء اور امراء ہوں گے۔ فرعون، ہامان، نمرود، شداد، قارون وغیرہ۔ یہ تو سودا کا قصہ ہے مگر آج کل بھی قلوب کو ٹوٹا جائے تو معلوم ہو گا کہ جتنی وقت لوگوں کے قلوب میں ایک ہزار روپیہ کی ہے اس سے نصف بھی دین کی وقت نہیں ہے نہ ثمرات آخرت کی۔ حالانکہ ان کی وہ قیمت ہے کہ۔

قیمت خود ہر دو عالم گفتہ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز تو نے اپنی قیمت دونوں جہاں بیان کی، نرخ بڑھا بھی تو ارزازاں ہے۔

دونوں جہاں بھی بخدا اس کی قیمت میں کم ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ قرآن کو تراویح میں اجرت لے کر ساتھے ہیں اس میں علاوہ فقہی گناہ کے بے غیرتی بھی

کس قدر ہے کہ قرآن کو جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے اوفی سی اجرت کے معاوضہ میں ناتے پھریں۔ اور یہ ساری بے قدری اس لئے ہے کہ قرآن ستامل گیا ہے اس دولت کے حصول میں ہم کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ اسی کو مولا نافرماتے ہیں۔

اے گرال جاں خوار دیدستی مرا زانکہ بس ارزاس خریدستی مرا
اے کابل تو نے مجھ کو بے قدر سمجھ رکھا ہے وجہ یہ ہے کہ میں تم کو مفت میں مل گیا ہوں۔
یعنی قرآن زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس واسطے بے قدر کر رکھا ہے کہ میرے حاصل کرنے میں تمہارے کچھ دام نہیں لگے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی فقیر کو فقر و فاقہ کی شکایت کرتے ہوئے دیکھتے تو فرمایا کرتے کہ تم اس کی قدر کیا جانو تم کو گھر بیٹھے یہ دولت مل گئی ہے۔ اس کی قدر ابراہیم بن ادہم سے پوچھ جس نے سلطنت پیچ کر اس کو خریدا ہے۔

اسی طرح ہم نے ایمان کی دولت کو ماں باپ سے لیا ہے۔ بے محنت و مشقت ہم کو مل گئی ہے اس لئے اس کی بے قدری ہے ورنہ خدا کا نام وہ چیز ہے جس کے مقابلہ میں تمام دنیا یچ ہے کیونکہ جنت کی سلطنت اسی کے عوض میں ملے گی۔ جس کے سامنے دنیا کی ہزار سلطنتیں بھی گرو ہیں۔ مگر افسوس آج کل دوپیسہ کے برابر بھی خدا کے نام کی قدر نہیں چنانچہ وہ عہدہ دار اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ تجھ کو نماز سے کیا ملا۔ وہ تو ملنا اس کو سمجھتے تھے جیسے ایک شخص کو ملا کرتا تھا۔

قصہ یہ ہے کہ ایک عہدہ دار رشوت لیا کرتے تھے اور نماز کے بھی بہت پابند تھے حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک وظیفہ بھی پڑھا کرتے تھے اور یہی وقت مقدمہ والوں سے رشوت طے کرنے کا تھا۔ مقدمہ والے آتے اور اشاروں سے رشوت کی رقم طے ہوتی تھی کیونکہ پیر نے وظیفہ میں بولنے سے منع کر رکھا تھا۔ بس وہ اشاروں سے سوکھتا اور یہ دو انگلیاں اٹھادیتے کہ دوسروں گا۔ پھر اشاروں ہی سے کوئی رقم طے ہو جاتی تو یہ مصلی کا کونہ پکڑ کر اٹھادیتے کہ یہاں روپیہ رکھ دو۔ پھر کوئی دوسرا آتا اور اس سے بھی یوں ہی گفتگو ہوتی۔ غرض یہ ظالم اشراق پڑھ کر کئی سور و پیسے لے کر اٹھتا۔ تو آج کل تو ملنا اسے کہتے ہیں اور اسی واسطے وظیفہ بھی پڑھے جاتے ہیں۔ پھر غصب ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھنے میں تو بول پڑتے ہیں اور وظیفے میں نہیں بولتے گویا نعوذ باللہ قرآن کی وقعت وظیفوں کے بھی برابر نہیں۔ یہ کیسی بے قدری ہے۔

اسی جہل کا ایک یہ اثر ہے کہ حدیث و قرآن کی دعاؤں کا لوگوں کے ذہن میں وہ درجہ نہیں جو پیرزادوں کی گھڑی ہوئی دعاؤں کا درجہ ہے چنانچہ جب میں حج کو گیا تھا تو اس وقت میرے ابتدائی کتابوں کے استاد کانپور میں میری جگہ مدرس کے لئے تشریف لے آئے تھے وہاں ان سے ایک شخص نے اپنے قرض کے لئے وظیفہ پوچھا۔ انہوں نے ایک دعا بتلا دی۔ اس نے بڑی رغبت سے یاد کی اور انہوں نے زیادہ رغبت دلانے کے لئے یہ بھی فرمادیا کہ یہ دعا حدیث میں آئی ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ بس یہ سن کر اس شخص کامنہ پھیکا سا ہو گیا اور کہنے لگے حضرت میں تو کوئی ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو آپ کے پاس سینہ بسینہ چلا آ رہا ہو حدیث کی دعا تو عام ہے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سو لوگ آج کل ایسی ہی بے قدری کرتے ہیں۔

ایک شخص مجھ سے خود کہتے تھے کہ میری نماز تو قضا ہو جاتی ہے مگر پیر نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ بھی قضا نہیں ہوتا۔ عجیب حالت ہے کہ اول تو دین کی طرف توجہ ہی نہیں اور جو توجہ بھی ہے تو اس خوبصورتی کیسا تھا۔ اسی طرح ان عہدہ دار صاحب کو پیر نے منع کر دیا تھا کہ وظیفہ میں بولنا نہیں اس لئے ان کو بولنا تو ناجائز تھا مگر رشوت لینا جائز تھا۔ بلکہ شاید وظیفہ بھی وہ اسی واسطے پڑھتے ہوں کہ رشوت خوب ملے اور رشوت کے لئے بھی نہ کہی تو اس میں تو شک نہیں کہ آج کل وظائف زیادہ تر دنیا کے واسطے پڑھتے جاتے ہیں کہ مال میں برکت ہو۔ تو کریم مل جائے قرض اتر جائے رضاۓ حق کے واسطے بہت بھی کم پڑھتے جاتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ دنیا کے کاموں کے لئے وظیفہ پڑھنا ناجائز ہے مگر یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا کے لئے اگر چاہیں بار پڑھتے ہو تو آخرت کے لئے کم سے کم چار بار تو کوئی وظیفہ پڑھو مگر اس کی ذرا بھی فکر نہیں۔

دعا اور وظیفہ کا فرق

جب آپ کو دین کی فہم کامل حاصل ہو گی اس وقت میں یہ کہوں گا کہ
 از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونی ست کلی کاست
 خدا تعالیٰ سے غیر خدا کو چاہنا حقیقت میں پستی ہے۔ یہ سلطنت نہیں ہے کہ خدا سے دنیا
 مانگو بلکہ یہ پست ہمتی اور دناءت ہے مگر اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو دنیا کے واسطے خدا تعالیٰ
 سے دعا کرنا اور دعا کے ذریعے سے مانگنا یہ مذموم نہیں ہے بلکہ یہ تو شان عبدیت ہے اور ایک
 وظیفہ پڑھ کر مانگنا یہ مذموم ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ دعا کر کے مانگنے میں

ایک ذلت کی شان ہے اور یہ اس مقصود کے موافق ہے جو بندوں کے پیدا کرنے سے اصل مقصود ہے جس کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جن و انس کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے (اسی لئے حدیث میں ہے الدعا مخ العبادة کہ دعا عبادت کا مغز ہے) اور میں نے عبادت کو جو اصل مقصود کہا ہے اس میں اصل کی قید اس واسطے لگائی کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ کھانا کمانا اور دنیا کے کار و بار کرنا تاجائز ہے۔ سو خوب سمجھو لو کہ یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے بلکہ ایک درجہ میں مطلوب بھی ہے مگر اصل مقصود نہیں بلکہ تابع مقصود ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص کھانا پکوانے جس میں پانچ روپے صرف ہوں تو گواصل مقصود کی لاگت اس سے کم ہے مگر جب کوئی پوچھتا ہے کہ اس کھانے کی تیاری میں کیا خرچ ہوا ہے تو جواب یہی دیا جاتا ہے کہ پانچ روپے صرف ہوئے ہیں اور جب وہ تفصیل پوچھتے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک روپیہ کا گھنی اور ایک روپیہ کا آٹا اور ایک روپیہ کا گوشت اور آٹھ آنے کا مصالحہ وغیرہ اور آٹھ آنے کی لکڑیاں کو ملنے اور چار آنے پکانے والے کی مزدوری وعلیٰ ہذا۔ اس جواب کو نکون کرو وہ سائل کہنے لگے کہ کیا آپ لکڑیاں اور کو ملنے بھی کھایا کرتے ہیں جو اس کو کھانے کے حساب میں شمار کیا تو بتالیے کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ یقیناً یہی کہیں گے کہ لکڑیاں گو مقصود نہیں مگر مقصود کے تابع ضرور ہیں۔ اس لئے ان کو بھی مقصود کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ تو یعنیہ یہی تعلق دنیا کو آختر سے ہے کہ گووہ بھی کسی درجہ میں مطلوب ہے مگر اصل مقصود نہیں بلکہ تابع مقصود ہے۔

اب اگر کوئی شخص صرف دنیا ہی کے جمع کرنے میں لگا رہے۔ اس کو ایسا سمجھا جاوے گا جیسے کوئی کھانا تو تیار کرنے نہیں نہ کھانے کی چیزیں خریدے صرف لکڑیاں گھر میں بھر لے تو بتالیے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں لکڑیاں ہی بھر لے تو اس کو کوئی شخص عاقل کہے گا۔ ہرگز نہیں اسی طرح محض دنیا ہلی میں رہنا بھی عاقل کا کام نہیں اور اگر کوئی کھانے کا سارا سامان کر لے مگر ابتدھن نہ خریدے تو اس کو بھی کھانا میسر نہیں ہو سکتا اسی طرح محض دین میں لگرہنا اور باوجود حاجت دنیا کی مطلق فکر نہ کرنا بھی غیر مطلوب ہے بلکہ اصل مقصود دین کو سمجھے اور اس میں زیادہ مشغول ہو اور کچھ فکر دنیا کی بھی رکھے مگر اس میں منہک نہ ہو بلکہ اتنا سامان کر لینا چاہئے کہ مثلاً ایک سال کے لئے علی اختلاف الاحوال کافی ہو جائے کیونکہ الضرورة بقدر الضرورة اور رفع ضرورت کے لئے اتنا سامان کافی ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ مولوی دنیا چھڑاتے ہیں یہ غلط ہے چھڑاتے کہاں ہیں بلکہ وہ تو دنیا کو دین کا ذریعہ بتاتے ہیں اتنا فرق ہے کہ آپ اسی کو مقصود سمجھتے ہیں اور میں اس کو بقدر ضرورت ضروری کہتا ہوں پس دنیا تابع ہے اور اصل مقصود آخرت ہے اس لئے میں نے اصل کا لفظ پڑھا دیا ہے کہ خلقت عالم سے اصل مقصود عبادت ہے۔ اب سمجھتے کہ دعا میں ایک خاص ہے جس کی وجہ سے دعا کر کے دنیا مانگنا جائز ہے اور وظیفہ میں وہ بات نہیں اس لئے مذموم ہے دعا کی حقیقت وہ ہے جو عبادت کی روح ہے یعنی تبلیل و اظہار احتیاج اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی سادہ طبیعت آدمی کسی بادشاہ یا امیر کو دعا کرتے دیکھے اور دعا کے وقت جو عاجزی کے الفاظ وہ کہہ رہا ہے وہ نے تو اس کو حیرت ہو جائے گی کہ اللہ یہ شخص بھی انتہاج ہے جو اس عاجزی سے اپنی احتیاج کو ظاہر کر رہا ہے۔

اکبر بادشاہ کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ شکار میں وہ کسی طرف رستہ بھول کر جا تکلا۔ وہاں ایک دیہاتی زمیندار تھا اس نے بادشاہ کو پہچانا تو نہیں مگر اپنی کریم انسانیت سے اس کی خوب خاطر مدارات کی اکبر بہت خوش ہوا تھوڑی دیر بعد میں لشکر بھی آ ملا۔ تب دیہاتی کو معلوم ہوا کہ یہ تو بادشاہ تھا اکبر نے چلتے وقت کچھ دیا بھی اور کہہ دیا کہ جب یہ ختم ہو جاوے ہمارے پاس پھر آ جانا اور دربانوں سے کہہ دیا کہ یہ جب آوے روکنا نہیں۔

چنانچہ ایک بار وہ آپنچا اور اس کو محل میں پہنچا دیا گیا اتفاق سے اکبر اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس دیہاتی کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بادشاہ ہو کر کسی کے سامنے جھک رہا ہے جب اکبر نماز سے فارغ ہوا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے تو دیہاتی کو اور بھی حیرت ہوئی کہ یہ کس سے مانگ رہا ہے آخر جب وہ دعا سے فارغ ہو کر اس کی اُرف متوجہ ہوئے تو دیہاتی نے پوچھا کہ تم کس کے سامنے جھکتے اور کس سے ہاتھ پھیلایا کر مانگ رہے تھے اکبر نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا اور اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہا تھا۔ یہ سن کر دیہاتی پر ایک حالت طاری ہوئی اور کہنے لگا کہ جب خدا تمہاری حاجت پوری کر سکتا ہے تو کیا میری حاجت پوری نہ کرے گا اس میں اب تم سے کچھ نہیں مانگتا میں بھی خدا سے مانگوں گا۔

تو صاحبو! دعا کا یہ رنگ ہے جس سے سراسرا احتیاج اور عاجزی پیشی ہے اور وظیفہ میں یہ بات نہیں (بلکہ اکثر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ کے زور سے ہمارا مقصود ضرور حاصل ہو گا تو اس حالت میں بجز احتیاج کہاں پس دنیا کے واسطے وظیفہ پڑھنا اور دنیا کے لئے دعا کرنا برآ نہیں)

دعا کا طریق

اس لئے کہ اگر کوئی دنیا کے واسطے دعاء نگے اور یوں کہے کہ اے خدا مجھے سور و پے دے دتھے تو یہ جائز ہے بلکہ اس میں بھی وہی ثواب ہے جو آخرت کے لئے دعا کرنے میں ہے بشرطیکہ دعا ناجائز کام کے لئے نہ ہو کیونکہ دنیا کے لئے ہر دعا جائز نہیں بلکہ جو شریعت کے موافق ہو وہی جائز ہے مثلاً کوئی شخص ناجائز ملازمت کے لئے دعاء نگے تو یہ جائز نہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے حاکم کے یہاں ایک تتحصیلداری کی درخواست دینا اور ایک ڈکیتی کی درخواست دینا ظاہر ہے کہ جس کام کو حاکم نے منوع قرار دیا ہے اس کی درخواست حاکم سے کرنا اور حاکم کو اس کے حصول کا ذریعہ بنانا بھی منوع ہو گا تو جو دعا حاد و شرعیہ سے باہر ہو وہ تو پسندیدہ ہے، ہی نہیں پھر اس کو پیش کرنا کیونکہ جائز ہو سکتا ہے آج کل لوگ اس کی بھی رعایت نہیں کرتے کہ دعا شریعت کے موافق ہو۔

واقعی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی غفلت میں ہیں جس کی وجہ زیادہ تر بے علمی ہے لوگ بعض وفعہ خدا تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہیں چنانچہ اس وقت بہت سی ایسی نوکریاں ہیں جو ناجائز ہیں اور ان کے لئے دعا کرائی جاتی ہے اور اگر وہ مل جائے تو مبارک باد دی جاتی ہے۔ افسوس! کس کس بات کی اصلاح کی جائے۔

تن ہمہ داغ شد پنہ کجا کجا نہم

تمام بدن داغ ہو گیا پھوئے کہاں کہاں رہیں؟

اور غضب یہ ہے کہ ایسی ناجائز ملائمتوں کے لئے اہل اللہ سے جا کر دعا کرائی جاتی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مردوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے گویا سارا اختیار ان کے ہاتھوں میں ہے۔

حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا یہ کام کر دیجئے شاہ صاحب نے فوراً حکم دیا کہ نکالو اس مشرک کو کہ یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میرا کام کر دیجئے ارے کیا تیرا کام کر دینا میرے اختیار میں ہے۔ لبکہ آج کل لوگ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تسبیح چلانے والے خدا تعالیٰ کے رشتہ دار ہو گئے کہ جو کہہ دیں گے ضرور ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یا هلَّ الْكِتَابِ لَا تَغْلُبُ اِفْنِيْ دِينُکُمْ۔ اے اہل کتاب دین میں غلوت کرو۔ اس میں غلوتی الدین سے منع فرمایا گیا ہے لیکن گو حضرات للہیاء کی تعظیم ضروری ہے لعدین میں داخل ہے

مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کی ایسی تعظیم کی جائے کہ خدا تعالیٰ کی توہین ہونے لگے تو ترک لازم آجائے۔ دیکھو اگر کوئی حاکم کے پاس جا کر سر رشتہ دار کو بھی سلام کر لے تو اس کا مضاف اقتہ نہیں لیکن اگر اس سے وہ باتیں کہنے لگے جو حاکم سے کہنا چاہیں مثلاً یوں کہے کہ سر رشتہ دار صاحب بس سارا معاملہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور اس کی ایسی ہی تعظیم کرنے لگے جیسے حاکم کی کی جاتی ہے تو کیا حاکم اس سے خوش ہو گا۔ یقیناً حاکم اس شخص کو دربار سے نکال دے گا اور یقیناً سر رشتہ دار بھی ایسی تعظیم گوارانیں کر سکتا اور جو گوارا کرے گا تو وہ بھی دربار سے نکلا جائے گا۔

اب بتاؤ کہ جو معاملہ خدا تعالیٰ سے کیا جاتا ہے وہ غیر خدا کے ساتھ کیوں کر پسند ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس سے حق تعالیٰ ناخوش ہوتے ہی ہیں وہ بزرگ بھی ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں جن کی ایسی تعظیم کی جاتی ہے پھر حیرت ہے کہ لوگ بزرگوں کے مزارات پر جا کر ایسے بیہودہ کلمات سے ان کا دل و کھاتے ہیں غرض ناجائز ملازمتوں کے لئے زندوں اور مردوں کو جا کر دُق کرتے ہیں پھر زندوں میں بعض تو صاف ہوتے ہیں جو ان کے منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ناجائز کام کے لئے دعا نہیں کریں گے۔ ان کو تو بد مزاج اور سخت کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے اور اکثر اپنے اخلاق سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں دعا کریں گے یہ بہت خوش اخلاق شمار ہوتے ہیں اور اس وقت اہل الرائے کی رائے یہی ہے کہ علماء کو ایسے ہی اخلاق چاہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات کو ظاہر نہ کیا کریں۔

غرض بعض اہل اللہ اپنے اخلاق سے محمل و عده بھی کر لیتے ہیں مگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ دعا کس طرح کرتے ہیں ذرا خلوت میں کبھی ان کی دعاؤں کو سنتو تو معلوم ہوا اور بعض تو خلوت میں خدا تعالیٰ کے سامنے بھی اخلاق برترتے ہیں مگر یہ غیر محقق ہیں اکثر اہل اللہ خلوت میں یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ! اگر یہ ملازمت شریعت کے موافق ہو اور اس شخص کے دین کو مضر نہ ہو تو اسے نصیب کر دیجئے ورنہ ہرگز نہ دیجئے۔

مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب سے ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میرے مقدمہ کے واسطے دعا کریجئے اسی وقت دوسرا فریق بھی آیا اس نے بھی دعا چاہی۔

اس مقام پر اس پھرہی کو سلجنانا ہر ایک کام نہیں اب یا تو دوسرے فریق سے انکار کریں تو ترجیح بلا مرنج لازم آتی ہے اور اس سے بھی وعدہ کریں تو کس طرح کریں ہاں جس کو خدا تعالیٰ نور باطن عطا فرمائیں وہ اس تھی کو سلجناسکتا ہے چنانچہ شاہ صاحب نے اس وقت دعا کی کہ اے اللہ! جس کا حق ہوا سے مل جاوے مجھے دونوں کا پورا ہو گیا۔

سومولانا نے تو جلوت ہی میں یہ دعا کروی باقی اور بزرگ بھی گوجلوت میں تم سے کیسا ہی وعده کر لیں خلوت میں بھی وہ اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ کام خلاف شریعت نہ ہو تو پورا ہو جائے ورنہ ہرگز پورا نہ ہو وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے مقرب ہیں پھر وہ خدا تعالیٰ کی صرضی کے خلاف کوئی دعا کیسے کر سکتے ہیں بلکہ عوام الناس تو خدا تعالیٰ سے کچھ کھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں (جیسے بعض دیہاتی حکام کے سامنے بے تکلف باتیں کر لیتے ہیں) اور یہ حضرات نہایت بہبیت زدہ ہوتے ہیں وہ ناجائز امور کے لئے تو کیا دعا کرتے مباح امور میں بھی دعا کرتے ہوئے ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔

احب مناجات الحبیب باوجہ ولكن لسان المذنبین کلیل

مناجات حبیب کے پسندیدہ بہت سے طریقے ہیں مگر گناہ گاروں کی زبان تو تملی اور کند ہے۔ بعض دفعہ وہ بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں لیکن اپنی خطاؤں کے احتصار سے زبان سے کچھ نکتا نہیں حضرات مغفرت کی دعا کس قدر محظوظ اور سراپا مُحَمَّد ہے مگر اس میں بھی بعض دفعہ احتصار ذنوب کے سبب ان کی زبان رک جاتی ہے گوپھر امر کی وجہ سے دعا کرتے ہیں اور کرنا چاہئے کونکہ وہ صاحب حال ہونے کے ساتھ صاحب عرفان بھی ہوتے ہیں اس لئے امر کی وجہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے جی کو سمجھاتے ہیں کہ شرم اسی کس سے اور شرم کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے کوناپاک سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اس دربار میں کچھ عرض کرنے کے قابل اپنے کو نہیں سمجھتے مگر پھر دور دورہ کر پاک کیسے ہوں گے پاک ہونا بھی تو حاضری دربار ہی پر متوقف ہے اب اگر حاضری اس پر متوقف ہو کہ پہلے پاک ہو لیں تو دور لازم آتا ہے اس لئے وہ شرم کو بالائے طاق رکھ کر طبیعت پر جبر کر کے دعا کرتے ہیں۔

مولانا نے ایک حکایت لکھی ہے کہ آلو دہنجاست دریا پر سے گزر اور یا نے کہا کہ میرے اندر چلا آتا اس نے جواب دیا کہ میں ناپاک اور تو پاک و صاف میں تجھ تک کیسے آؤں پاک ہو کر آؤں گا دریا نے نہ کر کہا کہ اے بے وقوف پاک ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ تو اسی حالت ہی میں چلا آآ مجھ سے دور رہ کر تو پاک ہی نہیں ہو سکتا ایک بار تو ناپاکی کی حالت ہی میں چلا آتا پھر پاک ہو کر بھی آتا نصیب ہو گا اور جو اس انتظار میں رہا کہ پہلے پاک ہو لوں پھر پانی کے پاس جاؤں گا تو عمر بھرنہ تجھے پاکی نصیب ہو گی نہ پانی کا قرب نصیب ہو گا۔

شیطانی اغوا

صاحبہ--- اسی طرح خدا تعالیٰ کے دربار میں آنے کے لئے تم اس کا انتظار نہ کرو کہ پہلے

دنیا کے جھگڑوں سے فارغ ہولیں پھر یک سو ہو کر خدا کی یاد میں لگیں گے کیونکہ یوں تو ساری عمر گزرہی جائے گی اور تم کو خدا کے ساتھ علاقہ نصیب نہ ہوگا۔ یہ شیطانی انواع ہے کہ اس نے علم کے پیرا یہ میں جہل کے اندر بتا کر رکھا ہے کہ عام لوگوں کو یہ پٹ پڑھاوی ہے کہ بیٹھنے بنیوں کی شادی کر کے بہت سی جائیدا اور روپیہ حاصل کر کے پھر اللہ کی یاد میں لگنا اس وقت تodel دنیا کی گندگیوں سے ملوث ہے ان سے پاک ہو کر آنامگران لوگوں کو عمر بھر بھی خدا کی یاد نصیب نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کے تعلقات بدون خدا سے علاقہ پیدا کئے قطع ہو، ہی نہیں سکتے دنیا کے کاموں کی یہ حالت ہے کہ۔

لا ینتہی ارب الالی ارب (ایک حاجت گئی دوسری حاجت پیش آگئی)
ان کی انتہا ہی کہیں نہیں ہے ایک کام کے بعد دوسرا کام نکلتا چلا جاتا ہے بس ان لوگوں کی ہمیشہ وہ حالت رہتی ہے۔

ہر شے گویم کہ فردا ترک ایں سودا کنم باز چوں فروا شود امروز را فردا کنم
ہرات کو یہی کہتا ہوں کہ کل یہ کام چھوڑ دوں گا مگر جب کل ہوتی ہے تو اسکا آئندہ کل پر چھوڑ دیتا ہوں۔
روز یہی کہتے رہتے ہیں کہ کل کو یہ کام چھوڑ دیں گے مگر جب کل ہوتی ہے پھر وہی حال
ہو جاتا ہے۔ تو صاحبو۔۔۔ اس کا انتظار نہ کجھ آپ جس حال میں ہیں اس حال سے چلے
آئیے دور رہ کر پاک ہونے کا انتظار نہ کجھ۔ پاک ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک بار
نما پاکی کی حالت ہی میں آجائیے اس لئے فرماتے ہیں۔

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گبر و بت پستی باز آ
ایں درگہ مادر گہ نو میدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ
(واپس آ واپس آ جو کچھ بھی تو ہے واپس آ جا ہمارا دربارنا امیدی کا دربار نہیں ہے سو بار
اگر تو نے توبہ توڑی ہے تو واپس آ جا۔

ان شاء اللہ خدا کے دربار میں حاضر ہونے سے بہت جلد یہ داغ دھل جاوے گا اور ایک
دن یوں ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت لوگ بزرگوں کے پاس اسی خیال سے نہیں جاتے کہ یہ
دنیا کا پاخانہ لے کر ان کے پاس کیا جاویں۔ وہ اپنے دل میں کیا کہیں گے۔

صاحب۔۔۔ اس کا وسو سہ ہرگز نہ لاو۔ وہ حضرات تخلقوا با خلاق اللہ (لم
أَجَدَ الْحَدِيثَ فِي رَلْمُوسْوَعَةِ اطْرَافِ الْحَدِيثِ النَّبِيِّ الشَّرِيفِ)، (اللہ تعالیٰ جیسے اخلاق اختیار

کرو) سے متصف ہوتے ہیں۔ وہ کسی آنے والے کو حقیر نہیں سمجھتے۔ وہ عیب پوش اور کریم نفس ہوتے ہیں۔ بلکہ بخدا ان کی نظر میں اپنے سے زیادہ کوئی بھی ذلیل نہیں ہوتا۔ پھر وہ کسی کو نظر خوارت سے کیا و میکھتے اس لئے تم اس ناپاکی سمیت ہی ان کے پاس چلے آؤ۔

مجھے ایک صاحب کی حالت تو نہیں مگر اس کی بناء بہت پسند آئی وہ جونپور سے میرے پاس بیعت ہونے آئے تھے۔ اور اس حال سے آئے کہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے اور ڈاڑھی منڈی ہوئی، مونچھیں خوب بڑھی ہوئی اور آ کر مجھ سے اپنے سب حالات کہہ دیئے پھر بیعت کی درخواست کی میں نے بعد مغرب کا وقت مقرر کر دیا وہ دون جمعہ کا تھا بھلے مانس نے اس دن بھی جماعت بنوائی توجو کچھ بال ڈاڑھی کے نکل آئے تھے وہ بھی منڈا دیئے یہ حرکت مجھے بہت ناگوار ہوئی کہ یہاں آ کر بھی انہوں نے اس گناہ کو نچھوڑا مگر بعد تماز جمعہ کے انہوں نے اپنے اس فعل کی جو بناء بیان کی اس پر مجھے وجد آ گیا کہنے لگے کہ غالباً آپ کو آج میرا ڈاڑھی منڈا نانا گوار ہوا ہوگا۔ میں نے کہا بے شک! کہنے لگے کہ خیال مجھے بھی ہوا تھا کہ آپ کونا گوار ہو گا مگر میں نے چاہا کہ طبیب کے سامنے اپنے مرض کی اصلی حالت صاف صاف ہی ظاہر کر دوں اس لئے میں نے اس شکل سے آپ کو پیش کر دیا اب آپ جو تصرف چاہیں مجھ میں فرمائیں میں سب کے لئے حاضر ہوں۔

استقلال کی ضرورت

گووہ فعل مجھے ناگوار ہوا مگر اس بناء کی قدر ہوئی اور معلوم ہو گیا کہ اس شخص پر صدق کا حال غالب ہے مگر بوجہ جہل کے بری طرح ظاہر ہوا مگر واقعی میں اس کے صدق کی قدر کرتا ہوں اور یہ ایسی قدر ہے جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چور کی قدر کی تھی۔

- انہوں نے ایک شخص کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھا تھا ساتھ والوں سے پوچھا کہ اس کو سولی کیوں دی گئی لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بڑا پا چور تھا ایک بار اس نے چوری کی تو دایاں ہاتھ کا ناگیا پھر بازنہ آیا اور دوبارہ چوری کی تو بایاں پیر کا ناگیا پھر بازنہ آیا تو قید کر دیا گیا اس نے قید خانہ میں بھی چوری کی تو حاکم نے سولی کا حکم دیا یہ سن کر حضرت جنید نے دوڑ کر اس کے قدم چوم لئے اہل ظاہر نے اعتراض کیا کہ آپ ایک ایسے پکے چور کے قدم چومتے ہیں فرمایا میں نے چور کے قدم نہیں چو مے بلکہ اس کے استقلال کے قدم چو مے ہیں کہ وہ جیسا بھی کچھ تھا اپنی طلب کا پکا تھا۔ اس کا محبوب گوکیسا ہی برا تھا مگر اس نے اس کے پیچھے جان دے دی اس کا یہ حال تھا کہ -

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد بجاناں یا جان زتن برآید
طلب سے ہاتھ نہ روکوں گا جب میرا مقصد پورا نہ ہو جائے بدن یا تو محظوظ کے پاس پہنچ
جائے یا جان تن سے نکل جائے۔ میں اس کے استقلال کی قدر کرتا ہوں۔

اے لوگو۔۔۔ اگر ہم کو حق پر ثابت قدم رہنے میں ایسا استقلال حاصل ہو جائے تو ہمارا
کام بن جائے۔ دیکھئے حضرت جنیدؓ نے اس شخص کے استقلال کی قدر کی گواں استقلال کی
صورت بری تھی اسی طرح گوان صاحب نے ایک بری حرکت کی واڑھی منڈائی مگر یہ حرکت
چونکہ صدق پر مبنی تھی اس لئے مجھے اس کی قدر ہوئی (کیونکہ ایسے چے اور صاف دل آدمی سے
یہ امید تو ہوتی ہے کہ وہ بیعت کے وقت جو کچھ اقرار کرے گا چے دل سے کرے گا پھر اس
کے خلاف نہ کرے گا) چنانچہ ان صاحب نے تھاتہ بھون سے جا کر پھر عمر بھر واڑھی نہیں منڈائی
 بلکہ ایک وقت میں ان کی اتنی بڑی واڑھی ہو گئی تھی کہ دیکھنے والے پہنچانتے بھی نہ تھے کہ یہ وہی
شخص ہے جو پہلے بالکل آزاد نہ تھا غرض وہ پورے نیک صالح بن گھیرے (بات یہ ہے کہ صفات
حمدہ ہر حال میں حمیدہ ہیں جس میں کوئی صفت حمیدہ ہوتی ہے گو ایک وقت میں بری صورت
سے اس کا ظہور ہو رہا ہو مگر جب اصلاح ہوگی تو کامل ہوگی۔ خوب سمجھو لو)

تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس شخص کی طرح گندگی اور بدحالی ہی میں اپنے کو کسی بزرگ
کے پرد کر دینا چاہئے اس کا خیال نہ کیجئے کہ اس صورت سے ہم بزرگوں کے پاس کیے جائیں۔

مقام دعا

یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ بعض دفعہ اہل اللہ کو دعائے مغفرت سے بھی شرم آتی ہے مگر وہ
اس سے رکتے نہیں بلکہ وہ دل کو سمجھاتے ہیں کہ شرم کس سے کریں اگر اسی شرم میں رہے اور خدا
تعالیٰ سے دعا نہ کی تو یہ ناپاکی کیوں کر دھلے گی تو جب وہ حضرات امور مبارح کی دعا سے بھی
شرماتے ہیں (گواں پر عمل نہ کریں) تو آپ کا ناجائز کاموں کے لئے تو کیوں دعا کی ہمت
کریں گے اس لئے زندہ یا مردہ بزرگوں سے ایسی دعا کرنا شخص بے سودا اور ان کو تکلیف دینا
ہے پس ناجائز دعائیں تو مستثنے ہیں رہی ناجائز دعا چاہے دنیا ہی کی کیوں نہ ہو وہ تو عبادت ہے
چنانچہ حدیث میں ہے۔ الدعاء مخ العبادة (دعاء عبادت کا مغز ہے) کیونکہ دعا میں تذلل
اور عاجزی کی شان ہوتی ہے دعا کرنے والا اپنے کو ذلیل و محتاج سمجھ کر دعا کرتا ہے۔

بخلاف اس کے جو وظیفہ پڑھتا ہے اس کی حالت تذلل کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی حالت

دعوے کی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وظیفہ سے کامیابی ضروری ان کے مکالمات سے یہ بات ظاہر ہے چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ایسا وظیفہ بتلائیے کہ تیر بہدف ہو اور اگر کسی وظیفہ کی نسبت یہ لکھ دیا جائے کہ یہ مجرب ہے تو اس پر ایسا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ گویا تخلف ہو گا ہی نہیں تو چونکہ اس میں دعویٰ کی شان ہے اس لئے یہ ناپسند ہے مگر آج کل اکثر لوگ دعا کو چھوڑ کر وظائف پڑھتے ہیں گو ان کا پڑھنا جائز تو ہے (اگر ان میں کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو) مگر اس میں ثواب کچھ نہ ہو گا کیونکہ ثواب کے لئے یہ قاعدہ ہے۔

(انما الاعمال بالنیات (الصحیح للبغاری: ۱: ۲۹: ۵۷: ۹؛ سنن الترمذی: ۱۶۲۷ سنن ابن ماجہ: ۳۲۲۷)

(اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے)

اور وظائف میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی بلکہ محض دنیا ملنے کی نیت ہوتی ہے اس لئے ثواب کچھ نہ ہو گا بخلاف دعا کے کہ وہ اپنی ذات سے عبادت ہے حتیٰ کہ اس میں اگر دنیا مانگی جائے تب بھی شریعت اس کو عبادت کہتی ہے چنانچہ خود شریعت نے اس کو دنیا مانگنے کا طریق تجویز فرمایا ہے پس دنیا کی نیت کرنا دعا کے منانی نہیں کیونکہ احادیث میں دنیا کی نیت سے بھی دعا کرنے کا حکم ہے۔

مثلاً ایک حدیث میں ہے۔ وَاسْتَلُوا اللّٰهُ الْعَافِيَةَ (صحیح مسلم کتاب الجہاد: ۲۰)

کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو اسی طرح حصول رزق و حصول غنا و اداء دین وغیرہ کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں تعلیم فرمائی ہیں اور اگر احادیث میں غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیوی راحت کو نہیں چھوڑا جس کے لئے کوئی دعا نہ بتلائی ہو اور کسی مصیبت کو نہیں چھوڑا جس سے پناہ مانگنے کا طریقہ نہ بتلایا ہو بلکہ راحت و مصیبت کے علاوہ بھی ہر حالت کے متعلق ایک نہ ایک نہ اپنے مقرر فرمائی ہے۔

مثلاً اگر میں آنا گھر سے باہر جانا، سونا، جا گنا، اٹھنا، بیٹھنا، بیمار کی عیادت کرنا، مسجد میں جانا اور نکلنا، بازار میں جانا، سفر شروع کرنا، سفر میں کسی جگہ اترنا پھر وطن کو داپس آنا بیت اخلاء وہاں سے نکلنا خوشی و رنج کی بات دیکھنا۔ چاند دیکھنا وغیرہ وغیرہ سب کے لئے احادیث میں الگ الگ دعا میں وارد ہیں تو دنیا کے لئے دعا مانگنا بھی عبادت اور طاعت ہے بخلاف عملیات کے کہ وہ دین کے لئے ہوں تو اطاعت ہیں ورنہ نہیں۔

اس سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ دعا زیادہ قابل توجہ ہے مگر اس وقت بالکل برکس معاملہ

ہورہا ہے کہ وظیفے کی قدر دعا سے زیادہ ہے بلکہ قرآن سے بھی زیادہ قرآن پڑھتے ہوئے تو بات چیت کر لیتے ہیں مگر وظیفے میں بولنا حرام سمجھتے ہیں جیسے وہ عہدہ دار صاحب وظیفہ میں ہوں ہوں کیا کرتے اور اشاروں سے رشوت کی مقدار طے کیا کرتے تھے اور جب اشراق کی نماز کو کھڑے ہوتے تو اس سے پہلے کئی سوروں پے مصلے کے نیچے آ جاتے تھے یہ قیمت تھی ان کی نماز کی آج کل تو اس کو ملنا کہتے ہیں اور اسی اصطلاح کے موافق وہ دوسرے عہدہ دار اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ تجھے نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔

چونکہ لوگ آج کل دینی ثمرات کو ثمرات نہیں سمجھتے اس لئے ضرورت ہوتی ہے ان ثمرات کو تفصیل سے بیان کرنے کی چنانچہ میں نے اسی واسطے کل کے بیان میں ان کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا تھا ورنہ اصلی مقصود و محتاج تفصیل نہ تھا اس کا حاصل تو صرف اتنا ہے کہ ہم دین کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ کے محبوب ہو جاویں گے یہ اس آیت کا جزو تھا جس کو مقصود کہنا چاہئے اور اس کا بیان کل ہو چکا اب اس کا ایک دوسرा جزو ہے یعنی طریق کی تفصیل اس کو آج بیان کیا جائے گا اور ممکن ہے کہ آج کا بیان کل کے برابر مفصل مطول نہ ہو کیونکہ اس وقت کچھ طبیعتِ مضخل ہے مگر ضروری اجزاء ان شاء اللہ ضرور بیان ہو جاویں گے اور ایسی تفصیل ہو جاوے گی جس سے کچھ بے خبری دور ہو جاوے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہ آیت دو جزو پر مشتمل ہے ایک مقصود دوسرے طریق مقصود کا بیان وعظ سابق میں ہو چکا۔ اب سمجھئے کہ طریق مقصود کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔

امْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ کیونکہ حق تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لئے حق تعالیٰ محبوبیت پیدا کر دیں گے جس میں محبوبیت کو ایمان و عمل صالح پر مرتب کیا گیا ہے تو مقصود اور نتیجہ تو وہ ہے اور ایمان و عمل صالح اس کے ترتیب کی شرط ہے یہی حاصل ہے طریق ہونے کا اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو محبوب مقبول بننا چاہے اس کو پہلے ایمان لانا اور عمل صالح اختیار کرنا چاہئے اور یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب ایمان و عمل صالح مقبولیت و نجات کا طریق ہے تو بد وون اس کے تمام نسبتیں نجات کے لئے ناکافی ہیں۔ مثلاً کسی بزرگ کی اولاد ہونا یا اپنے پاس کسی بزرگ کا تبرک ہونا یہ تہا نجات کے لئے کافی نہیں۔

تبرکات کا مسئلہ

صاحبہ میں بزرگوں کے تبرکات سے انکار نہیں مگر ان کی اصل اتنی ہے جیسے ایک مثال سے

واضح ہو گا اور مجھے مثال دیتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ ایک دینی مسئلہ کے لئے دنیا کی مثال دوں مگر کیا کیا جاوے کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں خدائی معاملات کی اتنی قدر نہیں جتنی دنیوی معاملات کی قدر ہے اس لئے جب کسی خدائی معاملہ کو دنیوی معاملہ سے مطابق کر دیا جاتا ہے تو وہ جلدی لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے اس لئے میں شرما تا ہو امثال دیتا ہوں کہ ان تبرکات کا اتنا اثر ہے۔ جیسے دو شخصوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا ہوا اور نوکری کی درخواست دی ہو مگر ان میں ایک تو ایسا ہے جس کا خاندان خیر خواہ سرکار ہونے میں مشہور ہے اور دوسرا ایسا نہیں تو ان دونوں میں اول ملازمت سے وہ کامیاب ہو گا جس کا خاندان خیر خواہ سرکار ہے اور اگر دونوں ساتھ ہی ملازم ہو جائیں تو اس شخص کو بڑا عہدہ ملے گا اور دوسرے کو اس سے کم غرض معزز خاندان والے کا ضرور لحاظ ہوتا ہے خواہ جلدی کامیاب ہونے میں یا بڑا عہدہ میں کیونکہ وہ ایسے خاندان کی طرف منسوب ہے جو خیر خواہ سرکار ہے لیکن اگر یہ نر اصحاب انتساب ہی ہوا اور کوئی امتحان اس نے پاس نہ کیا ہوا س صورت میں اس کو یہ کہنا مفید نہ ہو گا کہ پدر میں سلطان بود بلکہ اس کے جرائم پر دوسروں سے زیادتی قوی مقدمہ قائم ہو گا اور اس سے کہا جائے گا افسوس تم با وجود حقوق سلطنت سے واقف ہونے کے سلطنت کی مخالفت کرتے ہو تم تو حکومت کے آشنا تھے اور تمہارے تو پچھے کی زبان پر حکومت کے حقوق احسانات کا تذکرہ تھا تجھ پر کیا مار آتی جو مخالفت قانون پر پیش قدی کرنے لگے تو عجیب نہیں کہ اس شخص کے جرم پر ایسا نگین مقدمہ قائم ہو جو ایک جلا ہے وہوبی کے جرم پر نہ قائم ہوا اور یہ حکومت کی نظر میں زیادہ مبغوض وقابل نفرین قرار پاٹئے چنانچہ واقعات اس پر شاہد ہیں۔

اس طرح بزرگوں کی طرف انتساب سے یہ نفع ضرور ہوتا ہے کہ یہ شخص اگر ایمان عمل صالح اختیار کرے تو دوسروں سے جلدی کامیاب ہوتا بڑے درجہ میں پہنچ جاتا ہے لیکن اگر یہ سرکشی سے پیش آوے تو اس وقت نر انتساب کافی نہ ہو گا۔ اس وقت مجھے استاد علیہ الرحمۃ کا ایک ارشاد یاد آیا جو ایک حدیث کی شرح میں انہوں نے فرمایا تھا اول میں حدیث نما دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا عبد اللہ بن ابی یہ رئیس المناقین تھا مگر اس کے لڑکے صحابی اور مومن مخلص تھے جب اس منافق کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اس کے کفن کے لئے اپنا کرتہ عطا فرماد تجھے شاید اس کی برکت سے خدا اس کی

مغفرت فرمائے۔ حضور نے اپنا کرتہ دے دیا اور تجھیز و تکفین میں شریک ہوئے حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی پڑھانا چاہی۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو جوش آگیا انہوں نے حضور کی چادر مبارک پکڑ لی کہ آپ کس کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ایک منافق کی جن کے بارہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

یعنی چاہے آپ منافقین کے لئے ستر دفعہ بھی دعا و استغفار فرمائیں خدا تعالیٰ ان کو نہ بخشیں گے حضور نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو استغفار سے منع نہیں فرمایا اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ستر دفعہ سے زیادہ استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں زیادہ استغفار کرلوں گا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور حضور نے جنازہ کی نماز پڑھا دی۔

واقعی حضور کی بھی کیا عجیب شفقت و رحمت تھی کہ دشمنوں سے رحمت میں آپ کو دریغ نہ تھا صاحبو! ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو ایسے رحیم و کریم پیغمبر (صلی اللہ علیہ سیدی و روحی وسلم) نصیب ہوئے ہمیں تو آپ سے بہت کچھ امید ہیں ہیں۔

نماند بھیاں کے در گرو کہ دارو چنیں سید پیش رو وہ شخص گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں نہیں رہے گا جو ایسا سردار اور پیشوور رکھتا ہو۔

جب دشمنوں پر بھی آپ کی یہ رحمت ہے تو اپنے غلاموں پر تو کیا کچھ ہوگی۔ غرض آپ نماز پڑھ چکے اور دفن میں بھی شریک ہوئے اور اس منافق کے قبر میں رکھے جانے کے بعد حضور نے اپنا العاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈال دیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

**وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرٍ هُوَ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُؤْمِنُوا وَهُمْ فَسِقُونَ**

اور ان میں کوئی مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھنے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ آمد حالت کفر میں مرتے ہیں جس میں منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے دفن وغیرہ میں شرکت کرنے کی صاف صاف ممانعت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں بڑی ندامت و شرمندگی ہوئی کہ میں نے حضور کے ساتھ کیسی جرات کی آپ کو ایک کام سے روکنے لگا (میرا کیا منصب تھا حضور تو سب سے زیادہ ہر ایک بات کو جانے والے ہیں)

خیر یہ تو ایک واقعہ تھا اس میں بہت گفتگو اور کلام ہے کہ آپ نے باوجود فلنِ یغفر اللہ لہم (اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشنیں گے) وارد ہو چکنے کے پھر اس منافق کی نماز کیوں پڑھی مگر یہ تو طالب علمانہ مباحثت ہیں طالب علم ان کو خود حل کر لیں گے مگر اس میں اس بات کا بتلانا مقصود ہے کہ حضور نے اس منافق کو اپنا کرتے کیوں پہنایا اور اس کے منہ میں لعاب دہن مبارک کیوں ڈالا۔

شرح حدیث نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور نے اس کے بیٹے کی خاطر سے جو مومن مخلص صحابی تھے یہ سب کچھ کیا (تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضورؐ کی طرف سے اس کی نجات کی سعی میں کوئی کوتا ہی نہیں رہی۔ آپ نے دعا بھی کر دی نماز بھی پڑھ دی۔ اپنے تمکات بھی عطا فرمادیے اب بھی اگر اس کی مغفرت نہ ہو تو یہ خود اسی کا قصور ہے) اور بعض نے کہا ہے کہ اس منافق نے جنگ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ (عم ر رسول اللہ علیہ وسلم) کو ایک کرتے پہنایا تھا۔ آپ نے اس کی مكافات میں مرنے کے بعد اسے کرتے پہنایا (بلکہ مع شے زائد) یہ سب توجیہات شراح نے کی ہیں مگر ان باتوں سے ہم کوششا نہیں ہوئی ہمیں تو اپنے استاد علیہ الرحمۃ کی بات پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ یہ معاملہ اس لئے فرمایا تاکہ امت کو یہ ضروری مسئلہ بتلاویں کہ اگر کسی میں ایمان نہ ہو تو پھر چاہے اس کے پاس لا کھ تمکات ہوں اور چاہے رسول جیسا شخص اس کے جنازہ کی نماز بھی پڑھ دے اور رسولؐ ہی کا قیص اس کا کفن ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس کے منہ میں پڑ جائے جب بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لئے تھا ان تمکات کے بھروسے پر کوئی نہ رہے چنانچہ عبد اللہ بن ابی کے پاس اصل سرمایہ ایمان کا نہ تھا۔ اس لئے اس کے بارہ میں کہا گیا۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ كِمْنَافِقِينَ جَهَنَّمَ كَمْ سَبَ سَبَ نَجَّ

کے طبقہ میں ہیں جس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے۔

نیست کا اثر

تواب معلوم ہو گیا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد یا سلسلہ میں ہیں اور ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہماری اولاد میں سے یا اتباع میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے کیا کار آمد ہو سکتا ہے جب تک اپنے پاس کچھ سرمایہ نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (اور اپنے رشتہ داروں کو آتش دوزخ سے ڈرائیے) تو حضور نے اپنے سب خاندان کو جمع کیا اور سب کے ساتھ صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے فرمایا۔

(بِفَاطِمَةَ بُنْتِ مُحَمَّدٍ أَنْقَذَتِنَّ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ لَا أَغْنَى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْءًا سَنِّ التَّرْمِذِيِّ: ۳۸۵)

اے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو آتش دوزخ سے رہا کر میں تجھ کو کسی چیز سے اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ نہیں کر سکتا۔ اور اپنی پھوپھی صاحب کو خطاب کر کے فرمایا۔

يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْقَذَتِنَّ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ لَا أَغْنَى عَنْكَ

مِنَ اللَّهِ شَيْءًا (الصَّحِيفَةُ الْمَخَارِقِيَّةُ: ۲۸: ۱۳۰)

اے صفیہ رضی اللہ عنہا پھوپھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو اعمال صالحہ کر کے دوزخ سے بچا میں کسی چیز سے تجھ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ نہیں کر سکتا۔

اسی طرح سب اعزہ سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچالو۔ میں تمہارے کام نہ آسکوں گا۔ یعنی اگر نزرے میرے بھروسہ پر رہو گے۔ تو اس صورت میں میں کچھ کام نہ آؤں گا۔ ہاں خود بھی کچھ سرمایہ جمع کرلو تو بے شک آپ کام آئیں گے۔

بس یہ درجہ ہے انتساب اور تبرکات کا کہ وہ بدون اپنے عمل کے تنہا کافی نہیں ہوتے۔ باقی اپنے پاس کچھ عمل ہو تو پھر وہ ضرور نافع ہیں۔ ان کی برکت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر تبرکات نافع نہ ہوتے تو سلف صالحین اس کا اہتمام نہ کرتے۔ حالانکہ سلف سے اس کا اہتمام منقول ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرکات دیئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادرہ مبارک ایک صحابی کو عطا فرمایا اور حج کے موقع پر اپنے بال تقسیم فرمائے اور بعض واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ تبرکات واقعی کام بھی آتے ہیں مگر نزرے تبرکات کام نہیں آتے۔ بلکہ اصل سرمایہ کے ساتھ یہ بھی مل جائیں تو نفع بڑھ جاتا ہے۔

اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کھانے کے ساتھ چٹنی اور مرتبہ کہ اس سے کھانے کا لطف بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دوستوں کی دعوت کرے اور سارا دسترخوان چٹنی اور مرتبہ ہی سے بھردے تو کیا یہ دعوت ہوگی۔ یہ تو مسخر اپن ہو گا۔

اسی طرح جو چیزیں زوائد میں سے ہیں وہ سب ایسی ہی ہیں کہ ان پر حصول مقصود موقوف نہیں ہوتا اور وہ تنہا مقصود سے معنی نہیں ہوتی۔ ہال ضروریات کے ساتھ جمع ہو جائیں تو مفید ہوتی ہیں۔ دیکھو اگر دسترخوان پر چتنی مرتبے نہ ہوں تو وہ دعوت ضرور ہے اور اگر چتنی مریا ہی ہو کھانا نہ ہو تو اسے دعوت نہیں کہہ سکتے اور دونوں جمع ہو جائیں تو اعلیٰ درجہ کی اور لذیذ دعوت ہو گی۔

نفع تبرکات کی صورت

اسی طرح تبرکات نافع ضرور ہیں مگر ان کی نافعیت کے لئے کچھ شرطیں ہیں (یعنی ایمان عمل صالح) جیسے گورنمنٹ اپنے وفاداریوں کی رعایت کرتی ہے بشرطیکہ وہ بغاوت و اقدام جرائم نہ کریں بلکہ تعلیم و تہذیب سے آراستہ ہو کر گورنمنٹ کی اطاعت بھی کریں تو ان کا خیال دوسروں سے زیادہ کیا جاتا ہے اسی لئے سلف نے بزرگوں کی نیک اولاد کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ بھی اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔

میری ایک رشتہ کی پھونپھی تھیں جو بچیوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ لڑکیاں گھروں ہی میں تعلیم پاتی ہیں۔ ان کے لئے کوئی زنانہ سکول نہیں اور نہ یہ مناسب ہے (اس میں بہت مفاسد ہیں جن کا تجربہ رات دن ہوتا جاتا ہے) تو اسی طرح میری پھونپھی صاحبہ اپنے گھر پر لڑکیوں کو پڑھاتی تھیں اور کسی سے معاوضہ وغیرہ کچھ نہ لیتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں ایک سید کی لڑکی پڑھنے آئی۔ وہ فرماتی تھیں کہ اسی روزرات کو میں نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا فرماتی تھیں کہ عمدۃ النساء ادیکھوڈ رامیری پنجی کو محبت سے پڑھانا۔

اسی طرح اور بہت سی بشارتیں اور مناتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے۔ اور آخرت میں اس نسبت سے یہ نفع ہو گا کہ حق تعالیٰ بزرگوں کی اولاد کو انہی بزرگوں کے درجنوں میں پہنچا دیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ أَمْتُوا وَأَتَبْعَثْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَتَتُهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ ۚ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہتی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور بلند درجہ والوں کے درجہ میں ذرہ برابر کی نہ ہونے دیں گے۔

اس میں افراط و فریط و غلوٹ کا علانج کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہے یعنی کافروں شریعت ہو تو ہم ان کو بھی ان ہی کے ساتھ ملا دیں گے۔

یعنی کوئی میں دونوں برابر نہ ہوں مگر پھر بھی سب کو برابر کر دیا جائے گا۔ جیسے کوئی بادشاہ کہیں مہماں بن کر جائے اور اس کا بیٹا بھی اس کے ہمراہ ہو تو وہ بھی اسی جگہ پھرے گا جہاں بادشاہ پھرے گا۔

اب یہاں کسی کوشش ہو سکتا تھا کہ شاید اس برابری کی صورت یہ ہو کہ اوپر کے درجہ والوں کو نیچے کر دیا جائے یا کچھ ان کو گھٹایا جائے اور کچھ ان کو بڑھایا جائے اور اوسط پورا کر کے درمیانی درجہ دے دیا جائے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ کہ ہم بلند درجہ والوں کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے بس معلوم ہو گیا کہ برابری کی صورت یہ ہو گی کہ ناقص الاعمال کو کامل الاعمال کے درجہ میں بھیج دیا جائے گا کامیں کے درجات میں کمی نہ کی جائے گی۔

اب اس کو سن کر شاید کسی کو ہوس ہوتی کہ پھر ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہے تو آگے ایسا فیصلہ فرمایا ہے جس سے اس خیال کا استیصال ہو گیا فرماتے ہیں۔

كُلُّ امْرٍ مِّمْ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنَ ۚ کہ ہر شخص اپنے کئے ہوئے (اعمال) کے ساتھ مقید ہو گا معلوم ہوا کہ عمل کی پھر بھی ضرورت ہے بدون عمل کے یہ دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔

شرف نسب کی حیثیت

یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ شرف نسب نافع ہے یا نہیں۔ اس وقت اس بارہ میں غلو ہو رہا ہے بعض تو اسی کو اصل قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو مٹاتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ذی نسب نہیں ہیں وہی زیادہ تر اس کو مٹاتے ہیں اور دونوں کا مٹتا تکبر ہے۔ جو لوگ نسبت کو اصل قرار دیتے ہیں وہ بھی بڑا بنتا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی چیز ہے ہم کو بڑا سمجھو اور جو اس کو مٹاتے ہیں وہ بھی بڑا بنتا چاہتے ہیں کہ ہم شرفاء میں سے کسی بات میں کم نہیں ہیں۔ کیونکہ شرافت نسب کوئی چیز نہیں بعض نے تو یہ کیا کہ نسبت ہی کا استیصال کر دیا اور بعض نے یہ کیا کہ اپنے کو کھینچ تاں کر شرفاء میں داخل کر دیا۔

میں ایک مقام پر گیا۔ وہاں کی چھوٹی قوموں نے اپنی چار فرشتے میں کر لیں۔ شیخ سید مغل پٹھان اور اپنے محلہ کا نام بھی بدل دیا میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا چاہتا جب میں وہاں گیا تو مجھ سے بیان کی درخواست کی گئی تو اتفاقاً میں نے نسب ہی کا بیان کیا (حالانکہ مجھے اس واقعہ کی اطلاع نہ تھی نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا تھا) تو وہ لوگ بہت ناراض ہوئے جنہوں نے اپنے کو شرفاء میں داخل کیا تھا۔ اور کہنے

لگے کہ بھلا بھی مضمون بیان کے لئے رہ گئے تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ وہاں کے شیخ زادوں نے یہ مضمون فرمائش کر کے بیان کرایا ہے۔ اس لئے وہ شیخ زادوں سے بھی بہت خفا ہوئے (حالانکہ میری یہ بالکل عادت نہیں کہ فرمائشی مضمون بیان کروں۔ بس وقت پر جوبات دل میں آ جاتی ہے بیان کردیتا ہوں) غرض ابست کے بارہ میں یہ غلوہور ہا ہے اور منشاء اس کا محض تکبر ہے جنہیں قدرت ہوتی ہے انکا تکبر زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور حکم قدرت نہیں انکے بھی بتاؤ سے پڑھ جاتا ہے کہ یہاں پہنچنے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں۔

چنانچہ میں ایک قصہ میں جس کا نام کاندھلہ ہے گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک نائی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جو شخص السلام علیکم کہنے سے چڑھے وہ کیسا ہے۔ یہ سوال اس نے بھرے مجمع میں کیا تھا جہاں وہ روسا بھی موجود تھے جو اس شخص کے زعم میں السلام علیکم سے چڑھتے تھے۔ وہ بڑے متفلکر ہوئے کہ دیکھنے کیا فتویٰ لگتا ہے میں نے کہا کہ جو السلام علیکم سے چڑھے وہ بہت برا اور جو السلام علیکم مساوات اور برابری جتنا نے کے لئے تان کر اور لٹھ سامارے وہ اس سے بھی برا چھوٹا آدمی بڑوں کو سلام کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا بن کر زمی سے السلام علیکم کہے لٹھ سانے ماروے۔ بس اس طرح کہنے جیسے بیٹا بابا کو السلام علیکم کہا کرتا ہے۔ اس سے کوئی نہ چڑھے گا نہ کسی کونا گواری ہوگی پس کہو السلام علیکم ہی مگر اس طرح کہو۔

جب سائل چلا گیا تو سارے رو ساہنے لگے اور کہا کہ صاحب بس تم نے اس مرض کو سمجھا واقعی یہ جب سلام کرتا ہے لٹھ سامارتا ہے جیسے کوئی برابری جتنا تا ہو اسی سے ہم کونا گواری ہوتی ہے ورنہ آدمیت سے سلام کرے تو کون چڑھتا ہے غرض شرفاء کتو متكلم کہا ہی جاتا ہے مگر یہ غریب بھی کچھ کنم نہیں ہوتے۔

ایک قصہ اس کے مقابل مجھ کو یاد آ گیا کہ ایک نائی کسی کا خط لے کر ایک قصہ میں گیا وہاں جا کر اس نے السلام علیکم کہا تو شیخ زادوں نے اسے خوب پیٹا۔ اس نے پوچھا کہ حضور پھر کیا کہوں لوگوں نے کہا کہ حضرت سلامت کہا کرو۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا وقت آیا تو جب امام نے السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہا تو اس نائی نے پکار کر کہا۔ حضرت سلامت و رحمۃ اللہ حضرت سلامت و رحمۃ اللہ۔

امام نے اس کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا قصر سن لیجئے۔

بات یہ ہے کہ میں نے یہاں کے رئیسوں کو السلام علیکم کہہ کر سلام کیا تھا تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور یہ کہا کہ حضرت سلامت کہنا چاہئے۔ مجھے ذرہوا کہ اگر کہیں فرشتے بھی السلام علیکم سے خفا ہو گئے تو ان میں ایک فرشتہ ملک الموت بھی ہے۔ وہ تو میری جان ہی نکال لیں گے۔ اس لئے

میں نے نماز میں بھی حضرت سلامت ہی کہا۔ اس پر امام صاحب نے وعظ میں ان رئیسوں کی خبر لی کہ یہ کیا وابحیات ہے تم لوگوں کو طریق سنت سے منع کرتے ہو۔ سو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔

ایک اور قصہ یاد آیا۔ کانپور میں ایک دفعہ میرے پاس دیہات کے ایک قاضی صاحب تشریف لائے اور السلام علیکم کہہ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائے کہنے لگے کہ اس عملداری میں شرفاء اور غرباء میں بالکل مساوات ہو گئی البتہ صرف ایک فرق السلام علیکم کا رہ گیا تھا ہمارے مولویوں نے یہ بھی انہا دیا سب کے لئے وہی السلام علیکم۔ میں نے کہا قاضی صاحب شرفاء اور غرباء میں جو فرق ہے تو یہ دینی امور میں ہے یا دینیوی امور میں۔ اگر دینی امور میں ہے تو جا کر اپنے شہر میں غرباء سے کہہ دیجئے کہ ظہر و عصر و عشاء کی تین رکعت پڑھا کرو (اور مغرب کی دو اور صبح کی ایک) اور اگر وہ نہ مانیں تو تم چار کی پانچ اور تین کی چار اور دو کی تین پڑھا کروتا کہ برابری نہ ہو جاوے۔ وہ بہت ہی چپ ہوئے۔

پھر میں نے کہا کہ اب بتلائے کہ السلام علیکم دین کا کام ہے یاد دینا کا۔ ظاہر ہے کہ دین کا کام ہے۔ پھر اس میں امیر و غریب کا فرق کیوں ہو۔ باقی دینیوی امور میں فرق کرنے سے ہم منع نہیں کرتے۔ یہی فرق بہت ہے کہ تم سرہانے بیٹھے ہو اور غرباء پائیتی پر بیٹھے ہیں (اگر کوئی غریب آدمی امیر کے برابر سرہانے چڑھ کر بیٹھے گا تو ہم اس کو ضرور منع کریں گے)

غرض نسبت کے باب میں جانین سے یہ غلو ہو رہا ہے کہ بعض نے اسی کو اصل قرار دے لیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی چیز نہیں۔ اس لئے میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں جو اسی آیت کے مضمون سے اور اسی مقام سے مستنبط ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ شریف ہیں اور اپنے کو صدیقی یا فاروقی یا سید کہتے ہیں تو وہ بتلائیں کہ ان کے اسلاف میں شرف کہاں سے آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرت منتب اللہم چونکہ دین میں کامل تھے۔ اس لئے ان کی طرف انتساب سب شرف ہو گیا۔ تو اصل وجہ شرف دین و ایمان نہیں۔ یہی سبب ہے ہمارے اسلاف کے شرف کا اور اسی وجہ سے ان کی طرف انتساب بھی سب شرف ہو گیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ وہ حضرات عالی خاندان بھی تھے مگر تھا یہی سبب شرف نہیں (کیونکہ عالی خاندان تو ابو جہل و ابو لهب بھی تھے مگر ان کی طرف انتساب کسی کو بھی گوارا نہیں) بلکہ اس کے ساتھ چونکہ ان حضرت کا کمال دین بھی مل گیا ہے اس لئے انتساب میں شرف آگیا۔ تو یہ بالکل بے اصل چیز نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس شرف کا اعتبار کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

چنانچہ دنیا میں تو اس طرح اعتبار کیا گیا ہے کہ حدیث میں حکم ہے کہ نکاح اکفاء میں کیا کرو اور شریعت نے کسی شریف زادی کا کفوغیر شریف کو نہیں مانا اور آخرت میں بھی اتنا نفع ہے کہ جو شخص ان شرفاء کی اولاد میں ہو گا وہ اگر ایمان و عمل صالح اختیار کرے تو اس کو دوسروں سے کچھ زیادہ ملے گا اور جنت میں وہ اپنے اسلاف کے درجہ میں ہو گا کواعمال اس درجہ کے نہ ہوں۔ لیکن یہ نفع کچھ عرفی شرفاء کے ہی ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اگر کوئی جو لاہا بھی ولی ہو تو اس کے بیٹے کو بھی وہی نفع حاصل ہو گا جو ان شرفاء کے بیٹوں کو ہو گا غرض شرافت میں آخرت کا بھی نفع ہے مگر اصطلاحی شریف کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو بھی مقبول عند اللہ ہو گا اس کی طرف انتساب نافع ہو گا۔

پس یہ کہنا غلط ہے کہ شرف نسب نافع نہیں۔ نافع ضرور ہے مگر وہ شرف انتسابی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو شریف عند اللہ ہو۔ اس کی طرف انتساب نافع ہے خواہ وہ تمہاری اصطلاح کے موافق شریف ہوں یا نہ ہوں۔ پس آخرت میں تو شریف اور غیر شریف میں اس طرح تفاوت ہو گا باقی دنیا میں تو تفاوت ہے ہی کہ غیر شریف کو شریف زادی کا کفوغیر شریف مانا گیا (نیز عقل و فہم، تہذیب و اخلاق وغیرہ میں بھی شریف و غیر شریف کا تفاوت ظاہر ہو جاتا ہے)

مگر اس کا یہ اثر نہ ہونا چاہئے کہ تم دوسروں کو ذلیل سمجھو۔ بس ایسا تفاوت سمجھنا چاہئے جیسے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی یا باپ اور بیٹے میں اور حاکم و مکوم میں ہوا کرتا ہے۔ اس تفاوت کا یہ اثر نہیں ہوا کرتا کہ یہاں بھائی چھوٹے کو یا باپ بیٹے کو حقیر سمجھنے لگے۔ یہ فیصلہ ہوا اس اختلاف کا۔

یہ توجہ معتبر نہ تھا اصل میں میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نہ انتساب کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایمان و عمل صالح بھی ضروری ہے۔ چنانچہ **الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُتْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ** جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کا اتباع کیا۔

سے یہ مضمون صاف طور سے نکل آیا۔ پس اب کسی کو اس پر قناعت نہ کرنا چاہئے کہ ہم بزرگوں کی اولاد یا سلسلہ میں ہیں یا ہمارے پاس ان کے تبرکات ہیں بلکہ ایمان و عمل کا اہتمام کرنا چاہئے اس کے ساتھ اس انتساب کی برکت بھی کام دے گی ورنہ بے کار ہے۔

يَهُ مَضْمُونُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کیلئے محبوبیت پیدا کر دیں گے۔ سے بھی مستفادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں مقبولیت کا مدار ایمان و عمل صالح ہی کو ٹھہرایا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ ان کے سوا اور کوئی شے مدار کا نہیں بلکہ زواند کی قبیل سے ہیں۔ بہر حال مقصود و مقام یہ ہے کہ اس آیت کے اول جزو میں طریق حصول مقصود مذکور ہے۔ اور اس کی فہرست بتائی گئی ہے جس کے دو جزو ہیں۔ ایک ایمان ایک عمل صالح اور اس وقت میں اسی طریق کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں سو ایمان کی تفصیل کے لئے توباب العقائد مکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں تمام عقائد کی تفصیل کروں تو اس کے لئے ایک جلسنا کافی ہے اس لئے میں اس وقت پوری تفصیل توڑ کر کرنا نہیں چاہتا صرف اقسام اولیہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جن میں آج کل لوگوں نے غلطی کر رکھی ہے۔

عقائد کی غلطیاں

تو سمجھئے کہ آج کل لوگوں کو عقائد کے باب میں دو قسم کی غلطیاں واقع ہو رہی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عقائد کو ضروری سمجھتے ہیں مگر ضرورت کو اسی میں منحصر کرتے ہیں یعنی اعمال کی ضرورت نہیں سمجھتے چنانچہ عام طور سے یہ عقیدہ ہے کہ جو توحید و رسالت کا قائل ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معتقد ہو، وہ جنتی ہے۔ اب اسے کسی عمل کی ضرورت نہیں۔

پھر بعض نے اور انتخاب کیا ہے کہ ایمان کا بھی اختصار کر لیا کیونکہ ایمان کی حقیقت تو یہ ہے۔

التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
ان تمام کی تصدیق کرنا جن کو نبی صلى الله عليه وسلم لائے ہیں۔

یعنی حضور صلى الله عليه وسلم نے جو خبریں دی ہیں کہ اللہ واحد ہے۔ قیامت آنے والی ہے وزن حق ہے۔ حساب کتاب حق ہے۔ دوزخ جنت حق ہے۔ تقدیر کا مسئلہ حق ہے۔ فرشتوں کا وجود حق ہے۔ بل صراط پر چنان حق ہے نماز کی فرضیت حق ہے۔ زکوٰۃ اور روزہ و حج سب کی فرضیت حق ہے۔ کیونکہ یہ طاعات گو اعمال ہیں مگر ان کی فرضیت کا اقرار کرنا ایمان میں داخل ہے یعنی ایک تو نماز کا پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا یہ تو عمل ہے اور ایک ان کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا یہ ایمان کا جزو ہے۔ بد و ن اس اعتقاد فرضیت کے ایمان کا تحقق نہیں ہو سکتا۔

تو ایمان نام تھا ان سب چیزوں کی تصدیق کا مگر آج کل لوگوں نے اس میں بھی انتخاب کر لیا ہے۔ بعضے وزن اعمال کو ضروری نہیں سمجھتے۔ بعضے بل صراط کی تصدیق کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتے۔ کوئی تقدیر کے مسئلے کا انکار کرتا ہے وعلیٰ ہذا۔ اور پھر بھی وہ اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔

تحوڑے دنوں پہلے یہ حالت تھی کہ ان عقائد میں کسی کو اختلاف نہ تھا گوفروع میں اختلاف تھا کیونکہ اختلاف کی دو تسمیں ہیں۔ ایک تو ایسے امور میں اختلاف جن میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ یہ تو فروع ظریحہ میں ہوتا ہے جیسا کہ مجتہدین میں اختلاف ہوا ہے یا ان کے بعد ان کے اتباع میں ہوا ہے۔ یہ تو سب اعمال کے درجہ میں اختلاف ہے عقائد میں کسی کو اختلاف نہ تھا۔ اور اگر عقائد میں بھی کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ عقائد مہمہ مقصودہ میں نہ تھا بلکہ عقائد مہمہ کی فروع میں تھا۔ مگر کچھ دنوں سے ایک ایسا اختلاف پیدا ہوا ہے جس کے ذکر کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا یعنی اب ان امور میں بھی اختلاف ہونے لگا ہے جن میں کچھ دن پہلے کسی کوشش بھی نہ تھا مگر اس وقت اس نئی تعلیم کی بدولت بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ علم دین نہ ہونے یادیں سے محبت اور علماء کی صحبت نہ ہونے کی بدولت عقائد مہمہ میں بھی اختلاف ہونے لگا ہے۔

خرابی کی وجہ

ہمارے بزرگوں میں گو علم دین تو عام طور پر کامل نہ ہوتا تھا عالم دو چار دس پانچ ہی ہوتے تھے مگر یہ دو چیزیں ان کے پاس بڑی کام کی تھیں یعنی دین کی محبت اور علماء کی صحبت مگر اس وقت ہمارے بھائیوں نے علم دین کو چھوڑا ہی تھا ساتھ میں ان دنوں کو بھی چھوڑ دیا اور یہی وجہ ہے ہماری خرابیوں کی۔ کیونکہ جو شخص طبیب کے پاس نہ جائے گا اس کو سخت نہیں ہو سکتی۔ اور طبیب کے پاس وہ جائے گا جس کو سخت مطلوب ہو۔ تو آج کل ہمارے بھائیوں کو دراصل دین ہی سے محبت نہیں۔ اس لئے اطباء دین کے پاس نہیں جاتے۔ اسی لئے ان کے ایمان و دین کو قسم کے روگ لگ جاتے ہیں جن کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ یہاں کو بیماری کی اطلاع بھی نہ ہو اور اس سے سخت یہ ہے کہ وہ تدرستوں کو بیمار سمجھنے لگے۔ جیسے ایک نکھانا ک والوں کو ناکوہتا تھا یہی حالت ہمارے بھائیوں کی ہے کہ وہ پرانے لوگوں کو جو ایمان میں کامل ہیں تدرست تو کیا سمجھتے ان کے لئے ایسے ایسے لقب تجویز کرتے ہیں کہ وہ اپنے جواب ہی کی فکر میں پڑ جاویں۔ عجیب الثازمانہ آگیا ہے۔

صاحبہ اپرانے لوگوں میں بھی کنہگار تو ہیں فاسق بھی ہیں مگر ان کی حالت یہ ہے کہ اہل علم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اگر ان کو عذاب آخرت سے ڈرایا جائے تو ڈر جاتے ہیں۔ وہ اپنے کو اہل الراء نہیں سمجھتے۔ اسی لئے ان کا ایمان سلامت ہے۔ باقی جہاں نئی تعلیم ہے اور نئی تعلیم ہی تعلیم ہے وہاں تو ایمان کی خیر صلاحت ہے۔ نہ ان میں دین کی محبت ہے نہ اہل دین کی عظمت ہے۔ ہر شخص

اپنے کو صاحب رائے سمجھتا ہے اور علماء سے مسائل دینیہ میں مراجحت کرتا ہے باقی جہان نئی تعلیم کے ساتھ یہ دونوں دلتوں بھی ہوں یعنی دین کی صحبت اور اہل اللہ کی صحبت تو وہاں اس سے دین کا کچھ ضرر نہیں ہوتا بلکہ وہاں دنیا کے ساتھ دین بھی جمع ہو جاتا ہے۔ اسی صحبت و علم دین کی نسبت کہتے ہیں۔ دریں زمانہ رفیقہ کہ خالی از خلل است صراحی مے ناب و سفینہ غزال است اس زمانہ میں جو رفیق خلل سے خالی ہے وہ صحبت الہی اور دین ہے۔

صراحی مے ناب سے صحبت مراد ہے یہ ان کی خاص اصطلاح ہے اور سخینہ غزل سے علم دین مراد ہے۔ جس کا ایک طریق تعلم ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو صحبت اہل اللہ ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو دین کی کتابوں کا مطالعہ ہے۔ مگر کتاب کے لئے بھی صحبت کی ضرورت ہے۔ نزی کتب بینی سے دین کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کسی عالم سے سبقاً سبقاً نہ پڑھا جاوے خواہ وہ کتاب اردو زبان ہی میں کیوں نہ ہو۔ جیسے اردو میں طب کی کتابیں دیکھ کر کوئی شخص طبیب نہیں بن سکتا۔ جب تک کسی طبیب کے پاس رہ کر نہ پڑھے۔

پھر اس زمانہ میں تو لوگ کتابیں بھی ایسی مختلف دیکھتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ بس جو کتاب سامنے آئی دیکھنے لگے چاہے اس کا مصنف محقق ہو یا غیر محقق۔ پھر مختلف لوگوں کی کتابیں دیکھ کر خود ہی فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس مسئلہ کو دوسرے سے اچھا لکھا ہے اور غضب یہ ہے کہ اپنے فیصلہ کو معتبر بھی سمجھتے ہیں۔ بھلا اگر کوئی ایسا شخص جو قانون گورنمنٹ سے ناواقف ہو کر کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے لگے تو کیا اس کا فیصلہ معتبر ہو گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر حیرت ہے کہ جو شخص خدا کے قانون سے ناواقف ہے اس کے فیصلہ کو معتبر مانا جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وکلاء اور بیرثروں کی کیا حاجت ہے۔ بس ہر شخص قانون کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کرے۔ مگر یہاں سب اس پر متفق ہیں کہ قانون سلطنت کا سمجھنا ہر اک کا کام نہیں بلکہ جس نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہوا اور اس میں امتحان دے کر پاس ہو گیا ہوا کی رائے معتبر ہے۔ مگر حیرت ہے کہ قانون الہی کے سمجھنے کے لئے کسی امتحان اور پاس کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص اس میں رائے زنی کرنے کے لئے تیار ہے اردو کی کتابیں دیکھ کر فیصلہ کرنے کو آمادہ ہے اور فیصلہ بھی کیسے صحیح اصول پر بنی کہ جو سمجھ میں نہیں آیا اس کی نفی کر دی۔ بس ہمارے بھائیوں نے یہی ایک سبق یاد کر لیا ہے جیسے ایک استاد نے اپنے ایک بے دوف شاگرد کو سکھلا دیا تھا کہ جو مسئلہ تجھ سے پوچھا جاوے اگر معلوم ہو تو بتلا دیا اور جو معلوم نہ ہوا تو

یہ کہہ دیا کہ اس میں اختلاف ہے (اس سے جہالت کا عیب چھپا رہے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ ان کو معلوم تو ہے مگر اختلاف کی وجہ سے ایک شق کو معین نہیں کرتے اور مختلف فیہ مسائل بکثرت ہیں۔ اس لئے اکثر موقع میں یہ جواب صحیح ہو گا۔ مگر وہ بے وقوف تو تھا ہی اس نے بعض متفق علیہ مسائل میں بھی کہہ دیا کہ اس میں اختلاف ہے بالآخر اس کی حماقت ظاہر ہو کر رہی)

خود رائی کا مرض

اس طرح ہمارے بھائیوں نے ایک سبق پڑھ لیا ہے کہ جوبات ان کی سمجھ میں نہ آئی کہہ دیا کہ یہ عقل کے خلاف ہے اس لئے قابل قبول نہیں۔ اور لگے نصوص میں تحریف و تاویل کرنے۔ چنانچہ ان کے نزدیک پلصراط بھی خلاف عقل ہے اور ساری معادیات اور معجزات خلاف عقل ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے عقائد میں بھی اختصار و انتخاب کرنا شروع کیا۔ (اب ایمان کے معنی وہ تھے جو پہلے تھے یعنی تصدیق بما جاءہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ یہ معنی ہوں گے کہ تصدیق بما وافق لعقل مما جاءہ بالنبی یعنی ان کے نزدیک ایمان کہتے ہیں اس چیز کے مانے کو جو حضور کی بیان کردہ باتوں میں سے ان کی عقل کے مطابق ہو)

میں کہتا ہوں کہ یہاں دو مقدمے ہیں ایک یہ کہ جوبات شریعت میں عقل کے خلاف ہے تو وہ کس کی عقل کے خلاف ہے۔ تمہاری عقل کے یا سب عقول کی عقل کے۔ دوسری شق تو مسلم نہیں کیونکہ علماء راشدین جن کی عقل کے سامنے اہل دنیا کی عقل کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ ان کو خلاف عقل نہیں کہتے اور ہر زمانہ میں ان مسائل کو اسی صورت پر تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ اس صورت میں شریعت میں تعلیم دی گئی ہے چنانچہ حضرات صحابہ و تابعین و علماء و صلحاء امت سب ان کا اعتقاد ظاہر کے مطابق رکھتے آئے ہیں۔ اگر یہ کہو کہ تمہاری عقل کے خلاف ہے تو اس صورت میں صغری تو مسلم مگر یہ کبری مسلم نہیں کہ جو تمہاری عقل کے خلاف ہو وہ غلط اور ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ قوانین سلطنت میں بہت سی باتیں تمہاری عقل میں نہیں آئیں مگر تم قانون دانوں کی عقل پر اعتماد کر کے ان کو تسلیم کرتے ہو۔

اس کو بھی جانے دؤں تھیں سے پوچھتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے تم جس طرح پیدا ہوئے ہو کیا یہ تمہاری عقل میں آتا ہے۔ واللہ! ہم کو اس پر حیرت اس لئے نہیں ہوتی کہ رات دن اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے اگر اس کا مشاہدہ نہ ہوتا اور صرف بیان سے یہ طریقہ معلوم ہوتا تو ہرگز عقل میں نہ آتا۔

اس کا امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ایک نوزائیدہ بچہ کی اس طرح نگرانی کرو کہ وہ یہ

بات سننے یاد کیھنے نہ پائے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو فلسفہ اور سائنس اور طب سب کچھ پڑھادیں مگر یہ مسئلہ نہ پڑھا میں جس میں طریق ولادت کا ذکر ہو پھر جب وہ بی اے اور ایم اے اور ایل ایل بی ہو جائے اس وقت اس سے کہو کہ خبر بھی ہے تو کیوں کر پیدا ہوا تھا۔ اور اس سے بیان کرو کہ اول تیرا بابا پ تیری ماں کے پاس گیا تھا جس سے منی کے کچھ قطرے تیری ماں کے پیٹ کے اندر جو رحم ہے اس میں گرے تھے پھر رحم کے اندر اس کی پرورش ہوئی کہ خون بنا اور خون سے علاقہ پھر مضغہ بنا۔ پھر گوشت میں ہڈیاں بنیں پھر جسم کامل تیار ہو گیا تو اس میں روح پڑی جس کی پرورش عرصہ تک خون رحم سے ہوتی رہی۔ پھر نوماہ بعد تو شرمگاہ مادر سے نکلا۔ اور اب وہی خون رحم دودھ کی شکل میں ماں کے پستان میں آ گیا اس سے دو برس تک پرورش پاتا رہا الی آخرہ۔ تو میں سچ کہتا ہوں کہ واللہ العظیم وہ نہایت سختی سے آپ کی مخالفت کرے گا اور کہے گا کہ ایک قطرہ سے ایسے حسین جسم کا بنا، پھر اس کا شرمگاہ سے جو نہایت سمجھ راستہ ہے نکل آنا عقل کے بالکل خلاف ہے۔

اب بتائیے کہ اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے کہ جو بات جس کی عقل میں نہ آئے وہ غلط ہوا کرے تو پھر آپ کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا بھی غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ خلاف عادت کو خلاف عقل کہتے ہیں جیسے وہ نوزائیدہ بچہ جس کی ایسی نگرانی کی گئی ہو جس کا اوپر ذکر ہوا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کو خلاف عقل کہے گا کیونکہ اس نے یہ بات کبھی دیکھی یا اسی نہ تھی۔ اور آپ اس کو خلاف عقل اس لئے نہیں کہتے کہ آپ کو اس کی عادت ہو گئی۔ ورنہ آپ بھی وہی کہتے جو وہ کہتا اور ظاہر ہے کہ خلاف عقل کا وقوع نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ خلاف عقل ایسی باتوں کو بھی کہتے ہیں جن کا وقوع مشاہدہ ہو جائے وہ خلاف عقل نہ رہیں۔

خلاف عادت اور خلاف عقل کا فرق

معلوم ہوا کہ آپ دراصل خلاف عادت کو خلاف عقل کہہ رہے ہیں اور کسی بات کو صحیح ہونے کیلئے خلاف عادت ہونا ضروری ہے اور نہ یہ غلط ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ پھر اس لڑکے کے قول کو بھی مان لیتا چاہئے جو ماں کے پیٹ سے انسان کے پیدا ہونے کو غلط کہتا تھا اور نیز بہت سی باتوں کو جنہیں آپ چار دن پہلے مستبعد اور محال سمجھتے تھے اور آج ان کا مشاہدہ ہو رہا ہے غلط کہنا چاہئے۔ (جیسے ریل کا ایک گھنٹے میں سانچھے میل طے کرنا اور پانچ منٹ میں لندن سے تار کے ذریعہ سے خبر آ جانا وغیرہ وغیرہ)

اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے امور عادت کے خلاف ہوتے رہتے ہیں میں نے ایک مرغی کا پچ دیکھا ہے جس کے چار پیر تھے (اور آج کل وہی میں دوڑ کیاں جڑی ہوئی نمائش میں آئی تھیں جن کے تمام اعضاء جدا جداتے تھے مگر کمر جڑی ہوئی تھی اور پیشاب گاہ الگ الگ اور پیشاب نکلتا ایک رستے سے تھا) تو بتایئے کیا خلاف عادت کے لئے بھی کوئی ضابطہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر بنائ کر کے بعض امور کو مانا جائے کسی بات کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ خلاف عادت ہے کیونکہ عادت کا مقتضان تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی اصلی حالت پر رہے معدوم ہے اور جو موجود ہے وہ کبھی فنا نہ ہو مگر رات دن اس کے خلاف مشاہدہ ہو رہا ہے۔ ہزار ہا معدوم وجود میں آتے اور لاکھوں موجود معدوم ہو جاتے ہیں معلوم ہوا کہ کسی بات کا خلاف عادت ہونا اس کے غلط ہونے کو سلز منہیں۔

اب دوسرا مقدمہ یہ سن لیجئے کہ آپ خلاف عادت کو خلاف عقل کہتے ہیں اور ان دونوں میں فرق نہیں کرتے حالانکہ یہ بڑی سخت غلطی ہے سننے میں اس کا فرق بتاتا ہوں۔ خلاف عادت تو وہ ہے جو عقلًا ممکن ہو مگر مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے لا شوار مستعد معلوم ہوتا ہو (اور خلاف عقل وہ ہے جو عقلاناممکن ہے یعنی عقل اس کے استحالہ پر دلیل قائم کر سکے اور استحالہ کہتے ہیں اجتماع نقیضین کو تو خلاف عقل وہ ہے جس کے ماننے سے نقیضین کا ایک محل میں ایک آن میں ایک جہت سے مجتمع ہونا لازم آجائے)

اب جو لوگ معادیات کو اور پل صراط وزن اعمال وغیرہ کو خلاف عقل کہتے ہیں وہ مہربانی کر کے ان کے استحالہ پر دلیل عقلی قائم کریں (اور بتائیں کہ ان کے ماننے سے اجتماع نقیضین کیوں کر لازم آتا ہے) یقیناً وہ ہرگز کوئی دلیل عقلی ان کے استحالہ پر نہیں قائم کر سکتے بس بہت سے بہت یہی کہیں گے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیونکر ہو جائے گا۔ اس کی نظر دکھاؤ۔ بس آج کل تمام شہادات کا حاصل یہ ہے کہ اس کی کوئی نظر نہیں ملتی اس لئے یہ حال ہے اور جو دعویٰ امکان کا کرتا ہے وہ اس کی نظر دکھائے۔ عجب اندھیر ہے کہ نظر پر ثبوت شے کو موقوف بتایا جاتا ہے اور جس چیز کی نظر نہ ملے اس کو خلاف عقل اور مجال کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو ثبوت کی حقیقت ہی معلوم نہیں نظر پر ثبوت کو موقوف سمجھتے ہیں (میں کہتا ہوں کہ جو صنائع اور جانبات اس زمانہ میں ایجاد یا مشاہدہ ہوئی ہیں کیا اس زمانہ سے پہلے کسی کے پاس ان کی نظر تھی اور اگر نہ تھی تو کیا اس وقت یہ خلاف عقل اور مجال تھیں۔ اور اگر مجال تھیں تو پھر آج ان کا وقوع کیوں کر ہوا۔ معلوم ہوا کہ کسی شی کا امکان نظر کے ملنے پر موقوف نہیں) تو خوب سمجھئے کہ کسی دعویٰ کا ثبوت نظر کے ملنے پر موقوف نہیں بلکہ نظر تو محض تو ضعج اور سوری کے لئے ہوا کرتی ہے۔ مدعا

ثبتوت کے ذمہ نظر کا پیش کرنا ہرگز لازم نہیں خصوصاً یہ مدعی کے ذمہ جو کسی امر کے ثبوت کا دعویٰ یہ کہہ کر کرتا ہو کہ یہ امر خلاف عادت بطور مجرزہ کے واقع ہوا یا قیامت میں خلاف عادت یوں ہو گا۔ اس کے ذمہ تو کسی قاعدہ سے بھی نظر کا پیش کرنا لازم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ تو اپنے دعوے میں تصریح کر رہا ہے کہ مدعی بے نظری کی صفت کے ساتھ متصف ہے اگر نظر کا پیش کرنا کہ مدعی کے ذمہ کسی وجہ میں لازم بھی ہو سکتا ہے تو صرف اس مدعی کے ذمہ ہو سکتا ہے جو اپنے دعویٰ کو موافق عادت بتائے اور جو خرق عادت کا مدعی ہوا اس سے نظر کا مطالبہ کرنا عجیب ہے)

ثبتوت کی حقیقت

اب میں آپ کو ثبوت کی حقیقت بتلاتا ہوں جس کے نہ جانے کی وجہ سے لوگوں کا مذاق ایسا بگڑ گیا ہے کہ آج کل علماء سے معراج کی نظر کا سوال ہوتا ہے شق انقرہ کی نظر کا مطالبہ ہوتا ہے تو سننے یہ عقلی مسئلہ ہے کہ کسی خبر کا صحیح ہونا یا کسی امر کا واقع ہونا نظر پر ہرگز موقوف نہیں۔ چنانچہ جن کو عقلیات سے کچھ بھی مس ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ مدعی اگر نظر بیان کر دے تو یہ اس کا تبرع ہے بلکہ ثبوت خبر کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک مخبر بہ کامکن ہونا دوسرے مخبر کا صادق ہونا۔ پس ہمارے ذمہ تمام مجرزات اور معادیات کے متعلق دو باتوں کا ثابت کرنا ہے۔ ایک یہ کہ وہ فی نفس ممکن ہوں دوسرے مخبر صادق نے ان کے قوع کی خبر دی ہو۔ ان دو باتوں کے ثابت کرنے کے بعد کسی کو انکار کا حق نہ ہو گا۔

اب ہم معراج وغیرہ اور پل صراط وزن اعمال وغیرہ کے ثبوت پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ یہ مجرزات اور معادیات فی نفس ممکن ہیں یہ تو دلیل کا پہلا مقدمہ ہے۔ اگر کسی کو اس مقدمہ میں کلام ہو تو اس کو لازم ہے کہ ان کے امتحان پر دلیل قائم کرے اور ہم کو امکان پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ امکان کی کوئی ملت نہیں ہوتی بلکہ امتحان پر دلیل نہ ہونا یہی امکان کی دلیل ہے (اور اپر معلوم ہو چکا کہ امتحان کہتے ہیں اجتماع نقیضین کو محل واحد میں آن واحد میں جہت واحدہ سے تو جس کو ان امور کے امکان میں کلام ہو وہ ثابت کرے کہ ان میں اجتماع نقیضین کس طرح لازم آتا ہے)

دوسرامقدمہ یہ ہے کہ جس امر ممکن کے قوع کی مخبر صادق خبر دے وہ ثابت ہے (اور ان مجرزات و معادیات کے قوع کی خبر مجرز صادق نے دی ہے) پس یہ امور واقع و ثابت ہیں۔ اب ان مقدمات میں اگر کوئی کلام کرے تو اس کا جواب ہمارے ذمہ ہے باقی نظر کا پیش کرنا ہمارے ذمہ نہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے پل صراط پر چلنا عقل کے خلاف ہے سمجھ میں نہیں آتا تو میں کہوں گا کہ بتاؤ کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں کیا استحالہ ہے کہ ایک بار یک چیز پر پیر آجائے جب یہ محال نہیں اور

مخبر صادق اس کے وقوع کی خبر دے رہا ہے تو پھر انکار کی کیا جد؟ اگر کوئی انکار کرے تو اس کا یہ حق تو ہے کہ امکان کو روکرے اور امتناع کو ثابت کرے یادوں سے مقدمہ میں کلام کرے کہ یہ مخرب صادق کی خبر نہیں تو ہم دلیل امتناع سننے کے لئے تیار ہیں۔ اور کلام اللہ کو کلام اللہ ثابت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے پس جب یہ دلوں باتیں ثابت ہو جائیں پھر ہم نظیر پیش کرنے کے ذمہ دار نہیں اور اگر نظیر ہم کو معلوم بھی ہوتا بھی نہ بتائیں گے کیونکہ یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم سب معاملات آپ کو بتلا دیا کریں۔ ہاں اگر تم یہ ثابت کرو کہ مت Dell کے ذمہ نظیر کا پیش کرنا ضروری ہے تو جب ثابت کرو گے اس وقت دیکھا جائے گا۔ بدون اس کے ہم زوائد کے ساتھ جواب نہ دیں گے یہ عوام کو زیادہ تر جواب دینے والوں ہی نے خراب کیا ہے کہ وہ ہر بات میں تبر عاظمیں بیان کرنے لگے۔ عوام سمجھے کہ یہ بھی مجیب کے ذمہ ہے تو میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں کہ مت Dell کے ذمہ یہ ہرگز نہیں اور جو عوامی لزوم کا کرے وہ دلیل قائم کرے۔ یہ ہے دلیل مطروح تمام مجوزات و معادیات میں برابر چل سکتی ہے اور جو دلیلیں آج کل بیان کی جاتی ہیں جن میں زیادہ تر نظیر سے جواب دیا جاتا ہے وہ مطروح نہیں ہیں۔

اب میں عقلائیہ ثابت کرتا ہوں کہ کسی واقعہ کا ثبوت نظیر پر موقوف نہیں۔ تقریباً اس کی یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ نظیر بھی ایک واقعہ ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس کے لئے بھی نظیر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اعلیٰ ہذا۔ اگر ہر نظیر کے لئے نظیر کی ضرورت رہی تو مستحیل مسلسل لازم آئے گا اور نظیر سے ایک دعویٰ بھی ثابت نہ ہو سکے گا اور اگر کہیں جا کر شہرو گے کہ اس نظیر کے لئے کسی نظیر کی ضرورت نہیں تو معلوم ہوا کہ کسی واقعہ کا ثبوت بدون نظیر کے بھی ہو گیا تو پھر پہلے ہی کے لئے نظیر کی کیوں ضرورت ہے اور جس طرح تم نے اخیر میں ایک واقعہ کو بلا نظیر مان لیا تو پہلے ہی کو بلا نظیر کیوں نہیں مان لیتے۔

غرض کسی دلیل سے مت Dell کے ذمہ نظیر کا بیان کرنا نہیں ہے ہاں اگر بیان کر دے تو یہ اس کی شفقت ہے اور اس کا موقع اس وقت ہے جب کہ سائل دلیل کے مقدمات پر کلام کرنے سے عاجز ہو جاوے اور تسلیم کرے کہ واقعی دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہو گیا اور مجھے اب انکار کا کوئی حق نہیں۔ اس وقت مجیب اگر تقریب فہم کے لئے کوئی نظیر دے دے تو اس کا احسان ہے (اور اگر وہ نظیر پر ثبوت دعویٰ کو موقوف بتا رہا ہے تو مت Dell نظیر ہرگز بتائے بلکہ اس سے اس تو قف علی نظیر کی دلیل مانگے) چنانچہ اس وقت میں ثبوت پل صراط پر دلیل قائم کرے اس کی ایک نظیر تبر عا بتلاتا ہوں۔

پل صراط کی حقیقت

اول پل صراط کی حقیقت سمجھئے مگر یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ مضمون ظنی ہے۔ اس صورت پر پل

صراط کو سمجھنا واجب نہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ آدمی عملًا پختہ عقیدہ رکھے۔ باقی بعض طبائع ضعیف ہوتی ہیں۔ ان کے لئے میں یہ مضمون بیان کرتا ہوں اگر وہ اس طرح بھی پل صراط کو سمجھ لیں تو کچھ حرج نہیں مگر لازم بھی نہیں۔ لازم تو ہی اجمالاً مان لینا ہے۔

اس تنبیہ کے بعد کہتا ہوں کہ اول اس کی حقیقت سمجھو جس کے لئے اول یہ مقدمہ سنو کہ اس عالم کے سوا ایک عالم اور بھی ہے (مسلمان تو اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اگر انکار کریں تو ہمارے پاس ان کے جواب کے لئے وہی دلیل مطرد ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ دوسرے عالم کا ہونا ممکن ہے۔ کسی کو امکان پر کلام ہو تو دلیل انتفاع قائم کرے اور جس ممکن کی خبر مجرّب صادق نے دی ہو وہ ثابت ہے۔ پس دوسراعالم ثابت ہے اور مجرّب کے صادق ہونے کو ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں)

دوسرامقدمہ یہ ہے کہ عالم کے اختلاف سے بعض احکام اور حالات بدل جاتے ہیں (اس کی بھی دلیل تو وہی ہے جو مذکور ہوئی اور تقریب فہم کے لئے ایک نظر بھی بتلاتا ہوں) جیسے اقلیم کے بد لئے سے بھی دنیا ہی میں حالات بدل جاتے ہیں (مثلاً یہاں اس وقت رات ہے اور ایک اقلیم میں اس وقت دن ہے۔ یہاں آج کل گرمی ہے اور کسی اقلیم میں اس وقت سردی ہے وہی نہ ہے) یہاں ۲۲ گھنٹے کا دن ہے اور بعض اقلیم میں چھ مہینے کا دن ہے اور چھ مہینے کی رات ہے اور یہیں سے معلوم ہوا ہو گا کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ عالم آخرت کا ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور اس پر بعض لوگ ہنتے ہیں تو یہ ان کی حماقت ہے۔ اس میں استبعاد کیا ہے۔ جب عالم دنیا ہی میں اقلیم کے بد لئے سے یہ بات مشاہد ہے کہ بعض جگہ چھ ماہ کا دن ہوتا ہے تو اختلاف عالم کے بعد آخرت میں اگر ہزار برس کے برابر ایک دن ہو تو کیا تجہب ہے۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اختلاف کی کوئی حد نہیں ہے نہ یہ منضبط ہو سکتا ہے (یہ مقدمہ بد یہی ہے محتاج دلیل نہیں اور جو شخص کسی حد پر انہا اختلاف کا دعویٰ کرے اور اس سے آگے اختلاف ہونے کو متعین کہے وہ اس پر دلیل قائم کرے)

چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ممکن ہے جو چیز یہاں عرض ہو اس عالم میں جا کر جو ہر ہو جائے (اس کا ممکن ہونا بھی ظاہر ہے۔ یہ تو مسلم ہے کہ ایک آن اور ایک محل میں شے واحد عرض و جو ہر نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے یہاں عرض ہو اور دوسری جگہ جو ہر ہو جائے اس کے انتفاع پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی اگر کسی کے پاس دلیل ہو پیش کرے) اور استینا اس کے طور پر اس کو یوں سمجھئے کہ اس زمانہ میں بعض آلات کے ذریعہ سے حرارت و برودت وغیرہ کا

وزن ہوتا ہے حالانکہ پہلے حکماء ان کو مقولہ کیف سے سمجھتے تھے جس کے لئے وزن و مقدار نہیں ہو سکتی مگر اس زمانہ میں ان کے لئے وزن ہونا بھی ثابت ہو گیا۔

اسی لئے میں تو کہا کرتا ہوں کہ جتنی یہ نئی ایجادات ہیں سب معادیات کے سمجھنے کے لئے معین و مدد ہیں۔ چنانچہ گراموفون ہاتھ پر کے بولنے پر بڑی دلیل ہے کیونکہ گراموفون میں تروخ بھی نہیں اور کلام کرتا ہے تو اعضاء انسانی کے بولنے میں کیا تعجب ہے جن میں حیات کا تلبس ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے جو ناسیٰ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوة کسوف کے موقع پر فرمایا کہ میں نے مسجد کی دیوار کے قریب جنت و دوزخ کو دیکھا۔ بعض لوگ اس پر ہستے ہیں کہ جنت و دوزخ تو آسمان زمین سے بھی بڑی بُتلائی جاتی ہیں۔ حضور نے ان کو دیوار پر کیوں کر دیکھ لیا اور اصلیٰ حالت پر کیسے دیکھ لیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے فوٹو اور خورد میں کو ایجاد کرا کے اس استبعاد کو دور کر دیا فوٹو میں بڑی سے بڑی شے کو چھوٹا کر کے دکھایا جا سکتا ہے اور خورد میں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز پہاڑ بنائے کر دکھائی جا سکتی ہے تو کیا خدا تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ اس نے جنت و دوزخ کا فوٹو مسجد کی دیوار پر اتار دیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاع میں خورد میں کی قوت رکھ دی ہو جس سے فوٹو کی چھوٹی چیزیں آپ کو اصلیٰ حالت پر نظر آگئیں ہوں اور حدیث میں یہی لفظ وارد ہے۔ مثلث لی الجنة والنار۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت و دوزخ زمین میں آئی تھیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لئے مثال ہو گئیں۔

اسی لئے جب کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ کیونکہ ان سے شرعیات کا استبعاد دور ہو جاتا ہے چنانچہ ایک عجیب بات اس زمانہ میں یہ ہے کہ آج کل حرارت و بروڈت کا بھی وزن ہونے لگا۔ کہ اس مکان میں کس وزن کی حرارت ہے اور کس درجہ کی بروڈت ہے (اور بخار میں تھرمائیٹر سے مریض کی حرارت کا وزن کیا جاتا ہے) اب اگر کسی گنوار سے کہئے کہ گرمی بھی تلتی ہے تو اس کو کتنا تعجب ہو گا تو جب دنیا ہی میں بعض اعراض کا وزن ہونے لگا جس کی حقیقت ہے مابہ الوزن کے انخفاض و ارتفاع سے مقدار کا معلوم ہو جانا جو کہ سرسری نظر میں خواص جو ہر سے ہے تو اگر دوسرے عالم میں جا کر وہ جو ہر ہی بن جاوے تو کیا تعجب ہے۔

اور مجھے اگر ایک برلن میں ٹھنڈا پانی بھر کر وزن کرو تو اور وزن ہو گا اور اسی میں گرم پانی بھر کر وزن کرو تو اور وزن ہو گا۔ آخر کمی بیشی کیوں ہے۔ پانی کی مقدار تو دونوں حالتوں میں یکساں

تھی۔ معلوم ہوا کہ بروڈت و حرارت کا کچھ وزن ہے۔ اب خواہ اس کو یوں تعبیر کر لیجئے کہ وزن پانی ہی کا ہے مگر بشرط بروڈت و حرارت کے مگر آخراں کو وزن میں دخل تو ہوا تو اس عالم میں اگر یہی دخل درجہ موزونیت میں اس طرح ہو جاوے کہ یہ عرض جو ہر بن جاوے تو کیا تعجب ہے۔ اور سنئے اطباء کہتے ہیں کہ جس شخص میں صفراء کا غلبہ زیادہ ہو وہ خواب میں آگ بہت دیکھتا ہے دیکھنے جو چیز یہاں عرض تھی یعنی حرارت صفراؤی وہ عالم خیال میں آگ بن گئی جو کہ جو ہر ہے۔ پس اس عالم میں عرض کا جو ہر بن جانا کچھ بعد نہیں۔

اب پل صراط کی حقیقت سمجھنے کو اسکے بیان کی ضرورت نہیں کیونکہ مسلمان کاملاً تو یہ ہونا چاہئے۔ حدیث مطرب و مے گوہ راز دہر کمتر جو کہ کس نکشود و نکشاید حکمت ایں معما را محبت اور عشق الہی کا بیان کرو راز دہر کے پیچھے نہ پڑو اس لئے کہ کسی نے حکمت و دانائی سے اس معمہ کو حل نہیں کیا اور نہ کر سکے گا۔

اور میں کہہ چکا ہوں کہ میرے ذمہ اس کا بیان کرنا لازم نہیں۔ میرے ذمہ تو وہی تھا جو میں بیان کر چکا ہوں مگر اس میں حظ نہ آیا تھا اس لئے تمہارا بیان کرتا ہوں کہ خیر جس طرح بھی کام چلے اچھا ہے تو سنئے پل صراط کی حقیقت شریعت ہے۔

کما قال صاحب الكشف من العرفاء

پس دنیا میں پل صراط کی نظر شریعت میں موجود ہے اتنا فرق ہے کہ یہاں یہ عرض ہے اور وہاں جا کر جو ہر بن جائے گی باقی اور تمام صفات میں یہ اس کی نظر ہے جیسے وہ بال سے باریک ہے اور تکوار سے تیز ہے جس پر چلنادشوار ہے۔

طريق شريعت

ای طرح طريق شریعت نہایت باریک اور نازک ہے جس پر استقامت سے چل لینا ہر اک کا کام نہیں۔ کیونکہ شریعت مقدسہ مرکب ہے علم و عمل سے تو اس پر چلنے کے لئے دو قوتوں کی ضرورت ہے۔ ایک قوت علمیہ کی دوسرے قوت عملیہ کی۔ قوت علمیہ کا تعلق عقل سے ہے اور قوت عملیہ کا تعلق ارادہ سے۔ پھر عمل بعض مفسد ہیں اور بعض مضر تو اس میں کہیں تو جلب منفعت کی ضرورت ہے اور کہیں دفع مضرت کی اور جو ارادہ جلب منفعت سے متعلق ہو اس کو قوت شہویہ کہتے ہیں اور جو دفع مضرت کے متعلق ہو اس کو قوت غصبیہ کہتے ہیں۔ تو شریعت پر چلنے کے لئے تین قوتوں کی ضرورت ہوئی۔

۱۔ قوت عقلیہ ۲۔ قوت شہویہ ۳۔ قوت غصبیہ

یہی اصول اخلاق کہلاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے تین درجے ہیں۔ افراط، تفریط، توسط اور شریعت نام ہے تو سط کا شریعت میں افراط عقل سے بھی کام نہیں چلتا نہ تفریط سے کام چلتا ہے بلکہ توسط کی ضرورت ہے جس کا نام حکمت ہے۔ اور قوت عقلیہ کے افراط کا نام جزیرہ ہے۔ یہ نہایت مضر ہے۔ جب عقل بہت بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز میں احتمالات عقلیہ پیدا ہونے لگتے ہیں جس سے آدمی وہی ہو جاتا ہے جیسے اہل فلسفہ میں ایک فرقہ لا ادریہ مشہور ہے وہ کسی حقیقت کا وجود تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو دور سے دیکھ کر آدمی سمجھتے ہیں اور وہ گدھا لکھتا ہے بہت لوگ ایک شخص کو حسین سمجھتے ہیں اور بہت سے اس کو بد صورت سمجھتے ہیں بعض لوگ ایک چیز کو میٹھا بتلاتے ہیں اور بخار والا اسے کڑوی بتلاتا ہے۔ اسی طرح مسائل عقلیہ میں کوئی ایک دلیل کو صحیح کہتا ہے کوئی غلط تو جب ہمارے حواس ظاہرہ اور باطنہ میں اتنا اختلاف ہے اور کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو یہ کیا اطمینان ہے کہ جس کو ہم نے آدمی سمجھا ہے اور وہ آدمی ہی ہے گدھا نہیں۔ اور جس کو ہم زمین کہتے ہیں وہ زمین ہی ہے آسمان نہیں۔ ممکن ہے ہماری نظر نے غلطی کی ہوا اور جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں ممکن ہے وہاں ہماری فہم نے غلطی کی ہو۔ بس اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ ہر بات میں ان کو شک ہے اور شک میں بھی شک ہے۔

عقل کی حد

تو حضرت یہ عقل جب بڑھتی ہے تو اتنا پریشان کرتی ہے کہ زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے بہت سے عقلاں کے تباہ ہونے کی کہ انہوں نے عقل سے رہ کام لیا جو اس کی حد سے آگے تھا اور ہر چیز کا اپنی حد سے نکل جانا مضر ہے۔

میں تو عقل کے متعلق ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ایسی ہے جیسے گھوڑا پہاڑ پر چڑھنے والے کے لئے۔ اب تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑ تک پہنچے اور پھر پہاڑ پر بھی اسی پر سوار ہو کر چڑھنے لگے۔ یہ غلطی پر ہیں ضرور کسی سیدھی چڑھائی پر سوار اور گھوڑا دونوں گریں گے۔ اور ایک وہ ہیں جو یہ سمجھ کر کہ گھوڑا پہاڑ پر تو کام دیتا ہی نہیں تو اس سے صاف سڑک پر بھی کام لینے کی کیا ضرورت ہے وہ گھر ہی سے پیدل چل پڑے نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑ پر پہنچ کر تھک گئے یہ بھی نہ چڑھ سکے۔ تو ان دونوں کی رائے غلط تھی۔ پہلی جماعت

نے گھوڑے کو ایسا باکار سمجھا کہ اخیر تک اسی سے راستہ طے کرنا چاہا اور دوسرے نے ایسا بیکار سمجھا کہ پہاڑ تک بھی اس سے کام نہ لیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ گھوڑا پہاڑ تک تو کار آمد ہے اور پہاڑ پر چڑھنے کے لئے بے کار۔ اس کے لئے کسی اور سواری کی ضرورت ہے۔

یہی حال عقل کا ہے کہ عقل سے بالکل کام نہ لینا بھی حماقت ہے اور اخیر تک کام لینا بھی غلطی ہے۔ بس عقل سے اتنا کام لو کہ توحید و رسالت کو سمجھو اور کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا معلوم کرو۔ اس سے آگے فروع میں عقل سے کام نہ لینا چاہئے بلکہ اب خدا اور رسول کے آگے گردن جھکا دینی چاہئے چاہے ان کی حکمت عقل میں آوے یا نہ آوے۔

دیکھئے قانون سلطنت کے منوانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے یہ سمجھادیا جائے کہ جارج چشم بادشاہ ہیں اس کے بعد تمام احکام کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ بادشاہ کے احکام ہیں اس لئے مانا پڑیں گے۔ تو یہ صورت آسان ہے اور تمام عقلاء ایسا ہی کرتے ہیں دوسرا صورت یہ ہے کہ ایک شخص جارج چشم کو بادشاہ مان کر پھر بھی ہر قانون میں الجھنے لگے کہ میں اس دفعہ کوئی مانتا تو بتائیے اس شخص کا کیا حال ہو گا۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ ذلیل ہو گا اور عقلاً کہیں گے کہ جب بادشاہ کا بادشاہ ہونا مسلم۔ اور اس قانون کا قانون سلطنت ہونا معلوم تو پھر ان کا کیا وجہ؟ ضرور ماننا پڑے گا چاہے سمجھیں آئے یا نآئے۔

معلوم ہوا کہ صاحب سلطنت کے پہچانے کے لئے تو عقل سے کام لینے کی اجازت ہے اس کے بعد عقل سے کام لینے کی اجازت نہیں۔ پھر کیا وجہ کہ آپ دین کے معاملہ میں اخیر تک عقل سے کام لینا چاہتے ہیں یہ سخت غلطی ہے جس سے مجرم ذات کے اور پکھ حاصل نہ ہو گا۔ جب خدا کا ہونا مسلم تو رسول کا رسول ہونا مسلم کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا معلوم پھر ہر حکم میں الجھنے کا آپ کو کیا حق ہے اور ہر شخص آپ کو بے وقوف بنائے گا اور تمام عقلاء کی نظروں میں آپ ذلیل ہوں گے حق یہ ہے۔

عزیز یکہ از در گہش سر بتافت بہر درکہ شد یعنی عزت نیافت وہ اللہ ایسے غالب اور قادر ہیں کہ جس نے ان کی درگاہ سے سر پھرا جس دروازہ پر بھی گیا پکھ عزت نہ پائی بلکہ ذلیل ہوا۔

غرض عقل سے اس وقت تک کام لو جب تک وہ کام دے سکے اور جہاں اس کو کام نہیں دہاں اس کو چھوڑ دو اور حکم کا اتباع کرو تو عقل کی بھی ایک حد ہوئی اور کیوں نہ ہو وہ بھی تو ایک قوت ہے جیسے آنکھ کی ایک قوت ہے اور اس کی ایک حد ہے۔ اس سے آگے دور میں لگانے کی

ضرورت ہے ایسے ہی شریعت کے معاملہ میں اصول تک تو عقل کام دیتی ہے اور فروع میں یہ تہا بیکار ہے دورین وحی سے کام لینا ضروری ہے۔ ایسے ہی کان کی ایک قوت ہے جس کے لئے ایک حد ہے کہ اس سے آگے ٹیلی فون سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ پیروں کی ایک قوت ہے جس سے آگے سواری سے مدد لینے کی ضرورت ہے تو جب ہر قوت محدود ہے تو عقل کیے محدود نہ ہوگی۔ ضرور ہوگی اس سے آگے وحی سے کام لو ورنہ یاد رکھو کہ عمر بھرستہ نہ ملے گا۔ کیونکہ سمعیات میں عقل کا کام نہیں وہاں تواجع رسولؐ کی ضرورت ہے اور

خلاف پیغمبر کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ نخاہد رسید پغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے خلاف جس نے اور راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔

تقلید کی ضرورت

صاحب دنیا میں بھی تو آپ بہت جگہ عقل کو چھوڑ کر کسی نہ کسی کا اتباع کرتے ہیں۔ جب آپ یمار ہوتے ہیں تو عقل سے اتنا کام تو لیتے ہیں کہ اطباء موجودین میں سے کون زیادہ حافظ و تجربہ کار ہے۔ جب ایک طبیب کا حافظ ہونا معلوم ہو گیا تو پھر آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ نفس دیکھ کر نسخہ تجویز کرتا ہے۔ پھر آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس نسخہ میں فلاں دوا کیوں لکھی اور فلاں کیوں نہیں لکھی۔ اور اس دوا کا وزن چار ماشہ کیوں لکھا چھ ماشہ کیوں نہ لکھا، ہم نے کسی کو طبیب سے ان باتوں میں الجھتا ہوا نہیں دیکھا اور اگر کوئی اس سے الجھتے لگے تو سب عقلااء اس کو بے وقوف بتاتے ہیں اور طبیب بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تم میرے پاس مجھ کو طبیب سمجھ کر آئے ہو تو جو نسخہ میں تجویز کر دوں اس میں تم کو چون وچرا کا کوئی حق نہیں۔ اور اگر چوں وچرا کرتے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم مجھ کو طبیب نہیں سمجھتے۔ پھر میرے پاس کیوں آئے تھے اور اس کے اس جواب کو تمام عقلااء صحیح کہتے ہیں۔

پھر حیرت ہے کہ رسولؐ کو رسول تسلیم کرنے اور کلام اللہ کو کلام اللہ مان لینے کے بعد عقل کو ان کے تابع نہ کیا جاوے اور بات بات میں الجھا جائے کہ یہ تو خلاف عقل ہے ہم اسے کیوں کر مان لیں۔ صاحب اگر تم نے رسولؐ کو رسول مان لیا ہے تو پھر ہر بات کو بلا چون وچرا اماننا پڑے گا اور یہ کہنے کا حق نہ ہو گا کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ورنہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم

نے اب تک رسول کو رسول ہی نہیں سمجھا اور کلام اللہ کو کلام اللہ ہی نہیں مانا۔ افسوس! دنیا کے کاموں میں تو عقل کی ایک حد ہو اور طبیب کو طبیب مان لینے کے بعد اس کی تجویز میں عقل کو دخل نہ دیا جاوے اور امور آخرت میں اس کی کوئی بھی حد نہ ہو۔

صاحب۔ جب دنیا کے کام بدون اس کے نہیں چل سکتے کہ عقل کو ایک حد پر چھوڑ دیا جائے اور بلا چون وچر ادوس رے کا اتباع کیا جائے تو آخرت کا کام بدون اس کے کیونکر چلے گا کیونکہ دنیا کی چیزیں تو دیکھی ہوئی بھی ہیں۔ ان میں کسی قدر عقل چل سکتی ہے پھر بھی اس کو چھوڑ کر کامیں و ماہرین کی تقلید کی جاتی ہے اور آخرت سے تو ہم سب اندھے ہیں وہاں بدون تقلید وحی کے کیسے کام چلے گا اور اگر اس میں عقل سے کام لیا گیا تو وہی مثال ہوگی جیسے ایک اندھے نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی ثیرہ ہی کھیر ہے۔

شان ورود اس کا یہ ہے کہ ایک لڑکا اپنے اندھے حافظ کے لئے گھر سے کھیر کی دعوت کرنے آیا۔ حافظ جی نے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے کہا سفید ہوتی ہے حافظ جی نے سفید سیاہ میں کیوں فرق کیا تھا۔ ان کے نزدیک نہ تو کوئی چیز سفید تھی نہ سیاہ۔ کیوں کہ آنکھیں ہی نہ تھیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ سفید کیسا ہوتا ہے اس نے کہا جیسے بگلا حافظ جی نے پوچھا کہ بگلا کیسے ہوتا ہے۔ لڑکے نے ہاتھ کو اس طرح موڑ کر کہا کہ ایسا ہوتا ہے۔ حافظ جی نے جو اپنا ہاتھ پھیر کر اس شکل سے تصور کیا تو کہنے لگے بھائی یہ تو بڑی ثیرہ ہی کھیر ہے میرے گلے سے کیوں کراتے گی۔

تو دیکھئے جو چیز آنکھ سے دیکھی نہ ہواں میں عقل سے کام لینے کا یہ نتیجہ ہوا کہ معمولی سی کھیر کا اسے کیا بن گیا جس میں چبانے اور نگلنے کی بھی مشقت نہ تھی اب وہ گلے میں پھنسنے لگی تو واقعی ہے کوئی کیوں کر سمجھائے کہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے۔ اگر حافظ جی ساری عمر بھی اسی سبق میں ستب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بس اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ کسی خیر خواہ سوا انکھے کی تقلید کر لی جائے۔

ای طرح اگر تم کسی ولایتی کو جس نے آم کبھی نہ کھایا ہو آم کا مزہ سمجھانا تاچا ہو تو کیا وہ سمجھ جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ تم کہو گے کہ آم میٹھا ہوتا ہے وہ کہے گا کہ ہم تروز گڑ کھاتے ہیں بس آم ایسا ہی ہو گا۔ صاحب اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آم لا کر اسے کھلا دو اور اگر یہ نہیں تو پھر اس کو تقلید آمان لینا چاہئے اور اپنی عقل سے اس کی نظریں نہ نکالنا چاہئے۔

ای طرح امور آخرت کو اگر پوری طرح سمجھنے کا شوق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ موت کے منتظر ہو۔ مرنے کے بعد صراط اور وزن اعمال وغیرہ سب کی حقیقت سامنے آجائے گی۔ اور اگر دنیا ہی

میں سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ قرآن و رسول نے جو کہہ دیا ہے اس کی تقلید کرو۔ اور ان کی نظیریں دریافت کرنے کے درپئے نہ ہو۔ مثالوں سے تم آخرت کی حقیقت ایسی ہی سمجھو گے جیسے حافظ جی نے کھیر کو ثیڑھا بتایا تھا۔ پس خوب سمجھا وکہ عقل کی ایک حد ہے جس سے بڑھ جانا ضرر ہے۔

نتیجہ افراط و تفریط

اطباء نے بھی تو اس کو مضر لکھا ہے اور امراض میں سے شمار کیا ہے کیونکہ افراط عقل کا نتیجہ اوہام و شکوک میں ابتلا ہے جس سے قلب و دماغ دونوں ضعیف ہو جاتے ہیں۔

فارابی کی حکایت ہے کہ ایک شخص حلوایچتا پھرتا تھا اس سے پوچھا کیف تبع اخلو۔ تو حلوا کس طرح بیچتا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ کذاب دائم کہ ایک دانگ میں اتنا دینتا ہوں تو آپ کہتے ہیں۔

استلک عن الکیفیة و تجییبی عن الکمية

میں تو کیفیت سے سوال کرتا ہوں اور تو کیمیت سے جواب دیتا ہے۔ آپ حلواً سے الجھ گئے۔ اس کو عقل کا ہیضہ کہتے ہیں کہ ہر وقت اسی کے چکر میں رہے۔ چنانچہ افراط عقل ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ فلاسفہ نے انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ کیا اور جب عاجز ہو گئے تو ان کی نبوت کا تو اقرار کیا مگر کہنے لگے کہ یہ جاہلوں کے واسطے نبی ہیں ہم کو نبی کی ضرورت نہیں۔

نَحْنُ قَوْمٌ هَذِبْنَا أَنفُسَنَا بِالْحُكْمَةِ

ہم نے تو اپنے کو حکمت سے مہذب بنا لیا ہے حق تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے حق میں فرماتے ہیں۔ فَرِحُوا بِمَا عِنْدُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

یہ لوگ اپنے علم پر نازل ہو گئے اور یہ نہ سمجھے کہ علوم نبوت عقل سے باہر ہیں چنانچہ الہیات میں فلاسفہ نے جو تحقیقات بیان کی ہیں ان میں اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ آج مسلمان کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی ان پر ہنستا ہے۔ یہ تو افراط فی العقل ہے اور ایک ہے تفریط کا درجہ یعنی عقل کی کمی اس کو حماقت کہتے ہیں۔ شریعت میں یہ دونوں درجے بیکار اور مدموم ہیں۔

روح شریعت

بلکہ مطلوب توسط ہے جس کو حکمت کہتے ہیں۔ دوسری قوت شہویہ ہے اس میں بھی تمن درجے ہیں۔ ایک افراط جس کا نام جوور ہے شریعت میں یہ بھی مطلوب نہیں۔ کیونکہ اس کا انجام فرق ہے اور ایک تفریط ہے کہ آدمی نامرد بن جائے کہ ضروری اتفاقات سے بھی محروم ہو۔ یہ بھی

مطلوب نہیں (کیونکہ اس سے ہمت اور حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور الوالعزمی اور اخلاق عالیہ مفقود ہو جاتا ہے جو بڑا نقص ہے) اور ایک ہے تو سط جس کا نام عفت ہے یہ مطلوب ہے۔

تیسرا چیز قوت غصبیہ ہے اس میں بھی تین درجے ہیں۔ ایک افراط جس کو تہور کہتے ہیں کہ موقع بے موقع کچھ نہ دیکھنے اندر ہا دھند جوش دکھانے لگے جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ جس طرف چلتے ہیں جوش میں اندر ہے بن کر چلتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس جوش سے نفع ہو گایا نقصان۔ یہ بھی شریعت میں مطلوب نہیں۔ اور ایک ہے تفریط جس کو جبن اور بزدلی کہتے ہیں کہ موقع اور ضرورت کے وقت ہمت سے کام نہ لیا جائے جیسے بعض لوگ ایسے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ حکام کے سامنے ادب اور تہذیب سے بھی اپنی حاجات ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی مطلوب نہیں اور ایک وجہ تو سط کا ہے جس کا نام شجاعت ہے یہ مطلوب ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت اور موقع پر جوش ظاہر کیا جائے جہاں نفع کاظن غالب ہوا اور بے موقع جوش سے کام نہ لیا جائے جہاں نفع کی کچھ امید نہیں محض نقصان ہی نقصان ہے۔

غرض اخلاق پسندیدہ کے اصول تین ہیں۔ ۱۔ حکمت ۲۔ عفت ۳۔ شجاعت

اور ان کے مجموعہ کا نام عدل ہے اور یہی شریعت کا حاصل ہے اور قرآن میں جو فرمایا ہے۔

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وُسْطًا. اس سے بھی عدل مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے (ایک ایسی شریعت دے کر جو کہ سر اپا عدل ہے) امت وسط یعنی امت عادله بنایا۔

ایک مقدمہ اور لمحے کہ وسط و قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وسط حقیقی ایک وسط عرفی۔ وسط حقیقی وہ خط ہے جو بالکل شیکوں نیچ ہو۔ وہ قابل تقسیم نہیں ہوتا اور ایک وسط عرفی ہے۔ جیسے کہا کرتے ہیں کہ یہ ستون مکان کا وسط ہے تو وہ وسط حقیقی نہیں کیونکہ وہ تو منقسم ہے اس کے اندر بھی ایک جزو دا میں اور ایک جزو بائیں اور ایک نیچ میں نکل سکتا ہے پھر وہ وسط حقیقی کہاں سے ہوا۔ حقیقی وسط تو وہ ہے جس میں دایاں بایاں کچھ نہ نکل سکے۔ سو ایسا وسط ہمیشہ غیر منقسم ہو گا۔ پس سمجھ لو کہ شریعت اس وسط کا نام ہے جس میں افراط اور تفریط کا ذرا بھی نام نہ ہو بلکہ یعنی تو سط ہو یہی وسط حقیقی روح شریعت ہے اور یہی مکمال ہے اور اوپر معلوم ہو چکا کہ وسط حقیقی ہمیشہ غیر منقسم ہوتا ہے تو شریعت کی روح بھی غیر منقسم ہے چنانچہ جن اصول اخلاق کو میں نے بیان کیا ہے ان میں افراط اور تفریط کو چھوڑ کر جو ایک وسط نکلے گا جس کو نہ افراط کی طرف میلان ہو گا نہ تفریط کی طرف وہ ہمیشہ غیر منقسم ہو گا اور ایسے وسط پر رہنا ضرور دشوار ہے۔

پس شریعت ان دونوں جانبوں پر نظر کر کے اپنی دشواری کی وجہ سے تواریخ تیز اور بوجہ غیر منقسم ہونے کے بال سے باریک ہوگی۔ کیونکہ بال بھی منقسم ہے اور وسط حقیقی غیر منقسم ہے پس قیامت میں یہی روح شریعت یعنی وسط حقیقی جو ہر بن کر پل صراط کی شکل میں ظاہر ہو گا جس پر سے مسلمانوں کو چلا یا جائے گا پس جو شخص دنیا میں شریعت پر تیزی و سہولت کے ساتھ چلا ہو گا وہ وہاں بھی تیزی کے ساتھ چلے گا کیونکہ وہ یہی شریعت تو ہو گی جس پر دنیا میں چل چکا ہے اور جو یہاں نہیں چلا یا کم چلا ہے وہ پل صراط پر بھی نہ چل سکے گا یاستی کے ساتھ چلے گا۔

لیجئے میں نے آپ کو پل صراط کی نظیر بھی دکھلادی۔ اب تو کوئی اشکال نہیں رہا۔ اسی طرح ہمارے پاس تمام شرعیات کے لئے عقلی نظائر موجود ہیں یہ نہ سمجھئے کہ یہ پل صراط ہی کی خصوصیت ہے لیکن ہم ان تحقیقات کو منصود نہیں سمجھتے ہمارا اصلی مذہب تو یہ ہے کہ۔

ما قصہ سکندر و دارا خواندہ ایم ازم بجز حکایت مہرووفا مدرس
ہم نے سکندر و دارا کے قصے نہیں پڑھے ہم سے مہرووفا کے قصوں کے علاوہ اور نہ دریافت کرو۔

انکشاف اسرار و حقائق

باقي میں نے نمونہ کے طور پر تحقیق اس لئے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس ہر مسئلہ میں ایسی ہی تحقیقات موجود ہیں اور سمجھی میں آجائے کہ علوم شرعیہ کے سامنے علوم فلسفہ کی کچھ بھی وقوع نہیں جس میں سے نمونہ کے طور پر اس وقت میں نے کچھ بیان کر دیا ہے تاکہ آپ علماء اسلام کو تحقیقات سے خالی نہ سمجھیں بحمد اللہ ہمارے پاس ان تحقیقات کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن۔

مصلحت نیست کہ از پرده بروں افتدراز ورنہ در مجلس رندہ خبرے نیست کہ نیست راز کا فاش کرنا مصلحت کے خلاف ہے ورنہ عارفین کی مجلس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ نہ ہو۔ مصلحت اس واسطے نہیں کہ ہر شخص اس قسم کی تحقیقات بتلانے کے قابل نہیں اور جو قابل ہوں ان کو بھی ہم نہیں بتلاتے کیونکہ ان کا بتلانا ہمارے ذمہ نہیں (کیونکہ طبیب کے ذمہ صرف نہ بتلانا ہے اس کی رعایت اور ترکیب کے اسرار اور وزن کی علت بتلانا اس کے ذمہ نہیں) ہاں بعض قابلوں کو بتلا بھی دیتے ہیں جو ہمارے پاس آ کر رہیں اور ہمارے کہنے کے موافق عمل کریں۔ اطاعت میں پچھٹگی ظاہر کریں۔ ایسے شخص کو کبھی نشاط میں آ کر خود ہی بتلا دیتے ہیں اور پوچھنے پر اسے بھی نہیں بتلاتے کیونکہ یہ اسرار ہیں جن کو نشاط کے وقت خود ہی بیان کر دیا جاتا ہے اور ان کا از

خود کسی کا پوچھنا ناگوار گزرتا ہے۔ (جیسے طبیب بعض دفعہ خود خوشی میں آ کر مریض سے خود اپنے نسخہ کی تعریف اور حقیقت بیان کر دیتا ہے اور اگر مریض پوچھتے تو اسے ناگوار ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بادشاہ کا مطیع و محظوظ ہو تو بادشاہ اسے کبھی اپنے محل کی سیر بھی کردا ہے کہ دیکھو یہ خزانہ ہے اور یہ چور دروازہ ہے اور یہ ہماری بیگمات کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ آرام گاہ ہے لیکن اگر وہ از خود پوچھنے لگے کہ حضور کی بیگم کہاں رہتی ہے اور خزانہ کہاں ہے تو ایسی بے نقط سنائی جائیں گی کہ جو اس باختہ ہو جائیں گے پس اسرار کے دریافت کرنے کی درخواست بھی ایسی ہی درخواست کے مشابہ ہے۔ تو میں نے اسرار کی حقیقت بھی بتلادی ان کے معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتلادیا۔ اگر کسی کو شوق ہو تو اس طریقے سے عمل شروع کر دے یعنی اطاعت میں لگ جائے میں سچ کہتا ہوں کہ تم ہمارے اس کہنے پر عمل کرنے لگو تو پھر تم کو دریافت کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ خود ہی سب حلق مکشف ہو جائیں گے اور یہ حال ہوگا۔

بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا اپنے اندر بے کتاب اور بغیر مدگار استاد کے انبیاء علیہم السلام جیسے علوم دیکھو گے۔ اور جن کو یہ حلق حاصل ہوئے ہیں محض عمل اور اطاعت ہی سے حاصل ہوئے ہیں۔ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکستہ می نگیر د فضل راہ عقل و فہم کو تیز کرنا طریق نہیں ہے فضل الہی بجز شکستگی کے متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ اسرار عقل پرستی اور فہم کے تیز کرنے سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ شکستگی اور انقیاد سے خدا کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے آگے بتلاتے ہیں کہ اس شکستگی پر فضل کس طرح ہوتا ہے۔

ہر کجا پستی ست آب آنجارود ہر کجا مشکل جواب آنجارود
ہر کجا دردے دوا آنجارود ہر کجا رنجے شفا آنجارود
جس جگہ شیب ہوا سی طرف پانی روں ہوتا ہے جہاں مشکل پیش آتی ہے وہاں ہی جواب دیا جاتا ہے۔ جہاں یہاری ہوتی ہے وہیں دوا کا استعمال ہوتا ہے اور جہاں مریض ہوتا ہے وہاں شفا جاتی ہے۔ پس فضل اطاعت و عبدیت سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کوفنا کردے اپنی عقل و فہم کو ناقص سمجھ کر چھوڑ دے فرماتے ہیں۔

سالما تو سنگ بودی دخراش آزموں را یک زمانے خاک باش

برسون تم دخراش پھر بنے رہا آزمائش کے طور پر کچھ زمانے خاک بن کر بھی دیکھ لو۔
یعنی عقل کی اطاعت میں سنگ دل بنے ہوئے تو بہت دن ہو گئے اس نے کچھ بھی
حقیقت نہ بتائی اب ذرا کچھ دنوں خاک ہو کر دیکھو پھر کیا ہو گا فرماتے ہیں۔

در بہاراں کے شود سربرز سنگ خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ
بہار کے موسم میں بھی پھر سربرز نہیں ہوتے خاک بنوتا کہ رنگ رنگ کے پھول آگیں۔
پھر تمہارے ساند عجیب عجیب علوم القا ہونگے۔ صاحب یہ ہے طریقہ علوم عالیہ حاصل کرنیکا خوب سمجھ لجھے۔

عقل کا معارضہ

مگر اس وقت مذاق ایسا فاسد ہوا ہے کہ ہر شخص علوم عالیہ کے درپے ہے اور اپنی عقل سے ان کو
دریافت کرنا چاہتا ہے حالانکہ عقل سے تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور میرا باپ کون ہے۔
کانپور میں ایک جنتلیمین نے اپنے باپ کو لکھا تھا کہ یہ کا ہے سے معلوم ہوا کہ آپ میرے باپ
ہیں اس کی عقلی دلیل کیا ہے اس نے واقعی درایت پر عمل کیا عقل کا تو مقتضایہ ہے کہ جاہل کی اواد بھی
جاہل ہی ہو۔ یہ عقل میں کیونکر آ سکتا ہے کہ باپ تو جاہل لڑھ ہو اور بیٹا انٹرنس پاس کر کے فلسفی بن
جائے دلیل عقلی تو اس بات کو ثابت کرنیں سکتی۔ اسی لئے اس نے کہا کہ بتاؤ کا ہے سے معلوم ہوا کہ تم
میرے باپ ہو۔ اس کا جواب اگر ہے تو یہی ہے کہ دایی سے پوچھ لے جس نے تجھے ماں کے
پیٹ سے جنایا تھا اور ماں سے پوچھ لے کہ وہ کیوں کر حاملہ ہوئی تھی تو یہ عقل تو بڑی نکمی چیز نکلی جس
سے باپ کا باپ ہوتا بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ خرابی ہے عقل کے اتباع میں اسی لئے کہتے ہیں۔

آزمودم عقل دوراندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را۔

میں نے عقل دوراندیش کو آزمایا جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے آپ کو دیوانہ بنالیا۔
دیوانگی سے مراد اطاعت کاملہ ہے جس میں بلا چون وچر اتباع ہوا اگر کوئی اس حالت پر
ہننے لگے تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔

ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم مت آں ساتی و آں پیانہ ایم
ہم اگر قلاش اور دیوانہ ہیں تو کیا پرواہ ہے یہی کیا کم دولت ہے کہ ہم محظوظ حقیقی کے
متوا لے اور اس کی محبت والے ہیں۔

یعنی جو کوئی ہنے اس سے کہہ دو کہ ہماری دیوانگی ہی تمہاری عقل سے اچھی ہے ہمارے

نژدیک تو جو ایسا دیوانہ نہیں ہوا وہی دیوانہ ہے۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد مر عس را دید در خانہ نہ شد
جو دیوانہ نہیں وہی دیوانہ ہے جو شخص کو تو اس کو دیکھتا ہے گھر میں چلا جاتا ہے، جب
محبوب، حقیقی کا عشق غالب ہوتا ہے عقل رو چکر ہو جاتی ہے۔

تو یہ کیسا بھدا مذاق ہے کہ ہر بات کو عقل ہی سے معلوم کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس کا نتیجہ وہی ہو گا
جو اس جنگل میں ظاہر ہوا کہ باپ سے بھی دلیل عقلی مانگتا تھا اس کے باپ ہونے پر اور جب یہ لوگ
خدا اور رسول کے ساتھ بھی عقل سے معارضہ کرتے ہیں تو باپ کے ساتھ کریں تو کیا تعجب ہے مگر افسوس
یہ ہے کہ باپ کے ساتھ ایسا معارضہ کیا جائے تو باپ کو بھی ناگوار ہوتا ہے اور وہ ایسے میئے کو نالائق سمجھ
کر عاق کر دیتا ہے اور دنیا بھی اس کو بر ابھلا کہتی ہے مگر احکام خدا اور رسول کے ساتھ کوئی یہ بتاؤ کرتے تو
نہ باپ اسے کچھ کہتا ہے نہ دینا والے کچھ کہتے ہیں صاحبو۔ کچھ تو انصاف کرو کہ جس عقل کا معارضہ
آپ کو اپنے ساتھ بھی گوارا نہیں وہ معارضہ خدا اور رسول کے ساتھ کیوں کر گوارا کیا جاتا ہے۔

میں اسی کی شکایت کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے اتباع عقل سے عقائد میں اتنا اختصار کر لیا
ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اعتقاد ہی کو ایمان کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔
بقیہ معاویات کی تصدیق کو ایمان کے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔ اور بعض نے یہ غضب کیا کہ
محمد رسول اللہ کو بھی اڑا دیا۔ کیونکہ حدیث میں تو اتنا ہی آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ
دخل الجنة اس میں محمد رسول اللہ کی قید کہاں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو
شخص موحد ہو خواہ کسی مذہب کا ہو اور گور سالت محمد یہ کامنکر ہو وہ جنتی اور ناجی ہے میں اس وقت
ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا مگر ان کے استدلال پر مجھے ایک حکایت یاد آگئی۔

رامپور میں مجھ سے ایک طالب علم نے کسی ضرورت کے لئے وظیفہ پوچھا میں نے کہہ دیا
کہ لا حول کثرت سے پڑھا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ملے اور کہنے لگے کہ میں وظیفہ پڑھتا
ہوں مگر نفع نہیں ہوا۔ میں نے دیے ہی اتفاقاً پوچھ لیا کہ تم نے کیا پڑھا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ
اسی طرح لا حول لا حول۔۔۔ میں نے کہا کہ تمہارے اس لا حول پر بھی لا حول تو اگر اس
طالب علم کا یہ سمجھنا صحیح تھا تو ان لوگوں کی دلیل بھی صحیح۔۔۔ لکھتی ہے مگر کون نہیں جانتا کہ لا حول ایک
پوری دعا کا پتہ ہے یعنی لا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم کا۔ جیسے بسم اللہ ایک

پوری آیت کا پتہ ہے اور الحمد پوری سورت کا۔ اسی طرح قل هو اللہ احمد۔ اور یہیں پوری سورت کا پتہ ہے (اور الام ایک پورے سیپارہ کا پتہ ہے)۔

پس اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے اور یہیں کا ثواب دس قرآن کے برابر ہے اور وہ اس کا یہ مطلب سمجھئے کہ صرف لفظ الحمد نماز میں واجب ہے اور اتنا ہی کافی ہے اور حض لیس یہیں کہنے کا ثواب دس قرآن کے برابر ہے تو بتائیے وہ حق ہے یا نہیں۔ اور کیا ہر شخص یہ نہ کہے گا کہ بے وقوف یہ لفظ کا پتہ کے طور پر تھا اور اس سے مراد پوری سورت ہے اسی طرح حدیث میں لا الہ الا اللہ پورے کلمہ کا پتہ ہے اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے وہ جنتی ہے۔

اعتقاد رسالت کی ضرورت

اب یہ شریعت کے دوسرے مقامات سے پوچھو کہ مسلمان ہونا کے کہتے ہیں۔ تو معلوم ہو گا کہ اس کے لئے رسالت محمد یہ کا اعتقاد بھی شرط ہے اور جنت و دوزخ کا بھی اور ملائکہ کے وجود کا بھی اور تقدیر کے حق ہونے کا بھی اور صراط و وزن و حساب و کتاب کا قائل ہونا بھی اور فرضیت صلوٰۃ وزکوٰۃ و صوم و حج کا اقرار بھی انجام مگر ان عقائد و مفہوموں نے اس طالب علم کی طرح صرف لا الہ الا اللہ کو کافی سمجھ لیا۔

بلند شہر میں بھی ایک بڑے عہدہ دار اس خیال کے تھے کہ وہ بھی صرف توحید کے قائل ہونے کو نجات کے واسطے کافی سمجھتے تھے میں نے سن کی ایک تقریر میں کہا کہ جو رسالت کا قائل نہیں وہ توحید کا بھی قائل نہیں بدن دون اقرار رسالت کے توحید کا تحقیق ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ توحید کے یہ معنی تو نہیں کہ خدا تعالیٰ کو صرف ایک مان لے چاہے اس کے ساتھ عیوب سے ہی اس کو متصف مانتا رہے۔ لقیناً اس کو توحید کوئی نہیں کہہ سکتا بلکہ توحید کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ اور تمام کمالات الہیت کے ساتھ متصف مانے جن میں سے ایک کمال صدق بھی ہے جس سے خدا تعالیٰ کو متصف اور کذب سے منزہ مانتا لازم ہے اور جو شخص منکر رسالت ہے وہ حق تعالیٰ کو کاذب قرار دیتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اور یہ اس میں حق تعالیٰ کو صادق نہیں مانتا تو ایک عیوب سے خدا کو موصوف مانتا ہے اور یہ توحید نہیں۔ پس منکر رسالت موحد نہیں ہو سکتا (اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر عقلیٰ ولیٰ دلائل ہر وقت قائم کر سکتے ہیں)۔

پھر میں نے کہا کہ اس کے جواب کے لئے میں قائل کو دس برس کی مہلت دیتا ہوں۔ آخروہ سمجھ گئے تھے اور اس عقیدہ سے توبہ کر لی تھی۔ اس کے بعد جو ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ صحیح عقیدہ پر جنمے ہوئے تھے اور اب وہ خیال نہ رہا تھا تو ان بعض نے تو عقائد میں سے محمد رسول اللہ کا اختصار کیا تھا جن کی غلطی معلوم ہو گئی۔

بعض نے عقائد میں اختصار نہیں کیا مگر وہ اعمال کا اختصار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نجات کے لئے مسلمان ہوتا کافی ہے اور مسلمان توحید و رسالت کے اقرار سے ہو جاتا ہے پھر اور چیزوں کی کیا ضرورت ہے اور دلیل وہی کہ من قال لا اللہ الا اللہ ای معاویہ محمد رسول اللہ۔

اجزاء دین کی اہمیت

صاحبیوں تو اس کا اصل جواب بہت عمیق ہے مگر میں اس وقت ایک موٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کافی سمجھنا ایسا ہے جیسے ایک شخص نے نکاح کے وقت ایجاد و قبول کیا ہوا اور جب یوں اس سے نفقہ و کپڑا مانگے تو کہنے لگے کہ میں نے تو صرف تجھے قبول کیا تھا کھانا کپڑا اکب قبول کیا تھا۔ یہ میرے ذمہ نہیں تو بتلائیے کیا اس کی بات قبول کیا جائے گی؟ ہرگز نہیں بلکہ ہر شخص یہ کہنے کا کہے وقوف یوں کا قبول کرنا نکاح کے سب لوازم کو قبول کرنا ہے اور ساری برا دری اس کو حمق بنائے گی۔ صاحبو۔ اسی طرح لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا تو مذہب کو قبول کرنا ہے۔ یہ شخص ایجاد و قبول ہے جس میں سارے لوازم مذہب کا قبول داخل ہے۔

حضرات۔۔۔ یہ سب کم فہمی کی باتیں ہیں جو آج کل کی جاتی ہیں بلکہ کم فہمی بھی نہیں یوں کہنا چاہئے کہ کم فہم بن گئے ورنہ کیا وجہ ہے کہ جو برتا و خدا اور رسول کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی برتا و یوں اور برا دری کے ساتھ کیوں نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ ایسے ہی محقق ہیں کہ بدون لم اور کیف کے کوئی بات مانتے ہی نہیں اور آپ کے نزدیک ہر چیز کا لازم ہونا صراحتہ قبول کرنے پر موقوف ہے تو پھر یہاں نکاح کے معاملہ میں لم اور کیف کیوں نہیں کیا جاتا اور ننان نفقہ کو بدون قبول صریح کے کیوں لازم مان لیا جاتا ہے۔ بلکہ ہوتا تو یوں چاہئے تھا کہ مخلوق کے ساتھ لم اور کیف ہوتا اور خدا کے ساتھ نہ ہوتا۔ مگر اب الثامنہ معاملہ ہے اور رسول کے احکام میں چون چہ اور یوں برا دری کے معاملہ میں تسلیم و رضا۔ پس حدیث من قال لا اللہ الا اللہ دخل الجنة (حلیۃ الاولیاء لابی نعیم ۷:۲۷) سے عدم ضرورت اعمال پر استدلال کرنا شخص غلط ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو عقائد میں اختصار کرتے اور اعمال کو غیر ضروری سمجھتے تھے۔

ایک جماعت ان کے علاوہ اور پیدا ہوئی۔ جنہوں نے عقائد میں تو اختصار نہیں کیا اور نہ اعمال کو غیر ضروری سمجھا مگر انہوں نے اعمال میں اختصار کیا۔ کچھ اعمال کو لے لیا اور بہت سے اعمال کو چھوڑ دیا۔ بس جو چیز آسان معلوم ہوئی وہ تو لے لی اور جس میں ذرا تی بھی وقت معلوم ہوئی اس کو اڑا

دیا۔ اور اس میں طبائع مختلف ہیں بعض کو عبادات بد نیہ آسان ہیں اور اور مالیہ مشکل ہیں۔ انہوں نے نماز اور روزہ تسبیح و نوافل کو اختیار کرنا کیا مقدس صورت بنالی۔ مگر وہ ایسے مقدس ہیں کہ نہ حج فرض ادا کرتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ معاملات میں احتیاط کرتے ہیں ان کا لین دین نہایت خراب ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں جن کو مال خرچ کرنا آسان ہے وہ حج بھی کرتے ہیں زکوٰۃ خیرات بھی دیتے ہیں مگر جان کا خرچ کرنا ان کو دشوار ہے اس لئے نماز اور روزہ سے جان چراتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو طاعات بد نیہ اور مالیہ دونوں کو بجالاتے ہیں مگر انہوں نے طاعات قلب کو چھوڑ رکھا ہے۔ ظاہر میں بڑے مقدس ہیں مگر وہ تکبر و حسد ریا و عجب بھرا ہوا ہے۔ محبت و خشیت اللہی برائے نام ہے مگر اس کو وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ بعض نے ان اخلاق کا بھی اہتمام کیا مگر ان کی معاشرت گندی ہے ذکر و شغل کرتے ہیں مگر اس کا اہتمام نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو ایذا پہنچ۔

غرض ہر ایک کو جوبات آسان لگی وہ تو لے لی اور جس میں کچھ محنت کرنا پڑی اس کو چھوڑ دیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل سائنس کی ترقی ہے۔ ہر چیز کا ست نکالا جاتا ہے تو ہمارے بھائیوں نے اعمال کا بھی ست نکال لیا، مگر صاحبوست کاست نہیں نکلا کرتا۔ وین تو سارا کاسارا خود ہی ست ہے۔ اس کا ہر جزو ضروری ہے اب آپ دوبارہ اس کاست نہیں نکال سکتے اور اگر نکالو گے تو ست نہ ہو گا بلکہ اجزاء ضروری کو فوت کرنا ہو گا۔ جیسے کوئی شخص انسان کا ست نکالنا چاہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دے اور ایک پیر اور ایک آنکھ پھوڑ دے اور ایک کان بند کر دے تو کیا اس کوست کہا جائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے ضروری اجزاء کو حذف کر کے ایک آدمی کو بے کار بنادیا۔ یہی حال ہمارے بھائیوں نے دین کا بنا رکھا ہے۔ کسی نے یہ کیا کہ اعمال تو بہت ہی اچھے ہیں مگر عقائد میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر رسم بدعت کو داخل کر لیا۔ اور اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں۔ بعض نے عقائد کو سنت کے موافق رکھا ہے اور اعمال میں نہایت کوتا ہی کی اور ان کو اپنے تبع سنت ہونے کا ناز ہے۔ غرض یہ مختلف فرقے ہمارے اندر پیدا ہو گئے۔ اور ساری خرابی کا منشایہ ہے کہ لوگوں نے دین کے اجزاء کو پوری طرح نہیں سمجھا۔

اجزائے دین کی تفصیل

تو غور سے سن لجھے کر دین کے پانچ اجزاء ہیں۔ ایک جز تو ہے عقائد کا کہ دل سے اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر

دی ہے وہی حق ہے (جس کی تفصیل کتب عقائد سے معلوم ہوگی) دوسرا جزو عبادات ہیں یعنی نماز روزہ زکوٰۃ و حج وغیرہ۔

تیسرا جزو معاملات یعنی احکام نکاح و طلاق و حدود و کفارات و بیع و شراء و اجارہ و زراعت وغیرہ اور ان کے جزو دین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کھٹی یوں بولیا کرو اور تجارت فلاں چیز کی کیا کرو بلکہ ان میں شریعت یہ بتلاتی ہے کہ کسی پر ظلم وزیادتی نہ کرو اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس میں نزاع کا اندیشہ ہو غرض جواز و عدم جواز بیان کیا جاتا ہے۔

چوتھا جزو ہے معاشرت یعنی اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا مہمان بننا کسی کے گھر پر جانا کیوں کرچا ہے اور اس کے کیا آداب ہیں۔ بیوی بچوں عزیزوں اجنیوں اور نوکروں وغیرہ کے ساتھ کیوں کرتاؤ کرنا چاہئے۔

پانچواں جزو جس کا نام درافتہ ہے تصوف ہے اور ذرا تو اس لئے ہے کہ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف کیلئے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تو خوب سمجھ لجھے کہ یہ بالکل غلط ہے یہ جمال صوفیوں کا مسئلہ ہے جو تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے غرض یہ پانچواں جزو ہے جسکو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔

تو یہ پانچ اجزاء دین کے ہیں۔ ان پانچوں کے مجموعہ کا نام دین ہے اگر کسی میں ایک جزو بھی ان میں سے کم ہو تو وہ ناقص الدین ہے۔ جیسے کسی کا ایک ہاتھ نہ ہو تو وہ ناقص الخاقت ہے

اب دیکھ لجھے کہ ہم نے ان پانچوں کا کتنا اہتمام کر رکھا ہے حالت یہ ہے کہ بعض نے تو عقائد و عبادات کو کم کر رکھا ہے اور بعض میں معاملات کی کمی ہے اور معاملات کی تو یہ حالت ہے کہ بڑے بڑے اتفقاء معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ برداوے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔

وہ برداوے یہ ہے کہ نماز و روزہ کے مسائل تو مولویوں سے پوچھتے جاتے ہیں مگر معاملات کو کوئی آکر نہیں پوچھتا۔ مثلاً کوئی گاؤں خریدیں یا کسی مورث کے مرنے کے بعد تقسیم جائیداد کا قصہ ہو تو اس میں آپ نے کہیں نہ دیکھا ہو گا کہ دستاویز علماء کو لا کر دکھائی جاتی ہو کہ دیکھئے اس میں کوئی بات خلاف شرع تو نہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے حالانکہ معاملات کا دین میں داخل ہونا بالکل بدیہی ہے۔

قرآن میں آیت مدائیہ کو دیکھئے صرف قرض لینے کے کتنے احکام بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جب تم مدت معلومہ کے لئے ادھار قرض کا معاملہ کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور خود لکھتا نہ جانتے ہو تو کسی سے لکھوالیا کرو اور کاتب کے لئے حکم ہے۔

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يُكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيُكْتُبْ

کہ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ لکھ دیا کرے۔ اگر لکھنے والا کوئی نہ ہو تو حکم ہے کہ دو آدمیوں کو گواہ بنا دو اور گواہوں کو ضرورت کے وقت گواہی دینا لازم ہے کہ ممان سے گناہ ہو گا جس پر وعید نہ کوئی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات کے احکام قرآن میں موجود ہیں اور احادیث میں تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ پھر فقہ میں تو اتنی تفصیل ہے کہ کوئی قانون بھی اس سے زیادہ مفصل نہیں ہو سکتا۔

بری صحبت کا اثر

اس سے تو ان لوگوں کا جواب نکل آیا جو معاملات کو دین میں داخل تو سمجھتے ہیں مگر وہ علماء پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو سوائے لا بیجوز کے کچھ نہیں آتا۔ کوئی دستاویز ان کو دکھلاؤ تو ناجائز۔ کسی ملازمت کو دریافت کرو تو ناجائز بس مولوی صاحب نے تو ایک لا بیجوز کا سبق پڑھ لیا ہے یہ تو ایک عام الزام ہے بعض نے اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ مذہب ہی برداشت ہے (پہلی جماعت تو علماء ہی کو الزام دیتی تھی انہوں نے خدا اور رسول پر بھی الزام لگا دیا)۔

میں ان لوگوں کے اقوال کی کیا حکایت کروں۔ ڈر بھی لگتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے لکھنؤ میں ایک کمیٹی ہوئی تھی جس میں سب مسلمان ہی جمع ہوئے تھے اور اس بات کی تحقیق کی جارتی تھی کہ مسلمانوں کے تزلیل کا سبب کیا ہے۔ بالآخر یہ طے کیا گیا کہ تزلیل کا اصل سبب اسلام ہی ہے۔ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹھیٹ اسلام ہمارا ہی اسلام ہے اور ہم ہی حامی اسلام ہیں۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ مذہب اسلام ہی تزلیل کا سبب ہے۔ (افسوس وہ اسلام جس کی بدولت حضرات صحابہ کو وہ ترقی حاصل ہوئی تھی کہ عالم میں اس کی نظر نہیں مل سکتی۔ آج اس کو تزلیل کا سبب کہا جاتا ہے بخدا ان لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں عمل تو درکنار جن لوگوں نے اسلام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تھا ان کو تو کبھی تزلیل نہ ہوا ہاں جو اس پر عمل ہی نہ کریں ان کو تزلیل ہونے لگے تو اس کا کیا علاج مگر اس کا سبب اسلام یا ترک اسلام۔

ان لوگوں کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ میں ایک دفعہ بریلی گیا تھا تو وہاں ایک بوڑھے میاں اپنے پوتے کو میرے پاس لائے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اسے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو خدا کے وجود ہی میں شک ہے نماز کس کی پڑھوں اور یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے بوڑھے میاں سے کہا کہ تم کو نماز کی فکر ہے صاحبزادے کو تو ایمان بھی نصیب نہیں پہلے اس کی فکر کرو وہ مجھ ہی سے

اس کی تدبیر پوچھنے لگے میں نے کہا کہ یہ کس جگہ تعلیم پاتا ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ایک کالج میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو بجائے کالج کے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کر دیجئے۔ اس وقت تو ان کی سمجھ میں یہ علاج نہ آیا مگر انہوں نے اسی کے موافق عمل کیا۔

اگلے سال جو میں گیا تو معلوم ہوا کہ لڑکا یہ اپکا مسلمان ہے اور تمماز بھی خوب پڑھتا ہے اس وقت لوگوں نے مجھ سے اس کی وجہ دریافت کی کہ کالج میں رہ کر اس کا اسلام کیوں کمزور ہوا اور گورنمنٹ کے سکول میں داخل ہو کر کیسے محفوظ ہو گیا حالانکہ اس کالج میں سب لڑکے مسلمان ہی ہیں وہاں تو اسلام کی قوت ہونا چاہئے تھی اور گورنمنٹ سکول میں ہندو مسلمان سب قسم کے ہوتے ہیں۔

میں نے کہا کہ کالج میں جتنے مسلمان ہیں سب آزاد ہیں اور وہاں رات دن ایسے ہی لوگوں کی صحبت ہے وہی مشغله ہے تو حالت بھی وہی ہو جاتی ہے جو سب کی ہے کیونکہ ان سے نفرت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ظاہر میں سب مسلمان ہوتے ہیں اس لئے ان کے خیالات اور صحبت کا اثر جلدی ہوتا ہے اور گورنمنٹ سکول میں چونکہ مسلمان لڑکوں کو ہندوؤں کے مذہب سے دلی نفرت ہے اس لئے ان کی صحبت کا مذہب پر بر اثر نہیں پڑتا اور نفرت کی وجہ سے چونکہ مقابلہ رہتا ہے اس لئے مقابلہ میں آ کر یہ اپنے مذہب پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا ہو گا کہ مولوی انگریزی پڑھانے سے منع نہیں کرتے بلکہ عقائد کے بگاڑنے سے روکتے ہیں بعض لوگ اس کا جواب دیا کرتے ہیں کہ ہم تو انگریزی کے ساتھ اب دین کی تعلیم بھی دینے لگے ہیں تو اب تو اس سے منع نہ کرنا چاہئے۔ مگر صاحبو! محض دین کی تعلیم دینا کافی نہیں کیونکہ دین کی تعلیم دینے والے بھی تو وہی لوگ ہیں جن کے خیالات آزادی کی طرف مائل ہیں بلکہ تعلیم دین کے ساتھ صحبت نیک بھی ضرور تجویز کرنا چاہئے اگر اور بھی کچھ نہ ہو تو کم از کم تعطیلوں ہی میں ان لڑکوں کو کسی محقق کی صحبت میں بھیج دیا کس بھے۔

ہماری کوتاہیاں

میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دین کے لئے اپنا قیمتی وقت صرف کریں کیونکہ اتنی ہمت کی آپ سے مجھے امید نہیں کیونکہ آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ کے نام کے لئے خراب سے خراب چیزیں تجویز کی جاتی ہیں تو آپ اپنا اچھا وقت خدا کے لئے کیوں صرف کریں۔

اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک عورت نے کھیر پکا کر رکابی میں نکال کر رکھ دی اتفاق سے اس رکابی میں کتابخانہ ڈال گیا تو اس نے مٹی کی دوسری رکابی میں اسے نکال کر اپنے لڑکے کو دی کہ

مسجد کے ملاکوںے آ۔ وہ ملاجی کے پاس لایا تو بڑے خوش ہوئے اور فوراً ہاتھ مارنے لگے اور ادھر ہی منہ مارا جدھر سے کتے نے کھائی تھی لڑکے نے کہا کہ ادھر سے نکھاؤ ادھر سے کتے کی کھائی ہوئی ہے۔ یہ سن کے تو ملا جھلائے اور رکابی کو بہت دور پھینکا وہ پچھوت گئی تو پچھرو نے لگا کہ ہائے میری ماں مارے گی ملاجی۔ نے کہا کہ ابے مٹی ہی کی تو تھی کہنے لگا اجی میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو اس میں ہگایا کرتی تھی۔ یہ سن کر تو ملاجی کو متلی ہونے لگی۔ (کہ ظرف و مظروف دونوں ہی نور بھرے تھے۔)

یہ حالت ہے ہم لوگوں کی۔ اللہ کے واسطے خراب سے خراب اور ناپاک چیزیں تجویز کرتے ہیں پھر غصب یہ کہ مسجد کے ملانوں کے ساتھ خود ہی تو یہ برتاو کرتے ہیں اور خود ہی ان کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی جب تم اپنے آپ اچھا سے اچھا کھاؤ اور ان کو بھی نہ پوچھوا اور جو لوچھو بھی تو ایسے وقت جب کہ تم خود نہ کھا سکو تو بتلو وہ حریص ہوں گے یا نہیں۔ پھر تنخواہ ان کی ایسی قلیل مقرر کی جاتی ہے۔ جس میں روکھی روٹی بھی وہ نہیں کھا سکتے۔ تو پھر حریص نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟

اسی لئے میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب محلہ میں کوئی رئیس بیمار ہوتا ہے تو مسجد کے موذن تو اس کی صحبت کے لئے ہرگز دعا نہ کرتے ہوں گے وہ تو چاہتا ہو گا کہ اچھا ہے یہ مرے تو تیجے وسویں چالیسویں پرفاتحہ کا کھانا خوب فراغت سے ملے گا۔ کیونکہ خوشی میں ان کو کون پوچھتا ہے ایسے ہی موضع میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان موضع کے منتظر ہیں گے۔

اس حرص کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کیرانہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو کفن کا چادرہ لوگوں نے قبرستان کے تکمیلے دار کونہ دیا کسی دوسرے غریب کو دے دیا وہ تکمیلے دار جھگڑنے لگا کہ یہ تو میرا حق ہے لوگوں نے کہا بھائی ہمیشہ تم کو دیا جاتا ہے آج اس غریب کو دینے دو تو وہ تکمیلے دار کیا کہتا ہے کہ وہ حضور! خدا خدا کر کے تو یہ دن آتا ہے اسی میں آپ ہمارا حق دوسروں کو دے دیتے ہیں لوگوں نے کہا کم بخت! کیا تو اسی دن کا متنبی رہتا ہے کہ کوئی مرے تو تجھے کپڑا ملے جو یہ دن تیرے لئے خدا خدا کر کے آتا ہے وہ بات بنانے لگے مگر دل کی بات زبان پر آئی گئی۔ تو صاحبو! اس کی بھی کیا خطاب جب تم اس وقت کے سوا کبھی اسے نہ پوچھو جب اس کی آمد نی یوں ہی ٹھہری تو وہ تو اسی کا وظیفہ پڑھے گا غرض چونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خدا کی راہ میں نکلی ہی چیز دیا کرتے ہیں اس لئے میں وقت کے بارہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ تعطیل کا نکما اور فال تو وقت خدا کی راہ میں نکال دو اور اگر سارا وقت نہیں دے سکتے تو کم از کم آدھا ہی دے اور اس وقت میں بچوں کو محقق کی صحبت میں بھیج دیا کرو۔ کیونکہ

وین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

محض کتابیں پڑھانے سے دین پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے صحبت صالحین کی بھی بہت ضرورت ہے پس میں انگریزی پڑھانے سے منع نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تم علماء سے پوچھ کر اپنے لڑکوں کے دین سنبھالنے کا بھی کوئی انتظام کرو۔ چنانچہ میں نے اس لڑکے کی اصلاح کا طریقہ بتلایا اور محمد اللہ نفع ہوا اب تو لوگ علماء سے اس لئے نہیں دریافت کرتے کہ یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ سب سے پہلے انگریزی کو حرام بتلائیں گے حالانکہ ان کو دنیا سے کچھ ضد تھوڑا ہی ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کما میں مگر دین بر باد نہ ہو۔

جاائز و ناجائز کی بحث

رہی یہ بات کہ مولویوں نے لا بجوز ہی کا سبق پڑھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ ساری باتیں چھانٹ چھانٹ کرایسی ہی پوچھیں گے۔ جونا جائز ہوں تو ان کا جواب لا بجوز کے سوا کیا ہو گا صاحب اس کے بعد ان سے یہ بھی تو پوچھئے کہ تجارت و زراع کے جائز طریقے کتنے ہیں اور ملازمتیں جائز کون کون سی ہیں۔ پھر دیکھئے وہ جائز کا کتنا وسیع و فراز آپ کے سامنے کھولتے ہیں۔ وسعت قانون کے معنی نہیں ہیں کہ اس میں ممنوعات بالکل نہ ہوں ایسا تو کوئی بھی قانون نہ ہو گا اور اگر کوئی قانون اس شان کا ہو بھی تو وہ قانون کہلانے کا مستحق نہیں بلکہ وسعت قانون کے یہ معنی ہیں کہ اس میں ممنوعات کی فہرست کم ہو اور جائزات کی فہرست زیادہ ہو تو آپ قانون شرع کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر باب کے اندر اس میں ممنوعات کم اور مباحثات زیادہ ہیں لیکن اگر کوئی تمام صورتوں میں سے ممنوعات ہی کا انتخاب کر کے سوال کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ سب کے جواب میں لا بجوز ہی کہا جائے گا۔

پھر اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ علماء نے لا بجوز ہی کا سبق یاد کر لیا ہے تو بھی ان سے پوچھ لینے میں آپ کا نفع ہی ہے گو ان کے لا بجوز کہنے سے اس عمل کو ترک نہ کیا جائے وہ یہ کہ اگر آپ بدون پوچھنے عمل ترک کرتے تو شاید حرام کو جائز سمجھ کر کرتے اور اب ناجائز سمجھ کر کریں گے۔ پہلی صورت میں گناہ کر کے اپنے کو گنہگار بھی نہ سمجھتے اور یہ حالت زیادہ خطرناک ہے اور دوسری صورت میں آپ اپنے کو گنہگار تو سمجھیں گے اور اس میں امید ہے کہ شاید کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جاوے۔ یہ تو معاملات کی حالت تھی اور بعض نے اگر لین دین کے اس جزو کو بھی درست کر لیا تو اس نے معاشرت کو خراب کر رکھا ہے پھر بعض نے تو یہ کیا کہ گوئند یہ

قدیم کو نہیں لیا مگر تہذیب جدید کو بھی نہیں لیا اور بعض نے تہذیب قدیم کو چھوڑ کر تہذیب جدید کو لے لیا میں کہتا ہوں کہ اس میں جواز و ناجواز کی بحث تو الگ رہی اس سے قطع نظر کر کے ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ رات دن جس قومیت کا سبق رٹا کرتے ہیں کہ یہ ہر تقریر و تحریر میں ان کی زبان و قلم پر قوم قوم کا لفظ چڑھا ہوا ہے تہذیب جدید کے اختیار کرنے میں اس قومیت کا ابطال ہے تو عجیب بات ہے کہ زبان سے تو یہ اپنے کو حامی قوم اور ہمدرد قوم ثابت کرتے ہیں اور طرز عمل سے قومیت کی جزوں اکھاڑتے ہیں کہ ان کی صورت سے اور بات سے کوئی اسلامی امتیاز ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوم سے جدا معلوم ہوتے ہیں بس ان کی وہ حالت ہے۔

یکے بر سر شاخ و بن می برید خداوند بتان نگہ کرد و دید
ایک شخص شاخ کی جزوں میں بیٹھا ہوا شاخ کاٹ رہا تھا مالک با غ نے نگاہ ڈالی اور دیکھا۔

اسلامی تہذیب

علاوہ ازیں دوسری قوم کی معاشرت اختیار کرنا گویا اس بات کا اقرار ہے کہ (نحوذ باللہ) اسلام میں معاشرت نہیں ہے یا ہے تو عمده اور کافی نہیں ہے۔ ورنہ پھر یہ لوگ دوسری قوموں کی معاشرت کیوں اختیار کرتے ہیں۔ واللہ اسلام میں تو معاشرت ایسی ہے کہ کہیں بھی اس کی نظر نہیں مگر معاشرت اس کو نہیں کہتے کہ باجا بھی ہو اور تکلفات ہوں۔ (اور تکبر کا سامان بھی ہو کیونکہ تکبر اور تکلف تو معاشرت کی جزوں اکھاڑتا ہے۔ اس لئے کہ تکبر دوسروں سے بڑا بن کر رہتا ہے پھر دوسروں کے ساتھ مساوات اور ہمدردی کہاں رہی۔ اسلام میں معاشرت کی تعلیم اس طرح دی گئی ہے جس سے انسان میں تواضع پیدا ہو اور تجربہ کر لیا جائے کہ بدون تواضع کے ہمدردی اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا اور یہی معاشرت کی جزو ہے پس) اصل معاشرت اسلام ہی میں ہے۔

مثلاً کھانے پینے میں اسلامی معاشرت سنئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی فرمایا ہے اور کر کے بھی دکھلایا ہے۔ اء کل کما یا کل العبد

کہ میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھایا کرتا ہے۔ آپ کی عادت تھی کہ جھک کر اکثر وہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب ہمارے بھائیوں کی نشست ملاحظہ ہو جو سراسر تکبرانہ ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ عقل کے قریب کون سا طریقہ ہے۔

اس کو ایک مثال میں سمجھئے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جارج چجم کے دربار میں جاویں

اور وہاں آپ کو کوئی چیز کھانے کے لئے دی جائے اور حکم ہو کہ ہمارے سامنے کھاؤ تو بتلائیے اس وقت آپ کس طرح کھائیں گے۔ کیا وہاں بھی آپ میز کے منتظر ہوں گے اور پالتی مار کر بیٹھیں گے یا غلاموں کی طرح جھک کر کھائیں گے۔

اور لیجئے کہ اس وقت جو چیزیں آپ کو دی جائیں اگر ان میں سے کوئی شے مرغوب نہ ہو تو انصاف سے کہئے کہ آپ اس کو بے رغبی طاہر کر کے کھائیں گے یقیناً آپ رغبت طاہر کر کے کھائیں گے۔ بے رغبی ہرگز طاہرنہ ہونے دیں گے۔

بس یہی اسلامی تہذیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ کان یا اکل اکلا ذریعاً کہ آپ (رغبت طاہر کر کے جلدی جلدی کھاتے تھے مگر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نہایت ہی ناز و انداز سے کھاتے ہیں۔ حضرت یہ ساری باتیں اس وقت تک ہیں جب تک حقیقت منکشf نہیں ہوئی اور اگر حقیقت کھل جائے اور معلوم ہو جائے کہ حکم الحاکمین کے دربار سے ہم کو یہ چیز کھانے کے لئے ملی ہے اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو پھر خود بخود یہی طرز اختیار کرنا پڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے چنانچہ اسی مثال میں غور کر لیجئے کہ آپ جارج پنجم کے عطیہ کو اس کے سامنے بے رغبی اور بے پرواہی سے کھائیں گے یا نہایت رغبت سے۔

اور لیجئے حدیث میں ہے کہ اگر لقہہ گر پڑے تو اس کو صاف کر کے کھالو۔ اس کو بعض متکبر تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں مگر میں اسی مثال میں پوچھتا ہوں کہ اگر جارج پنجم کی دی ہوئی چیز میں سے کچھ گر پڑے تو آپ کیا کریں گے۔ کیا اس کو دیے ہی چھوڑ دیں گے یا اٹھا کر سر پر دھریں گے۔ حضرت سارے مرحلے یہیں طے ہو جاتے ہیں جب کہ قلب میں کسی کی عظمت ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تھے اگر ہماری بھی آنکھیں کھل جائیں تو وہی کرنے لگیں جو حضور نے کیا ہے اور جہاں جا کر یہ آنکھیں کھلتی ہیں اور کسی کی عظمت دل میں متحضر ہوتی ہے وہاں اب بھی آپ کا یہی برداشت ہے۔

توجہ کہ اسلام میں معاشرت علی وجہ اتم موجود ہے تو پھر دوسروں سے کیوں لیتے ہو۔ غیرت یا حمیت (اور عومنی قومیت) کا مقتضانہ تو یہ تھا کہ اگر اسلامی معاشرت ناتمام بھی ہوتی جب بھی آپ دوسروں کی معاشرت اختیار نہ کرتے۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے۔

کہن خرقہ خویش پیراستن ب از جامہ عاریت خواستن

اپنی پرانی گدڑی پہننا ملے گے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔

اپنا تو پرانا کمبل بھی دوسروں کی شال سے زیادہ عزیز ہوا کرتا ہے نہ یہ کہ اپنے پاس دو شال موجود ہے اور تم اس کو اتار کر دوسروں کا پچھا ہوا کمبل اوڑھتے ہو۔ اسی طرح لباس میں بھی ہمارے بھائیوں نے دوسروں کی معاشرت اختیار کر لی ہے حالانکہ اسلامی معاشرت کے برابر لباس میں بھی کوئی معاشرت نہیں ہو سکتی۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اسلام میں لباس کے متعلق ماذونات کی فہرست بڑی اور ممنوعات کی چھوٹی ہے اور ہمارے بھائیوں کی معاشرت میں ماذونات کی فہرست تنگ اور ممنوعات کی بڑی ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ آپ رات دن وسعت پکارتے ہیں اور علماء کو رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاشرت میں تنگی نہ ہونا چاہئے اور طرزِ عمل یہ ہے کہ آپ نے ایسی معاشرت اختیار کر رکھی ہے جس میں سراسر تنگی ہے بھلا جس میں ماذونات کم اور ممنوعات زیادہ ہوں وہاں وسعت کہاں۔ آپ خود ہی تو ایک قاعدة بناتے ہیں کہ وسعت ہوئی چاہئے اور خود ہی اس کو توڑتے ہیں۔

یہاں سے معلوم ہوا ہو گا کہ درحقیقت آزادی شریعت ہی کی معاشرت میں ہے کیونکہ اس میں ماذونات زیادہ اور ممنوعات و قیود کم ہیں برخلاف جدید معاشرت کے کہ اس میں سراسر تنگی، ہی تنگی ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک کھانہ میں سکتے جب تک کرسی اور میز نہ ہو۔ اور ہم لوگ پنگ پر کھالیں، بستر پر کھالیں، بوریے پر کھالیں۔ بلکہ زمین پر بھی کھالیں ہمارے لئے کوئی قید نہیں۔ بتایئے آزادی کی حالت میں کون ہے۔

جدید معاشرت

اب جدید معاشرت کو دیکھئے میں ایک مرتبہ اپنے بھائی کے یہاں کھانا کھا رہا تھا۔ تو ہم لوگ فرش پر بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے اس وقت ایک جنگل میں بھی مہماں تھے وہ کھانے کے لئے اس حیلے سے آئے کہ کوٹ پتلوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بیچارے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے منتظر رہے کہ شاید میرے واسطے کری لائی جاوے گی مگر بھائی نے میری وجہ سے کری وغیرہ کا انتظام نہ کیا۔ دیر تک وہ کھڑے رہے مجھے شرم بھی آئی کہ ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی مانگنے آیا ہو بالآخر وہ بے تکلف اس طرح بیٹھے کہ دونوں پیرا ایک طرف لمبے کر دیئے اور دھم سے گر پڑے اور کہنے لگے کہ معاف فرمائیے گا میں پیر لبے کرنے پر مجبور ہوں۔ میں نے کہا کہ معاف فرمائیے گا میں کری پر کھانے سے معدود ہوں ان کو پیر لبے کرنے سے شرم آتی تھی اور مجھے کری پر کھانے سے شرم آتی

تھی۔ میری شرم ایسی تھی جیسے علامہ تقیازانی کی شرم تھی اور ان کی شرم تیمور لنگ جیسی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ تیمور لنگ دربار میں پیر پھیلا کر بیٹھتا تھا کیونکہ اس کا ایک پیر بجہ لنگ کے سیدھا رہتا تھا۔ علامہ تقیازانی اس کے زمانہ میں بہت بڑے عالم تھے۔ تیمور ان کی اتنی وقعت کرتا تھا کہ دربار میں ان کو اپنے پاس تخت پر بٹھلاتا تھا۔ جب پہلی مرتبہ علامہ تقیازانی دربار میں بلائے گئے اور تیمور نے ان کو تخت پر بٹھایا تو یہ بھی تیمور کی طرح ایک پیر لمبا کر کے بیٹھے تیمور نے ناگواری سے کہا۔ معدود رم دار کہ مرا لنگ است، یعنی مجھے معدود سمجھئے کیونکہ میرے پیر میں لنگ ہے۔ میں نے قصد آپ پر بھی مجھے معدود سمجھئے کیونکہ مجھے لنگ و عار آتا ہے کہ ظاہر میں بادشاہ کی وضع سے کم تر وضع اختیار کروں۔ کیونکہ اس میں دیکھنے والوں کی نظر میں علم کی تحریر ہے۔ تیمور خاموش ہو گیا۔ پھر ہمیشہ یہی دستور رہا کہ علامہ پاؤں پھیلا کر ہی تخت پر بیٹھتے تھے۔

اسی لئے میں نے بھی ان حضرت کے لئے کری نہ منگوائی کیونکہ اس میں اسلامی معاشرت کی توہین تھی۔ میں نے کہا اچھا ہے ذرا آج یہ اپنی معاشرت کا مزا تو چکھیں کہ اس میں کتنی مصیبت ہے۔ تو یہ کیا آزادی ہے کہ انسان بدون کرسی اور میز کے بیٹھے نہ سکے۔

ایک دفعہ میں کانپور کی مسجد میں حدیث شریف پڑھا رہا تھا کہ ایک اسپکٹر پولیس جو کہ جنسلمیں تھے اسی طرح کوٹ پتلون میں جکڑے ہوئے تشریف لائے اور لب فرش میرے منتظر کھڑے رہے کہ یہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور میں با تم کروں۔ مگر میں حدیث کو ان کے لئے کیوں چھوڑتا بالآخر تھوڑی دیر کھڑے رہ کر چل دیئے۔ واللہ اس لباس سے زیادہ کیا جیل خانہ ہوگا۔ جس میں کرسی کے آنے تک انسان کو مجرموں کی طرح کھڑا رہنا پڑے۔

تو میں اس وقت جائز و ناجائز سے بحث نہیں کرتا یہ تو دوسری بات ہے۔ ان سب سے قطع نظر کر کے کہتا ہوں کہ دوسری قوموں کی معاشرت اختیار کر کے وہ امتیاز قومی کہاں رہا جس کے یہ لوگ بڑے مدی ہیں۔ اور اسلام کی وقعت کہاں رہی جس کے حامی اور خادم ہونے کا آپ کو دعویٰ ہے۔ اسلام کی یہی وقعت ہے کہ تم دوسروں کی معاشرت اختیار کر کے زبان حال سے اسلامی معاشرت کا ناکافی ہونا ظاہر کرو۔ نیز اس میں یہ خرابی الگ ہے کہ جس معاشرت کو آپ لے رہے ہیں اس میں تنگی اور قید بہت زیادہ ہے کہ ایک چیز دوسری لازم اور اس کو تیسری چیز

لازم۔ ان قبود کی پابندی میں وہ آزادی کہاں رہی جس کا آپ سبق پڑھا کرتے ہیں۔

آج کل نوجوان آزادی کا سبق پڑھ کر شادی یا ہبہ کی رسماں کو منع کرنے لگے ہیں۔ مگر میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ ہمارے لئے خوش کن بات نہیں کیونکہ ان رسماں کو اپنی رسماں کے پورا کرنے کیلئے منع کرتے ہیں خداور رسول کی ممانعت کی وجہ سے منع نہیں کرتے۔ البتہ رسماں کو وکناعملاء کا حق ہے جنکا نہ ہب ہے

اور مجھے سلام و کلام میں بھی ہمارے بھائیوں نے دوسروں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے گویا شریعت کی معاشرت کو بالکل چھوڑ دیا (کوئی ثوپی اتار کر سلام کرتا ہے، کوئی انگریزی لفظوں میں سلام کرتا ہے، کوئی آداب و تسلیمات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ)

مسئلہ استیذ ان

معاشرت کے بعض اجزاء کے متعلق تو بعض لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں رہی کہ یہ شریعت کا حکم ہے بھی یا نہیں بلکہ اکثر لوگ اس کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جیسے استیذ ان کا مسئلہ۔ اس کو بہت لوگ نئی بات سمجھتے ہیں اور اگر کوئی شخص یہ قانون مقرر کر دے کہ جب کوئی ملنے آئے تو پہلے اطلاع کر دے تو اس کو بدنام کرتے ہیں کہ اس نے انگریزوں کا طریقہ اختیار کر لیا حالانکہ استیذ ان کا مسئلہ اسلام ہی سے سب نے سیکھا ہے۔ چنانچہ یہ حکم قرآن میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے اور سلف کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ البتہ اس کی حقیقت سمجھ لجھے کیونکہ جس طرح آج کل نوجوانوں نے طرز اختیار کیا ہے یہ انہوں نے حکم اسلامی کی اتباع کے لئے نہیں کیا بلکہ اس میں بھی وہ دوسری قوموں کا اتباع کرتے ہیں۔

تو سن لجھے کہ اسلام میں استیذ ان کے لئے کارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہر جگہ اور ہر مکان کے لئے اجازت مانگنے کی ضرورت ہے بلکہ قرآن سے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص خلوت میں بیٹھا ہے مثلاً بیٹھک کے کواڑ بند کر کے ہیں یا پردے چھوڑ رکھے ہیں یا زنا نہ مکان ہے تو اس وقت استیذ ان کی ضرورت ہے اور اگر مردانہ مکان ہے اور کواڑ بند نہیں نہ پردے چھوڑے ہوئے ہیں تو بلا استیذ ان کے جانا جائز ہے (مگر یہ کہ قرآن سے معلوم ہو جائے کہ اس وقت کسی ضروری کام میں مشغول نہیں ہے۔ جس میں دوسروں کے آنے سے خلل واقع ہوگا) اور جہاں استیذ ان کی ضرورت ہے وہاں یہ طریقہ ہے کہ پہلے جا کر سلام کرو السلام علیکم! پھر اپنا نام بتلا کر کہو کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر وہ اجازت دے چلے جاؤ ورنہ تمیں دفعہ اس طرح کر کے لوٹ آؤ۔

چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور تین دفعہ اسی طرح کر کے واپس ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے خادم سے فرمایا کہ میں نے ابو موسیٰ کی آواز سنی تھی ان کو بلا لاؤ۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو واپس ہو چکے تھے آ کر عرض کیا تو فرمایا کہ جہاں ہوں وہیں سے بلا لاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ واپس کیوں ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا ہے کہ تین دفعہ سلام واستیدز ان کے بعد جواب نہ آئے تو واپس ہو جایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہ تھا۔ اس لئے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو تمہارے موافق حضور کے ارشاد کو بیان کر سکے حضرت ابو موسیٰ گواہ کی تلاش میں مسجد نبوی میں آئے جہاں انصار کا مجتمع موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب اس مسئلہ پر گواہ ہیں مگر تمہارے ساتھ ہم اپنے میں سب سے چھوٹے کو بھیجیں گے تاکہ حضرت عمر کو معلوم ہو جائے کہ انصار کے بچے بھی اس مسئلہ کو جانتے ہیں۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس مجتمع میں سب سے چھوٹے تھے وہ گواہی کے لئے حاضر ہوئے اور آ کر بیان کیا کہ واقعی حضور نے تین دفعہ کے بعد لوت جانے کا حکم دیا ہے۔

یہ تو حضور کا حکم ارشادی تھا۔ حضور نے اپنے عمل سے بھی اس حکم کو ظاہر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے اور تین مرتبہ فرمایا السلام۔ علیکم ادخل حضرت سعد تینوں دفعہ اس خیال سے خاموش رہے کہ اچھا ہے حضور بار بار سلام فرمائیں تو ہم کو حضور کی دعا کی برکت زیادہ نصیب ہو۔ جب تیسرا دفعہ کے بعد پھر آپ نے سلام نہ کیا تو وہ گھر سے نکل کر دوڑے اور دیکھا کہ حضور واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ جا کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں تو مزید برکت حاصل کرنے کے لئے خاموش ہو رہا تھا۔ آپ واپس کیوں چلے۔ فرمایا کہ مجھ کو یہی حکم ہے کہ تین دفعہ سے زیادہ استیدز ان نہ کروں عرض پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔

اگر آج کوئی ایسا قانون مقرر کر دے کہ اجازت لے کر آؤ اور تین دفعہ میں جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ تو لوگ اس کو فرعون اور مغربوں کو بھیجیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات سلف کا یہی طریقہ تھا اور تین دفعہ اجازت مانگنے پر اگر اجازت نہ ملے تو وہ بخوبی واپس ہو جاتے تھے گرانی مطلق نہ ہوتی تھی۔ تو دیکھنے یہ صورت کسی آسان ہے اور اس میں کس قدر مصالح ہیں، پس ہماری معاشرت ہر طرح سے مکمل ہے کھانے پینے میں بھی اور ملنے ملانے میں بھی۔ مگر افسوس ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور خواہ مخواہ دوسروں کے دروازوں پر دریوزہ گری کرتے ہیں۔

تصوف کی حقیقت

پانچواں جزو دین کا تصوف ہے۔ اس کو تو لوگوں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ اکثر لوگوں نے تصوف کے متعلق یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس میں یہوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ صاحبو! تصوف کی حقیقت ہے خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھانا۔ سو اس میں تعلقات ناجائز تو بے شک چھوڑنا پڑتے ہیں۔ باقی تعلقات جائزہ ضروری یہ تو پہلے سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ صوفیہ کے تعلقات اور معاملات یہوی بچوں کے ساتھ خوشنگوار ہوتے ہیں کہ اہل تمدن کے بھی ویسے نہیں ہوتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف والے سنگ دل ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ ایسے رحم دل ہوتے ہیں کہ انسان تو انسان جانوروں پر تک رحم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات کے پاس رہ کر معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ ہر شخص کی راحت کا کس قدر خیال کرتے ہیں لہذا اس سے متوضہ ہونا نادانی ہے جس کی وجہ سے اسلام کا ایک ضروری جزو لوگوں سے فوت ہو رہا ہے۔ یہ جزو ایسا ضروری ہے کہ قرآن شریف میں اس کی تحریک کا جابجا امر ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يَا لِلَّهِ الْبِلِّينَ اهْنُوا التَّقْوَةِ اللَّهُ حَقُّ تَقْيَةِهِ۔ ”یعنی اے ایمان والو! حق تعالیٰ سے ڈروجیسا کہ ڈرنے کا حق ہے“ اس میں تکمیل تقویٰ کا امر ہے یہی تصوف کا حاصل ہے اور مشاہدہ ہے کہ ایسا ذنباً سوائے صوفیہ کرام اہل اللہ کے کسی کو بھی نصیر نہیں ہے۔ ان کی بات بات میں خشیت ہوتی ہے بیبا کی اور آزادی کہیں نام کو بھی نہیں ہوتی۔ اب حدیث میں اس کی تاکید کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان فی جسد ابن ادم مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت

فسدالجسد كله الا وهى القلب (صحیح البخاری: ۱۴۰، صحیح مسلم: کتاب الساقات: ۱۰۳)

”یعنی انسان کے بدن میں ایک مکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ دل ہے“ اس میں اصلاح قلب کی کتنی تاکید ہے کہ اسی کو مدعا اصلاح قرار دیا گیا ہے اور یہی تصوف کا حاصل ہے اس میں بھی اصلاح قلب کا اہتمام ہوتا ہے۔

اسلام کی حقیقت

ایک اور حدیث میں ہے (جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے) کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام بصورت انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور صحابہ کی تعلیم کے لئے انہوں نے حضور سے چند سوالات کئے جن میں پہلا سوال یہ تھا۔

یا محمد اخبرنی عن الاسلام (صحیح مسلم کتاب الایمان السنن الاب راوی ۳۶۹۵)

اے حضور! مجھے بتائیے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟

قال الاسلام ان تشهدان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقيم الصلوة

و تؤتی الزکوة و تصوم رمضان و تحجج البيت ان استطعت اليه سیلا.

آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے لا شریک لہ ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دو اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔

قال اخبرنی عن الایمان قال ان تو من بالله و ملکتہ و کتبہ و رسّله

والیوم الآخر والقدر خیره و شرہ

حضرت جبریل نے پھر پوچھا کہ مجھے ایمان کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور سب رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاو اور ان سب کی تصدیق کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اسلام کے لئے تصدیق رسالت و ایمان کے لئے قیامت اور تقدیر اور طائفہ کی تصدیق بھی ضروری ہے اس کے بدون آدمی مومن نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ قیامت کا مانا اس کا نام نہیں کہ جس طرح جی چاہے مان لے بلکہ جس طرح حضور نے بتایا ہے اس طرح مانے تو اس میں حساب کتاب اور وزن اعمال اور پلصراط وغیرہ سب کا مانا داخل ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام کا ایک جزو اعمال بھی ہیں۔ پس اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جنہوں نے اجزاء دین میں اختیاب کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اوپر مفصل ذکر ہو چکا ہے۔

قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد الله کانک تراہ فان لم

تکن تراہ فانہ یراک

پھر حضرت جبراٹل نے پوچھا کہ بتائیے احسان (و اخلاص) کیا چیز ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے (اور اس کا مقتضانہ بھی یہی ہے کہ جیسی عبادت خود ان کو دیکھ کر کرتے ہو ویسی ہی اب بھی کرو کیونکہ نوکر کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حاکم مجھے دیکھ رہا ہے گو اسے نظر نہ آتا ہو جب بھی وہ ایسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ خود اسے آنکھوں سے دیکھ کر کرتا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ اسلام و ایمان کی تکمیل کرنے والی ایک تیسری چیز اور ہے جس سے عبادت بدرجہ کمال ادا ہوتی ہے وہ احسان۔ ہے اور اس کی تحریصیل تصوف میں مطلوب ہے۔

اقسام اعمال

حقیقت اس کی یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اعمال جوارج۔ دوسرے اعمال قلب۔ اعمال جوارج تو عبادات و معاملات و معاشرت وغیرہ ہیں اور اعمال قلب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کا معلوم کرنا اور یقین کر لینا کافی ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کو قلب کے اندر پیدا کرنا اور ان کی اضداد سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے جیسے اخلاص و صبر و شکر و محبت و خشیت و رضا و توکل و تواضع و قناعت وغیرہ۔ ان کا تو حاصل کرنا ضروری ہے اور ان کے اضداد کا دل سے نکالنا ضروری ہے۔ جیسے ریاء و کبر و غصہ طمع و حب و نیا وغیرہ۔ غرض کچھ کرنے کے کام اور کچھ نہ کرنے کے اور اسی سے اعمال جوارج عبادات وغیرہ درجہ کمال پر پہنچتے ہیں اور ان سب کی تیمیل کا نام احسان ہے۔ اب قرآن و حدیث سے دیکھئے کہ ان اعمال باطنہ کی تاکید ہے یا نہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے امر و نہی اور وعدہ وعید ہے۔ (سو قرآن میں ہے)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَأَءُوْنَ
 ترجمہ: سو ایسے نمازوں کیلئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں جو ایسے ہیں جو ریا کاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔

اس میں نماز میں ریا و غفلت پر سخت وعید ہے) اور حدیث میں ہے۔ لا یدخل

الجنة من کان فی قبله مثقال ذرة من کبود (اتحاف اسادۃ المکہین للبوہیدی ۳۶۱: ۸)

یعنی جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبیر ہو۔ اسی طرح قرآن و حدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ جا بجا اخلاق رذیلہ کی ممانعت اور ان پر وعید مذکور ہے اور اخلاق حمیدہ کی تاکید اور ان پر وعدہ موجود ہے تو اس جزا اخلاق کا حاصل کرنا واجب ہوا اور یہی حقیقت ہے تصوف کی۔ پس تصوف کا جزو دین ہونا ثابت ہو گیا۔

مگر قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ توازع اور ذرائع ہوا کرتے ہیں جیسے حج کے لئے سفر کرنا اور زاد راہ ساتھ لینا جس سے وصولی میں سہولت ہو۔ اسی طرح تصوف میں اصل مقصد تو اصلاح قلب ہے کہ اخلاق حمیدہ حاصل ہوں اور رذیلہ زائل ہوں مگر اس مقصد کے لئے کچھ توازع و ذرائع ہیں جن سے مقصد میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے اذکار و اشغال و احوال و کیفیات جن کو آج کل لوگوں نے غلطی سے مقصد قرار دے لیا ہے مگر یہ محض توازع و ذرائع ہیں۔ اصل مقصد اصلاح قلب

ہے اور اس مقصود کا بھی ایک مقصود ہے یعنی رضائے حق جس کا شمرہ قرب باری تعالیٰ۔

پس حاصل یہ ہوا کہ دین کی ترتیب اس طرح ہوئی کہ اول تو عقائد کو صحیح کرے پھر اعمال جوارح عبادات و معاملات و معاشرت کو درست کرے۔ پھر اصلاح قلب کا اہتمام کرے جس کا طریقہ کسی شیخ کامل سے پوچھئے اور اس کے کہنے کے موافق ذکر و شغل میں لگے۔ اس سے اعمال قلب کی اصلاح آسانی سے ہو گی۔ کیونکہ ذکر و شغل سے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے تو قلب میں اخلاق حمیدہ کی قابلیت جلد پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے ذکر کے ساتھ اخلاق کی طرف بھی توجہ رکھنا چاہئے (کیونکہ اصل چیز یہ ہے جس کی تحریک ضروری اور فرض ہے رہا ذکر و شغل وہ تو امر مستحب ہے جو اس مقصود کا ذریعہ ہے) یہ ہے امرِ حمایہ اور یہ ہے اصلی درس مگر بعض لوگ صرف ذکر و اشغال پر اکتفا کرتے ہیں اخلاق کی درستی کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ حقیقت سے ناوافی کی دلیل ہے اور اخلاق باطنیہ کی درستی اس طرح ہوتی ہے کہ شیخ کے سامنے اپنے امراض قلبیہ بیان کئے جائیں کہ ہمارے اندر فلاں فلاں امراض ہیں ریا یا عجیب و کبر وغیرہ۔ پھر جو تمہیر شیخ بتلائے اس پر عمل کرے جیسا کہ امام غزالی نے ہر ہر مرض کی حقیقت اور ہر ایک کا جدا جدا علاج (احیائے العلوم میں) بیان فرمایا ہے۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے تصوف کا اور ایک وہ ہے جو آج کل لوگوں نے اپنی رائے سے سمجھ رکھا ہے۔ بس ذکر و شغل ہی پر کفایت کرنے لگے یاد رکھو اس طرح باطن کی اصلاح نہیں ہوتی۔ بلکہ صورت وہی ہے کہ امراض کا علاج بھی کرو۔ مثلاً ایک شخص میں تکبر ہے تو شیخ کو چاہئے کہ ذکر و شغل کے ساتھ اس کے سپرد ایسا کام بھی کرے جس سے نفس میں تواضع پیدا ہو۔ مثلاً نمازوں کے لئے بھر کے رکھنا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا وغیرہ اور اگر شیخ نہ بتلاوے تو طالب کو خود ایسے کام کرنے چاہیں۔ جن سے نفس میں تذلل پیدا ہو وعلیٰ ہذا۔ اگر کسی میں حسد ہے تو اس کو چاہئے کہ محسود کی تعریفیں کیا کرے۔ اس سے قلب کا غبار نکل جائے گا۔ اس طرح ہر ہر مرض کا ایک خاص علاج ہے جو تصوف کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ ہے تہذیب اخلاق۔

اس کے بعد اس کا شمرہ یعنی رضائے حق۔ مگر آج کل لوگوں نے شمرہ اس کو سمجھ لیا ہے کہ کچھ اطائف جاری ہو جائیں کچھ گریہ رفت طاری ہونے لگے۔ صاحبو! یہ تو احوال ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ مطلوب وہ امور ہیں جو بندہ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی اخلاق حمیدہ کا حاصل کرنا اور رزانہ کا علاج کرنا اسی طرح کشف بھی مطلوب نہیں کشف ہوتا ہو اس کے لئے نعمت ہے شکر کرے بشرطیکہ غواہ کبر و عجیب وغیرہ سے محفوظ ہو اور جس کو نہ ہوتا ہو اس کے درپے نہ ہو وہ سمجھ

لے کہ میرے لئے کامیابی کا طریقہ یہی تجویز کیا گیا ہے کہ کشف نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ کشف سے انسان بہت سی بلاؤں میں پھنس جاتا ہے۔ بس تم اپنے لئے کوئی طریقہ تجویز نہ کرو۔ بدروں صاف ترا حکم نیست دم درکش کہ آنچہ ساقی ماریخت عین الطاف است تجھے صاف اور گدے سے مطلب نہیں تو خاموش رہ جو کچھ ساقی نے ہمارے پیالہ میں ڈال دیا ہے وہ عین لطف ہے۔ اور فرماتے ہیں تو بندگی چوگدا یاں بشرط مزد مکن کہ خواجہ خود روشن بندہ پروری داند حافظ تو بندگی بشرط مزدوری فقیروں کی طرح مت کراس لئے کہ آقا بندہ پروری کا طریقہ خود خوب جانتے ہیں۔

اور ساری وجہ پریشانی کی یہی ہوتی ہے کہ لوگ حالات و کیفیات کو مقصود سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں نے بتلا دیا کہ یہ مقاصد میں سے نہیں محض تو انع و ذرائع ہیں۔ جو ہر ایک کو مختلف طور پر پیش آتے ہیں۔ بس یہ خلاصہ ہے دین کا کہ ان پانچوں اجزاء کو حاصل کیا جائے اسی کا بیان مختصر لفظوں میں اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ہم ان کے لئے محبوبیت پیدا کر دیں گے۔ ان پانچوں اجزاء کی تفصیل پر آپ امُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ کے مصدق بنتیں گے۔ پھر اس پر وہ ثمرہ مرتب ہو گا جو آیت میں مذکور ہے یعنی حق تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو گی۔ جس کا تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ آج تو تفصیل طریق کا بیان تھا سو بحمد اللہ اس وقت بقدر ضرورت طریق کی تفصیل بھی بیان کردی ہے اب عمل کرنا آپ کا کام ہے اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو فہم سیم عطا فرمائیں اور عمل کی ہمت دیں آمین۔

الْكَمَالُ فِي الدِّينِ

(الدرجات)

خدا تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی ناقص حالت پر قناعت نہ کرنی چاہئے بلکہ کمال دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال کو کامل کیا جائے فرائض و واجبات کے بجالانے میں کوتاہی نہ ہو اور محرومات کا ارتکاب نہ ہو۔ اور اعمال کے کامل کرنے میں نفس جو مزاحمت کرے اس کے علاج کے لئے کامیں کی صحبت اختیار کی جائے۔

تکمیل دین کی ضرورت اور اس کے طریق کے متعلق یہ وعظ محلہ میں تاراں مسجد پنجابیاں دہلی میں ۲۵ ذوالحجہ ۱۳۸۰ھ بروز یکشنبہ بوقت صبح ۷ نج کر ۵ منٹ پر شروع ہو کر سوا گیارہ بجے ختم ہوا قریباً تین ہزار کا مجمع تھا اور یہ سارا وقت کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ یہ مولا ناظم فراحمد صاحب تھانوی نے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ النَّفَسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

اما بعد! اغُوْذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قال اللہ تعالیٰ یا ایها الّذین امْنُوا اتّقُوا اللہ وَکُونُوا مَعَ الصّدِقِینَ (التوبہ آیت نمبر ۱۹)

اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور (عمل میں) پھوں کے ساتھ رہو۔

تمہید

یہ ایک مختصر آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے ایک مقصود کا بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے طریق کی تعریف فرمائی ہے اور آگے چل کر میں اس کو واضح کر دوں گا کہ وہ طریق نہایت ہی آسان ہے۔ حاصل یہ کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک اس کی تحصیل کا طریق ہوتا ہے۔ پھر طریق کبھی سہل ہوتا ہے کبھی دشوار۔ اگر مقصود متعین ہو اور اس کا طریق معلوم ہو اور وہ طریق سہل بھی ہو تو بہت جلد کامیابی ہو جاتی ہے۔ ناکامی کا راز صرف یہی ہے کہ یا تو مقصود متعین نہ ہو یا طریق صحیح معلوم نہ ہو یا وہ طریق دشوار ہو جس کے حاصل کرنے کی ہمت نہیں۔

ناکامی کا راز

مثلاً ایک شخص بیمار ہے۔ اس کی ناکامی کا سبب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحت کا مقصود ہونا معلوم نہ ہو۔ اس لئے وہ صحت کے لئے کوشش اور تدبیر ہی نہیں کرتا یا صحت کا مقصود ہونا معلوم تو ہو لیکن یہ

معلوم نہیں کہ صحت حاصل کرنے کا طریقہ معالجہ ہے یا یہ بھی معلوم ہے لیکن طریقہ معالجہ میں غلطی کر رہا ہے صحیح طریق پر چلتا نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقصود بھی معلوم طریق بھی معلوم اور اس کا صحیح ہونا بھی معلوم مگر ہمت نہیں ہوتی۔ مثلاً یہ معلوم ہے کہ مقصود صحت ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا طریقہ معالجہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ طبیب ماہر فرن ہے۔ جو صحیح طریق سے معالجہ کرتا ہے لیکن دشواری یہ ہے کہ حکیم صاحب نے سور و پیہ کا نسخہ لکھ کر دیا ہے اور یہ شخص غریب ہے جو سور و پیہ کا نسخہ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح تمام دنیاوی امور میں تناکامی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کبھی مقصود معلوم نہیں ہوتا۔ کبھی طریق میں غلطی ہوتی ہے کبھی طریق دشوار ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو کب کا مقصود ہونا معلوم نہیں اس لئے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے یا کب کا طریق معلوم ہے مگر اس کا طریق معلوم نہیں۔ یہ دونوں شخص بھوکوں مریں گے۔ یا کب کا طریق معلوم ہے لیکن سب نے معاش حاصل کرنے کا طریق تجارت کو بتلایا کیونکہ وہ لوگ تجارت کرنے والے تھے اور ان کو تجارت میں بہت کچھ نفع ہو چکا تھا اس لئے وہ ہر شخص کو یہی بتلاتے ہیں کہ معاش کا طریق تجارت ہے مگر اس کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے اور اس شخص نے کبھی روپیہ کی صورت نہیں دیکھی۔ یہ شخص بھی بھوکا مرے گا۔ کیونکہ گواں کو مقصود بھی معلوم ہے طریق بھی جانتا ہے لیکن لوگوں نے اس کا ایسا طریقہ بتلایا ہے جو اس کے قبضہ سے باہر ہے۔ کسی شفیق نے اس کو مزدوری طریقہ نہیں بتلایا جس میں صرف ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت ہے روپیہ کی کچھ ضرورت نہیں۔ غرض اسی طرح تمام کاموں میں غور کر لیجئے تو تناکامی کا راز بھی معلوم ہو جائے گا۔

تمنا اور طریق کا فرق

عدم تعین مقصود و عدم تعین طریق یا عدم سہولت اور ان دونوں کی تعین و تسهیل کے بعد جو تناکام رہے گا وہ محض اپنی سستی اور کابلی کی وجہ سے تناکام رہے گا۔ یہ شخص حصول مقصود کا محض تمنا کو سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے محض تمنا واسطہ ہونے کے قابل نہیں مثلاً ایک شخص گھر میں غلہ جمع کرنا چاہے لیکن نہ کھیتی کرے نہ سچ ڈالے نہ کچھ کرے تو اس کا گھر غلہ سے ہرگز نہ بھرے گا وہ کتنی ہی تمنا کرتا رہے کیونکہ عادت اللہ اس طرح جاری نہیں ہے کہ محض تمنا سے گھر بھر جایا کرے۔ یوں قدرت ظاہر کرنے کے لئے بھی حق تعالیٰ ایسا کر دیں تو وہ شاذ و نادر ہے۔ والناور کا المعدوم۔ خدا تعالیٰ کی قدرت میں یہ ضرور ہے کہ بدون کب وغیرہ کے بھی گھر بھر

دیں۔ اور بعض دفعہ اس کا وقوع بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو بے گماں کسی جگہ سے خدا نہ مل گیا اور وہ امیر کبیر ہو گئے۔ مگر اس کا وعدہ نہیں ہے پس جب نہ عادت اللہ اس طرح جاری ہے نہ کوئی وعدہ کیا گیا ہے پھر کس بھروسے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے۔

ملاحق تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لئے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا بدوں باپ کے دیا تھا۔ مگر عادت اللہ یہی ہے کہ بدوں باپ کے لڑکا نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی عورت اولاد کی تمنا کرے اور یوں چاہے کہ مریم علیہ السلام کی طرح میرے بھی بدوں نکاح کے لڑکا ہو جائے تو اس کو سب پاگل کہیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو اولاد مقصود نہیں ہے اگر اولاد مقصود ہوتی تو یہ نکاح ضرور کرتی۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بدوں ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ اب اگر کوئی مرد یہ تمنا کرنے لگے کہ میرے بھی کوئی لڑکا آدم علیہ السلام کی طرح ہو جائے کہ نہ مجھے نکاح کرنا پڑے نہ عورت کے پاس جانا پڑے۔ بس مٹی سے ہنا بنایا پتلا پیدا ہو جائے۔ تو سب لوگ اس کو احمد سمجھیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس کو اولاد مقصود نہیں۔ ورنہ یہ نکاح ضرور کرتا۔

غرض دنیا کے کاموں میں تمام عقلاء اسباب کے اختیار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور محض تمنا کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ تمنا مجروں لا اسباب کو حفاظت پر محمل کرتے ہیں حالانکہ بعض اسباب پر مسماں کا ترتیب یقینی بھی نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ تجارت کرتے ہیں اور ان کو نقصان ہوتا ہے بعض ملازمت کرتے ہیں اور تنخواہ نہیں ملتی۔ بعضے محنت مزدوری کرتے ہیں مگر مزدوری نہیں ملتی۔ بعضے صنعت و حرف جانتے ہیں اور ان کو کوئی کام پر نہیں لگاتا لیکن محض توقع کی بناء پر سب عقلاء نے ان اسباب کی ضرورت پر اتفاق کر لیا ہے

دین میں تنگی نہیں

مگر حیرت در حیرت ہے کہ دین میں اس قاعدہ سے کام نہیں لیا جاتا حالانکہ وہ مقصودیت میں سب سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے دین مقدم ہے پھر ان کے طرق بھی معین و معلوم ہیں اور ان طرق کی صحت بھی معلوم ہے کیونکہ خدا و رسول کے کلام کا صادق ہونا مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے پھر وہ طرق و اسباب و شوار بھی نہیں ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے لئے ارادہ کی بھی ضرورت نہیں میں ارادہ کی نفی نہیں کرتا بلکہ مشقت کی نفی کرتا ہوں کہ اسباب و نیزیہ میں دشواری اور مشقت پکجھ نہیں ارادہ کی بے شک ضرورت ہے اور اس کی سب سے بڑھ کر دلیل حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ اور يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ۔ خدا نے تمہارے لئے دین میں کچھ تنگی نہیں کی حرج و کرہ تحت لفی ہے جو عموم کو مفید ہے
مطلوب یہ ہوا کہ خدا نے دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی۔ اس میں مطلقاً کچھ دشواری نہیں دوسری آیت
میں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں تم کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے۔
قرآن پر مسلمانوں کا ایمان ہے اس لئے اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے لئے صرف اتنا
کہہ دینا کافی ہے کہ حق تعالیٰ فرمائے ہیں کہ دین میں کچھ تنگی نہیں لیکن میں اسی پر اکتفا نہیں کرتا
 بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ عقلابھی ثابت ہے کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے تمام
کفار اس کی مخالفت پر آمادہ اور اس میں عیب نکالنے کے درپے تھے۔ وہ قرآن کی تکذیب کے
لئے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ادھر قرآن میں تمام عالم کو دعوت دی گئی کہ وہ قرآن کا مشل بنا
لاؤں جس سے ان کو اور بھی زیادہ استعمال ہو گیا تھا پھر اس وقت سے لے کر اس وقت تک
ہر زمانہ میں ملاحدہ اور مخالفین نے قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآن میں یہ
دعویٰ بڑے شد و مد کے ساتھ کیا گیا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں، اگر یہ دعویٰ کمزور ہوتا اور اس میں
کچھ بھی خلاف واقع ہونے کی بوہوتی تو ملاحدہ اور کفار و مشرکین ہرگز اعتراض سے نہ چوکتے وہ
ضرور اس کی تکذیب کرتے اور قرآن کی مخالفت کے لئے اچھا خاصہ بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا کہ
دیکھئے قرآن کا یہ دعویٰ کتنا خلاف واقع ہے کہ جو دین اس قدر دشوار ہے اس کو آسان بتایا گیا
ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تنگی نہیں ہے لیکن کسی ملحد یا مخالف نے آج تک قرآن کے
اس دعویٰ کی تکذیب نہیں کی ورنہ اور اعتراضوں کی طرح یہ اعتراض بھی ضرور منقول ہوتا۔ اس
سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفین کو اس دعویٰ میں چون وچدا کی کچھ بھی گنجائش نہیں ملتی۔

آج کل کے اعتراضات

مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں قرآن پر اعتقاد رکھنے والے یعنی بعضے مسلمان اس دعویٰ پر
اعتراض کرتے ہیں جس پر مخالفین کو بھی حرف گیری کا موقع تھا ملاتھا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اس پر
اعتقاد نہیں۔ اعتقاد تو ہے مگر حالت یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کے اس دعویٰ کی تکذیب نہیں کرتے تو
دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے دل رکتے ہیں۔ مگر جس
مسئلہ کو مخالف بھی تسلیم کر چکا ہواں پر مسلمانوں کا اعتراض کرنا بڑی شرمناک بات ہے۔

صاحب۔ میں بقیہ کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور صحیح ہے اگر اس میں کچھ بھی کمزوری ہوتی تو ملاحدہ ہرگز نہ چوکتے، خصوصاً جب کہ وہ ان کمزور مسلمانوں کے وہ دلائل بھی سن لیتے جو آج کل اس کے خلاف بیان کئے جاتے ہیں کہ صاحب دین پر عمل کرتا بہت دشوار ہے۔ اگر تجارت کرو تو بات بات پر شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں ربوا لازم آگیا۔ اس صورت میں ثمن مجہول ہے اس لئے بیع فاسد ہے اس صورت میں یہ شرط فاسد ہے کسی صورت میں جہالت بیع کی وجہ سے بیع فاسد ہے اور ہم کو تجارتی معاملات اہل یورپ سے اس طریق پر کرنے پڑتے ہیں جو ان کے یہاں رائج ہے اور اہل یورپ بالکل آزاد ہیں ان کے معاملات کی اکثر صورتیں خلاف شریعت ہیں اب اگر تجارت کریں تو دین پر کس طرح قائم رہیں اور دین پر قائم رہیں تو تجارت کس طرح چلے، قرض بلا سود کہیں سے نہیں ملتا اور تجارتی کاروبار بدون قرض کے نہیں چل سکتا۔ اب کریں تو کیا کریں؟

ملازمت کا حال یہ ہے کہ اس میں بھی بعض کام خلاف شرع کرنے پڑتے ہیں۔ زراعت میں بھی قدم قدم پر شرعی احکام رکاوٹ پیدا کرتے ہیں میں ان سب اعتراضوں کا بھی جواب دوں گا بلکہ اور بھی کوئی اعتراض کسی کے ذہن میں ہو تو ان شاء اللہ وہ بھی اس جواب سے حل ہو جائے گا۔

وضاحتی تمثیلات

مگر جواب سے پہلے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں اگرچہ حکایت گندی ہے مگر اس حالت کے بالکل مطابق ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ مثال سے مضمون جلدی ذہن نشین ہو جاتا ہے ہمارے قصہ میں ایک عورت مغرب کے وقت اپنے بچہ کو پاخانہ پھر اڑی تھی چاندرات کا موقع تھا بچہ اور عورت میں عید کا چاند دیکھ رہی تھیں یہ عورت بھی بچہ کو پونچھ کر چاند دیکھنے کھڑی ہوئی، جلدی میں کچھ پاخانہ انگلی کو لگا رہ گیا، جلدی میں اسے خبر نہ رہی کہ میری انگلی میں کیا لگا ہوا ہے اس نے عورتوں کی عادت کے موافق ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھا تو اس میں سے پاخانہ کی بدبوائی تو آپ فرماتی ہیں کہ اے ہے اب کے عید کا چاند سڑا ہوا کیوں نکلا۔

تو جس طرح اس عورت کو اپنی انگلی کا پاخانہ چاند محسوس ہوتا تھا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ چاند سڑا ہوا نکلا ہے۔ اب صاحبو! خدا کی قسم! اسی طرح جو تم کو دین میں تنگی نظر آ رہی ہے یہ دین کی تنگی نہیں بلکہ حقیقت میں تنگی تمہارے اندر ہے۔ تمہارے تمدن اور میعادن میں تنگی ہے جس کو میں آگے وضاحت کے ساتھ بتلادوں گا۔ مگر آپ کی یہ حالت ہے کہ اپنی انگلی کو تو آپ دیکھنے نہیں

کہ اس میں نجاست لگی ہوئی ہے خواہ گنوہ ماہتاب شریعت کو بدبودار بتلاتے ہیں حالانکہ وہ اتنی بلندی پر ہے کہ یہ گندگیاں اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتیں۔

جیسے ایک جبشی کا قصہ ہے کہ اس کو راستہ میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھنا شروع کیا تو ایک ڈراوی صورت بھدی شکل اس میں نمودار ہوئی تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ صورت اس آئینہ میں پہلے ہی سے بنی ہوئی ہے۔ اپنی نسبت یہ بدگمانی نہ ہوئی کہ شاید یہ میری ہی صورت دلفریب ہو کیونکہ آدمی کو اپنی صورت تو نظر نہیں آتی اس لئے اپنی صورت کا بھلا برا ہونا خود کو کم معلوم ہوتا ہے تو اس جبشی نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر اس کو پھینک دیا اور کہا کہ ایسی بری صورت کا تھا جبھی تو تجھے کوئی یہاں پھینک گیا۔

صاحبو!۔ اسی طرح آپ کو اپنی مہیب صورت دین کے آئینہ میں نظر آتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بھدا پن نعوذ باللہ دین کے اندر ہے حالانکہ اس میں تو اس قدر صفائی ہے نور ہے کہ ظلمت اور سیاہی کا وہاں نام بھی نہیں لیکن شفاف ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی صورت اس میں نظر آ رہی ہے جس کو آپ دین کی صورت سمجھے ہوئے ہیں اس کی نظیر میں مولا نافرمانے ہیں۔

حملہ برخود میکنی اے سادہ مرد ہم چوں آں شیرے کہ برخود حملہ کرد اے سادہ مرد تو اپنے اوپر خود حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیرے نے پانی کے اندر اپنی تصویر دیکھ کر اپنار قیب شیر سمجھ کر خود اپنے پر حملہ کر دیا تھا۔

اس کا قصہ مولا نے مثنوی میں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نجیروں نے باہم مشورہ کیا کہ شیر روزانہ ہم کو پریشان کرتا ہے اور ایک دو کوشکار کر لیتا ہے جس سے ہر ایک کو روزانہ اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے اور اس خطرہ سے زندگی تلخ رہتی ہے آؤ ہم سب چل کر شیر سے یہ کہیں کہ وہ اس طرح ہم کو پریشان نہ کیا کرے، ہم روزانہ اپنے میں سے ایک کو اس کی غذا کے لئے بھیج دیا کریں گے۔ جس سے دوسروں کو تو اطمینان ہو جائے گا۔ چنانچہ سب نے جا کر شیر سے یہ بات کہیں اس نے منظور کر لیا، کیونکہ اس میں اس کو بھی راحت تھی کہ روزانہ بے محنت و مشقت گھر بیٹھنے غذامل جایا کرے گی اب نجیروں نے قرعہ ڈال کر روزانہ ایک شکار کو شیر کے پاس بھیجنا شروع کیا جس کا نام قرعہ میں نکل آتا سب اس کو مجبور کر کے شیر کے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن خرگوش کی باری آئی سب نے اس سے کہا کہ جاؤ آج شیر کی غذا تم ہی ہو کہنے

لگا کہ میں تو نہیں جاتا یہ کوئی عقلمندی ہے کہ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں چلا جاؤں یہ تو خودکشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں شیر سے وعدہ خلافی ہو گی، کہنے لگا کہ یہ وعدہ خود ہی ناجائز ہے کیونکہ یہ خودکشی گوستزم ہے اور ناجائز وعدہ کا ایفا واجب ہی نہیں، اب ٹخنیروں میں کھلبالی پڑ گئی سارے اکٹھے ہو گئے اور خرگوش کو سمجھانے لگے کہ اگر تو نہ گیا تو شیر کو غصہ آجائے گا اس نے کہا کہ بلا سے اگر اسے غصہ آوے گا تو کبھی پر آوے گا پھر جس کی موت آگئی ہو گی اسے کھالے چاہمکن ہے کہ اس صورت میں میں نجی جاؤں اور جو صورت تم تجویز کر رہے ہو اس میں تو میری موت یقینی ہے اور موت محتمل پرموت یقینی کو کون گوارا کر سکتا ہے تو یہ بالکل عقل کے خلاف ہے وہ کہنے لگے کہ اس وعدہ خلافی سے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے لئے تو آج ہی فتنہ آ گیا مجھے فتنہ کی کیا پرواہ ہے۔ میرے لئے موت سے بڑھ کر کیا فتنہ ہے، بیش بڑی نیست کہ وہ غصہ میں آ کر مجھے کھالے گا تو یہی تجویز تم میرے واسطے کر رہے ہو۔ اتنا فرق ہے کہ اس وقت میں خود موت کے منہ میں جا رہا ہوں اور فتنہ کے وقت میں اپنے پچنے کی پوری کوشش کروں گا پھر بھی اگر مر گیا تو تقدیر ہے لیکن وہ صورت اس سے اہون ہے کیونکہ اس میں خودکشی تو نہ ہو گی۔

جب ٹخنیروں نے دیکھا کہ دلائل سے یہ قاتل نہیں ہوتا تو اب برادری کا زور دے کر کام لیا اور سب نے اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں تم کو ضرور جانا ہو گا۔ اگر تم نہ جاؤ گے تو ہم جبراً تم کو شیر کے سپرد کر دیں گے۔ بالآخر برادری کے دباؤ سے خرگوش مجبور ہو گیا، چلا گیا۔ مگر راستہ میں سوچنے لگا کہ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہئے کہ جس سے جان بھی نجی جاوے اور برادری بھی ناخوش نہ ہو۔ راستہ میں اسے کنوں نظر پڑا جس میں پانی بھرا ہوا تھا خرگوش بہت خوش ہوا کہ بس شیر کو اسی کنویں میں ڈبو دینا چاہئے اس کے بعد وہ شیر کے پاس پہنچا۔

شیر کے راتب میں چونکہ آج بہت دیر ہو گئی تھی اس لئے وہ چیخ و تاب کھارہاتھا اور یہ خیال کر رہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ٹخنیروں نے اپنے وعدہ کو بدل دیا ہے۔ پس میں آج جا کر ان کو کافی سزادوں گا۔ خرگوش کو دیکھ کر شیر بہت غرایا اور اس کو برآ بھلا کہنے لگا کہ آج معمول سے زیادہ دیر کیوں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں وعدہ خلافی کا خیال پیدا ہوا ہے۔

خرگوش نے کہا حضور! آپ پہلے ہمارا واقعہ تو سن لیں اس کے بعد ہی غصہ کبھی گا۔ آج مجھ کو آنے میں دیر اس لئے ہوئی کہ آپ کی دارالسلطنت میں ایک قوی دشمن گھس آیا ہے جس نے

راستہ روک رکھا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تم بجائے فلاں شیر کے مجھ کو راتب دیا کرو اس کو مت دیا کرو اور آج آپ کے راتب کے لئے ایک بڑا موٹا خرگوش تجویز ہوا تھا وہ میرے ہمراہ راستہ میں آ رہا تھا کہ اس کو دوسرے شیر نے پکڑ لیا۔ میں بھاگ کر فتح گیا اور اطلاع کرنے کے لئے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ پس اگر آپ کو اپنے راتب کی خیر منظور ہے تو اس دشمن کو اپنی دارالسلطنت سے نکال دیجئے ورنہ کل سے آپ کا راتب بالکل بند ہے وہ کسی کو آپ تک پہنچنے نہ دے گا۔

شیر کو اپنے رقیب کا حال معلوم کر کے بڑا غصہ آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ابھی اس کو سزا دیتا ہوں۔ وہ ایسا شیر کو نہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ چنانچہ خرگوش اس کو ساتھ لے کر کنوں پر پہنچا اور کہا کہ حضور دیکھنے اس کنوں میں رہتا ہے اور دیکھنے اس کے قبضہ میں مجھ سے بھی موٹا تازہ خرگوش ہے شیر نے جو کنوں میں جھانا کا تو اس کو اپنی صورت نظر آئی اور اپنے ساتھ ہی خرگوش کی بھی صورت نظر آئی اور یہ قاعدہ ہے کہ پانی کی تھی میں ہر چیز بڑی نظر آیا کرتی ہے۔ تو خرگوش کی صورت بھی بڑی معلوم ہوئی۔ شیر نے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر غصہ میں اس پر حملہ کیا اور دھڑام سے کنوں کے اندر جا پہنچا وہاں پانی کے سوا کیا تھا۔ اب خرگوش اوپر سے کہتا ہے کہ بس یہ تمہارا قید خانہ ہے تم اسی میں ڈوب کر جان دے دو اور میں جاتا ہوں۔ میر اسلام لو اس کے بعد خرگوش خوش ہوتا ہوا اپنی برادری میں پہنچا۔ انہوں نے کہا تو شیر کے پاس نہیں گیا اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے اس کا شکار بنانا چاہا تھا میں نے اسی کا شکار کر دیا۔ اس پر مولانا فرماتے ہیں۔

حملہ برخود ممکنی اے سادہ مرد ہمچو آں شیرے کہ برخود حملہ کرو اے سادہ لوح انسان تو اپنے اوپر خود حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے خود اپنے اوپر حملہ کیا تھا۔

تنگی کی حقیقت

صاحب۔۔۔ یہی حال معتبرین کا ہے کہ جو اعتراض وہ شریعت پر کرتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں مگر ان کو خبر نہیں شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے اور شریعت میں تنگی کا ہونا تو ہم کو مشاہدہ سے معلوم ہے کیونکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ معاملات وغیرہ میں ہم کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے سخت تنگی پیش آئی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس کی تکذیب و تردید نہیں کرتا کہ آپ کو معاملات وغیرہ میں تنگی پیش نہیں آتی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن دیکھا یہ ہے کہ اس تنگی کا سبب شریعت مقدسہ

ہے یا آپ کی معیشت اور تمدن کا خراب ہونا، یاد رکھو کسی قانون کو تنگ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ سب آدمی اس پر عمل کرنا چاہیں اور پھر بھی اس پر عمل کرنا دشوار ہوا اور اگر کسی قانون پر عمل کرنا اس لئے دشوار ہو جائے کہ ہزار آدمیوں میں سے وہ آدمی تو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام جماعت اس ارادہ کی مخالفت کرتی ہے اس صورت میں قانون کو ہرگز تنگ نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہی کہا جائے گا کہ تمہاری قوم تمدن تنگ ہے ان کی معیشت میں تنگی ہے۔

اس قاعدہ کو سمجھ کر سوچئے کہ آپ کو شریعت پر عمل کرنے میں تنگی کیوں پیش آتی ہے محض اسی وجہ سے کیونکہ آپ تہاں پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام تجارت اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آپ سود کی ذگری نہیں دینا چاہتے مگر مدعی سود لیتا چاہتا ہے اگر آپ ذگری نہیں گے تو وہ اپل کر کے سود وصول کر لے گا۔

ایک محکمہ میں ہزار آدمی ملازم ہیں۔ ان میں دو چار آدمی نماز کے وقت کام کرنا نہیں چاہتے۔ باقی تمام ملازم نماز کے صالح کرنے پر راضی ہیں اس لئے ان دو چار آدمیوں کو تنگی پیش آتی ہے اگر سب اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم نماز کو کبھی صالح نہ کریں گے تو حاکم محکمہ ضرور اس کے لئے قانون بنانے پر مجبور ہو گا۔ علی ہذا تمام صورتوں میں غور کر لیجئے کہ شریعت پر عمل کرنے میں تنگی محض اس وجہ سے پیش آئے گی کہ ایک کام کا تعلق پوری جماعت سے ہے جن میں صرف دو چار آدمی شریعت پر عمل کا قصد کرتے ہیں اور زیادہ حصہ عمل کرنا نہیں چاہتا اب آپ ہی بتلائیے کہ یہ تنگی احکام شرعیہ میں ہے یا آپ کے تمدن و معیشت میں۔۔۔؟

صاحب اس طرح تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جائے گا۔ دیکھئے کھانا کھانا کتنا آسان ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں پہنچ جائیں جہاں نہ آتا بلکہ ہونے لکڑی داموں سے ملتی ہونے وال اور کھلی ملتا ہے تو کیا آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ کھانا بہت دشوار چیز ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس گاؤں کا تمدن تنگ ہے۔ یا آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے سر پر دس ڈاکوا کر کھڑے ہو جائیں کہ جب لقدم اٹھاؤ وہ چھین کر کھا جاتے ہیں تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ کھانا مشکل کام ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کی معاشرت تنگ ہے ڈاکوؤں کی جگہ سے علیحدہ ہو کر دکھاؤ دیکھو کھانا کتنا آسان ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں عموماً سب لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام ہو۔ پھر بتلائیے کہ شریعت میں کیا تنگی ہے۔

دیکھو اگر کوئی مريض طبیب کے پاس جائے اور وہ اس کو ایسا نسبت لکھ کر دے جس کی قیمت

دو پیسہ ہے۔ ستری دوائیں لکھئے اور معمولی دوائیں بتلائے جو عموماً ہر جگہ مل جاتی ہیں لیکن مریض ایسے کورڈہ کار رہنے والا ہے جہاں قسمت سے معمولی دوائیں بھی نہیں ملتیں۔ نیز حکیم صاحب نے معمولی پرہیز بتلایا تھا اور دس پندرہ چیزوں کی اجازت دے دی تھی کہ پالک کا ساگ، تری، کدو، موگ کی دال، بکری کا گوشت، شلجم کی بھجیا وغیرہ کھا سکتے ہو، لیکن اس کورڈہ میں کوئی چیز بھی مریض کے کھانے کے قابل نہیں ملتی ہاں بینگن، کر میلے اور سور کی دال بہت ملتی ہے جس سے طبیب نے پرہیز بتلایا ہے اب یہ مریض اگر یوں کہنے لگے کہ اس طبیب کے مطب میں بہت سنگی ہے یا یوں کہنے لگے کہ علم طب ہی بہت سمجھ ہے جس پر عمل کرنا بہت دشوار ہے تو کیا کوئی عاقل اس کی بات کو تسلیم کر سکتا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ سب یہی کہیں گے کہ ظالم علم طب میں تو بہت وسعت ہے کہ سنگین سے سنگین مرض کا علاج ہزاروں روپوں میں بھی ہو سکتا ہے اور چار پیسہ کی دوائیں بھی، لیکن تیراگاؤں ہی بہت سمجھ ہے جس میں معمولی چیزیں بھی ملنا دشوار ہیں۔

صاحب۔۔۔ بعینہ یہی مثال ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کی ہے کہ وہ اپنے تہذن اور معاشرت کی سنگی کو تو دیکھتے نہیں خواہ مخواہ شریعت پر الزام لگاتے ہیں کہ اس میں سنگی اور دشواری ہے۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ قانون شریعت سے زیادہ آسان کوئی قانون ہو، ہی نہیں سکتا جس میں مصالح دنیا و آخرت کی پوری پوری رعایت کی گئی ہو مگر یہ ضروری ہے کہ جس جگہ زیادہ حصہ مسلمانوں کا شریعت پر عمل نہ کرنا چاہئے بلکہ عمل کرنے والوں کو بھی اس سے روکنا چاہئے تو ان ڈاکوؤں کی وجہ سے سنگی پیش آجائے گی ورنہ احکام شرعیہ فی نفسہا بہت سہل ہیں جن پر اگر سب مل کر عمل کرنا چاہیں تو نہایت راحت و اطمینان سے زندگی بسر ہو، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**

پھر یہ کیوں کرتسلیم کر لیا جاوے کہ شریعت کے احکام وسعت انسانیہ سے باہر ہیں یا ان میں کچھ بھی دشواری ہے۔ خدا تعالیٰ کا کلام کبھی ثوث نہیں سکتا، نہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ اس مضمون کو میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں لیکن میں اس مضمون پر پہلے عرصہ ہوا کہ ایک مفصل تقریر کر چکا ہوں جس کا نام لغتی الحرج ہے اور وہ اب قریب الطبع ہے۔ اہل مطبع کہتے تھے کہ ہم اس کو بہت جلد شائع کریں گے۔ اس میں ہر پہلو سے اس دعویٰ کو خوب اچھی طرح ثابت کرو یا گیا ہے کہ دین میں ہرگز سنگی نہیں اور اس وعظ میں نو تعلیم یافتہ طبقہ کے بھی بہت حضرات موجود تھے۔ سب نے اس کو سن کر گرد نہیں جھکا دیں اور اس کا اقرار کر لیا کہ واقعی

یہ دعویٰ اچھی طرح ثابت ہو گیا اور ہمارا عرصہ کا اشکال رفع ہوا۔ اس وعظ کی ایک کاپی ہر مسلمان کے گھر میں رہنی چاہئے خصوصاً نو تعلیم یافتہ حضرات تو ایک کاپی ضرور رکھیں کیونکہ ان کو اس قسم کے اشکالات زیادہ پیش آتے ہیں اور دین میں شک و شبہ کارہنا بڑا لگنیں مرض ہے۔ اس کا علاج بہت اہم ہے۔ ان شاء اللہ اس وعظ سے بہت سے اشکالات رفع ہو جائیں گے۔

حاصل یہ کہ دین مقصودیت میں بھی سب سے بڑھا ہوا ہے اور اس کا طریق بھی معین ہے اور طریق میں تنگی بھی نہیں بلکہ سہل اور بہت سہل ہے اور پھر اس طریق پر مقصود کا ترتیب بھی یقینی چنانچہ اور پر بھی مذکور ہوا ہے اور یہاں اس کا راز بتلاتا ہوں۔

ثمرات کا وعدہ

وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دین کے کاموں میں ثمرہ کا وعدہ فرمایا ہے اور اسباب دنیویہ میں اس کا وعدہ نہیں فرمایا چنانچہ دنیا کے متعلق ارشاد ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

یعنی جو کوئی دنیا کا قصد کرے گا، ہم اس کو دنیا میں جس قدر ہم چاہیں گے اور جس کے لئے چاہیں گے سر دست دے دیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیوی مراد کا حصول مشیت پر موقوف ہے۔ یہ وعدہ نہیں کہ جو تم چاہو، ہی مل جائے اور یہ بھی وعدہ نہیں کہ ہر ایک کا مقصود پورا ہو جائے بلکہ بعض کا مقصود حسب مشیت الہی حاصل ہو جاتا ہے اور بعض کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوتا۔

اور اعمال آخرت کے متعلق ارشاد ہے۔ **وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا**

سَعِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيَهُمْ مَشْكُورًا

اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور مومن بن کر اس کیلئے وہ کوشش کرے جو اسکے مناسب ہے تو ان لوگوں کی کوشش مشکور ہے یعنی حق تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے۔ اس آیت میں وسعی لہا سعیہ ارادہ کا بیان ہے۔ یعنی ارادہ سے مراد قصد جازم ہے جس کیلئے سعی لازم ہے آگے اسکی جزا مذکور ہے **أُولَئِكَ كَانَ سَعِيَهُمْ مَشْكُورًا** کہ ان کی سعی کی قدر کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ شاہی محاورہ میں یہ جملہ بہت امید افزائے ہے جب کوئی بادشاہ اپنے کسی خادم سے کہہ دے کہ ہم تمہاری خدمات کے قدر دان ہیں تو اس کو انعامات جلیلہ کی پختہ امید ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ کو میری خدمات سے بذریعہ امداد ملے گا۔ جب ادنی سے ادنی حاکم کے کلام

میں ایسے جملہ سے بہت کچھ امیدیں پختہ ہو جاتی ہیں تو حکم الحاکمین کے کلام میں اس جملہ سے کیا کچھ امیدیں پیدا ہونی چاہئیں اس کا فیصلہ اہل ذوق خود کر سکتے ہیں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ **مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ**

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتُهُ مِنْهَا

دنیا کے متعلق نؤته منہا فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا کا قصد کرتا ہے اس کو ہم کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ وعدہ نہیں کہ جو وہ چاہے وہی دے دیں اور آیت سابقہ کی قید لمن یشاء یہاں بھی ہے اور آخرت کے متعلق ترقی کا وعدہ ہے اور وعدہ بھی اطلاع کے ساتھ ہے جس میں مشیت وغیرہ کی قید مذکور نہیں نہ من تبعیضیہ لایا گیا ہے جس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ارادہ آخرت کے بعد تو مراد ضرور حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! دنیا کے متعلق تو یہ بھی وعدہ نہیں کہ جو مانگے وہی مل جائے اور یہاں زیادت کا بھی وعدہ ہے اور یہ ترقی محض آخرت ہی میں نہیں بلکہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا مل جاتی ہے۔ دین داروں کو دنیا میں بھی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کی ان کو پہلے سے خبر بھی نہیں تھی۔ آخرت کے متعلق تو مسلمانوں کو اس کا علم عام طور پر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آخرت میں عمل سے زیادہ صد ملے گا کیونکہ وہ حدیث سنے ہوئے ہیں۔

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھ نہ دیکھانہ کان نے سنا کہ بشر کے دل پر ان کا خطروہ گزرا،“ لیکن دنیا میں زیادت اور ترقی کا علم بہت لوگوں کو نہیں ہے۔ اکثر مسلمانوں کا خیال ہے کہ دین کا ثمرہ عمل سے زیادہ آخرت ہی میں ملے گا اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ نہیں ملتا کم ملتا ہے مگر یہ خیال بالکل غلط ہے حق تعالیٰ اعمال دینیہ کا ثمرہ دنیا میں بھی امید اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں اور اس ثمرہ کی بھی وہی شان ہے والا خطر علی قلب بشر کے دل میں پہلے سے اس کا خطروہ بھی نہیں گزرتا۔

شاید آپ یہ سوال کرو گے کہ وہ ثمرات کیا ہیں۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ دین کو اختیار کرلو۔ خود ہی تم کو وہ ثمرات حاصل ہو جائیں گے میں ان کو بیان نہیں کر سکتا اور وہ بیان میں آ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی تو شان یہ ہے والا خطر علی قلب بشر اور بیان کرنے سے قابل خطروہ و نالازم آ جائے گا۔ صحیح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جن کے بیان کے لئے الفاظ بھی نہیں ملتے ہاں کچھ کچھ

پتہ ان کا بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے جن کا صادق ہونا مراتب تدقیقیہ سے معلوم ہے ایک کتاب میں ایک بزرگ کا قول لکھا ہے۔ لو علمت الملوك بما عندنا من النعم لجادلوا بالسيوف کہ اگر سلاطین کو ان نعمتوں کا علم ہو جائے جو ہمارے پاس ہیں تو وہ تکواریں لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں اور ان کو چھیننا چاہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کی لذت کے سامنے سلطنت نفت اقلیم کی بھی کچھ حقیقت نہیں کیونکہ سلاطین تو اسی چیز کے طالب ہو سکتے ہیں جو ان کی دولت موجودہ سے بڑھ کر ہو۔ اگر وہ نعمت سلطنت سے کم ہوئی تو بادشاہوں کو ادھر توجہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے جب کہ وہ اس سے زیادہ نعمت لئے بیٹھے ہیں۔

پس یقیناً وہ نعمت ایسی ہے جس کی سلاطین کو ہوا بھی نہیں گلی۔ پھر یہی نہیں کہ بزرگوں کی یہ باتیں ہی باقی ہیں بلکہ جس کو وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اس نے سلطنت پر لات مار کر بھی دکھلادیا ہے۔ ابراہیم ادھم کا قصہ مشہور ہے جب خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے تو تخت سلطنت چھوڑ کر فقر و فاقہ کو اختیار کر لیا۔ پس وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے سامنے وہ سلطنت کو پچ سمجھتے ہیں۔ مگر ظاہر میں یہ حالت ہے کہنے کپڑے درست ہیں نہ صورت ٹھیک ہے اور باطن میں وہ ایسے غنی ہیں کہ سلاطین کو بھی منہ نہ لگاتے بلکہ خود سلاطین ان کی غلامی کو اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں۔ اس نعمت کو عارف شیرازی اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

میں حقیر گدایاں عشق را کیں قوم شہاں بے کرد خروان بے کلم اند حق بسحانہ و تعالیٰ کے عاشقوں کو حقیر مت سمجھو کہ یہ بے تخت و تاج ہی کے باطنی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ نیز عارف شیرازی اس نعمت کا کسی قدر پتہ بھی بتلاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے بے زال کہ پتھر شاہی ہمہ روز ہاؤ ہوئے فراغ دل سے ایک لمحہ کو بھی اس محظوظ کی یاد میں لگنا اس سے بہتر ہے کہ شاہی چھتری سر پر ہوا اور سلطنت کا شور ہو۔

معلوم ہوا ہے کہ وہ نعمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف کامل توجہ اور اس سے کامل تعلق ہو جاوے۔ اس نعمت کی یہ خاصیت ہے کہ پھر یہ شخص دنیا سے مستعفی ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جس دل میں خدا ہو گا اس میں کوئی دوسری چیز کب رہ سکتی ہے۔

عشق آں شعلہ است کہ چوں بر فروخت ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

ماند الا اللہ باقی جملہ رفت مر جبا اے عشق شرکت سوز رفت
عشق وہ آگ ہے جب دل میں روشن ہوتی ہے معاشق کے علاوہ سب غیر کو خاک کر
دیتی ہے۔ صرف حق تعالیٰ شانہ کی ذات دل میں باقی رہتی ہے مبارک ہوائے عشق تجھ کو کہ تو
نے غیر اللہ کو جلا کر دل کو غیر حق کی شرکت سے پاک کر دیا۔

تعلق مع اللہ کی صورت

لیکن یہ بھی اس نعمت کا اجمالی پتہ ہے کیونکہ اس سے بھی یہ نہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ سے
کامل تعلق کیونکر ہوا کرتا ہے۔ اسی لئے اس میں غلطی بھی ہوتی ہے چنانچہ بعض لوگ محض ملکہ
یادداشت کو کامل تعلق کا مصدق اس بحثت ہیں اور نسبت کی حقیقت اس کو بحثت ہیں اور ایک زمانہ تک
میں بھی یہی سمجھتا رہا مگر الحمد للہ کہ اب حق تعالیٰ نے حقیقت مکشف فرمادی حق تعالیٰ سے تعلق و
نسبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے تعلق ہو۔ بندہ کو خدا سے تعلق ہو۔ اگر صرف بندہ کو
تعلق ہو اور ادھر سے تعلق نہ ہو بلکہ جا ب رہا تو یہ نسبت مطلوب نہیں، غرض لوگ محض یادداشت کو
نسبت مطلوب بحثت ہیں حالانکہ یادداشت تو مشق سے حاصل ہو سکتی ہے۔

نسبت مقصودہ یہ ہے کہ تم خدا سے راضی ہو وہ تم سے راضی رہیں اور یہ بات محض مشق ذکر سے
حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے کثرت ذکر کے ساتھ اجتناب معاہی و ادائے طاعات بھی شرط ہے۔
اگر ذکر کے ساتھ معاہی سے اجتناب کا اہتمام نہیں اور طاعات کے بجا اُنے کی فکر نہیں تو نسبت مطلوبہ
حاصل نہیں؛ بہت لوگ اس دھوکا میں مبتلا ہیں کہ جہاں ان کو ذکر کی مشق ہو گئی اور ہر وقت خدا کا دھیان
رہنے لگا، اس وہ اپنے کو صاحب نسبت بخہنے لگے۔ پھر چونکہ معصیت سے اس مشق میں فتو نہیں آتا اس
لئے یہ شخص یوں بخہنے لگتا ہے کہ مجھ کو معاہی مضر نہیں حالانکہ صوفیاء کا قول ہے کہ معصیت سے نسبت
باطنیہ کمزور ہو جاتی ہے اور معاہی پر اصرار کرنے سے وہ رفتہ رفتہ زائل ہو جاتی ہے بلکہ بعض لوگ یہاں
تک دھوکا میں پڑ گئے کہ بعد حصول نسبت کے ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں اس شخص سے تکالیف
شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں اور کوئی حرام اس کے لئے حرام نہیں رہتا۔ یاد رکھو یہ صریح زندقہ ہے۔ تکالیف
شرعیہ جب تک ہوش و حواس درست رہیں کسی سے بھی کسی وقت ساقط نہیں ہوتیں۔

پس نسبت ایک ایسا تعلق ہے جو طرفین سے ہوتا ہے اگر صرف ایک طرف سے ہو اور دوسری
طرف سے نہ ہو تو وہ نسبت ایسی ہے جیسے ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آج کل کس فکر میں ہو۔

کہنے لگا شہزادی سے نکاح کرنے کی فکر میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر اس کے لئے کیا سامان کیا۔ کہنے لگا آدھا سامان تو ہو گیا آدھلاباتی ہے اس نے پوچھا کیوں کر کہنے لگا میں تو راضی ہوں مگر وہ راضی نہیں۔

تو جیسا کہ یہ شخص اپنی رضامندی سے آدھا سامان مکمل کئے ہوئے تھا اسی طرح ان لوگوں کی نسبت ہے اور ظاہر ہے کہ نکاح میں ایک طرف کی رضا بدوں رضا دوسرا کی کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی۔ اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو کہ محض ایک طرف سے ہے محض بالکل کا عدم ہے اس صحیح نسبت ہی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے سلطنت کی کچھ حقیقت نہیں۔

حضرت غوث اعظم کی خدمت میں ایک مرتبہ ملک سخرنے یہ لکھا کہ میں حضرت کی خانقاہ کے مصارف کے لئے ملک نیروز کے ایک حصہ کو نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اس کو قبول فرماویں تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ربائی لکھ کر بھیجی۔

چوں چتر سخنی رخ سختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوں ملک سخنم
مشل شاہ سخن کے اس سیاہ چھتری کے جواں کے سر پر لگائی جاتی تھی ہمارا نصیبہ سیاہ ہو
جائے اگر ہمارے دل میں ملک سخن کی خواہش ہو۔

اس زمانہ میں اس سلاطین کا پرچم سیاہ رنگ کا ہوا کرتا تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو ملک سخن کی ہو تو چتر سخنی کی طرح میراجخت سیاہ ہو جائے۔

زانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیروز بیک جو نمی خرم
جس وقت سے ہم کو آدمی رات (نماز تجد) کی دولت کی خبر لگ گئی ہے میں ملک نیروز کو
ایک جو کے بد لے بھی خریدنے کو تیار نہیں۔

ملک نیم شب اور نیروز میں صنعت تقابل کس قدر عجیب ہے، ان حضرات کے کلام میں علاوہ باطنی صولت و شوکت کے ظاہری خوبیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان حضرات کے دل کو سلطنت سے اس درجہ بے نیاز کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو دنیا میں بھی وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا اہل دنیا کو خطرہ بھی نہیں گزرا۔

نازو نیاز کا مقام

اسی طرح ایک اور بزرگ کا قصہ ہے جو اہل دلال میں سے تھے مگر اہل ضلال میں سے نہ تھے۔ یہ ایک حال ہوتا ہے جو متوسلان سلوک پر وارد ہوتا ہے۔ کالمین اہل دلال نہیں ہوتے،

ان میں عجز و نیاز غالب ہوتا ہے۔ ہاں وسط سلوک میں بعض لوگوں پر غلبہ بسط سے دلال کا حال وارد ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت ناز میں آ کر بعضی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو دوسرا اگر کہہ تو مردود ہو جاوے۔ مولا تافرماتے ہیں۔

ناز را روئے بباید چھو درد چوں نداری گرد بد خوئی گمرد
زشت باشد روئے نازیبا و ناز عیب باشد چشم نابینا و باز
پیش یوسف ناش و خوبی مکن جز نیاز و آہ یعقوبی مکن
ناز کیلئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے جب تو ایسا چہرہ نہیں رکھتا تو بد خوئی کے قریب من جا،
بری صورت کیلئے ناز کرنا بر امعلوم ہوتا ہے جس طرح کہ نابینا کا اپنی آنکھوں کا کھلا رکھنا بر امعلوم ہوتا
ہے، یوسف کے سامنے ناز اور خوبی مت دکھایہاں سوائے نیاز مندی اور آہ یعقوبی کے کچھ نہ آئے گا۔
ناز کے لئے بھی منہ چاہئے۔ ہر ایک کامنہ ناز کے قابل نہیں ہوتا اگر کسی کو یہ حال حاصل
ہواں کے لئے ناز بجا ہے اور اگر حال نہ ہو تو بجز آہ و نیاز کے کچھ مناسب نہیں اور کبھی تو اہل
دلال کی بات سن لی جاتی ہے اور گاہے ان کی گوشائی بھی کر دی جاتی ہے۔

چنانچہ وہ بزرگ اہل دلال میں سے تھے۔ ایک مرتبہ دن میں وہ کسی شہر پر گزرے دیکھا
تو شہر پناہ کا دروازہ بند تھا۔ دربانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ دن میں دروازہ کس لئے بند کیا گیا
ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا بازاڑ گیا ہے۔ اس لئے اس نے حکم دیا ہے کہ شہر پناہ کے
دروازے بند کر دئے جائیں کہیں دروازوں سے نکل کر بھاگ نہ جاوے۔

یہ قصہ سن کرو وہ بزرگ بہت ہنسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عقل سے بالکل ہی کورا ہے۔ بھلا
باز کو دروازے سے کیا نسبت؟ وہ اگر بھاگنا چاہے گا تو اوپر سے اڑ جائے گا۔ دروازے بند کرنے
سے اس کی کیا روک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نہیں کر آسمان کی طرف منہ کیا اور حق تعالیٰ
سے عرض کی کہ اچھے احمد کو آپ نے بادشاہت دی ہے جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ باز دروازے سے
جایا کرتا ہے یا اوپر سے۔ اور ہم تو اتنے عاقل ہیں مگر ہماری یہ حالت ہے کہ نہ پیر میں جو تادرست ہے
نہ لباس اچھا ہے۔ فوراً ادھر سے عتاب ہوا کہ بہت اچھا ہم آپ کو بھی سلطنت دیئے دیتے ہیں لیکن
کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری معرفت اور ولایت اور تمام کمالات مع تمہارے فقر و فاقہ کے اس
بادشاہ کو دیئے جائیں اور اس کی سلطنت وغیرہ مع اس کی حماقت کے تم کو دی دی جائے۔

بس یہ عتاب سن کر ان بزرگ کا رنگ زرد ہو گیا اور جلال خداوندی سے ڈر گئے۔ فوراً

مسجدہ میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ میں اپنی خطاء سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر ایسی گستاخی نہ ہوگی میں اپنی نعمتوں کو ہزار سلطنتوں کے بدالے میں بھی دینا گوارانہیں کر سکتا، خوب کہا ہے۔

رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال

فان المال يفنى عن قريب و ان العلم باق لا يزال

ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے لئے علم و معرفت ہوا اور جاہلوں کے پاس مال و دولت۔ کیونکہ مال و دولت تو عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم و معرفت کے لئے فنا نہیں ہے۔

اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا وہ اس حکایت میں غور کریں کہ ان بزرگ نے فقر و فاقہ کو کیوں گوارا کیا اور ملنے والی سلطنت پر کیوں لات مار دی۔ آخروہ کوئی تو نعمت تھی جس کے سلب ہو جانے کا نام سن کر وہ لرز گئے۔ کانپ اٹھے اور سلطنت کے بدالے میں بھی اس کو دینا گوارہ نہ کیا۔ صاحبو! خدا کی قسم جن لوگوں کو اس دولت کی خبر ہو گئی ہے ان کی مستی کی کچھ حد نہیں۔ وہ سلطنت وغیرہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔

آں کس کہ تراشناخت جاں را چہ کند فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
جس شخص نے آپ کو پہچان لیا (یعنی وہ عارف باللہ ہو گیا) وہ اپنی جان مال و اسباب اور بال بچوں کی کیا پرواہ کریگا۔

ہر کام کا طریق کار

غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے کاموں کا ثمرہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں دنیا میں بھی اعمال سے زیادہ ملتا ہے اور ایسی ایسی نعمتیں ان پر فائز ہوتی ہیں جن کے سامنے اہل دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں۔

پس دین کا مقصود ہونا بھی معلوم ہے اس کا طریق بھی معلوم ہے اور وہ طریق آسان بھی بہت ہے اور طریق پر مقصود کا ترتیب بھی یقینی ہے اور دنیا و آخرت میں امید سے بھی زیادہ ثمرہ اس پر مرتب ہوتا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ثمرات دائم بھی ہیں اور دنیا کے ثمرات فانی ہیں مگر باوجود اس کے حیرت در حیرت ہے کہ لوگ اس کے لئے سعی نہیں کرتے اور اس کے اسباب کو اختیار نہیں کرتے جو لوگ کچھ سعی کرتے بھی ہیں وہ محض تمبا کا درجہ رکھتے ہیں اس باب کو اختیار نہیں کرتے حالانکہ دنیوی امور میں محض تمبا بلہ اس باب کو سب لوگ حمافat اور پاگل پن سمجھتے ہیں مگر نہ معلوم دین کے معاملہ ہی میں کیوں سب کی عقلیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ لبکش اس کو

سعی سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی دیر بزرگوں کے پاس بیٹھ کر رولنے یا وعظ میں آنسو بھالئے۔ سو یاد رکھو
محض رونے سے کچھ نہیں ہوتا کام کو اس کے طریقہ سے کرنا چاہئے۔

عرفی اگر بگریہ میر شدے وصال صد سال می تو انہیں گرستن
اے عرفی اگر صرف رونے سے وصال اور قرب مل جاتا تو سو برس تک ہم رونے کی تمنا کرتے۔
ان لوگوں کی اس تمنا کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی صاحب بزرگوں سے جا کر یہ کہیں کہ حضور دعا
کیجئے ہمارے لڑکا ہو جاوے مگر یہ حضرت نکاح کرتے نہیں تواب بتلائیے ان کے لڑکا کہاں سے ہو۔
ایسی طرح ان کا یہ کہنا کہ حضور دعا کر دیجئے ہم دین میں کامل ہو جائیں مگر جو اس کا طریقہ ہے اس کو اختیار
نہیں کرتے تو یہ لغور کرت ہے یا نہیں۔ یاد رکھو ہر کام طریقہ ہی سے ہو سکتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَأُتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُو ابِهَا . اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اور گھروں میں ان
کے دروازوں سے آؤ۔ گوشان نزول اس کا خاص ہے مگر اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے اس لئے یہ حکم عام
ہے پس دین ایک گھر ہے اور اس کا دروازہ وہ طرق ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں اس دروازہ سے
داخل ہو گئے جبھی دین کامل ہو سکتا ہے۔ مولانا اس مضمون کو نظم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

اطلبوا الارزاق من اسبابها وادخلوا الابواب من ابوابها
رزق کو اس کے اسباب سے حاصل کرو اور گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہو۔
اطلبوا الارزاق کو پہلے بیان فرمایا جس میں نظریہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم
رزق کے واسطے اسباب کو اختیار کرتے ہو اسی طرح دین کے لئے بھی اس کے طریقے اختیار
کرو۔ آپ دین کے کام کرنا شروع کریں، ان شاء اللہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا اور پھر آپ
کو دین کے ثمرات بھی حاصل ہو جائیں گے جن میں ایک ثمرہ یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ سے
تعلق ہو جائے گا زندگی پر لطف ہو جاوے گا۔ باقی وہ دولت باطنیہ جو اہل اللہ کو حاصل ہے اس
کی کیفیت میں آپ کو بتلانہیں سکتا کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے جس کو اہل ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں۔
دین کے کاموں میں لگیں، ان شاء اللہ آپ کو بھی وہ ذوق حاصل ہو جائے گا اور اس سے پہلے
کتنا ہی سمجھا جائے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اہل اللہ کو کیا دولت عطا ہوئی ہے۔

نامر دکوعورت کی لذت کا کبھی اور اس نہیں ہو سکتا گو اس کے سامنے کتنی ہی وضاحت کر دی جائے۔
ہاں جب خدا کرے گا اس کو اس مرض سے شفا ہو جائے گی اس وقت وہ خود بخود اس لذت کو سمجھ
جائے گا پھر کسی کے بتلانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پس خدا کے لئے آپ اس بے حسی کا علاج کیجئے۔

دین و دنیا کا فرق

کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوانہ ہو۔ مگر علاج شرط ہے۔ اور طریقہ پر عمل کرنا۔ ایک فرق دنیا اور دین میں اور سمجھ میں آیا وہ یہ کہ دنیوی مقاصد کے حصول کا وعدہ بدون سعی کے بھی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ **وَمَا مِنْ ذَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا**
 ہر جاندار کی روزی خدا تعالیٰ کے ذمہ ہے جو بدون سعی کے بھی اس کو مل سکتی ہے مگر اس پر بھی لوگ دنیوی مقاصد میں سعی کو ضروری سمجھتے ہیں اور آخرت کے ثمرات کا وعدہ تو بدون سعی کے ہے ہی نہیں چنانچہ صاف ارشاد ہے۔ **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ لَفَوْتَهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا**
 یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا شمرہ ملے گا جیسا کرے گا ویسا بھرے گا پھر تعجب ہے کہ لوگ دین میں سعی کو کس لئے ضروری نہیں سمجھتے جب کہ بدون سعی کے اس کے حصول کا وعدہ نہیں۔
 اہل اللہ نے اس فرق پر نظر کر کے دنیوی مقاصد کے لئے سعی کو ترک کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزی کا ذمہ تھوڑے تعالیٰ نے لے لیا ہے اس کے لئے سعی کی کیا ضرورت ہے اور دین کے کاموں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے ہم کو اس کے لئے سعی کرنا چاہئے۔

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کا سلام پھیر کر امام صاحب نے ان بزرگ سے ملاقات کی اور یہ سوال کیا کہ آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں کیونکہ آپ کوئی کام کسب وغیرہ نہیں کرتے، بزرگ نے فرمایا کہ ذرا نہ ہر یئے میں آپ کے سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ سلام پھیر کر فرمایا کہ اب پوچھئے آپ کیا پوچھتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اب تو مجھے ایک سوال اور پیدا ہو گیا وہ یہ کہ آپ نے یہ نماز دوبارہ کیسی پڑھی ہے۔ آپ تو ابھی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ میں نے اس نماز کا اعادہ کیا ہے کیونکہ مجھے آپ کے سوال سے یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید آپ کو خدا تعالیٰ کے اس ارشاد پر یقین نہیں۔

وَمَا مِنْ ذَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یعنی ہر جاندار کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔
تَوَالَّهُ رِزْقُهَا تو مجھے آپ کے ایمان ہی میں شک ہو گیا (یہ غلبہ ہے حال کا) اس لئے میں نے جلدی سے اپنی نماز کا اعادہ کیا کہ مبادا کہیں موت نہ آجائے اور یہ نماز میرے ذمہ ہی نہ رہے۔
 اس کے بعد فرمایا کہ بنده خدا کیا روزی کا ملتا کمانے ہی پر موقوف ہے حالانکہ خدا تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ روزی میرے ذمہ ہے پھر تمہارے قلب میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا۔ کیا تم کو

خدا کے اس ارشاد پر اعتماد نہیں؟ وہ امام بہت شرمندہ ہوئے۔

ایک دوسرے بزرگ کا ارشاد ہے کہ دنیا خدا کا ایک گھر ہے اور ہم یہاں مہمان ہیں اور حدیث میں وارد ہے۔ الضیافۃ ثلاثة ایام۔ کہ مہماں تین دن تک کرنی چاہئے۔ جب ہم دنیا میں آئے تو تین دن تک تو ہم خدا تعالیٰ کے مہمان ہیں اور خدا تعالیٰ کے یہاں ایک دن ہزار سال کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفُ سَيَّةٌ مِّمَّا تَعْذُّونَ

ترجمہ:- لہآپ صلی اللہ علیہ وَاکِمْ سلم کے رب کے نزدیک ایک دن کی مقدار ایک ہزار سال کے برابر ہے تو ہم کو تین ہزار سال کیلئے توبہ کل بے فکری ہے اگر اس سے زیادہ عمر ہوئی تو پھر کچھ اقسام میں جایا جائیگا۔

ظاہر میں یہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے مگر اس سے اہل اللہ کے مذاق کا پتہ چلتا ہے کہ دنیوی کاموں میں وہ سُعیٰ اور اہتمام کو ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ روزی کا ذمہ حق تعالیٰ نے خود لے لیا ہے لیکن اعمال آخرت کا انہوں نے ذمہ نہیں لیا۔ اگر تم آخرت کے لئے ارادہ و سُعیٰ نہ کرو جب بھی وہ تم کو جنت دے دیں گے یا کہ از خود تم سے جنت کے کام لیں گے بلکہ اس کے متعلق توبہ ارشاد ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

جس نے نیک عمل کیا وہ اس کے اپنے لئے ہے اور جس نے برائی کی وہ اسی کے ذمہ ہے۔

اور ارشاد ہے۔ أَنْلِرِ مُكْمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ

ترجمہ:- کیا ہم اپنی رحمت زبردستی تمہارے سر مرڑھ دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور رزق کے بارہ میں حدیث نبوی وارد ہے۔

وَمَنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِي رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ حَضِيْضٍ يَاتِ بِهِ اللَّهُ
گرنہ ستائی بہ تم میر سد پھر حرمت ہے کہ اتنے فردوں کے ہوتے ہوئے ہم کو اعمال آخرت کی فکر نہیں اور دنیا کی فکر ہے حالانکہ ان فردوں کے ہوتے ہوئے دنیا کسی درجہ میں بھی توجہ کے قابل نہیں اور ان کا تو مقتضای تھا کہ دنیا کے لئے سُعیٰ اور عمل کونا جائز ہی کر دیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ کی شفقت و رحمت ہے کہ انہوں نے ضعف پر نظر فرمائے کہ دنیا کے لئے بھی اسباب اختیار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

اسباب معیشت کی رعایت

صرف اجازت ہی نہیں بلکہ بعض موقع میں دنیا کیلئے سُعیٰ کفرض کر دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

طلب الحلال فريضة من بعد الفريضة (لجم الكبير للطبراني ۹۰۱۰، اتحاف الراوية لمسنون ۱۳۱)

کہ حلال روزی کا طلب کرنا بھی فریضہ شرعی کے بعد ایک فرض ہے بلکہ حکماء امت تو یہاں تک ان اسباب کی رعایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام ملازمت میں بھی گرفتار ہو اور فراست سے ان کو اس کا ضعیف الہمت ہونا معلوم ہو تو اس کو فوراً حرام ملازمت چھوڑنے کا امر نہیں فرماتے بلکہ یہ فرمادیتے ہیں کہ پہلے کوئی حلال ملازمت تلاش کرلو اس کے بعد اس کو چھوڑنا اور جب تک حلال ملازمت نہ ملے اسی میں گرفتار ہوا پہنچتے ہو اور خدا تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ کیونکہ بعض لوگ تنگی معاش سے گھبرا کر عیسائی یا آریہ قادری ہو گئے ہیں اہل باطل اپنے گروہ میں بلا نے کے لئے لوگوں کو طرح طرح کے طمع دلاتے ہیں جن کے سامنے فقر و فاقہ کے ساتھ اپنے دین پر جمار ہنا ہمت والوں کا کام ہے۔ بعض لوگ تنگی معاش سے پریشان ہو کر پیری مریدی کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور مخلوق کو دھوکا دیتے ہیں۔

او خویشن گم ست کرا رہبری کند

اس نے خود کو گراہ بنار کھا ہے تمہاری کیا رہبری کرے گا۔

میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو پیر بنے پھرتے ہیں کہ اپنے گھر پر آ کر وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور باہر جا کر مقدس بن جاتے ہیں اور ایک واقعہ تو ایسا سنگین سننے میں آیا جس کی نظر نہیں سنی گئی۔ میرے ایک دوست مولوی بیان کرتے تھے کہ ہندوستان سے ایک جاہل شخص ضلع برداون میں جا کر پیری مریدی کرتا تھا۔ یہ شخص ضلع اللہ آباد کارہنے والا تھا اور تکیدار فقیر تھا۔ برداون کے ایک ریس اس کے پھنڈے میں پھنس گئے ان ریسوں کو اکثر دنیا ہی کی عقل ہوتی ہے دین کی عقل نہیں ہوتی۔ اس لئے جاہل درویشوں اور طریق کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں اکثر رو سا اور مالدار لوگ ہی پھنتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس درویش کی طرف زیادہ رجوع اہل دنیا کا ہو وہ درویش نہیں بلکہ دنیا دار ہے کیونکہ قاعدہ ہے۔ الجنس یمیل الی الجنس۔ اگر اس میں دین کامل ہوتا تو دین دار لوگ اس کی طرف زیادہ رجوع کرتے۔

چنانچہ حدیث ہرقل میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ ہرقل نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ نبی عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع زیادہ تر کون لوگ کرتے ہیں اغفیاء، ضعفاء؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زیادہ تر ضعفاء اتباع کرتے ہیں، تو ہرقل نے اس پر کہا ”هم اتباع الرسل“ کہ رسولوں کا اتباع کرنے والے ضعفاء ہی ہوتے ہیں (چونکہ حضرات صحابہؓ نے ہرقل کے اس قول پر انکار نہیں کیا بلکہ سکوت فرمایا

اس لئے تقریر صحابہؓ وجہ سے یہ قول جھٹ ہو گیا) الحمد للہ کہ ہمارے مضرات کے سلسلہ میں زیادہ تر غرباء و طلباء، ہی کی جماعت ہے روسا و امراء کم ہیں (اور جو روساء ہیں بھی وہ عقلاء اور دیندار ہیں بددین اور کم عقل نہیں ہیں دینداری کی وجہ سے وہ نعم الامیر علی باب المفقر کے مصدق ہیں۔

غرض ایک بار وہ بنگالی رئیس کسی کام سے ہندوستان آئے۔ اللہ آباد پہنچ کر ان کو اپنے مرشد سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ اس کے گاؤں میں پہنچ کر کوئی چودھری چارپائی بچھائے بیٹھے تھے ان سے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کا نام لے کر دریافت کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو تکیہ دار فقیر ہے۔ آپ اس کے ہاتھ میں کہاں پھنس گئے۔ وہ بنگالی صاحب بولے کہ آپ جو چاہے کہیں میرے تو وہ مالک اور مرشد ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ بے چارہ عقل سے کورا ہے۔ انہوں نے اپنے کسی نوکر سے کہا کہ فلاں نے تکیہ دار کو پکڑ لایا۔ بنگالی رئیس نے کہا کہ حضور کے ساتھ ایسی گستاخی مجھ کو زیبانیں میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ صرف اتنا کام کر دیجئے کہ راستہ بتلانے کے لئے خادم کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ انہوں نے خادم کو ساتھ کر دیا وہ ایک تکیہ میں رہتا تھا وہاں پہنچے اور بڑی تعظیم سے سلام و کلام کیا۔

اس کی حالت یہ تھی میں اس کے پاس چند بدمعاش رہتے تھے اور ہر وقت بھنگ وغیرہ پیتا رہتا تھا۔ ان رئیس صاحب کو اعتقاد اس حالت کے مشاہدہ سے بھی نہ گیا۔ یہ پیری ایسا پیشہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کے تقدس کا اعتقاد ہو جاوے تو پھر بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح وہ تقدس کبھی نوٹا ہی نہیں۔ تمیزہ ایک فاحش تھی جو نماز بھی نہ پڑھتی تھی۔ ایک بزرگ نے اس کو نماز کی تاکید اور وضو کر دیا۔ نماز کی ترکیب بتلا دی۔ جب سال بھر گز رکیا تو وہ بزرگ پھر آئے اور بی بی تمیزہ سے پوچھا کہ نماز بھی پڑھتی ہو؟ کہا حضور روزانہ پڑھتی ہوں، پوچھا وضو بھی کیا کرتی ہو۔ کہنے لگی کہ حضور نے تو وضو کر دیا تھا اسی وضو سے اب تک نماز پڑھ رہی ہوں۔

تو جس طرح بی بی تمیزہ کا وضونہ پیشاب پا خانہ سے نوٹا تھا نہ زنا اور بد کاری سے (وضو کیا لوہا لاث تھا) اسی طرح آج کل کی پیری جب چل جاتی ہے تو نہ وہ شراب خوری سے نوٹی ہے نہ زنا کاری سے نہ صوم و صلوٰۃ کے چھوڑنے سے نہ داڑھی منڈانے سے نہ ننگا پھرنے سے بلکہ اگر کوئی لگوٹا بھی اتار کر پھینک دے تو اس کے اور زیادہ معتقد ہوتے ہیں۔ اگر پیر صاحب خاموش رہیں تو چپ شاہ بلکہ فنا فی اللہ ہیں۔ اگر اینڈی بینڈی با تین ہانکنے لگیں تو رموز ہیں گو وہ

کفریات ہی کیوں نہ ہوں اور کوئی ٹھیک بات کہہ دی تو عارف اور محقق ہیں۔

نشاء اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جم رہی ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے اس لئے اگر کوئی شخص ظاہر میں شریعت کے بالکل خلاف ہواں سے بھی ان کا اعتقاد زائل نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی طریقت کا کوئی رمز ہو گا۔

استغفار اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

غرض اس فقیر نے چند روز تک ان رئیس صاحب کو دعوت کی آرام سے اپنے پاس رکھا دو چار دن رہ کر رئیس نے واپسی کی اجازت چاہی، فقیر نے اجازت دی اور کہا کہ میں اشیش تک آپ کو خود پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ اور اس کا بھائی اشیش تک پہنچانے کے لئے ساتھ ہو لئے اور اس کو ایسے راستے سے لے چلے جہاں آدمی بہت کم چلتے تھے۔ جب چلتے چلتے دری ہو گئی تو رئیس کو خطرہ ہوا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ تو وہ راستہ نہیں جس سے میں آیا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کو قریب کے راستے سے باہر لئے چلتا ہوں۔ یہ غریب خاموش ہو گیا یہاں تک کہ ایک ایسے بن میں اس کو جا پہنچا یا جہاں نہ آدمی کا پتہ نہ جانو رکا اگر آدمی گلا پھاڑ پھاڑ کر بھی چلاوے تو بھی کوئی مدد کونہ آسکے۔

وہاں پہنچ کر فقیر نے کہا کہ جو کچھ ساتھ لے رہے ہو رکھ دو۔ اس بیچارہ نے جو کچھ ساتھ تھا رکھ دیا۔ کہا کپڑے بھی اتار دو اس نے کپڑے بھی اتار دیئے، اس کے بعد اس نے رئیس کے قتل کا ارادہ کیا اس نے بہت کچھ ہاتھ پیر جوڑے اور خوشامدیں کیں کہ آپ مجھے قتل نہ کریں میں اس سے دو چند اور سہ چند روپیہ گھر جا کر بھیج دوں گا۔ کہنے لگا اب تمہارا زندہ چھوڑنا مصلحت نہیں۔ تم ہمارا راز کھول دو گے۔ اس نے بہت قسمیں کھائیں کہ میں کسی سے یہ معاملہ ظاہرنہ کروں گا مگر اس سنگ دل نے ایک نہ سئی اور اس غریب کا کام تمام کر دیا اور نعش کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔

کتنے دنوں کے بعد اتفاقاً ایک چرواہا اس کنویں پر آیا تو اس کو کنویں میں سے بدبو آئی اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک نعش تیرتی ہوئی نظر آئی اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے نعش کو نکالا تو اس کا پہنچانے والا وہاں کوئی نہ تھا مگر اس کی جیب میں سے کچھ کاغذات نکلے جن میں بردوان کا پتہ لکھا ہوا تھا بس اب کیا تھا پولیس کو پتہ چلانے کے واسطے اتنا کافی تھا۔ سراغ لگاتے لگاتے سب واقعہ منکشف ہو گیا۔ پولیس نے اس فقیر کو کپڑا اور اس سے اظہار لیا۔ آخر اس نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس کو پھانسی دی گئی۔

سود کیکھے تنگی معاش سے پریشان ہو کر دوسری طرح حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں۔ کسی سے قرض لے لیا اور مار لیا کسی کی امانت لے کر انکار کر دیا، کسی کو کوئی چیز مانگ لی اور اس کو رہن رکھ دیا اور بہت سے کرتب لوگ کرنے لگتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حقوق العباد کے تلف کرنے کا ضرر متعدد ہے جو ضرر لازم سے اشد ہے اگر یہ شخص کسی حرام ملازمت میں مبتلا رہا بشرطیکہ اس ملازمت کا فرض منصبی کسی کا اضرار نہ ہو تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ مخلوق کو تو پریشان نہ کرے گا لیکن اگر اس نے بدوان حلال روزی تلاش کئے حرام ملازمت کو بھی چھوڑ دیا تو پھر دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لئے حکماء امت ان اسباب معیشت کی اتنی رعایت کرتے ہیں کہ حرام سبب کو بھی حکمت سے چھڑواتے ہیں تو حلال سبب کو تو وہ کیوں چھڑانے لگے۔

بعض کم فہم لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ حرام ملازمت کی اجازت دے دی۔ حالانکہ وہ حرام ملازمت کی اجازت نہیں دیتے بلکہ وہ اسکے ایمان کو حفظ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو گناہ ہی میں مبتلا ہے پھر کہیں ایمان سے بھی نہ ہاتھ دھولے۔ نیز اس وقت تو وہ اپنا نقصان ہی کر رہا ہے اسکو چھوڑ کر کہیں مخلوق کو نہ پریشانی میں ڈال دے اور قاعدہ فقیہ ہے کہ مفسدہ یسیرہ کو مفسدہ عظیمہ سے بچنے کیلئے گوارا کیا جاتا ہے لیکن اس قاعدہ سے کام لینے کا ہر ایک کو حق نہیں اس کا موقع محل محقق ہی سمجھ سکتا ہے۔

نفس کے بہانے

غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسباب دنیا اسباب دین کے مقابلہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے لئے سعی کی جائے۔ نہ کہ ایسی سعی کریں کہ آخرت کی سعی بھی چھوڑ دیں مگر افسوس ہے کہ اکثر مسلمان اسباب دنیا کے اختیار کرنے کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور دین کے باہر میں اسباب کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے پھر بعض لوگ جو دین ہی کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ تو قابل خطاب ہی نہیں۔ شکایت تو ان لوگوں کی ہے جو دین کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے۔ بزرگوں کے پاس آتے جاتے ہیں لیکن ان سے دین کا راستہ نہیں پوچھتے۔ بڑی دوزان کی یہ ہے کہ بزرگوں سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ ہم کو ایک توجہ سے کامیاب کر دیئے۔ گویا وہ بھی اسی طرح کامیاب ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی پر فیصلہ ہے اگر محض توجہ سے دین کامل ہو سکتا ہے تو ان بزرگ ہی سے پوچھ لو کہ حضور آپ بھی توجہ ہی سے کامیاب ہوئے تھے یا آپ کو کچھ کرنا ہی پڑا تھا۔ اگر وہ محض توجہ سے کامیاب نہیں ہوئے تو

پھر آپ کو ان سے ایسی درخواست کرنے کا کیا حق ہے۔

صاحبہ سب نفس کے بہانے ہیں وہ آپ کو ان دھوکوں سے گمراہ کرنا چاہتا ہے اور منشاء اسکا محفوظ کم ہمتی اور قلت مبالغہ بالدین ہے کہ ہم کو خدا کی طاعات میں وہ اہتمام نہیں جو دنیا کے کاموں میں ہے۔

اللہ سے ہمکلامی

بعض لوگ دھوپ کی وجہ سے جماعت کی نماز ترک کر دیتے ہیں لیکن اگر اس وقت حاکم بلا وے تو دھوپ کبھی مانع نہ ہو۔ عین دو پھر کے وقت جاویں گے پھر وہاں سے آ کر دھوپ کی کچھ شکایت نہ کریں گے بلکہ حاکم سے ملاقات کرنے پر فخر کریں گے کہ ہم سے آج خوب باتیں ہوئیں۔ حاکم نے فلاں مقدمہ کی بابت ہم سے یوں سوالات کئے۔ ہمارے فلاں معاملہ کے متعلق یوں کہا حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہ تھی۔ آخر حاکم کون ہے تمہارے جیسا ایک آدمی ہے فخر کی بات تو یہ ہے کہ نماز میں حق تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، ہم اس قابل تو کہاں تھے کہ خدا تعالیٰ ہم سے باتیں کرے۔ واللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام ہی لے لیں۔

ہزار بار بشویم وہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتہ کمال بے ادبی ست اگر ہم ہزار بار بھی اپنے منہ کو مشک اور عرق گلاب سے دھولیں لیکن پھر بھی اس سے اللہ کا نام لینا کمال بے ادبی ہے۔

مگر یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہم کو اجازت دے دی کہ نماز میں جب چاہو ان سے باتیں کرو۔ پھر وہ ہماری باتوں پر توجہ بھی فرماتے ہیں۔ ہماری عرض و معروض کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر نماز میں ہم کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی بلکہ اس کوفرض کر دیا جو کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے گویا اس طرح حق تعالیٰ بھی ہم سے باتیں کرتے ہیں پھر یہ کس قدر رحمت ہے کہ ہم کو اس علم سے پکارنے کی یعنی یا اللہ کہنے کی اجازت دی کہ ان کا نام لے کر پکار سکتے ہیں ذرا کسی حاکم کو تو نام لے کر پکارو۔ فوراً جرم قائم ہو جائے گا پھر نام بھی اتنا آسان کہ پچھے سب سے پہلے اللہ کا نام یاد کر لیتا ہے۔ افسوس ایسے رحیم و کریم خدا سے باتیں کرنے کے لئے لوگوں کو دھوپ مانع ہوتی ہے اور بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔

قبول طاعات کی علامت

پھر ایک رحمت یہ ہے کہ وہ ہماری طاعت ناقصہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ

کیسے معلوم ہوا کہ ہماری یہ طاعت ناقصہ قبول ہوتی ہے۔ سو حضرت حاجی صاحب نے قبول طاعت کی ایک علامت عجیب بیان فرمائی۔

فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ جس شخص کے آنے سے کسی کونا گواری ہوا کرتی ہے تو اگر وہ قادر ہو تو دوسرے وقت اس کو اپنے گھر میں گھنے نہیں دیا کرتا۔ یاد رکھو اگر حق تعالیٰ کو تمہاری پہلی عبادت نا گوار ہوتی تو وہ دوسرے وقت تم کو مسجد میں نہ گھنے دیتے نہ نماز کی توفیق دیتے۔ لیکن جب ایک نماز کے بعد دوسرے وقت تم کو پھر اسی نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کر وہ پہلے وقت کی نماز قبول ہو چکی۔ اسی طرح تمام طاعات میں سمجھلو۔ واقعی عجیب بات بیان فرمائی۔ گویہ جو حق قطعیہ نہ ہو مگر انہا عند ظن عبادی بی کے ساتھ ملا کر امید ہے کہ اگر ہم حق تعالیٰ کے ساتھ یہی مگان رکھیں تو قبولیت کا اچھا قرینہ ہے۔ آخر کوئی توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تم کو تو پانچوں وقت مسجد میں آنے کی توفیق دے دی اور بہت سی مخلوق ایسی ہے جن کو سال میں ایک وقت آنے کی توفیق نہیں دی۔ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو ان کا مسجد میں آنا نا گوار نہیں۔

ایک گنوار کا قصہ ہے کہ اس کا مچھڑا مسجد میں گھس گیا تھا ملا خفا ہونے لگا کہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اور جانوروں کو مسجد میں گھسادیتے ہیں۔ گنوار نے ملے کہ کیوں بڑ بڑ کرتا ہے جانور تھا مسجد میں گھس گیا کبھی ہم کو بھی آتے دیکھا ہے۔ دیکھئے تو حق نہ ہونا اس کا نام ہے۔

اسی طرح ایک آقا اور غلام کا قصہ ہے کہ آقا اور غلام بازار میں کسی کام کو گئے تھے۔ راستے میں نماز کا وقت آگیا۔ غلام نمازی تھا اس نے آقا سے نماز کی اجازت مانگی۔ اس نے اجازت دے دی کہ اچھا جلدی نماز پڑھ کے چلے آؤ میں مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ غلام کو مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی اور آقا کو باہر ہی سے روک دیا گیا۔ غلام نے آ کر نماز پڑھی اور نہایت اطمینان سے فرض و نوافل کو پورا کیا۔ حتیٰ کہ سب نمازی فارغ ہو کر چلے گئے اس کا آقا انتظار کرتے کرتے تھک گیا اس نے ایک شخص سے جو سب کے اخیر میں مسجد میں نکلا تھا پوچھا کہ اب مسجد میں کتنے آدمی ہیں۔ کہا صرف ایک آدمی ہے۔ وہ سمجھا کہ شاید اب جلدی آ جائے گا مگر غلام نے وہاں تہائی میں کوئی وظیفہ شروع کر دیا۔ پھر بھی نہ آیا۔ آخر آقا نے تنگ ہو کر آواز دی کہ میاں کہاں رہ گئے۔ باہر کیوں نہیں آتے۔ غلام نے کہا کہ آنے نہیں دیتا۔ آقا نے پوچھا کون نہیں آنے دیتا۔ کہا جو تم کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھ کو اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ! خوب جواب دیا۔

صاحب۔ توفیق الہی کا انکار نہیں ہو سکتا۔ دین کے کام وہی استاتا ہے جس کو خدا توفیق دیتا ہے اور یہاں سے اہل طاعت کو سبق لینا چاہئے اور ان کو اپنی طاعات پر غرور نہ کرنا چاہئے نہ کسی محروم الطاعت

کو حقیر سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ تم جو کچھ کرنے ہے ہو محض توفیق الہی سے کر رہے ہو اپنا کمال مت سمجھو بلکہ ڈرتے رہو کہ کہیں حق تعالیٰ تم سے یہ توفیق سلب نہ کر لیں جس طرح دوسروں سے سب کرنی ہے۔
 (اللهم انا نعوذ بک من الحور بعد الكور)

غرض مسئلہ توفیق پر نظر کرنے سے حضرت حاجی صاحب نے قبول طاعت کی جو علامت بیان فرمائی ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور اس سے حق تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی رحمت ہے کیونکہ ہم لوگ جیسی نماز پڑھتے ہیں ظاہر ہے نہ خضوع نہ خشوع نہ ذکر ہے نہ فکر بس گھڑی کی کوک ہے جس سے سوئی خود بخود چل رہی ہے۔ دنیا بھر کے خیالات نماز ہی میں ہم کو سوجھتے ہیں مگر باعده مذکور وہ بھی قبول ہوتی معلوم ہوتی ہے تو اس رحمت کا کیاٹھکانا ہے۔ بھلا کسی حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر دوسری طرف توجہ کرو جو فوراً دربار سے نہ نکال دیئے جاؤ اس کو مولا نافرماتے ہیں۔

ایں قبول ذکر تو از رحمت است چوں نماز مستحاصہ رخصت است اے خدا آپ کا ہمارے ذکر کو قبول فرمائیا ہے آپ کی رحمت ہے جس طرح سے استحاصہ کی حالت میں آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

واقعی خوب مثال دی کہ جیسے مستحاصہ کی نماز محض رخصت سے قبول ہوتی ہے حالانکہ اس کو نہ طہارت حاصل ہے نہ نظافت، خون پیک رہا ہے اور شریعت فتویٰ دیتی ہے کہ کچھ بزرگ نہیں نماز پڑھے جاؤ سب قبول ہے۔ یہی حال ہماری نمازوں کا ہے مگر اس رحمت کا حال معلوم کر کے بے فکر نہ ہونا چاہئے کہ بس جب وہ ہر طرح قبول کر لیتے ہیں تو خشوع و خضوع کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس حالت میں نماز کا قبول ہونا قاعدہ کے خلاف ہے۔ قاعدہ وہی ہے کہ نماز جبھی قبول ہوگی جبکہ واجبات و شرائط کے ساتھ ادا کی جائے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ خشوع و خضوع نماز میں فرض ہے اور بعض نے اس کو سنت کہا ہے۔ بہر حال بے فکری کسی حال میں نہیں ہونی چاہئے۔ غیرت مند طبائع تو اس رحمت و شفقت کا حال معلوم کر کے مارے شرم کے گرجاتے ہیں کہ افسوس ادھر سے تو اتنی توجہ اور ہماری طرف سے ایسے بے رخی مر جانے کی جگہ ہے اور شرم سے اور زیادہ سعی اور خدمت کرتے ہیں۔

دین میں ناکامی کی وجہ

الغرض والائل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ دین کو دنیا پر بہت سے وجہ سے ترجیح ہے اور دنیا کے کاموں میں اسباب و طرق کے اختیار کرنے کی ضرورت عقلاء کے نزد دیک مسلم ہے۔

پھر کیا وجہ ہے کہ دین کے اسباب اختیار نہیں کئے جاتے۔

میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ناکامی کا راز عدم علم بالمقصود ہوتا ہے، یا عدم تعین طریق یا صعوبت طریق یا عدم ترتیب مقصود علی الطریق اور جہاں ان میں سے کسی کا وجود نہ ہو وہاں ناکامی کا سبب بجز کم ہمتی اور کاملی کے کچھ نہیں اس سے یہ نتیجہ خود بخوبی نکل آیا کہ جو لوگ دین میں ناکام ہیں وہ محض اپنی سستی اور کاملی کی وجہ سے ناکام ہیں۔ اس کے سوا کوئی سبب ناکامی کا نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ دین کا مقصود ہونا معلوم اس کا طریق بھی معلوم اور میں دعویٰ کے ساتھ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ دین میں تنگی کچھ نہیں، اس لئے صعوبت طریق بھی معدوم۔ یہ بھی نصوص سے میں بیان کر چکا ہوں کہ مقاصد دنیویہ کا ترتیب اسباب دنیویہ پر لازم نہیں مگر مقاصد دینیہ کا ترتیب اسباب دینیہ پر ضروری ہے کیونکہ نصوص میں اس کا وعدہ بطور جزم کے ہے بلکہ ترقی عطا کرنے کا بھی وعدہ ہے اور اعانت الہیہ کا بھی وعدہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی دین میں ناکام رہے تو اس کا سبب بجز بد نیختی اور کاملی اور سستی کے کیا کہا جاوے۔

تفسیر آیت کریمہ

اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی حق تعالیٰ نے اسی مقصود دینی کو بیان فرمایا ہے اور ایک اس کا طریق بتایا ہے آئندہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس آیت میں جو طریق حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ کتنا سہل اور آسان طریق ہے جس سے زیادہ آسان کوئی دوسرا طریق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس تفصیل سے پہلے میں آیت کی تفسیر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ**

اس آیت کے دو بڑے ہیں۔ (۱) **اتَّقُوا اللَّهَ** (۲) **وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ**
یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دو جملوں میں دریا کو بھر دیا ہے۔ چنانچہ ابھی تفصیل معلوم کر لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان دو جملوں میں کتنے بڑے مضمون کو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کے جملوں کی تفسیر مختلف عنوانات سے ہو سکتی ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ اس آیت میں بھی کسی مفسر نے دوسرا عنوان اختیار کیا ہو مگر وہ اختلاف محض عنوان ہی کا ہوتا ہے۔ معنوں میں ایک ہوتا ہے۔ اس آیت کے معنی جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہیں کہ **اتَّقُوا اللَّهَ** میں مقصود کا ذکر ہے اور **وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ** میں اس مقصود کے طریق کا ذکر ہے کیونکہ جن

لوگوں نے قرآن کو بنظر عاًرِ دیکھا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ قرآن میں مقاصد کے ساتھ طرق کا ذکر بھی اکثر فرمادیا کرتے ہیں اور یہ ان کی غایت شفقت و رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی بات کا حکم فرمائیں جیران و پریشان نہیں چھوڑتے بلکہ اس کا طریق بھی ساتھ کے ساتھ بتلادیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے ہو گا یہ طریقہ اختیار کرو۔ اس عادت پر نظر کر کے میرا ذوق یہ بتلاتا ہے کہ اس آیت میں بھی جملہ اولیٰ میں مقصود کا بیان ہے اور ثانیہ میں طریق کا یعنی تقویٰ مقصود ہے اور معیت صادقین اس کے حصول کا طریق ہے۔ بعارات دیگر یہ سمجھئے کہ حق تعالیٰ نے دین کامل حاصل کرنے کا امر فرمایا ہے اور معیت کا ملین اس کا طریق بتلایا ہے۔ اس کو میں آگے چل کر واضح کر دوں گا کہ تقویٰ کی تفسیر کمال دین ہے یا نہیں۔ اس وقت میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مکمال دین مقصود و مطلوب ہے یا نہیں۔

سمیٰ کمال

تو سمجھ لجئے کہ مقاصد میں ہمیشہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے۔ ناقص حالت پر کوئی قناعت نہیں کرتا۔ تجارت کرتے ہیں تو اس میں بھی کمال مطلوب ہوتا ہے۔ لا کھدا لا کھ پر کوئی بس نہیں کرتا بلکہ جس قدر ترقی ہواں سے آگے کے طالب رہتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ جب ضرورت سے زیادہ آمدی ہو جائے تو آئندہ کے لئے سعی اور کوشش چھوڑ دے۔ نہیں بلکہ قسم کی تجارت میں نئی نئی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص کے یہاں بساط خانہ کی تجارت ہے اور اس سے معقول آمدی ہو رہی ہے تو سرمایہ زیادہ ہو جانے کے بعد وہ کپڑے کی بھی ایک دوکان کھول دیتا ہے اور ترقی ہوئی تو جو توں کی دوکان بھی کر لیتا ہے یہاں تک کہ پہلے اگر باپ بیٹے سب مل کر ایک دوکان کر رہے تھے تو اب ہر بیٹے کی الگ دوکان کھول دی جاتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے پھر بہت سے مکان خرید کر کرایہ پر دے دیے جاتے ہیں۔ غرض ہر وقت ترقی کی دھن لگی رہتی ہے کسی حد پر بس نہیں کرتے وہ حال ہو جاتا ہے۔ لایتھی ارب الالی ارب ایک تمنا۔ بھی پوری ہوئی تھی کہ دوسرا تمنا دل میں پیدا ہوئی۔ اگر کسی کے پاس ضرورت کے موافق زمین موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ آج ایک گاؤں پورا خرید لوں ایک گاؤں خریدنے کے بعد دوسرا گاؤں کی تمنا رہتی ہے۔ ہفت اقلیم را بگیرد پادشاہ بھناں در بند اقلیمے دگر اگر بادشاہ ساتوں اقلیم پر قبضہ کر لے تو وہ حص کے سبب نئے اقلیم کو حاصل کر نیکی کوشش کرتا ہے۔

غرض انسان دنیوی ترقی میں ہمیشہ زیادت کا طالب رہتا ہے، یہاں تک کہ موت ہی سے یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے اس سے پہلے منقطع نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کندیا کاک گور
دنیادار کی تنگ نظر اور لامپ سے پر نظر کو یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔
دنیادار کو قناعت تو ہوتی نہیں ہاں خاک گور ہی سے اس کی حرص منقطع ہوتی ہے۔

شاید آپ مجھ کو کوئی ایسا آدمی دکھلائیں کہ جس نے دس ہزار روپیہ یادس گاؤں حاصل کر کے بس کر دیا ہوا اور آئندہ کے لئے سعی کو ختم کر دیا ہو لیکن اول تو یہ بہت ہی شاذ ہے لاکھوں میں ایک آدمی ایسا ہو گا۔ والنا در ہالمعد و م۔ اگر لاکھوں میں ایک آدمی آپ نے ایسا دکھلائی جی دیا تو اس سے میرے بیان پر نقض وار نہیں ہوتا کیونکہ قواعد میں اکثر کا لحاظ ہوا کرتا ہے اور اکثر کی حالت وہ ہے جو میں نے بیان کی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جو شخص ایسا آپ دکھلائیں گے وہ دین دار ہو گا دنیادار نہ ہو گا اور گفتگو اہل دنیا کی حالت میں ہے اور اگر وہ دین دار بھی نہ ہو دنیادار ہی ہوتا تو اس کا ایک سرسری جواب تو یہ ہے کہ اس کے نزدیک غالباً یہی کمال ہو گا جب وہ کمال حاصل ہو گیا تو مقصود تک وصال ہو گیا اس سے آگے کوئی کمال اس کی نظر میں ہے ہی نہیں۔
پس وہ بھی طالب کمال نکلا۔ ناقص حالت پر اس نے بھی قناعت ہرگز نہیں کی۔

اور حقیقی جواب یہ ہے کہ گواں نے صورۃ ترقی کو ختم کر دیا مگر معتا وہ اب بھی ترقی کر رہا ہے کیونکہ یہ شخص عاقل دنیادار ہے نادان نہیں۔ وہ دنیا کی روح کو سمجھ گیا ہے کہ اسباب معاش سے مقصود سکون قلب و راحت قلب ہے اور ہر وقت اسباب معاش میں لگے رہنے سے راحت و سکون قلب میسر نہیں ہوتا۔ دل پریشان اور مشغول رہتا ہے اس لئے اس نے ایک معقول سرمایہ حاصل کر کے آئندہ کے لئے صورت ترقی کو بند کر دیا لیکن اب بھی حقیقت میں وہ ترقی کر رہا ہے۔ پہلے اسباب میں ترقی کر رہا تھا اب مسیب اور مقصود میں ترقی کر رہا ہے یعنی راحت و آرام کے بڑھانے میں مشغول ہے۔

غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیوی اسباب میں ہر شخص کمال کا طالب ہے۔ کسی قدر حاصل پر کوئی بس نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی آگے کا طالب رہتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی خاص حد پر بس بھی کرتا ہے تو ناقص حالت پر ہرگز بس نہیں کرتا بلکہ کوشش اور سعی کو ہمیشہ درجہ کمال پر پہنچا کر ختم کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہو تو اس حالت پر کوئی بھی سعی کو ختم نہ کرے گا بلکہ جب اتنا سرمایہ اکٹھا

ہو جائے گا کہ وہ ساری عمر کو کافی ہو جاوے بلکہ بھی جاوے اس وقت بعض لوگ سعی کو ختم کر سکتے ہیں۔ پس یہ بات تقیناً معلوم ہو گئی کہ ناقص حالت پر کوئی بھی قناعت نہیں کرتا۔ قناعت ہمیشہ حصول کمال ہی کے بعد ہوتی ہے گو وہ بھی قناعت صوری ہے ورنہ حقیقت میں اب بھی ترقی ختم نہیں ہوتی۔

دین داری اور قناعت

پھر حیرت ہے کہ دین میں لوگوں کو ناقص حالت پر قناعت کیوں ہے چنانچہ بڑی دینداری آج کل یہ ہے کہ نماز پانچوں وقت کی پڑھ لی جب نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں اور اسی پر قناعت کر لیتے ہیں۔ پھر افسوس یہ ہے کہ جس نماز پر قناعت کی جاتی ہے وہ بھی کامل نہیں ہوتی۔ یعنی اول تو تمحض نماز کے کامل کر لینے سے بھی دین کا مل نہیں ہوتا چہ جائیکہ وہ نماز بھی کامل نہ ہو ناقص در ناقص ہی ہو اس پر قناعت کر لینا تو بہت ہی کوتاہی ہے۔ بعض نماز کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دے دی تو گویا انہوں نے جنت کو خرید لیا اور اگر حج بھی کر لیا تو پھر کیا تھا جسید وقت ہو گئے اب انہیں آگے ترقی کی کچھ ضرورت نہیں رہتی وہ اسی پر دین کو کامل سمجھ کر سعی اور ترقی بند کر دیتے ہیں۔ عوام کی کیاشکایت کی جائے افسوس یہ ہے کہ بعض اہل علم بھی اس بلا میں گرفتار ہیں۔

ایک عالم نے مجھے لکھا کہ آپ نے جو وظیفہ وغیرہ مجھ کو بتالیا تھا وہ تو کر لیا۔ اب آگے کچھ اور سبق بھی ہے یا بس ختم ہو گیا۔ افسوس دنیا مدار تو ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی حد پر بھی قناعت نہیں کی جاتی اور دین کو ایسا حقیر سمجھ لیا ہے کہ چار دن کام کر کے اپنے کو کامل اور منشی ہونے کا احتمال سو جھنے لگا۔ مجھے ان عالم کا یہ خط سخت ناگوار ہوا اور میں سمجھا کہ ان کو دین کا ادب بھی بالکل نہیں۔ کیونکہ ان کے الفاظ سے تسلیخ پکتا تھا میں نے ان کو لکھ دیا کہ میرا تم سے نباہ نہ ہو گا۔ میں تم کو قابل خطاب بھی نہیں سمجھتا تم کو نہ دین کی طلب ہے نہ اس کا ادب دل میں ہے۔ اَنَا لِلّهِ وَ اِنَا إِلَيْهِ رَجُुُونَ غرض لوگوں نے دین کو نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج میں منحصر سمجھ لیا ہے اس سے زیادہ کی وہ ضرورت نہیں سمجھتے بلکہ جو شخص تقویٰ کامل اختیار کرے اور حقوق العباد وغیرہ کا پورا الحافظ کرے اور دین میں ترقی کا ارادہ کرے اس کو پاگل سمجھتے ہیں مگر وہ ایسا پاگل ہے جس کو مولا نا فرماتے ہیں۔ او گل سرخ ست تو خلوش مخواں ست عقل ست او تو مجنوش مداں وہ گلاب کا پھول ہے تو اس کو خون مت سمجھو وہ مست عقل نورانی ہے تو اس کو پاگل مت سمجھ۔ ما اگر فلاش و گر دیوانہ ایم مست آں ساتی و آں چیانہ ایم

ہم اگر فلاش اور دیوانہ ہیں تو کیا پرواہ ہے ہم اس ساقی ازل کے مست ہیں اور اس پیانہ ازل کے مست لا میں۔ وہ خدا کے دیوانہ ہیں جن کے لئے یہ دیوانگی فخر ہے۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ مر عس را دید و در خانہ نہ پا گل وہی ہے جو ان کا دیوانہ ہوا، کوتواں کو دیکھا اور گھر میں نہ چھپا۔

ایک طالب خدا کا قصہ

میرے ایک دوست پہلے ڈپی گلکش تھے لیکن انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے صیغہ حکومت سے اپنا تبادلہ کرالیا ہے۔ اب وہ تعلیم کی لائیں میں ہیں جس میں تنخواہ ڈپی گلکشی سے کم ہے اس پر بہت لوگوں نے ان کو بے وقوف بنایا کہ یہ بھی عجب دیوانے ہیں کہ اتنی تنخواہ چھوڑ کر تھوڑی تنخواہ پر قناعت کر لی اور حکومت کا عہدہ چھوڑ کر ذیل عہدہ اختیار کر لیا۔ مگر جب یہ لوگ خدا کے سامنے پہنچیں گے اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ بے وقوف کون تھا؟

انہیں دوست کا یہ قصہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ریل کا سفر کرنے کو تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ اس کی عمر دریافت کر رہے تھے کہ بارہ سال سے کم ہے یا پورے بارہ سال کی ہے۔ اگر پورے بارہ سال کی ہے تو قاعدہ ریلوے کے موافق اس کا بھی ملکٹ لیتا چاہئے۔ ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس بچے کی عمر بارہ سال کی تھوڑی ہی ہے اور اگر ہو بھی تو اس کا قد بہت کم ہے۔ وہ سال کا معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ ملکٹ نہ لیں گے تو بھی کوئی کچھ نہ کہے گا۔ انہوں نے کہا ریل والے کچھ نہ کہیں تو خدا تعالیٰ تو انہیں گے کہ تم نے ایک شخص کی چیز کو اس کی بلا اجازت بدون کرایہ دیئے کیوں استعمال کیا۔ وہ بے چارے اس کی عمر کی تحقیق کر رہے تھے اور ان کے نوکر نہیں رہے تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے تو انہوں نے اس کا بھی پورا ملکٹ لیا۔ لوگ ان کو یہ رائے دیتے تھے کہ صاحب اگر آپ کے پاس یہ روپیہ ایسا ہی فضول ہے تو کسی غریب کو دے دیجئے۔ ریل والوں کو آپ کیوں دیتے ہیں خصوصاً جب کہ وہ اس بچے کے ملکٹ کا آپ سے سوال بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جس غرض سے میں اس کی عمر دریافت کر رہا ہوں غریبوں کو روپیہ دینے سے وہ غرض حاصل نہ ہوگی۔ یعنی تصرف فی ملک الغیر بلا اذنه غریبوں کو دینے سے جائز نہ ہو جائے گا۔ اس معاملہ میں سب لوگ ان کو بے وقوف اور بخون سمجھ رہے تھے کہ فضول روپیہ ضائع کر رہے ہیں مگر وہ خدا کے بخون تھے۔

یہ قاعدہ ہے کہ جب دین کا غلبہ ہوتا ہے تو مسلمان کو دنیوی مضرت کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ مگر یہ بات حکماء الہی سے دریافت کرنے کی ہے کہ دین کے لئے کس جگہ مضرت کا تحمل مناسب ہے اور کس جگہ غیر مناسب ہے۔ یہ قاعدہ کلیے نہیں ہے کہ ہر مضرت دنیوی یہ کا تحمل کر لینا چاہئے اور اس کی پرواہ کرنی چاہئے بلکہ اس کی تفصیل ہے (جس کا حاصل یہ ہے کہ جب شریعت کسی کام کو واجب کر دے یا کسی کام کو حرام کر دے تو واجب کے ادا کرنے اور حرام سے بچنے میں اگر ہم کو کچھ دنیوی مضرت ایسی پہنچ جو مال یا آبرو کو ضرر پہنچانے والی ہو تو ہم کو اس مضرت کی پرواہ کرنی چاہئے اور اگر اسی مضرت ہو جس سے جان کا غالب خطرہ ہو تو اس وقت واجب کے وجوب اور حرام کی حرمت کا مکلف ہی یہ شخص نہ رہے گا اور مستحبات و سنن کے لئے تو مال یا آبرو کی مضرت کا تحمل کرنا بھی واجب نہیں ہوتا بلکہ افضل اور عزیمت ہے اور جان کی مضرت کا تحمل کرنا تو بعض دفعہ مستحبات و سنن کے لئے ناجائز اور حرام ہے۔ غرض اس مسئلہ میں بہت تفصیل ہے) جس کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہر شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ کس جگہ مضرت کا تحمل مناسب ہے اور کہاں مناسب نہیں اور کہاں واجب ہے اور کہاں حرام ہے۔

جاہل متوكل کا قصہ

اگر ہر شخص کی رائے پر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہی قصہ ہو گا کہ ایک شخص نے ایک مولوی صاحب کے وعظ میں توکل کی فضیلت اور اس کی ضرورت کا مضمون سناتھا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ جب خدا تعالیٰ یوں بھی روزی پہنچا سکتے ہیں تو محنت و مشقت کی کیا ضرورت ہے۔ پس آپ نے سارا کار و بار چھوڑ دیا اور جنگل میں لب سڑک جا بیٹھا۔ اتنی بہت بھی نہ ہوئی کہ سڑک سے دور جا بیٹھے۔ یہ خیال کیا کہ سڑک کے کنارے کوئی تو آتا جاتا ویکھے گا۔ دوسرے وہاں ایک کنوں بھی پاس تھا جس پر بیٹھ کر مسافر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اس نے یہ جگہ اس لئے تجویز کی کہ ایسا بھی کیا ہے کہ کوئی مسافر بھی مجھے کھانا نہ دے گا۔ اب آپ کو مسافروں کا انتظار شروع ہوا کہ شاید کوئی آوے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ ایک آیا اور اس نے کھاپی کر سیدھا اپنا رستہ لیا۔ سمجھا کہ ان شاء اللہ اس مرتبہ جو کوئی آوے گا وہ ضرور مجھے دیکھ کر کھلاوے گا۔ دوسرا آیا اس شخص کی طرف سے پشت کر لی اور سڑک کی طرف منہ کر کے کھانا کھایا اور وہ بھی چلتا ہوا اسی طرح دو تین دن گزر گئے اور کسی نے بھی اس کو ایک نکڑا نہ دیا۔ اخیر میں ایک مسافر آیا

اور اس نے بھی کھاپی کر چلنے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ نے کھنکارا آہیں۔ اس نے مڑکر جو دیکھا تو ایک آدمی نظر پڑا جس کا فاقوں کے مارے براحال ہے اس کو ترس آیا اور جو کچھ بھی ہوئی روٹیاں تھیں اس کے حوالے کیں۔ جنہیں کھا کر میاں کے حواس درست ہوئے۔

بھاگا ہوا مولوی صاحب کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے توکل کے بیان میں ایک قید ضرور چھوڑ دی ہے جس سے لوگوں کو ضرور دھوکا ہوا ہوگا۔ اور نہ معلوم کتنے آدمی اس دھوکا سے پریشان ہوئے ہوں گے۔ وہ تو خدا نے خیر کی کہ میں اپنے اجتہاد سے اس قید کو سمجھا ورنہ میں بھی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ براہ کرم آئندہ آپ جہاں کہیں توکل کا بیان فرمایا کریں اتنی قید اور بڑھادیا کریں کہ کھنکارنے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اس نے اپنا قصہ بیان کیا۔

تو دیکھنے والے اس شخص نے ترک اسباب کا بیان سن کر یہ سمجھ لیا کہ میں بھی ترک اسباب کا اہل ہوں۔ اس نے ہاتھ پر توڑ کر بیٹھ گیا اور پریشان ہوا۔ حالانکہ اس کی تشخیص اس کو کسی طبیب روحانی سے کرانی چاہئے تھی کہ میں ترک اسباب کا اہل ہوں یا نہیں۔

اسی طرح ایک شخص نے وعظ میں سن لیا تھا کہ اللہ کے راستہ میں جو ایک روپیہ دے گا اس کو دس دنیا میں ملیں گے اور ستر آخرت میں۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے اچھی تجارت کیا ہو گی۔ بس سب کام چھوڑ کر یہی کرنا چاہئے۔ چنانچہ اس کے پاس ایک روپیہ تھا اس نے اسے خیرات کر دیا اور منتظر ہا کہ اب دس روپے آؤں گے۔ کئی دن گزر گئے ایک پیسہ بھی نہ آیا بڑا پریشان ہوا۔ یہاں تک کہ میاں کو دست لگ گئے کیونکہ اب اس کو رہ کر اپنے روپے کے جانے کا بھی غم ہوتا تھا اور دل ہی دل میں مولوی صاحب کو برآ بھلا کہتا تھا کہ انہوں نے یہ کیا غلط مسئلہ بیان کیا۔ بے چارے کو اسی فکر میں دست اور پیش لگ گئی۔ بار بار اجابت کے لئے جنگل جاتا تھا۔

ایک دفعہ وہ قضاۓ حاجت کر رہا تھا اور زمین کو کرید رہا تھا کہ دفعۂ مشی میں سے ایک بٹوہ ملا جس میں پورے دس روپے تھے۔ بڑا خوش ہوا اور دست تو فوراً موقوف ہو گئے کیونکہ جس علت سے دست آنے شروع ہوئے تھے وہ علت ہی نہ رہی۔ دوڑا ہوا مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مولوی صاحب آپ نے جو کچھ وعظ میں فرمایا تھا بالکل درست ہے مگر اس میں ایک قید آپ نے چھوڑ دی۔ آئندہ جہاں آپ یہ مسئلہ بیان کریں ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کریں کہ مروڑ بھی لگتے ہیں۔ اس کے بعد جس کو جمل ہو گا ایک کے دس لے گا اور جس کو جمل نہ ہو گا وہ اس طریقہ کو اختیار نہ کرے گا۔ یہ حق ہے کہ ایک کے دس ملتے ہیں مگر مروڑے غصب کے ہیں۔

غرض یہ بات ضروری ہے کہ ہر شخص کو تکمیل مضرت کی اجازت نہیں اس کیلئے کچھ شرائط اور محل ہیں۔
مگر یہ بات ضرور ہے کہ جب دین کا غلبہ، وجا تا ہے تو دیندار کو دنیوی مضرت کی پرواہ نہیں رہا کرتی۔

ایک طالب خدا کی حکایت

میرے ایک دوست کی حکایت ہے جو بی اے ہیں۔ ایک مرتبہ دریل کا سفر کر رہے تھے ان کے
پاس اسباب زیادہ تھا اور جس اٹیشن سے وہ سوار ہوئے تھے وہاں وزن کرانے اور بلٹی لینے کی فرصت نہیں
تو انہوں نے خیال کیا کہ جس اٹیشن پر اتروں گاؤہاں وزن کرانے کے محصول ریلوے ادا کر دوں گا۔ چنانچہ
جب وہ منزل مقصود پر اترے تو وہاں کے بابو سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اسباب زیادہ ہے جس کا
محصول ادا کرنا میرے ذمہ ہے مجھ کو بعجه تنگی وقت کے سوار ہوتے ہوئے اس کی بلٹی کرانے کا موقع نہ
ملا۔ آپ اس وقت وزن کرنے کے مجھ سے محصول لے لیجئے۔ اور چونکہ میں نے اپنا واقعہ خود بیان کر دیا ہے
اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ میں نے خیانت اور خلاف ورزی قانون کا قصد نہیں کیا تھا۔ اس لئے
آپ کو اصل محصول لے لیتا چاہئے ڈبل چارج نہ کرنا چاہئے۔ بابو نے کہا۔ جائیے ہم کچھ نہیں لیتے۔

انہوں نے پھر اصرار کیا وہ متعجب ہو کر اٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا اس نے بھی وزن کرنے اور محصول
لینے سے انکار کیا انہوں نے پھر اصرار کیا تو وہ دونوں ان کو انگریزی زبان سے تاوافت سمجھ کر انگریزی
زبان میں بتیں کرنے لگے۔ وہ بتیں یہ تھیں کہ معلوم ہوتا ہے اس شخص نے شراب پی ہے۔ جو باوجود
انکار کے از خود روپیہ دینا چاہتا ہے انہوں نے کہا میں نے شراب نہیں پی میرا مدد ہے۔ مجھ کو مجبور کرتا ہے
افسوں! آن کل فریب اور پالیسی کا بازار ایسا گرم ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں
آتی کہ کوئی شخص از خود بھی خدا کے خوف سے دوسروں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ بس وہ یوں سمجھتے ہیں
کہ عاقل وہی ہے جو از خود کسی کا حق ادا نہ کرے اور جس کو خود بخود اس کی فکر لگی ہوئی ہوا سے پاگل
سمجھتے ہیں چنانچہ ریل والوں نے ان کو پاگل ہی سمجھا اور یہ کہا کہ آپ اپنا اسباب لے جائیں۔

ہماری اجازت ہے آپ کو کوئی کچھ نہ کہئے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس اجازت کے دینے کا کوئی
اختیار ہی نہیں کیونکہ آپ ریلوے کمپنی کے مالک نہیں ہیں بلکہ اس کے ملازم ہیں۔ آپ کو ریلوے
کے حق چھوڑنے کا کیا حق ہے۔ مگر کسی طرح ریل والوں نے ان سے محصول نہ لیا انہوں نے اپنا
اسباب اٹھایا اور باہر آ کر سوچنے لگے کہ اے اللہ میں کیا کروں؟ اب حق تعالیٰ نے ان کی احکامات
فرمائی جب کہ دیکھا کہ میرے بندہ کو معصیت سے بچنے کا راستہ نظر نہیں آتا اور دوسرے لوگ اس

کو معصیت میں بٹلا کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس سے نچنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ معا دل میں یہ بات آئی کہ مقدار محصول کے برابر ایک لکھ اسی ریلوے کمپنی کا لے کر چاک کر دینا چاہئے۔ اس طرح محصول ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا، ہی کیا۔ صاحبو۔۔۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیکھیں۔ ان شاء اللہ قدم قدم پر آپ کو اعانت الہیہ کھلی آنکھوں نظر آئے گی۔

اعانت الہیہ

یہ توسیب جانتے ہیں کہ کمال دین بدون اعانت خداوندی کے حاصل نہیں ہوتا۔ مگر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ابتدائی منازل میں بھی حق تعالیٰ پوری اعانت کرتے ہیں۔ پس جب دین کے کام میں ابتدا سے انتہا تک اعانت الہیہ ساتھ رہتی ہے پھر تم کیوں ڈرتے ہو۔ کہ صاحب دین پر عمل کیے کریں یہ تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے بھائی تم کو اگر مشکل معلوم ہوتا ہے تو خدا کو تو کوئی مشکل نہیں۔ جب وہ تمہاری اعانت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ پھر یہ عذر کرنا محض نفس کی شرارت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلًا وَمَنْ يُقْرِبُ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا

فلکر کا فقدان

پھر بھی افسوس ہے کہ لوگ دین میں ترقی حاصل نہیں کرتے اور جس کو جتنا دین حاصل ہے وہ اسی پر قائم ہے۔ میں عوام ہی کی شکایت نہیں کرتا۔ افسوس یہ ہے کہ خواص کو بھی ترقی دین کی فلکر نہیں۔ بس جو تعلیم میں مشغول ہے وہ اسی پر قائم ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا ریندار ہوں کہ ہر وقت قال اللہ و قال الرسولؐ ہی میں رہتا ہوں۔ جو لوگ ذکر شغل میں مشغول ہیں وہ اسی پر قناعت کئے ہوئے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھئے کہ آخر شریعت میں معاملات اور معاشرت کی تعلیم کس لئے دی گئی ہے۔ اصلاح اخلاق کا اہتمام کیوں کیا گیا ہے۔ کیا یہ دین نہیں کیا اس پر عمل کرنے کے لئے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم پیدا ہوگی۔ آخر تقوے کی فروع فہمیہ پر تم کیوں عمل نہیں کرتے۔ یہ مسائل فقہاء نے کس کے لئے بیان کئے ہیں۔

دنیادار اگر قلیل حصہ دین پر قناعت کرے تو وہ اتنا خسارہ میں نہیں جتنا خسارہ اہل علم کو ادنیٰ حصہ دین پر قناعت کرنے سے پہنچے گا۔ کیونکہ دنیادار نے اگر دین کم حاصل کیا تو اس نے دنیا میں تولذت و راحت حاصل کر لی۔ اور یہ مولوی صاحب دنیا میں تو پھرندی تھے ہی اگر دین

میں بھی پھرستی رہے تو کسی طرف کے بھی نہ رہے۔ نہ دنیا میں چین ہوانہ آخرت میں۔ وہاں بھی یہ کلفت ہی میں رہیں گے اور دنیا میں تو یہ کلفت کے اندر رہیں ہی کہ نہ عالیشان خل رہنے کو ہے نہ نوکر چاکر رہنے زیادہ روپیہ ہے نہ عمدہ اور لذیذ غذا میں ہیں نہ ریشمی لباس زیر ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طبقہ ادنیٰ دین پر کیوں کرقناعت کرتا ہے اور دنیا کو چھوڑنے کے بعد یہ کمال دین کی فکر کیوں نہیں کرتے۔ امام غزالی نقل فرماتے ہیں۔

ارى الملوك بادنى الدين قد قنعوا وماراهم رضواهى العيش بال McDon
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بلدنيا هم عن الدين
مطلوب یہ ہے کہ میں سلاطین والملوک کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑے سے دین پر قناعت کر کے اپنے کو دنیا میں مشغول کر دیا ہے اب تم ان کو اس طرح نیچا دکھاؤ کہ تھوڑی سی دنیا پر قناعت کر کے دین میں کمال پیدا کرو اور سلاطین کی دنیا سے مستغفی ہو جاؤ۔ کیونکہ اب ان کو نیچا دکھانے کا یہی طریقہ ہے۔ دنیا میں تو ان سے بڑھ جانا تمہاری قدرت میں نہیں ہے مگر دین میں بڑھنا تو قدرت میں ہے۔ پس تم دین میں سلاطین کو نیچا دکھاو کر وہ آج تم سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں تو دین کی برکت سے کل تم ان سے بڑھے ہوئے رہو گے۔ اور اگر تم دین میں بھی کم رہے تو سلاطین تم سے ہر جگہ بڑھے ہوئے رہیں گے اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ سبحان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے اور یہ لطیفہ ایسا ہے جیسا ایک شاعر نے کہا ہے۔
یاد داری کہ وقت زادن تو ہمہ خندان بدند و تو گریاں آنچنان زی کہ وقت مردن تو ہمہ گریاں شوند و تو خندان کیا تو اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو سب خوش ہوتے تھے اور نہیں رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ پس جب تو دنیا سے جائے تو دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ توہستا ہوا جائے اور لوگ رورہے ہوں۔

ایک عجیب مضمون

یعنی تم کو یہ بات بھی یاد ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب لوگ نہیں رہے تھے اور تم روئے ہوئے آئے تھے۔ تو یہ لوگ نہایت ظالم ہیں کہ ان کو تمہارے رونے پر بھی رحم نہ آیا۔ اس وقت ان کو خوشی کی سوچھ رہی تھی۔ اب تم ان کو اس طرح بدله دو کہ تمہارے مرنے کے وقت وہ سب روئیں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ یعنی ایسی زندگی بسر کرو جس کی بدولت سب کو تمہارے مرنے کا غم ہوا اور تم کو لقاء الہی کی خوشی ہو۔ وہ روئے رہیں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ ایسا نہ ہو کہ

مرنے کے وقت بھی سب نہیں اور خوش ہوں کہ اچھا ہوا کم بخت کا پاپ کٹا۔ اور تم اعمال سینے کی وجہ سے روتے ہوئے جاؤ۔ تو اس مضمون میں بھی ویسا ہی مقابلہ ہے جیسا اور پر کے اشعار میں مقابلہ تھا کہ جس طرح تمہارے رونے پر لوگ ہنتے تھے اب تم ان کے رونے پر نہ سوار دنیا سے اس طرح جاؤ کہ آخرت کی راحتیں دیکھ کر تم بے ساختہ یوں کہو۔

فَالْيَتِ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرَّمِينَ

اے کاش میری قوم کو اطلاع ہو جائے کہ میرے خدا نے مجھے بخش دیا اور مجھ کو معززین میں داخل کر دیا ہے۔ تو اس اطلاع سے وہ رونے سے بازا آ جائیں۔ یہی مقابلہ کا مضمون پہلے اشعار میں تھا کہ تم امراء و سلاطین کو دین میں نیچا دکھادو جب کہ انہوں نے تم کو دنیا میں نیچا دکھایا ہے کیونکہ آج کل کے امراء حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح تھوڑا ہی ہیں جن کو نیچا دکھانا مشکل ہو۔

صحابہ کرام کی حالت

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی توبیہ حالت تھی کہ غرباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے بڑھ گئے کیونکہ جس طرح نماز روزہ ذکر و شغل ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور ان میں یہ بات زیادہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ خیرات و صدقات کرتے رہتے ہیں۔ جہاد میں خوب مال خرچ کرتے ہیں اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم پانچوں نمازوں کے بعد۔

سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اکبر

الله تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لا تلق نہیں اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔

پڑھا کرو اس کا تم کو اتنا ثواب ملے گا کہ مالداروں کے صدقات اور خیرات سے بڑھ جائے گا۔ مالدار صحابہ کو جواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ غرباء پھر شکایت لائے کہ یا رسول اللہ امراء نے بھی وہ تسبیحیں پڑھنا شروع کر دیں جو آپ نے ہم کو تعلیم فرمائی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں۔ میں خدا کے فضل کو کسی سے کیوں روک دوں۔ ذلیک فضل اللہ یوں تھا من یشأء یق بحاجة و تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہیں عطا فرمائیں۔

حضرات صحابہ میں جو لوگ مالدار تھے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے دین کی ترقی میں لگے رہتے تھے اور جو نیک کام ان کو معلوم ہوتا اس کی طرف سبقت کرتے تھے۔ ان کو دین میں نیچا دکھانا غرباء کو

مشکل تھا۔ ان حضرات کے پاس مال بہت کچھ تھا مگر حالت یہی کہ دل کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہ تھا۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو وہ رور ہے تھے۔ لوگوں نے ان کو سلی دی کہ ما شاء اللہ تم نے حضورؐ کے ساتھ فلاں فلاں غزوہات میں شرکت کی اور خدا کے راستہ میں اسلام کی بہت سی خدمتیں کی ہیں ان شاء اللہ تم کو حق تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو کیوں روتے ہو۔ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں روتا بلکہ میں اس واسطے روتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری تنگدستی کی یہ حالت تھی کہ عثمان بن مظعون کا جب انتقال ہوا تو ان کے کفن کے لئے صرف ایک چھوٹا سا کمبل تھا جس کو سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھل جاتے اور پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضورؐ نے حکم دیا کہ کمبل کو سر کی طرف کھینچ دیا جائے اور پیروں پر گھاس ڈال دی جاوے اور آج ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ سوائے مشی کے اور کہیں اس کی جگہ نہیں۔

اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ سوائے زمین میں دفن کرنے کے اور کہیں اس کی جگہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ بجز عمارتوں میں خرچ کرنے کے اور کسی کام میں یہ روپیہ نہیں آتا تو وہ حضرات ایسے تھے کہ زیادہ مال جمع ہونے سے روتے تھے اس کی ان کو زیادہ خوشی نہ تھی۔

صاحبؔ۔ یہ وہ امراء تھے جن کی وجہ سے حضرات صوفیہ میں اختلاف ہوا ہے کہ صبرا فضل ہے یا شکرا فضل ہے تو صوفیہ کرام کے اس قول میں ایسے شاکر مراد ہیں جیسے حضرات صحابہؓ تھے نہ کہ ہم جیسے حرام خور جو خدا کی نعمتیں کھا کھا کر معاصی پر اور زیادہ دلیر ہو رہے ہیں۔ اگر حضرات صوفیہ ہمارے زمانہ کے امراء کو دیکھ لیتے تو وہ یہی فرماتے کہ صبرا فضل ہے شاکر سے۔ (الاما شاء اللہ) پس آج کل کے امراء کو دین میں نیچا دکھادینا کچھ بھی مشکل نہیں پھر تعجب ہے کہ ہم کو اس بات پر غیرت نہ آئی کہ ہم دنیا میں تو امراء سے کم رہے دین میں بھی ان سے بڑھے ہوئے نہ رہیں۔ بالخصوص اہل علم کو تو یہ غیرت ضرور ہونی چاہئے پس ان کو لازم ہے کہ جس طرح اہل دنیا کسی وقت ترقی دنیا سے نہیں تھکتے وہ بھی ترقی دین سے نہ تھکیں اور دین میں کمال حاصل کرتے رہیں۔ جس کا ایک اور آسان طریقہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے۔

تقویٰ کی تفصیل

حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا تَقُولُوا اللَّهُ وَمَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ اے ایمان والو! خدا سے ڈر واور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔

اس میں اول تقویٰ کا امر ہے۔ یہ بات تو اور ثابت ہو چکی کہ ہر مقصود میں درجہ کمال مطلوب ہوا کرتا ہے۔ اب یہ بات ثابت کرنا رہی کہ تقویٰ کمال دین ہے یا نہیں۔ نصوص شرعیہ میں غور کرنے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تقویٰ کا امر اور فضل قرآن میں جس قدر ہے غالباً کسی چیز کا اتنا نہیں۔ اس سے اس کا مہتمم بالشان ہونا معلوم ہوا۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ تقویٰ کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے۔ ایک ڈرنا دوڑے پہننا۔ اور تامل کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو پہننا ہی ہے۔ یعنی معاصی سے مگر سب اس کا ذرنا ہے کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے جبھی اس سے بچا جاتا ہے۔ تقویٰ کا معنی اول میں استعمال **إِلَّا أَنْ تَتَقَوَّا مِنْهُمْ تُقْةً** میں ہے اور بچنے کے معنی میں استعمال نصوص کیثرہ ہیں۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرة۔ بچو جہنم سے اگرچہ ایک نکڑا چھوہارے کا دے کر۔ یہاں بچنے ہی کے معنی بن سکتے ہیں ڈرنے کے معنی نہیں بن سکتے۔

غرض استعمال دونوں معنی میں وارو ہے لیکن اصل مقصود احتراز عن المعاصی ہے اور خوف علی الاطلاق مقصود بالذات نہیں بلکہ وہ ذریعہ اور سبب ہے احتراز عن المعاصی کا۔ جس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔

لَسْلُكْ مِنْ خَشِيَّتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ يَسِّرًا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ (مولانا طہرانی لہجہ: ۵۰۹)

اے اللہ! میں آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں جس سے مجھ میں اور معاصی کے درمیان میں آڑ ہو جاوے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف علی الاطلاق مقصود نہیں کیونکہ مقاصد کا ہر درجہ مطلوب ہوتا ہے کوئی درجہ غیر مقصود نہیں ہوتا۔ اور حدیث کی اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف ایک خاص حد تک مطلوب ہے اس سے آگے مطلوب نہیں وہ خاص حد یہ ہے کہ جس سے معاصی میں رکاوٹ ہو جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماتحول بہ بینا و بین معاصیک کی قید بڑھا کر ایک ایسی بات بتائی ہے جو سالکین کو سالہا سال کے تجربہ کے بعد معلوم ہوتی ہے مگر آپ نے دلفظوں میں اس کو حل فرمادیا۔ وہ بات یہ ہے کہ بظاہریہ بات سمجھ میں آیا کرتی ہے کہ خدا کا خوف تو اچھی چیز ہے پس وہ جتنا بھی زیادہ ہوا چھا ہے۔ لیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس کا حد سے بڑھ جانا مضر ہو جاتا ہے۔

اول تو زیادت خوف سے صحیت خراب ہو جاتی ہے ہر وقت انسان رنج و غم ہی میں رہتا

ہے اور صحت کے اختلال سے اعمال میں کوتا ہی ہونے لگتی ہے۔

دوسرے صاحب خوف کو دیکھ کر دوسرا مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں کہ بس صاحب خدا کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہر وقت رنج و غم میں گھلنا پڑتا ہے۔

تیسرا ہے جب خوف کا غلبہ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ شخص رحمت اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے یا س تک نوبت پہنچ جاتی ہے جو کہ کفر ہے اور مایوس ہونے سے وہ بالکل معطل و بیکار ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ جب میرے لئے کچھ نہیں ہو سکتا اور میں رحمت حق کے قابل ہی نہیں ہوں تو پھر اس ساری محنت سے کیا فائدہ بس سب کام چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔

تو غلبہ خوف سے یہ باتیں پیش آیا کرتی ہیں۔ اس وقت سالک کو معلوم ہوتا ہے کہ خوف کا ہر درجہ مطلوب نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دلفنوں میں اس حقیقت پر متنبہ کر دیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل مقصود تقویٰ بمعنی احتراز عن العاصی ہے۔ خدا کی نافرمانی سے بچنے کا کمال دین ہونا ظاہر ہے کیونکہ اس میں ادائے فرائض و واجبات و اجتناب عن الامر مات سب داخل ہیں کوئی مقصود شرعی اس سے خارج نہیں مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی پڑھو کیونکہ ترک صلوٰۃ معصیت ہے۔ زکوٰۃ بھی دو کیونکہ ترک زکوٰۃ معصیت ہے اسی طرح تمام مامورات کا چھوڑنا معصیت ہے تو اس میں مامورات کے ادا کا حکم بھی ہے اور محمرات کے ترک کا بھی۔ اور کمال دین کے بھی دو اجزاء ہیں۔ تو تقویٰ کا کمال دین ہونا ثابت ہو گیا۔

دوسری ولیل ایک اور ہے جس سے تقویٰ کا کمال دین ہونا ثابت ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے۔

الا ان التقویٰ ههنا و اشار الى صدره

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدنا مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سن لو کہ تقویٰ یہاں ہے یعنی تقویٰ کا محل قلب ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے۔

۱۔ اس حدیث سے بعض جاہل صوفیوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس اصل مقصود اصلاح قلب ہے۔ اعمال ظاہرہ کی کچھ ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط اور صریح زندقہ ہے اور اس کا غلط ہونا خود اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب دل صالح ہوتا ہے تو تمام بدن صالح ہوتا ہے اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ظاہرہ صلاحیت قلب و فساد قلب کی ولیل ہیں۔ پس جس شخص سے اعمال صالحہ صادر ہوں یا اس کے قلب کی صلاحیت کی ولیل ہے۔ جس سے اعمال سبھیہ صادر ہوں یا اس کے قلب کے فساد کی ولیل ہے پس صلاحیت قلب کے بعد اعمال صالحہ کا ترک ممکن نہیں اور جو شخص اعمال صالحہ کو ترک کر کے صلاحیت قلب کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ پس یہ مسلم کا اصل مقصود اصلاح قلب ہے مگر وہ اعمال صالحہ کی مدد و معاونت اور اعمال سبھیہ کے اجتناب سے منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اعمال صالحہ ہرگز بیکار نہیں۔ فاقہم ۱۲ جامع۔

الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت سلح الجسد كله واذا فسدت
 فسد الجسد كله الا وهي القلب. (صحح البخاري: ۲۸: ۲۱۶۰، صحح مسلم كتاب المساقات)
 یعنی جسم میں ایک نکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا
 ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے سن لو۔۔۔ وہ قلب ہے۔ اس حدیث
 سے اصلاح قلب کا صلاحیت کاملہ ہونا ثابت ہے۔ اور پہلی حدیث سے یہ معلوم ہو چکا کہ تقویٰ کا
 اصل محل اور موصوف قلب ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ تقویٰ سے اول اصلاح قلب ہوئی ہے
 تو ان مقدموں سے تقویٰ کا مستلزم صلاحیت کاملہ ہونا ثابت ہو گیا کہ تقویٰ کمال دین ہے اور قلب کو
 محل تقویٰ اس حدیث میں اس لئے فرمایا کہ تقویٰ یعنی الاجتناب عن المھیت کا سبب خوف
 خداوندی ہے اور ظاہر ہے کہ خوف کا اصل محل قلب ہے) یہاں تک جملہ اولیٰ کے متعلق کلام تھا۔

صادقین کی تشریع

دوسرے جملہ کی بابت میں نے یہ کہا تھا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ بیان ہے مقصود
 مذکور کے طریق کا کہ حاصل اس کامیت مع الصدقین ہے پس صادقین اسی کا ایک عنوان ہے اور
 مقیٰ کے معنی کاملین فی الدین کی میت ہے پس صادقین کے بھی وہی معنی ہوں گے یعنی کمال
 فی الدین کا طریق کاملین فی الدین کی میت ہے۔ پس وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ کی توجیہ
 کو نوامع الکاملین ہوئی ہے کیونکہ صادقین سے معنی مشہور صادقین فی القول مراد نہیں بلکہ
 راجح فی الدین مراد ہیں۔ جیسے ہمارے محاورہ میں بھی کچے آدمی کو سچا کہتے ہیں اور اس معنی کے
 اعتبار سے حق تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کو صدقیق فرمایا۔

وَأذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِبْرَاهِيمَ طَإِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا

اور اسی صدقیقت کا درجہ بعد نبوت کے ہے پھر شہداء و صاحبوں کا درجہ چنانچہ ایک آیت
 میں حق تعالیٰ نے اسی ترتیب سے ان درجات کو بیان فرمایا ہے۔

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ
 وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

ترجمہ۔ اور رسول خلیل اللہ علیہ السلام کی توجیہ مع الصدقین کی توجیہ میں
 کاملین ثابت ہوئی۔ بنی اس کی دلیل ایک اور آیت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ بلکہ یہ آیت اتفاق سے میرے دونوں دعووں کو ثابت کر رہی ہے یعنی اس سے تقویٰ اور صدق دونوں کے معنی کمال دین ہوتا ثابت ہو رہا ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ
عَلَى حِلَّهُ ذُوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكُوَةَ وَالْمُؤْفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضُّرِّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ طَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

کچھ ساری خوبی اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف لیکن (اصلی خوبی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی (ذات و صفات) پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر (بھی) اور فرشتوں (کے وجود پر) بھی اور (سب) کتب (سماویہ) پر (بھی) اور پیغمبروں پر بھی اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت منڈر شہداروں کو اور (نادار) قیمتوں کو اور دوسرے غریب محتاجوں کو اور (بے خرچ) مسافروں کو اور (لا چاری میں) سوال کرنے والوں کو اور (قیدیوں اور غلاموں کی) گروں چھڑانے میں (بھی مال خرچ کرتا ہو) اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب (کسی امر جائز کا عمل کر لیں اور وہ لوگ مستقل مزاج رہنے والے ہوں تنگدستی میں اور بیماری میں اور (معزکہ) قتال میں یہ لوگ ہیں جوچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متفق ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ صادق اور متفق یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں اور ان اوصاف میں تمام اجزاء دین کا ذکر اجمالاً آ گیا ہے۔ دین کا کوئی جزو اس سے باقی نہیں رہا۔ پس یہ اوصاف کمال دین کو مخصوص ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان اوصاف سے متصرف ہیں وہی صادق اور وہی متفق ہیں۔ اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ صادق اور متفق وہی شخص ہے جو دین میں کامل ہو۔ پس صدق اور تقویٰ کی حقیقت کمال دین ہوتا ثابت ہو گیا۔

تفسیر آیت البر

رمایہ کہ آیا اس آیت میں تمام اجزاء دین کا ذکر آ گیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ

شریعت میں کل احکام کا حاصل تین چیزیں ہیں۔ ۱۔ عقائد ۲۔ اعمال ۳۔ اخلاق
اور تمام جزئیات انہی کلیات کے تحت میں داخل ہیں اور اس آیت میں اقسام مثلاً کے
بڑے بڑے شعبے ارشاد فرمائے گئے ہیں اس اعتبار سے یہ آیت مجملہ جو امعن کلم کے ہے۔ چنانچہ
فرماتے ہیں **لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلُوا وُجُوهَكُمْ** بر کے معنی بھائی کے ہیں اور لام عہد کا ہے۔ معنی
یہ ہوئے **لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلُوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**. یعنی مشرق و مغرب کی
طرف نماز میں منہ کر لینا بر کافی نہیں ہے کہ اسی پر قناعت کر لی جائے۔ اس توجیہ سے یہ اشکال رفع
ہو گیا کہ استقبال قبلہ بھی تو مأمور بہ شرعا ہے اور ما مورد بہ شرعی کا بر ہونا لازم ہے پھر اس کی نسبت لیں
البر کیوں فرمایا۔ اس اشکال کے جواب لوگوں نے مختلف وجہ سے دیئے ہیں لیکن جو توجیہ میں نے
بیان کی ہے یہ بہت آسان ہے اور یہ توجیہ اسی وقت سمجھہ میں آئی ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اس
میں استقبال سے مطلق خیریت کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے بر کافی ہونے کی نفی مراد ہے۔

رہایہ کہ اس مضمون کی اس جگہ ضرورت کیا تھی۔ استقبال مشرق و مغرب سے بر کافی کی نفی
کیوں کی گئی۔ سوبات یہ ہے کہ اس سے پہلے تحويل قبلہ کا مسئلہ مذکور ہوا ہے جس میں کفار و
مشرکین نے بہت سور و غل کیا تھا اور اس وقت ان کی تمام تربیث اسی میں رہ گئی تھی کہ مسلمانوں
کا بھی عجب دین ہے کبھی کسی طرف منہ کرتے ہیں کبھی کسی طرف۔ تو حق تعالیٰ ان کو تنبیہ
فرماتے ہیں کہ تم تو اس بحث میں ایسے پڑ گئے کہ گویا مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی بڑا
مقصود ہے حالانکہ یہ مقصود نہیں بلکہ شرائط و وسائل مقصود میں سے ہے پس یہ حماقت ہے کہ
مقاصد کو چھوڑ کر غیر مقاصد کی بحث پر اکتفا کر لیا جاوے۔ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یہ
بر کافی نہیں بلکہ بر کافی وہ ہے جس کا آگے بیان آتا ہے۔ اس کا اہتمام کرو۔

مشرق و مغرب کی تخصیص ذکر میں ایک نکتہ کی وجہ سے ہے اس سے قبلہ کا مشرق و مغرب میں
منحصر کرنا مقصود نہیں کیونکہ جن لوگوں سے مکہ معظمه کارخ جانب شمال میں ہے ان کا قبلہ جنوب ہے
جس جگہ سے مکہ معظمه کارخ جنوب میں ہے اس جگہ کا قبلہ سمت شمال ہے۔ چنانچہ مدینہ والوں کا قبلہ
جنوب ہے اسی لئے حدیث میں اہل مدینہ کو فرمایا گیا ہے ولکن شرقوا او غربوا کہ استنجا کے وقت تم
اوگی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ مشرق و مغرب میں منحصر نہیں۔
پس اس جگہ مشرق و مغرب کی تخصیص میں نکتہ یہ ہے کہ تمام جهات میں سے بھی دونوں جنوبیں عرف افزایادہ
مشہور ہیں جب ان کا غیر مقصود ہونا بیان کرو یا تو دوسری جهات کا مقصود ہونا بھی اس سے واضح ہو گیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ مشرق و مغرب کی جہت میں امتیاز بوجہ تقابل حسی کے زیادہ محسوس ہے۔ پس اولاً بالذات انہی دو جہات کا علم حاصل ہوتا ہے اور دوسری جہات کا علم ان کے واسطے سے ہوتا ہے چنانچہ مشرق و مغرب کی جہت کا سمجھنا شمال و جنوب کے جانے پر موقوف نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مشرق وہ جہت ہے جدھر سے آفتاب نکلتا ہے اور مغرب وہ ہے جدھر آفتاب ڈوبتا ہے اور شمال و جنوب کی معرفت بدون مشرق و مغرب کے نہیں ہو سکتی چنانچہ شمال و جنوب کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے داہنے ہاتھ کی سمت جنوب ہے اور باعیں ہاتھ کی سمت شمال ہے۔ پس یہ دونوں جہتیں اصل ہوئیں اور جنوب و شمال ان کی فرع ہیں اور ظاہر ہے کہ اصل کے غیر مقصود ہونے سے فرع کا غیر مقصود ہونا خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے علاوہ ازیں یہ کہ شریعت میں قلیل انحراف مفرد صلوٰۃ نہیں تو مشرق و مغرب جن کا قبلہ ہے وہ اگر قدرے شمال و جنوب کی طرف مائل ہو جاویں نماز فاسد ہو گی اس طرح گویا مشرق و مغرب میں شمال و جنوب بھی آ گئے۔

پس مطلب صرف یہ ہے کہ کسی جہت کی طرف بھی منہ کرنا برکاتی نہیں بلکہ برکاتی ہے جس کا آگے ذکر ہے ولکن الْبُرُّ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ إِلَّا لَنْ يَبْلُغَ دُونُونَ توجیہیں جائز ہیں۔ ایک یہ کہ مندالیہ کی جانب سے مضاف کو مقدر کیا جائے۔ ولکن الْبُرُّ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ إِلَّا لَنْ۔ ایک یہ کہ مند کی طرف سے مضاف مقدر مانا جاوے۔ یعنی ولکن الْبُرُّ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ۔۔۔ لَنْ اور حاصل دونوں کا ایک ہے۔

عقائد کا بیان

خواہ یہ کہا جائے کہ بھلائی کافی اس شخص کی بھلائی ہے یا کافی بھلائی والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں ذات و صفات کے متعلق جس قدر احکام ہیں سب آگئے اور قیامت کے دن پر ایمان لانے میں جزا اور حساب و کتاب و جنت و دوزخ وغیرہ کے سب احکام آگئے۔ الملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لائے یعنی ان کے وجود کا قائل ہو اس میں تمام مغیبات داخل ہیں اور فرشتوں کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ شریعت کے معلوم ہونے کا مدار و واسطہ ملائکہ ہی ہیں۔ والکتب اور کتاب پر ایمان لائے۔ یہاں کتاب بصیغہ مفرد لایا گیا ہے حالانکہ کتب سماویہ متعدد ہیں اور ایمان لانا سب پر واجب ہے۔ (گوئیل منوچ پر جائز نہیں) اور اسی وجہ سے دوسری آنکوں میں صیغہ جمع اختیار کیا گیا ہے۔ کُلُّ أَمْنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَتِهِ وَنَجِيْهِ وَرَسُولِهِ

سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لیکن یہاں صیغہ مفرد اختیار کرنے میں اشارہ ہے ایک امر کی طرف وہ یہ کہ قرآن ایسا جامع ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ پر حاوی ہے اس لئے اس پر ایمان لانا گویا سب پر ایمان لانا ہے یا یہ کہا جاوے کہ کتب سماویہ میں سے ہر کتاب دوسری کتاب پر ایمان لانے کا امر کرتی ہے۔ پس وہ سب مل کر بمنزلہ کتاب واحد کے ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا بمنزلہ کتاب واحد کے ایمان لانے کے ہے۔ (اور جو شخص ایک کتاب کو مان کر دوسری کا انکار کرے وہ حقیقت میں پہلی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتا) لیکن یہ حکم ایمان کا ہے اور عمل کرنا سب کتابوں پر جائز نہیں بلکہ عمل صرف موخر پر ہو گا کیونکہ وہ مقدم کے لئے ناخ ہے۔ النبین اور پیغمبروں پر ایمان لائے یہاں تک تو امہات عقائد مذکور ہیں آگے اخلاق و اعمال کا ذکر ہے۔

اعمال شرعیہ کی اقسام

اعمال شرعیہ کی دو قسمیں ہیں۔ طاعات، دیانت و دوسرے معاملات (معاملات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک متعلق اموال کے دوسرے متعلق غیر اموال کے ہیں ان میں نکاح و طلاق و عتق و حدود وغیرہ داخل ہیں) اور دیانت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک طاعات بد نیہ دوسرے طاعات مالیہ، اسی طرح اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ حسنہ و سیئہ، اخلاق حسنہ کے ساتھ موصوف ہونا مقصود شرعی ہے اور اخلاق سیئہ سے خالی و منزہ ہونا مطلوب ہے۔ عقائد سے آگے ان سب کے اصول مذکور ہیں جن میں طالبات مالیہ کا ذکر مقدم کیا گیا کیونکہ بہت لوگ طاعات بد نیہ میں ہمت والے ہوتے ہیں اور طاعات مالیہ میں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔

گر جاں طلبی مضاائقہ نیست گر زر طلبی سخن درین ست
اگر جان طلب کرے تو کوئی مضاائقہ نہیں لیکن اگر مال طلب کرے گا تو اس میں مجھے اعتراض ہو گا۔
چنانچہ ارشاد ہے کہ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اور دیتا ہوں مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو علی
حرب کی ضمیر اگر اللہ کی طرف راجع ہو جیسا کہ یہی ظاہر ہے تو اس میں علم اخلاق کا بھی ایک اصل عظیم مذکور
ہو گا یعنی مال خدا کے راستے میں محبت الہی کی وجہ سے دینا چاہئے اس میں ایک تو محبت الہی کے حاصل
کرنے کی تعلیم ہوئی کہ خدا سے محبت پیدا کرنی چاہئے محض صابطہ کا تعلق نہ ہونا چاہئے۔ دوسرے
اخلاص کی تعلیم اور ریا و ناموری کی ممانعت ظاہر ہوئی کہ مال خرچ کرنے میں کسی مدرج و شاوشکریہ وغیرہ کا

مُتظر نہ ہو بلکہ محض خدا کی محبت اس کا سبب ہوتا چاہئے اور اخلاق بھی اخلاق باطنی کا بذریعہ ہے۔ اگر مر جمع ضمیر مال ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ ایسا مال جس سے محبت ہوا اور دل کو تعلق ہو خدا کے لئے خرچ کر دے۔ اس میں ایک تو خرچ کرنے کا ادب مذکور ہوا کہ اللہ کے واسطے عمدہ مال خرچ کرنا چاہئے۔ روایت مال نہ دینا چاہئے، دوسرے علم ساک کا یہ مسئلہ بھی اشارہ مذکور ہوا کہ محبت مال جو کہ خلق ذمیم ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہوا سی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ دوچار بار ایسا کرنے سے حب مال کا مرض جاتا رہے گا۔

ذوی القربی میں تمام قرابت دار داخل ہیں۔ بیوی بچے بھی ان میں آگئے جن کا نفقہ مرد پر واجب ہوتا ہے اور دوسرے غریب رشتہ دار بھی آگئے جن کو کچھ دیتے رہنا اور ان کا خیال رکھنا مستحب ہے۔ **وَالْيَتَّمِي وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ** اور تیمور کو بھی دے اور مسکینوں کو بھی دے اور مسافروں کو بھی یہ سب صدقات نافلہ ہیں کیونکہ زکوٰۃ کا بیان آگئے آرپا ہے۔

اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ طاعات مالیہ کا ذکر طاعات بدنسی سے کیوں مقدم ہوا اس کا جواب تو میں نے دیا کہ بعض طبائع میں بخشن کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ طاعات بدنسی کی ہمت خوب کر لیتے ہیں اور مال دینے سے جان چراتے ہیں اس لئے طاعات مالیہ کو اہتماماً مقدم کر دیا۔

دوسرے سوال یہ ہے کہ طاعات مالیہ میں سے صدقہ نافلہ کو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ پر کیوں مقدم کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ سے ایسا ضابطہ کا تعلق رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ اور کچھ خیرات نہیں کرتے اس میں گناہ نہیں مگر ضعف تعلق مع الحق کی دلیل ضرور ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے صدقات کو نافلہ زکوٰۃ سے مقدم فرمایا جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ تو واجب ہے وہ تو تم ادا کرو گے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ صدقہ خیرات موقع بموقع ادا کرتے رہنا چاہئے۔

دیکھئے اگر کوئی محبوب یا کوئی بادشاہ ہم سے یہ کہہ دے کہ اس موقع پر تم دورو پہیے خرچ کر دو تو غور کیجئے اس وقت ہمارے دل کی کیا حالت ہوگی۔ کیا ہم دورو پہیے ہی پر اکتفا کریں گے۔ ہرگز نہیں بلکہ محبوب کو خوش کرنے یا بادشاہ کی نگاہ میں جا شمار بننے کے لئے ہم دو کی جگہ دس خرچ کریں گے ورنہ چار تو دے ہی ڈالیں گے اس لئے خدا تعالیٰ سے ضابطہ کا تعلق نہ رکھنا چاہئے۔

اس نکتہ کی وجہ سے صدقات نافلہ کو صدقہ مفروضہ مالیہ سے مقدم کیا بلکہ طاعت بدنسی یعنی صلوٰۃ سے بھی مقدم کر دیا لیکن بعد میں جب زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو نماز کو اس سے مقدم کیا تاکہ یہ معلوم ہو

جاوے کے اعتبار سے نماز ہی مقدم ہے۔ چنانچہ دیکھ لو، تم نے زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا ہے اور جن صدقات مالیہ کو نماز اور زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا ہے وہاں تقدیم کی وجہ مخصوص اہتمام بالشان ہے نہ کہ رتبہ کا زیادہ ہوتا۔ رتبہ نماز کا طاعات مالیہ سے بڑھا ہوا ہے اور زکوٰۃ کا رتبہ صدقات نافلہ سے بڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔۔۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں ہر چیز کے درجہ کا کتنا لحاظ ہے۔ یہی تو باقیں ہیں جن کی وجہ سے بشر کی عقل اس کلام کو دیکھ کر چکراتی ہے کہ اتنی رعایتیں انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔

وَالْمَسَائِلُونَ وَفِي الرِّقَابِ اور مالکنے والوں کو بھی دے اور گردان چھڑانے میں بھی۔

یہ بھی صدقات نافلہ کی ایک فرد ہے۔ اس میں اس قدر تفصیل ضروری ہے کہ دیگر نصوص شرعیہ سے سالمین کا فقط ان سوال کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے جو مجبوری کی وجہ سے سوال کرتے ہوں۔ جن کا پیشہ سوال نہ ہو گیا ہوا اور جو لوگ مضبوط ہٹے کہ سوال کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں ان کو دینا جائز نہیں نہ ان کو سوال کرنا جائز ہے۔

اس مسئلہ پر اس زمانہ میں سب سے پہلے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ فرمائی۔ ایک دن فرمایا کہ ایک مسئلہ بتلاتا ہوں، گالیاں تو بہت پڑیں گی۔ چنانچہ واقعی جب اس مسئلہ کی شہرت ہوئی تو لوگوں نے بہت اعتراضات کئے اور برا بھلا کہا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فقیر کو کچھ مت دو مجھے دے جاؤ۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ بس یہی تو ایک نئے مولوی پیدا ہوئے ہیں آج تک کسی نے بھی ان سوال کرنے والوں کو دینا حرام نہیں بتایا۔

عاشق کا مقام

مگر مولانا تو شریعت الہیہ کے عاشق تھے اور عاشق کو گالیوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی کسی نے خوب کہا ہے۔

گرچہ بدنامی ست نزد عاقلاں مانی خواتیم نگ و نام را اگر عقل والوں کے نزدیک اس میں بدنامی و اعتراض ہے لیکن میں اتباع اور طاعات کی بدنامی سے خوش ہوں، ہم ایسی نیک نامی سے بازا آئے جو نافرمانی سے تعلق رکھے۔

اور اس معنی میں ایک شعر ادوكا ہے مگر ذرا شاعریت سے گرا ہوا ہے اور نہ معلوم یہ کیا بات ہے کہ ادو کا شعار فارسی اشعار کے سامنے پھیکے ہوتے ہیں مگر خیر مضمون کے موافق کی وجہ سے پڑھ دیتا ہوں۔

عاشق بدنام کو پرواۓ نگ و نام کیا اور جو خود ناکام ہوا اس کو کسی سے کام کیا ناکامی کا مطلب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھوآپ نے ایک مرتبہ فرمایا

تھا کہ بھائی جو بامراد ہوتا چاہے وہ کسی اور بزرگ کے یہاں جائے اور جو نامرادی چاہے وہ ہمارے پاس چلا آوے۔ پھر چپکے سے فرمایا کہ جانتے ہو نامرادی کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں عشق۔ کیونکہ عاشق بوجہ طلب اور استیاق کے غلبہ کے ہر جگہ اپنے آپ کو ناکام اور بے مراد ہی سمجھتا ہے وہ کسی حالت یا کسی مقام پر قناعت نہیں کرتا ہر وقت آگے کی طلب رہتی ہے اس لئے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ چشتیہ میں بعد حمکین کے بھی سوز و گداز رہتا ہے مگر یہ دنیا ہی میں ہے کیونکہ یہاں وصال کامل نہیں ہو سکتا۔ جس سے تسلی ہو جائے گی۔

ایک صاحب حال صوفی کا قول ہے۔

ان فی الجنان جنه ليس فيها حور ولا قصور ولكن فيها ارنى
یعنی ایک جنت لیکی بھی ہے جس میں نہ حوریں ہیں نہ محلات ہیں۔ بس وہاں جو لوگ رہیں گے انکی
یہ حالت ہو گی کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ سے عرض کرتے رہیں گے کہ اپنے کو دھلاد بجھے اپنے کو دھلاد بجھے۔
بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ ایک صوفی کا قول ہے اور قول بھی غلط
میرے نزدیک اس صوفی نے جنت کو دنیا پر قیاس کیا ہے حالانکہ جنت میں حسب استعداد وصال
کامل نصیب ہو جائے گا جس سے پوری تسلی ہو جائے گی اور کسی قسم کی خلش باقی نہ رہے گی جس
کی دلیل یہ ہے کہ نصوص قرآنیہ سے جنت میں ہر قسم کی کلفت اور خلش کی لفی صراحت معلوم ہو چکی
ہے اور یقیناً یہ خلش وہاں بھی رہی تو اس سے بڑھ کر کوئی خلش نہ ہو گی۔ عشاقو تو آخرت ہی کی
امید پر زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں اگر وہاں بھی تسلی کامل نہ ہوئی تو بڑی حرست کی بات
ہے اور نصوص سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں کوئی حرست باقی نہ رہے گی۔

وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَشَهَّدُونَ الْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَدْعُونَ

اور دنیا میں سکون کامل اور پوری تسلی اس لئے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وصال کامل عادة ممتنع
ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قوی وصال کامل کے متحمل نہیں اور جنت میں تحمل عطا ہو جائے گا
اور اہل نسبت کو جو دنیا میں وصال نصیب ہوتا ہے اس کو حالت تکوین کی اضافت سے وصال کہہ
دیا جاتا ہے ورنہ حقیقی وصال کے سامنے وہ بھی کچھ نہیں۔ بر ایک قسم کا حضور حاصل ہو جاتا ہے
وہ بھی کسی وقت ہوتا ہے، کسی وقت نہیں بھی ہوتا۔ اس لئے عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

در بزم دوریک دو قرح درکش و برد یعنی طمع مدار وصال دوام را
بزم قرب میں دویا ایک جام پی اور راستہ لے یعنی داغی وصال کی پرواہ مت رکھ۔

اور حضرت حظله رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا:

ولکن یا حنظله ساعتہ ساعتہ یعنی ساعتہ کذا و ساعتہ کذا۔

غرض یہ کہہ رہا تھا کہ عاشق کو بدنامی اور ذلت اور گالیوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی چنانچہ مولانا گنگوہی نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ فقہاء نے بھی صراحة فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو گلی کو چوپ میں سوال کرتے پھرتے ہیں جنہوں نے سوال کو پیشہ بنالیا ہے ان کو سوال کرنا حرام ہے اور چونکہ ان کا سوال پورا کر دینے سے ان کو آئندہ کے لئے سوال پر جرات ہوتی ہے اس لئے ان کو کچھ دینا سوال حرام پر اعانت کرنا ہے اور اعانت الحرام حرام ہے۔ اس لئے ہے کہ لوگوں کو سوال کرنا بھی حرام ہے اور ان کو دینا بھی حرام خوب سمجھلو۔

وَفِي الرِّقَابِ اورَ گردنِ چھڑانے میں یہ قید یوں اور غلاموں کے متعلق ہے اور اسی کے حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ جو شخص قرض کے اندر باندھا ہوا ہو اس کی اعانت کر دی جائے کہ یہ بھی گردنِ چھڑانے میں داخل ہے۔

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَّى الزَّكُوَةَ اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں زکوٰۃ کو نماز سے اصل کے مطابق موخر کر دیا جس کا نکتہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

حقوق العباد کے اقسام

یہاں تک طاعات بدنیہ و طاعات مالیہ کے اصول عظام مذکور ہوئے۔ آگے حقوق العباد کا بیان ہے۔

وَالْمُؤْفُونُ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اور وہ لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب عہد کر لیتے ہیں ہر چند کہ حقوق العباد میں بعض حقوق ایسے ہیں جو ایقاۓ عہد سے مقدم ہیں مثلاً قرض کا ادا کر دینا امانت میں خیانت نہ کرنا۔ لیکن اس جگہ حق تعالیٰ نے صرف ایقاۓ عہد کو بیان فرمایا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ ایسے حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں جن کا مطالبہ کرنے والا ان سے کوئی بھی نہیں (کیونکہ ایقاۓ عہد قضالازم نہیں گو دیانتہ بعض کے نزدیک واجب ہے) تو اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن حقوق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوان کو تو ضرور ادا کریں گے اور اسی نکتہ کی وجہ سے مواریث میں وصیت کو دین پر مقدم فرمایا ہے اس سے حقوق العباد کا درجہ معلوم ہو گیا کہ جب حق تعالیٰ کو ان حقوق کا بھی اہتمام ہے جس کا مطالبہ کوئی نہ ہو تو جن حقوق کا مطالب بھی موجود ہو تو وہ کس قدر قابل اہتمام ہوں گے اور یہاں بطور مثال کے بعض حقوق کا ذکر فرمایا گیا ہے ورنہ حقوق العباد اور بھی ہیں۔ اگرچہ لوگ فقط مال کو حق العباد سمجھتے ہیں مگر ایک حدیث

سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق العباد مال ہی میں مخصر نہیں بلکہ حقوق العباد کے اقسام اور بھی ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع میں جو خطبہ پڑھا ہے اس میں آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا۔ این یوم هذا یہ کونسا دن ہے۔ قالوا اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابے نے عرض کیا خدا اور اس کا رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الیس یوم النحر۔ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے۔ قالوا بله۔ صحابے نے عرض کیا بے شک۔ اس سے صحابہ کا غایت ادب معلوم ہوا کہ جس بات کو وہ جانتے بھی ہیں اس کو بھی اللہ و رسول کے حوالے کر دیتے تھے اپنی شان علم ظاہرنہ کرتے تھے اس کے بعد حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ مقام کون سا ہے پھر اسی طرح خود ہی فرمایا کہ کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ صحابے نے عرض کیا بے شک۔ پھر آپ نے مہینہ کی بابت سوال کیا اور اس طرح خود ہی فرمایا کیا یہ ذی الحجه کا مہینہ نہیں ہے۔ صحابے نے عرض کیا بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا۔

فَإِنْ أَمْوَالَكُمْ وَدَمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حِرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحْرَمَةُ يَوْمِكُمْ
هَذَا فِي شَهْرٍ كَمْ هَذَا فِي بَلْدَكُمْ هَذَا۔ اَسْجُونُ مُسْلِمَ فِي كِتَابِ الْقَسَّامَةِ
”کہ تمہارے اموال اور جانیں اور آبرو میں آپس میں تم پر ہمیشہ کے لئے اسی ہی حرام
ہیں جیسے اس مہینہ میں اس مقام میں اس دن میں حرام ہیں۔“

پس معلوم ہوا کہ ایک قسم حقوق العباد کی جان کو تکلیف پہنچانا ہے مثلاً ناقن مارنا جس میں اہل حکومت اور معلمان بکثرت بتلا ہیں اور ایک قسم حقوق العباد کی کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا بھی ہے یعنی کسی پر عن طعن کرنا، کسی کی تحریر کرنا کسی پر بے وجہ بدگمانی کرنا یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی ناجائز ہے بلکہ بعض نصوص سے حقوق آبرو کا وجہ نہ نہیں اور بھی بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ بالخصوص آبرو کے حقوق کی ذرا پر و انہیں۔ ایسے لوگ بکثرت ہیں جو کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے۔ حقوق مالیہ میں فروغ نداشت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا متنقی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں رکھتے۔ مگر آبرو کے حق میں وہ بھی بتلا ہیں ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ عوام کی تو کیا شکایت علماء کی مجالس بھی غیبت سے خالی نہیں اور سب سے بڑھ کر غضب یہ ہے کہ مشائخ کی مجالس بھی اس سے خالی نہیں۔ عوام تو عوام ہی کی غیبت کرتے ہیں جن میں اکثر فساق بھی ہوتے ہیں جن کی آبرو کا زیادہ حق بھی نہیں۔ لیکن علماء جب غیبت کریں گے تو وہ عوام کی نہ کریں گے اور مشائخ ہمیشہ مشائخ کی غیبت کریں گے تاکہ یہ ہم سے بڑھنے جائیں۔ لوگ ہم سے

زیادہ ان کے معتقد نہ ہو جائیں اور اس لئے اکثر علماء و مشائخ کی مجلسیں علماء و مشائخ کی غیبت سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ لوگ مقبولان الہی واولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہیں تو اس بارہ میں یہ عوام سے بڑھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو یہ باتیں معمولی نہیں ہیں لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں حالانکہ یہ باتیں سارے نمازوں کو لے ڈویں گی جس کی تم نے آبروریزی کی ہو گی قیامت میں اس کو تمہاری نیکیاں دلوائی جائیں گی۔ اس لئے نمازوں سے زیادہ حقوق آبرو کا اہتمام کرنا چاہئے۔

ایک بات اور یاد آئی وہ یہ کہ مال اور جان کا حق تو مر نے پر ختم ہو جاتا ہے اور آبرو کا حق تو بعد موت کے بھی باقی رہتا ہے۔ اگر بعد مر نے کے کسی کو مارو تو اس کو احساس نہیں ہوتا اس لئے ضرب کا قصاص بھی نہ ہو گا۔ اسی طرح مر نے کے بعد کسی کا مال چہاڑا تو وہ مال اس کا نہیں رہا اور شاء کا ہو گیا۔ لیکن مر نے کے بعد کسی کو متعہم کرو اور اس کو برا بھلا کہو تو غیبت کا گناہ اس وقت بھی ہو گا اور اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میت کے لئے بکثرت دعا و استغفار کرو۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ تم کو اس سے راضی کر دیں گے۔

جسم اور روح کا تعلق

اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ مر نے کے بعد ضرب کا احساس نہیں ہوتا۔ شاید کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو۔

کسر عظم المؤمن میتا کكسرة حیا (سنابی داود: ۳۲۰، سنابن ماجہ: ۱۹۱۶)

(مسلمان کی ہڈی کو مر نے کے بعد توڑتا ایسا ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑتا) اس کا مطلب نہیں کہ تشبیہ من کل الوجوه ہے جس سے میت کو بعد موت کے زندہ کے برایا احساس ہونے کا شبہ کیا جاوے اگر ایسا ہوتا تو شرعاً اس شخص سے قصاص لیا جاتا بلکہ یہ تشبیہ بعض وجوہ میں ہے۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعد موت کے بھی روح کو کسی قدر تعلق جسم سے رہتا ہے اور وہ ایسا تعلق ہے جیسا کہ اس وقت ہمارے جسم کو لباس سے تعلق ہے۔ پس اگر کوئی ہمارا اتر اہوا کردا چھاڑ دے تو ہم کو لفقت ہوتی ہے۔ نیز اس تعلق کا یہ اثر بھی ہے کہ قبر کے پاس جا کر سلام و دعا جو کچھ کی جاتی ہے مردہ اس کو سنتا ہے اور شہداء میں یہ تعلق عام مومنین سے زیادہ ہوتا ہے جس کا

۱۔ (۱) قال الحنفی في المقاصد الحسنة حدیث کسر عظم میت لکسر عظم الحجی احمد ابو داود ابن ماجہ ابی القاسمی من حدیث عائشہ مرفوعاً وحشة ابن القطنان وقال ابن قیس العبدان علی شرط مسلم ورواہ الدارقطنی من وجہ آخر عنہا وزاد فی الاشم وفی رولیۃ الحنفی الاشم وذکرہ مالک فی الموطاب بالاغعن عائشہ سو تو فاؤروه ابن ماجہ من حدیث امام سلمہ رخص ۱۳۸ او اللہ اعلم ۱۲ جامع۔

اثر یہ ہے کہ ان کا جسم بعد موت کے سالم رہتا ہے زمین اس کو کھانہیں سکتی۔ نیز اس تعلق سے بعض اولیاء کو مرنے کے بعد قوت تصرف بھی عطا ہوتی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کے مزاروں پر جا کر ان سے مراد یہ مانگا کریں کہ شرعاً یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہاں اس کا مفہوم نہیں کہ ان کے وسیلے سے حق تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے۔ باقی ان سے یہ بھی نہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو۔ کیونکہ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ وہ ایسی دعاؤں کے ماذون ہیں۔

احادیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کے لئے دعا کی جائے۔ یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو احیاء کی دعا سے نفع ہوتا ہے اور اس کے منتظر ہتے ہیں مگر اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو تو وہ دعا کر دیتے ہیں اور اولیاء سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو اپنے اجسام سے تعلق رہتا ہے جس کے بعض آثار یہ ہیں کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ایک اثر یہ ہے کہ ان کی یہیوں سے نکاح کرنا ان کے بعد بھی حرام ہے (گویہ حکم آیات و احادیث میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان کیا گیا ہے مگر بعض علماء نے تمام انبیاء کے لئے یہ حکم عام مانا ہے۔ واللہ اعلم۔ تو کسر عظم سے جسمانی ایذا اتو نہیں ہوتی ہاں روحانی ایذا ہو سکتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑنا۔

حضرت استاد علیہ الرحمۃ (مولانا محمد یعقوب صاحب) فرماتے تھے کہ مردہ کے جسم کو جلانے سے اس کو ایسی ایذا ہوتی ہے جیسے تمہارے چادرہ کو اتار کر کوئی تمہارے سامنے جلاوے تو اس سے تم کو رنج اور غم ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کو بھی رنج ہوتا ہے ظاہر ہے کہ چادرہ کے جلانے سے ہمارے جسم کو ایذا نہیں ہوتی صرف روحانی ایذا ہوتی ہے۔ یہی حال بعد موت کے بدن جلانے کا ہے ایک وجہ تشبیہ تو یہ ہوئی۔

دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ تشبیہ گناہ میں ہو کہ جب گناہ زندہ کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے ایسا ہی میت کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے اور وجہ شبہ ترک احترام ہے کیونکہ ہڈی توڑنے اور بدن جلانے سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ غرض احترام میت کا اب بھی باقی ہے۔

مردوں کو برا بھلا کرنے کی ممانعت

اس تقدیر پر اس حدیث کا مال بھی حقوق آبرو کی طرف ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہوا کہ چونکہ مردہ کا احترام بعد موت کے بھی باقی ہے اور کسر عظم میں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی

۱۔ (قلت وحد العوجہ اولیٰ لانہ موید بالرواية وقد ذکر تہائی حاشیہ)

ہے۔ اس لئے یہ فعل حرام ہے اور ظاہر ہے کہ اقوال کی تاثیر بے حرمتی میں کسر عظم سے زیادہ ہے پس مردوں کو برا بھلا کہنا بھی حرام ہے۔

حدیث میں وارد ہے کہ اپنے مردوں کو برانہ کہو کیونکہ وہ اعمال کی جزا کو پہنچ چکے ہیں۔ اگر واقعہ میں وہ برے ہیں تو اپنے افعال کی سزا بھگت رہے ہیں پھر تمہارا ان کو برا بھلا کہنا بے سود ہے اور اگر واقعہ میں وہ اچھے ہیں تو ان کو برا کہنے سے تم کو گناہ ہو گا۔ اس لئے یہ حرکت قابلِ ترک ہے (البته جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی برا طریقہ رانج کر گئے ہوں اور ان کی موت کے بعد بھی لوگ اس کا اتباع کرتے ہوں ان کو برا بھلا کہنے کا مفہماً نہیں تاکہ لوگ اس کے اتباع سے باز آ جائیں (پس مسلمان مردوں کی بے حرمتی کرنا خواہ فعل سے ہو یا قول سے ہر طرح ناجائز ہے اور اس بے حرمتی کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے ایک شعبہ وہ بھی ہے جس کی ضرورت کی طرف مجھ کو ایک عنایت فرمانے کی توجہ دلائی ہے۔

وہ یہ کہ سنائیا ہے کہ بعض لوگ قبرستانوں میں پیشتاب کرتے ہیں اور قبرستانوں کی زمین میں گھر بناتے ہیں تو اس میں ایک تفصیل ہے جس کو غور سے سن لینا چاہئے وہ یہ کہ اگر قبرستان کی زمین کسی کی ملک ہوتب تو اس کو قبروں کے نشانات مٹا کر اس جگہ مکان بنانا جائز ہے مگر جس جگہ قبر کا نشان ہو وہاں پاخانہ ٹھی پیشتاب کرنا اس وقت بھی حرام ہے اور جو قبرستان وقف ہیں ان کا استعمال بالکل حرام ہے ان میں کسی کو مکان بنانا جائز نہیں اور اکثر قبرستان وقف ہی ہیں اس لئے اس سے بچنا چاہئے اور اس میں آخرت کا ضرر تو ہے ہی کہ گناہ ہوتا ہے لیکن بعض وفعہ دنیوی ضرر بھی ہوتا ہے کہ بعضے مردے پٹک بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے واقعات اکثر نے گئے ہیں میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ سب حکایات صحیح ہیں مگر بہت سی صحیح سے ثابت بھی ہیں پھر اس سے قطع نظر اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ قبروں پر ٹھی پیشتاب کرنے سے مردوں کو ایذا ہوتی ہے۔

اولیاء اللہ کا احترام

ان میں بعض اولیاء بھی ہیں جن کی نسبت حدیث صحیح میں وارد ہے۔

من اذی لی ولیا فقد اذنته بالحرب (احف السادة المحتفين ۵: ۲۹۵، ۹۷۲، ۹۱۰)

یعنی جو کوئی میرے کسی ولی کو ایذا پہنچا دے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا

۱۔ ذکر فی المرقاۃ برواية ابن ابي شيبة عن ابن مسعود اذى المؤمن في موته كاذاه في حیاته وفي المشکرة عن عمر بن حرب قال راتني النبي صلی اللہ علیہ وسلم متکناً على قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر

جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وعید کتنی سخت ہے خدائی ائمہ میثم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر اس وعید کا ظہور بھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ خود اولیاء کو تصرف کی اجازت دیتے ہیں اور وہ اپنے تصرف سے اس شخص کو ضرر پہنچا دیتے ہیں اور بعض دفعہ اولیاء کوئی تصرف نہیں کرتے لیکن حق تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بے حرمتی پر غیرت آتی ہے کہ ہمارے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا اس لئے حق تعالیٰ خود اس شخص کو کسی بلا میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ غرض اولیاء کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کرتا بڑا سگین جرم ہے اگر وہ حضرات اپنی شفقت سے کچھ بھی نہ کہیں تو غیرت حق نہیں چھوڑتی اس لئے اس سے بچنا چاہئے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

بس تجربہ کردیم دریں دیر مكافات بادرد کشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد ہم نے اس کائنات میں بارہا تجربہ کیا کہ اللہ والوں کے ساتھ جو بد تیزی کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ مولا نارومی فرماتے ہیں۔

بیچ قوے را خدا رسوا نکرہ تادل صاحب دلے نام بدر و کسی قوم کو خدا تعالیٰ اس وقت تک ذلیل نہیں فرماتے جب تک وہ اللہ کے کسی مقبول یہ نہ کوئی نہیں متاتے۔ یاد رکھو جب کوئی قوم کسی ولی کا دل دکھاتی ہے تو ان کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ حق تعالیٰ بعض دفعہ ان کی طرف سے اس طرح انتقام لیتے ہیں کہ خود ان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھو کہ حقوق العباد صرف جان و مال ہی کے متعلق ہیں بلکہ آبرو بھی حقوق العباد میں داخل ہے اور اس کے حقوق جان و مال سے بھی زیادہ ہیں کہ بعد موت کے بھی اس کے حقوق باقی رہتے ہیں جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے جس کو ابھی ذکر کیا کہ بعد مرنے کے مسلمانوں کی قبروں کا احترام کیا جائے ان کی بے حرمتی نہ کی جائے جس کو میں نے ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے یہ مضمون میرے دوست نے کئی مرتبہ مجھ کو یاد دلایا مگر ہر بیان کے وقت میں اس کو بھول جاتا تھا کیونکہ فرمائشی مضمون بہت کم یاد رہتے ہیں لیکن اس مرتبہ یاد رہا اور جماعت اللہ اس کا بیان کافی ہو گیا۔ میں نے یہ بھی سنائے کہ بعض مخلصین قبرستانوں کی حفاظت کے لئے خاص اہتمام کر رہے ہیں سب مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہئے اور ان کی اعانت کرنی چاہئے۔

اس تقریر پر شاید کوئی یہ اشکال کرے کہ تم نے بیان کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی بے حرمتی سے وصال آتا ہے لیکن ہم تو اب تک قبرستان میں ٹٹی پیشاب کرتے رہے ہیم کو تو کچھ ضرر نہیں ہوا۔ ہم تو ویسے ہی ہٹے کے صحیح و سالم موجود ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض ویسا ہی ہے جیسا کہ کفار نے انبیاء سے کہا تھا کہ تم روز رو زہم کو عذاب سے ڈراتے ہو کہ اگر کفر کرو گے تو یوں و بال آئے گا یوں بلا میں نازل ہوں گی مگر ہم تو مدت سے کفر کر رہے ہیں اور اب بھی کفر میں مبتلا ہیں۔ ہم پر تو کچھ بھی عذاب نہ آیا۔ پس جو نجام کفار کے اس اعتراض کا ہوا تھا، ہی انجام یہ حضرات سوچ لیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اب تک کوئی و بال تم پر نہیں آیا تو کیا آئندہ کے لئے بھی تمہارے پاس وحی آگئی ہے کہ تم بھی و بال میں مبتلا نہ ہو گے۔

دوسرے جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایسا اعتراض کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی و بال سے خالی نہیں ہیں لیکن و بال کی دوستی میں ہیں۔ ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری و بال تو یہ ہے کہ جان و مال کا نقصان ہو جاوے، صحبت بر باد ہو جاوے اور یہ و بال آ ہوں ہے۔ اور باطنی و بال یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاوے اس میں ایمان صالح کی صلاحیت باقی نہ رہے نیک کاموں سے دل گھبرا نے لگے یہ و بال بہت سخت ہے کیونکہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بعض وفعہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے جس کا انجام ابد الآباد کے لئے عذاب جہنم ہے۔ پس میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت بھی و بال سے خالی نہیں ہیں۔ باطنی و بال میں گرفتار ہیں کہ ان کے دلوں سے قہر خداوندی کا خوف نکل گیا ہے۔ جسمی توانی جرات ہے کہ قہر خداوندی کا نام سن کر اپنی حرکتوں سے باز آنے کا قصد نہیں کرتے بلکہ انسان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ اگر ان کے دلوں میں قہر الہی کا خوف ہوتا تو جس کام میں اس کا وہم بھی ہوتا اس سے فوراً الگ ہو جاتے۔ اسی مضمون کو مولانا ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

آتشی گرنا مدست ایں دود چیست جاں سیرہ گشت و روائی مردود چیست
اگر آگ اندر نہیں لگی تو دھواں کس سبب سے ہے۔ اگر دل سیاہ نہیں ہو چکا تو یہ گستاخی کے کلمات کیوں نکل رہے ہیں۔

یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم پر گناہوں کا و بال نہیں آیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر قہر کی آگ تو جل رہی ہے اگر تمہارے اندر آگ نہیں ہے تو دھواں کہاں سے آیا یعنی یہ کلمات جرات و بے باکی کے تمہاری زبان سے کیوں کرنکل رہے ہیں جن سے دل کے سیاہ ہو جانے کا پتہ چل رہا ہے اور یہ بہت بڑا قہر ہے جو ظاہری قہر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک حقوق العباد کا ذکر ہو گیا۔

صبر کی حقیقت اور اس کے اقسام آگے اخلاق کا ذکر ہے۔

وَالصُّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضُّرُّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں جنک دستی میں اور بیماری میں اور قتل کے وقت۔

ہر چند کہ اخلاق باطنیہ بہت ہیں لیکن حق تعالیٰ نے ان میں سے اس مقام پر صرف صبر کو بیان فرمایا ہے اور اس کے تین مواقع بیان فرمائے ہیں وجہ اس تخصیص کہ یہ ہے کہ صبراً یہی صفت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد بقیہ اخلاق کا حصول خود بخود ہو جاتا ہے کیونکہ صبر کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ عزیز و اقارب کے مرنے پر مستقل مزاج رہے یہ بھی صبر کی ایک فرد ہے لیکن صبر کی حقیقت اس سے عام ہے۔ صبر کے معنی لغت میں جس کے ہیں یعنی روکنا اور یہی معنی شریعت میں بھی ہیں۔ صرف ایک قید زیادہ ہے یعنی جس نفس علیٰ ماتکرہ انسان کا اپنے نفس کو اس کی ناگوار بات پر روکنا اور ناگواری کے اقسام پر شرعاً صبر کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ صبر علی العمل ۲۔ صبر عن العمل ۳۔ صبر فی العمل

صبر علی العمل یہ ہے کہ نفس کو کسی کام پر روک لیتا یعنی اس پر جنم جانا اور قائم رہنا۔ مثلاً نماز زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلا ناغہ ان کو ادا کرتے رہنا۔

صبر فی العمل یہ ہے کہ عمل کے وقت نفس کو دوسرا طرف التفات کرنے سے روکنا اور ہمہ تن متوجہ ہو کر کام کو بجا لانا، مثلاً نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یا ذکر میں مشغول ہوئے تو نفس کو یہ سمجھا دیا کہ بچھ جی اتنی دیری تک تم سوائے نماز یا ذکر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے پھر دوسرے کاموں کی طرف توجہ کرنا فضول ہے۔ اتنی دیری تک تجھ کو نماز یا ذکر ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہئے جب یہ ملکہ رائخ ہو جاتا ہے تو سب اعمال ٹھیک ٹھیک ادا ہوتے ہیں بعض لوگوں کو فرائض شرعیہ کی پابندی تو نصیب ہے اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو صبر علی العمل کا درجہ حاصل ہے لیکن اعمال کو بجا لاتے وقت وہ ان کے آداب و حقوق کی رعایت نہیں کرتے گز بڑ کر دیتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صبر فی العمل حاصل نہیں ہوا۔ تیسرا قسم ہے صبر عن العمل یعنی نفس کو مانہی اللہ عنہ سے روکنا، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے روکنا، جن میں سب سے اہم صبر عن الشہوت ہے کہ نفس کے تقاضائے شہوت کو روکا جائے اور یہ سب سے اہم اس لئے ہے کہ نفس کے دوسرے تقاضے تو ایسے ہیں کہ ان سے اگر نہ روکا جاوے تو بعد میں

اس کو خود ہی بہت کلفت ہوتی اور اس کلفت کا خیال کر کے نفس ان تقاضوں سے خود ہی رک جاتا ہے۔ مثلاً صبر عن الغضب بہت آسان ہے کیونکہ غصہ کے وقت گنفس کو لذت آتی ہے مگر بعد میں کوفت ہوتی ہے مشاہدہ ہے کہ غصہ کر کے بعد میں ایک ندامت سی طاری ہوتی ہے کہ ہم نے خواہ گواہ غصہ کیا۔ بات کو ٹال کیوں نہ دیا۔ غصہ کر کے بھی جی بھلانہیں ہوتا۔ نیز بعض دفعہ کسی پر غصہ کرنے سے اس کو شمنی ہو جاتی ہے پھر وہ ایذا اور سانی کے درپے ہو جاتا ہے ان مضرتوں پر نظر کر کے غصہ کو انسان خود ہی دبانے لگتا ہے۔

لیکن صبر عن الشہوت بہت مشکل ہے کیونکہ شہوت رانی میں قضاۓ شہوت کے بعد لذت آتی ہے اور بعد میں اس کی لذت رہتی ہے قضاۓ شہوت کے بعد کچھ کوفت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو روحانی کوفت ہوتی ہو تو ممکن ہے لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ عام حالت یہی ہے کہ شہوت رانی کے بعد اس کا مزہ پڑ جاتا ہے پہلے سے زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے گوہوڑی دیر کے لئے سکون ہو جاتا ہے۔

شہوت بالا مارڈ

شہوت بالنساء سے بھی اشد شہوت بالا مارڈ ہے۔ آج کل امردوں کے ساتھ ابتلاء عام ہو رہا ہے جس کی چند وجہوں ہیں۔

اول تو عورتوں میں قدرتی حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان سے اظہار شہوت کی جرات ذرا دقت سے ہوتی ہے اور لڑکوں میں حیا کا مادہ کم ہوتا ہے۔

दوسرے عورتوں کی حفاظت بہت کی جاتی ہے انکے پاس پہنچنا آسان نہیں اور جو کوئی پہنچ بھی جاتا ہے اسکی رسائی جلد ہو جاتی ہے اور بچوں کی کچھ بھی حفاظت نہیں کی جاتی انکا کسی سے پرداز نہیں ہوتا۔

تیسرا اس میں اتهام کم ہوتا ہے بچوں کے سر پر شفقت سے بھی ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور شہوت سے بھی اب اگر کسی کے بچے کو پیار کریں تو سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کو بچوں پر شفقت زیادہ ہے شہوت کی کسی کو کیا خبر۔

ان وجہوں سے آج کل امارڈ کے ساتھ ابتلاء بہت زیادہ ہے اور شہوت بالنساء سے یہ شہوت بالرجال اشد ہے کیونکہ عورتوں میں محارم کے ساتھ ابتلاء کم ہوتا ہے۔ اکثر غیر محارم سے ہوتا ہے سو وہ کسی نہ کسی وقت تمہارے لئے حلال بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ کنواری ہے تو اسی وقت نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے اور اگر شوہروں والی ہے تو ممکن ہے شوہر مر جاوے یا طلاق دے دے تو پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ بہر حال اس میں حلت کی توقع تو ہے گوکسی وقت ہو اور گو تو قع ضعیف

ہی ہو مگر امردوں کا حلال ہونا تو کسی وقت بھی متوقع نہیں۔ بلکہ بعضے گناہ تو ایسے ہیں جو جنت میں جا کر گناہ نہ رہیں گے۔ مثلاً شراب پینا دنیا میں گناہ ہے لیکن جنت میں شراب ملے گی اور یہ شہوت بالا رجال ایسا خبیث فعل ہے کہ جنت میں بھی اس کا وقوع نہ ہو گا پس یہ زنا اور شراب خوری سے بھی بدتر ہے بلکہ شراب میں تو جو کچھ حرمت ہے سکر کی وجہ سے ہے اگر کسی تدبیر سے شراب کا سکر زائل ہو جائے مثلاً سرکہ بن جائے تو بعینہ اس کا پینا حلال ہو جاتا ہے لیکن شہوت بالا مرد کی خیانت لذات ہے یہ کسی طرح بھی زائل نہیں ہو سکتی پس یہ فعل حرمت میں سب سے بڑھا ہوا ہے کہ اس میں کسی طرح بھی حللت کی گنجائش نہیں۔

یہ ناپاک فعل سب سے پہلے قومِ لوط میں رانج ہوا۔ ان سے پہلے آدمیوں میں اس کا وقوع نہ ہوا تھا چنانچہ لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا۔

أَتَأْتُونَ الْفَاجِحَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ

کیا تم ایسا شخص کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ گو حیوانات میں بعض کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان میں پہلے سے اس کا وقوع تھا۔ حق تعالیٰ نے قومِ لوط پر جو سنگین عذاب نازل کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فعل کیسا سنگین ہے کیونکہ کفر تو تمام کفار میں مشترک تھا لیکن انواع عذاب کا مختلف ہونا بظاہر خصوصیت افعال ہی کی وجہ سے ہے اور سیرے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل بد قومِ لوط نے بھی خود نہیں ایجاد کیا بلکہ شیطان نے ان کو سکھایا۔ یہ فعل ایسا خبیث ہے کہ انسان کا نفس باوجود امارۃ بالسوء ہونے کے اس کی طرف از خود منتقل نہیں ہوا بلکہ شیطان خبیث نے اس کی طرف قومِ لوط کو متوجہ کیا۔

شہوت بالا مرد کی ابتداء

جس کا قصہ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان خوبصورت لڑکے کی صورت میں متشکل ہو کر ایک شخص کے باغ میں سے انگور توڑ توڑ کر کھایا کرتا تھا باغ والا اس کو دھرم کا تاما رتا تھا مگر یہ بازنہ آتا تھا ایک دن اس نے ننگ آ کر اس سے کہا کہ کم بخت تو نے میرے باغ کا پیچھا کیوں لے لیا سارے درخت بر باد کر دیئے تو مجھ سے کچھ روپے لے لے اور میرے باغ کا پیچھا چھوڑ دے شیطان بصورت امرد نے کہا کہ میں اس طرح بازنہ آؤں گا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے درخشوں کا ناس نہ کروں تو جوبات میں کہوں اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا وہ کیا بات ہے۔ اپنیس نے اس کو یہ فعل تعلیم کیا کہ میرے ساتھ یہ فعل تو کیا کر پھر میں تیرے باغ کو چھوڑ دوں گا۔

چنانچہ پہلی بار تو اس نے جبرا و قبر اپنے باغ کے بچاؤ کے لئے یہ فعل کیا۔ پھر خود اس کو مزہ پڑ گیا۔ وہ اس کی خوشامدیں کرنے لگا کہ تو روز آیا کہ اور جتنے انگور چاہے کھالیا کر۔ پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو اس کی اطلاع دی اور لوگ بھی یہ فعل کرنے لگے۔ پھر کیا تھا عام رواج ہو گیا اس کے بعد شیطان تو غائب ہو گیا لوگوں نے لڑکوں کے ساتھ یہ فعل کرتا شروع کیا۔ خدا تعالیٰ کو یہ فعل بہت ہی ناگوار ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو اس فعل سے روکو ورنہ نخت عذاب آئے گا۔ انہوں نے بہت سمجھایا مگر وہ بازنہ آئے۔ آخر عذاب نازل ہوا اور سب کے سب تباہ ہو گئے۔

صاحب! یہ فعل ایسا خبیث ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو بد نام ہوتا ہی ہے مگر اس سے بڑھ کر یہ تم ہے کہ جس نبی کی امت نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے آج اس نبی کی طرف بھی لفظاً نسبت کرنا لوگوں میں باعث تہجی ہو گیا۔ یعنی کوئی شخص اپنے لئے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کو لوٹی کہا جاوے۔ حالانکہ لفظ لوٹی میں یا نے نسبت ہے اور لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ محمدی اور موسوی اور یوسفی اگر لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ فعل بد نام کیا ہوتا تو آج لوٹی کا لفظ باعث فخر ہوتا جیسا کہ دیگر انبیاء کی طرف نسبت کرنا باعث فخر ہے مگر اس کم بخت قوم نے اپنے نبی کے نام کو بھی نہ چھوڑا۔

لفظ لواطت کا غلط استعمال

صاحب! مجھے تو اس فعل کے لئے لفظ لواطت کا استعمال بہت ہی ناگوار ہوتا ہے کیونکہ لواطت کا لفظ لوط علیہ السلام کا نام سے بنایا گیا ہے تو ایسے گندے کام کا نام نبی کے نام سے مشتق کرنا بہت ہی نازیبا ہے جس نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے بہت ہی تم کیا ہے میرے نزدیک یہ لفظ عربیت میں دخیل اور مولد ہے فصحائے عرب کے کلام میں اس کا استعمال نظر سے نہیں گزرا۔ عربی میں اس کے لئے اتیان فی الدبر کا لفظ معلوم ہوتا ہے یا اور کوئی لفظ بھی ہو۔ بہر حال لواطت کا لفظ قابل ترک ہے اور میرے نزدیک اغلام کا لفظ بھی مولد ہے عربی فصح میں اس کا بھی استعمال نہیں ہے۔ یہ سب بعد کے گھرے ہوئے ہیں۔

غرض اس فعل کی خباثت عقل آنفلوڈ ہر طرح ثابت ہے اور طبیعت سلیمانیہ اس سے خود ہی انکار کرتی ہے اس فعل پر سوائے بد طینت آدمی کے اور کوئی سبقت نہیں کر سکتا ایک کھلا ہوا فرق شہوت بالنساء اور شہوت بالرجال میں یہ ہے کہ عورت سے قضاۓ شہوت کرنے کے بعد اس میں محبت بڑھتی ہے اور مرد کی عزت عورت کی نظر میں بڑھ جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مرد ہے نام رد نہیں ہے اور لڑکوں

سے قضاۓ شہوت کر کے ایک دوسرے کی نظر میں اسی وقت ذلیل و خوار ہو جاتا ہے پھر بہت جلد مفعول کے دل میں عداوت ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔

نظر کا مرض

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شہوت بالرجال سے پاک و صاف ہیں مگر ان میں بھی نظر کے مرض میں اکثر مبتلا ہیں حالانکہ حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے۔ پس امردوں کو نظر شہوت سے دیکھنا بھی حرام ہے اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں حالانکہ نظر مقدمہ ہے فعل کا اور مقدمۃ الحرام حرام قاعدة فقہیہ ہے یعنی حرام کے مقدمات بھی حرام ہوتے ہیں اس لئے نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو محبت الامرد میں مبتلا کر دیتے ہیں محبت گرفت اختریاری نہیں مگر اس کے اسباب اختریاری ہیں یعنی ان کو دیکھنا ان سے اختلاط کرنا وغیرہ پس مطلب یہ ہوا کہ جس کو حق تعالیٰ اپنے دربار سے مطرود کرنا چاہتے ہیں اسی کو نظر الامرد اور اختلاط الامرد میں مبتلا کر دیتے ہیں اور یہ افعال اختریاری ہیں جو مقتضی ہو جاتے ہیں محبت وغیرہ کی طرف جس کا انجام طریقہ الحق ہے۔ (اعاذ نا اللہ) دوسرے میری سمجھ میں یہ ہرگز نہیں آتا کہ لڑکوں سے کسی کو عشق ہوتا ہو آج کل لوگوں نے فتنہ کا نام عشق رکھ لیا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

عشق ہائے کز پے رنگے بود عشق نبود عاقبت ننگے بود
جو عشق رنگ و روپ ظاہری پر ہوتا ہے اس کا انجام ذلت بدنامی اور رسوانی ہے۔ کسی اور کا قول ہے ایس نہ عشق ست آنکہ در مردم بود ایں فاد از خوردن گندم بود
آدمیوں کے اندر ایک دوسرے سے نفسانی خواہش ہرگز عشق نہیں بلکہ گندم کھانے کا فاد ہے اگر نہ ملے تو سب عاشقی بھول جائے۔

اور اگر ہزار میں کسی ایک کو عشق ہو جائے بھی تو اس کو عشق پر توملامت نہ کی جائے گی مگر اس کے بعد جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں اس پر ملامت کی جائے گی کیونکہ وہ اختریاری افعال ہیں حتیٰ کہ اس کا تصور کرنا اور تصور سے لذت لینا یہ بھی فعل اختریاری ہے جس کا چھوڑنا واجب ہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس حالت میں محبوب سے بعد کو نفع میں بہت زیادہ

دخل ہے تباعد سے اکثر یہ مرض خفیف ہو جاتا ہے۔ اور التکف میں جو علاج میں نے اس کا لکھا ہے اس سے بہت لوگوں کو نفع ہوا ہے اس پر ضرور عمل کیا جاوے اس باب میں سالکین کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً سخت احتیاط کرنا چاہئے۔ ہمارے یہاں ایک ذاکر ہیں ایک مرتبہ ان کو ذکر کے وقت ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت ان کے قلب پر وار ہوئی۔

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَلْدِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

اور یہ مساجناب اللہ الہام تھا جو کسی ہاتف وغیرہ کے ذریعہ سے ان پر القاء ہوا اور اس کا مطلب بے ساختہ ان کے دل میں یہ آیا کہ اس بستی پر جس میں میں مقیم ہوں عذاب خداوندی نازل ہونے والا ہے اور وہ عذاب بصورت طاعون ہو گا کیونکہ بعض احادیث میں طاعون کو رجز سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ یہ آیت قوم لوط کی شان میں ہے اس لئے ان کی سمجھی میں یہ آیا کہ اس عذاب کا سبب عمل قوم لوط ہے جو اس بستی میں بکثرت رائج تھا۔

اس کے بعد ایک جمعہ میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ سمجھ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ اس بستی پر عمل قوم لوط کی کثرت کی وجہ سے عذاب نازل ہو گا جو بصورت طاعون ہو گا اس لئے لوگوں کو اس عمل سے رک جانا چاہئے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں توپہ واستغفار کرنا چاہئے مگر اس عمل خبیث سے قلوب کچھ ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ان میں تاثیر کا مادہ نہیں رہتا۔ اس لئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ سجان اللہ ان پر تو وحی آنے لگی بجائے تاثیر اور توپہ کے الشامخ کرنے لگے آخر تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں اس زور کا طاعون آیا کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ پس خوب سمجھ لیجئے کہ اس منحوس عمل سے باطنی عذاب بھی نازل ہوتا ہے کہ قلوب مسخ ہو جاتے ہیں اور ظاہری بلا میں بھی نازل ہوتی ہیں خدا سب مسلمانوں کو اس سے نجات دے۔ (آمین)

سُعْيٍ وَصُولٍ إِلَى اللَّهِ

پس شہوت سے صبر کرنا صبر عن الغضب سے بھی دشوار ہے یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں عام ابتلاء ہے لیکن یہ دشواری اس وقت تک ہے جب تک آپ اس سے بچنے کا ارادہ نہ کریں اور جس دن آپ اس سے بچنے کا اہتمام کریں گے اسی دن سے آسانی شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ مشکل آپ کے لحاظ سے ہے خدا تعالیٰ کے لحاظ سے تو مشکل نہیں آپ ارادہ کر کے دیکھیں وہ اس مشکل کو بہت جلد آسان کر دیں گے۔ مولا نافرماتے ہیں۔

تو گو مارا بدال شہ بار نیست بر کریماں کارہا دشوار نیست
تم یہ مت کہو کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی اورے بھائی اہل کرم پر
کوئی کام دشوار نہیں۔

دوسرامصرع اصل میں ایک جملہ مقدارہ کی دلیل ہے تقدیر عبارت یوں تھی۔ ”تو گو مارا بدال
شہ بار نیست زیر انکہ وصول درودست تو نیست بلکہ درودست خدائے کریم است“ ”بکریماں کارہا
دشوار نیست“ یعنی تم یہ مت کہو کہ ہم خدا کے دربار میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وصول تمہارے قبضہ میں
تحوڑا ہی ہے جو دشواری اس کا مانع ہو بلکہ خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور وہ کریم ہیں اپنی عنایت
سے وہ خود تم کو پہنچادیں گے کیونکہ کریموں پر بڑے کام بھی دشوار نہیں پس اس میں کچھ بھی دشواری
نہیں کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنے تک پہنچادیں گو ہم اس قابل نہ تھے اس لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں
خلاصہ یہ کہ تمہاری سعی سے تو پہنچنا مشکل تھا مگر سعی کے بعد وہ امداد فرماتے ہیں۔ تم طلب اور ارادہ
کرو وہ خود تم کو پہنچادیں گے اور تمام دشواریوں کو آسان کر دیں گے۔ اس پر شاید کسی کو اشکال ہو کہ
صاحب ہماری تو طلب اور سعی بھی ناتمام ہے پس یہ مانا کہ سعی کے بعد حق تعالیٰ خود پہنچادیتے ہیں
مگر پہلے سعی تو ہوا اور یہاں تو سعی بھی ناتمام ہے اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں۔

ہم بایس دلہا نماید خویش را ہم بدوزد خرقہ درویش را
اپنی ناتمام کوششیں جاری رکھو لیکن حق تعالیٰ خرقہ درویش کو ناتمام کوشش قبول فرمائ کامل
فرمادیتے ہیں یعنی تمہارے پھٹے ہوئے خرقہ کوئی دیتے ہیں۔

خرقہ درویش سے مراد سالک کی ناتمام سعی ہے یعنی وہ ایسے کریم ہیں کہ تمہاری ناتمام سعی کو
بھی خود ہی کامل کر دیتے ہیں اور تمہارے پھٹے ہوئے خرقہ کو بھی خود ہی سی دیتے ہیں اور سالکین
کے قلوب میں جلوہ گری فرماتے ہیں ورنہ ہمارے قلوب اس قابل کہاں تھے کہ حضرت حق ان میں
تجھی فرمائیں لیکن تم جس حال میں بھی اپنی طلب اور ارادہ ظاہر کرو گونا ناتمام ہی طلب کی پھر وہ اپنی
رحمت سے طلب کو بھی کامل کر دیتے ہیں۔ اور تمہارے دلوں کو بھی اپنی تجھی کے قابل بنادیتے ہیں
پھر اس میں تجھی بھی فرماتے ہیں تم کو آئینہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں وہ تم کو بلا کر آئینہ بھی خود ہی
عطاؤ کر دیتے ہیں کہ لواس کے اندر سے ہمارے جمال کا مشاہدہ کرو۔ سبحان اللہ! کیا رحمت ہے۔

بس اب تو کوئی اشکال نہیں رہا۔ اب آپ کو سعی اور طلب سے کوئی مانع ہے آپ اسکا بھی خیال نہ
کیجھے کہ آپ کی طلب کامل ہے یا ناقص تم طلب میں لگو سب کامل ہو جائیگی حدیث قدسی میں وارد ہے۔

من تقرب الى شبراً تقربت اليه ذراعاً و من تقرب الى ذراعاً
تقربت اليه باعاً ومن اتاني يمشي اتيته هرولة

(مجمع الزوائد للبيشمری: ۱۰، ۱۹۶۷ء، کنز العمال: ۹، ۱۸۰۱ء)

”جو شخص میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے میں اسکی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اسکی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ آتا ہوں اور جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے میں اسکی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔“ اس حدیث میں بالشت اور گز وغیرہ اور دوڑ کر آنا سمجھانے کیلئے ایک مثال ہے مقصود یہ کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف دوچند اور سچند توجہ کرتا ہوں۔ واقعی سچ ہے اگر حق تعالیٰ اتنی توجہ اور رحمت نہ فرمائیں تو انسان کی کیا مجال تھی جوان تک پہنچ سکے۔

آخر انسان کو خدا سے نسبت ہی کیا ہے وہ وراء الوراء ثم وراء الوراء میں اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو جو ذات اس قدر بالاتر ہواں کی معرفت اور محبت اور مشاہدہ انسان خود کیوں کر سکتا ہے پس یہ انہی کی عنایت ہے جو کچھ حصہ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہو جاتا ہے ورنہ واقعی وہ مسافت تو ایسی ہے۔ نہ گرد قطع ہرگز جادہ عشق از دویدنها کہ می بالد بخود ایں راہ چوں تاک از بریدنها عشق کا راستہ دوڑنے سے طے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ راستہ مثل انگور کے درخت کے قطع کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ غیر متناہی مسافت ہے جس کا قطع کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے لیکن وہ کیوں کر قطع ہوتی ہے۔ سنئے۔

خود بخود آں شہ ابرار ببری آید نہ بزور نہ بزاری نہ بزری آید
وہ محبوب حقیقی خود بخود اپنے کرم سے مل جاتا ہے زورو زاری اور زر سے نہیں ملتا۔ یعنی
اسباب و صل او رتد اپیر رضا اختیار کرے۔

صورت وصول الی اللہ

یعنی صورت وصول کی یہ ہوتی ہے کہ ابتداء میں تو سالک میں اور محبوب حقیقی میں غیر متناہی مسافت ہوتی ہے جس کو سالک طے نہیں کر سکتا مگر جب یہ چنان شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے ضعف پر حرم فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی مسافت اس سے قطع نہ ہوگی اب وہ خود بھی چنان شروع کرتے ہیں اور ان کو اس مسافت کا طے کرنا کچھ بھی مشکل نہیں تو وہ خود اس کے نزدیک آ جاتے ہیں اس طرح وصول ہو جاتا ہے پس حقیقت میں بندہ و اصل نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ اس کے پاس

پہنچ جاتے ہیں (مگر کیا ممکنا ہے رحمت کا کہ پھر بھی بندہ کو وصل کا خطاب دے دیا گیا۔ اس کی مثال میں نے ایک تجویز کی ہے جس سے وصول عید کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے وہ یہ کہ مثلاً آپ کا ایک شیرخوار بچہ ہو جو آپ سے دور کھڑا ہو آپ اس سے کہتے ہیں کہ دوڑ کر چلے آؤ حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی مسافت یہ طے نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کو بلاستے ہیں۔ اب بچہ رحمت کر کے ایک دو قدم چلتا ہے اور گر پڑتا ہے اور رونے لگتا ہے اس وقت باپ کو خود جوش آئے گا اور وہ دوڑ کر خود آوے گا اور اس کو گود میں اٹھائے گا تو دیکھنے یہ مسافت بعیدہ جولقاۓ سے مانع تھی کیوں کر طے ہوئی اس طرح طے ہوئی کہ بچہ تو دو قدم چل کر گر پڑا اور رونے لگا پھر باپ خود اس کے پاس آ گیا اور اس کو گلے لگایا۔

یہی صورت سلوک باطن کی ہے کہ اول تم اپنی تمام طلب اور سعی ظاہر کرتے ہو تمہاری وہ سعی ہرگز وصول کے لئے کافی نہیں تھی مگر جب تم دو قدم چل کر گر پڑتے ہو اس وقت حق تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہوتا ہے وہ خود آ کر تم کو گلے سے لگایتے ہیں مگر ہاں اس کی ضرورت بے شک ہے کہ تم بچہ کی طرح ایک دو قدم چل کر رونا تو شروع کرو۔ مولا نا فرماتے ہیں۔

ہر کجا پستی ست آب انجر و د ہر کجا مشکل جواب انجر و د
ہر کجا دردے دوا انجر و د ہر کجا رنج شفا انجر و د
جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہاں ہی جاتا ہے جہاں مشکل ہوتی ہے جواب وہاں ہی جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے دوا وہاں ہی پہنچتی ہے جہاں مرض ہوتا ہے شفاء وہاں ہی پہنچتی ہے۔

گرنہ گرید طفل کے جو شد لبِن گرنہ گرید ابر کے خندو چمن
اگر بچہ رونا نہ شروع کرے تو دودھ مان کا کب جوش میں آوے اگر بادل نہ روئے تو
چمن کب ہرا ہو۔ اور رونے اور گر پڑنے سے میری مراد یہ نہیں کہ چلانا چخنا شروع کرو۔ بلکہ
سالک کا رونا اور گرنا یہ ہے کہ اپنی عاجزی اور ناتوانی کا مشاہدہ کرے حق تعالیٰ کے سامنے
الحاچ والتجا کرے۔ تواضع اور خاکساری پیدا کرے تکبیر اور فرعونیت کو دماغ سے نکال پھینکے اس
کے بعد وصول میں دیر نہیں لگتی ذرا تم خاکساری اختیار کر کے تو دیکھو مولا نا فرماتے ہیں۔

سالہا تو سنگ بودی دلخراش آزموں را یک زمانے خاک باش
عرصہ تک تو پھر دلخراش رہا ہے کچھ دن خاک بن کر بھی آزمائے یعنی تکبیر چھوڑ کر چند روز
اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرے۔

در بہاراں کے شود سر بزر سنگ خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ
موسم بہار میں پھر کب ہر بھرا ہوتا ہے خاک ہو جاتا کہ تجھ سے اعمال صالحہ اور اخلاق
حنسہ کے رنگ برنگ پھول پیدا ہوں

خدا کی کمند

میں نے وصول الی اللہ کی مثال جو پچھے کی حالت سے بیان کی ہے اس پر ایک بادشاہ کی حکایت
یاد آئی میں نے کسی بزرگ سے یہ حکایت سنی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے بالاخانے پر بیٹھا ہوا تھا کہ پیچے
سے ایک درویش کا گزر ہوا بادشاہ نے درویش کو آواز دی کہ ذرا میرے پاس آؤ مجھے تم سے کچھ پوچھنا
ہے اس نے کہا میں تمہارے پاس کیونکر آؤں تم بالاخانے پر میں زمین پر اور محل کا دروازہ دور کیونکہ
شاہی محلات کا بڑا دروازہ وہاں سے دور تھا اور جس بالاخانے پر بادشاہ تھا وہاں بہت سے دروازے اور
درجے طے کر کے پہنچنا ہوتا تھا بادشاہ نے فوراً ایک کمند لکھا دی کہ اس کو پکڑ لو درویش نے اس کو پکڑ لیا
بادشاہ نے کھینچ لیا دو مشت میں اور پر آ گیا۔ جب وہ اور پیچھے گیا تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم خدا
تک کیوں کر پہنچے انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ جیسے تم تک پہنچا۔ خدا تک پہنچنا تو بہت مشکل تھا مگر
میں نے خدائی کمند کو مضبوط پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے خود ہی کھینچ لیا۔ سبحان اللہ! خوب ہی جواب دو۔

ای صاحبو!۔ تم بھی خدا کی کمند کو مضبوط پکڑ لیتے تو اسی طرح تم بھی ان کی جذب سے
وصل ہو جاتے مگر افسوس ہے کہ لوگ تو کمند الہی کو قطع کر رہے ہیں صاحبو! خدا کی کمند یہ ہے کہ
انبیاء میتوث ہوئے جنہوں نے مخلوق کو خدا تک پہنچا دیا۔ انبیاء کے بعد علماء حقانی و اولیائے امت
پیدا ہوئے جو ہر وقت مسلمانوں کو احکام الہی اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتاتے رہتے ہیں تغییر و
ترغیب ہو رہی ہے محبت الہی و معرفت کے فضائل و اصلاح نفس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے مگر پھر بھی
لوگوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ اور وہ اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں پھر اسی پر اکتفا
نہیں بلکہ جوان کو خدا تک پہنچانا چاہے اس پر طعن و ملامت چاروں طرف سے ہوتی ہے محض اس
لئے کہ وہ ان کو ان کا مول سے منع کرتا ہے جو وصول الی اللہ سے مانع ہیں پس یہی کمند الہی کو قطع کرنا
ہے جب تم خود نہ پہنچتا چاہو تو خدا کو کیا غرض پڑی ہے کہ جو خوشامد کر کے تم کو پہنچاوے۔

إِنَّمَا مُكْمُنُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَثِيرُهُوْنَ

شہوت کے اقسام

الغرض صبر عن الشهوت گوفی نفسہ دشوار ہے مگر جب آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے تو آسانی

شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پھر بھی دشواری نہیں رہتی ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہوت عورتوں اور لڑکوں ہی کے تعلق میں منحصر نہیں بلکہ لذیذ غذاوں کے فکر میں رہنا بھی شہوت ہے عمدہ لباس کی دھن میں رہنا بھی شہوت ہے ہر وقت با تین بگھارنے کی عادت بھی شہوت ہے اور ان سب شہوتوں سے نفس کو روکنا بھی یہ صبر عن الشہوت میں داخل ہے۔

آج کل لوگوں کو با تین بنانے کا مرض ہے بس جہاں کام سے فاغ ہوئے مجلس آرائی کر کے فضول با تین کرنے لگے میں صرف عوام کی شکایت نہیں کرتا بلکہ میں علماء مشائخ کو بھی مجلس آرائی سے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ مرض ان میں بھی بہت ہے بعض مشائخ کے یہاں عشاء کے بعد بھی مجلس آرائی ہوتی ہے جس سے خواہ مخواہ نیند بر باد ہوتی ہے اگر شیخ کے معمولات میں فرق بھی نہ آتا ہوتا ہم سب اہل مجلس یکساں نہیں ہوتے۔ ان میں سے بعض صبح کی نماز بھی غائب کر دیتے ہیں پھر یہ بھی نہ ہوتا بلا ضرورت با تین بنانا ظلمت قلب کا سبب ہے یہی بڑا کافی نقصان ہے گواور کوئی بھی نقصان نہ ہو خصوصاً اگر با تین بھی شیخ کی مدح کی ہوں جو خوشامدی مرید بناتے ہوں یہ چارے مددوح کا تواں سے ستیا ناس ہو جاتا ہے۔ مولا نافرماتے ہیں۔

تن نفس شکل ست اما خارجاء از فریب داخلان وخارجان
انست گوید نے منم ہمراز تو آنت گوید نے منم انبار تو
او چو بیند خلق راشد مست خویش از تکبر میرود از دست خویش
جسم مثل نفس کے ہے خوشامدی لوگ اس کی تحریف کر کے فریب دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہمراز ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمراز ہوں جب وہ مخلوق کو اپنی تعریف میں مست دیکھتا ہے تو تکبر کے سبب حواس باختہ اور بے وقوف ہو جاتا ہے۔

ایک جامع خلق

اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ صبر کتنا جامع خلق ہے مگر لوگ صرف اسی کو صبر سمجھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت رویانہ جاوے حالانکہ شہوت و غصب کا روکنا بھی صبر ہے اور شہوت میں شہوت رجال و نساء و شہوت لباس و شہوت طعام و شہوت کلام بھی داخل ہے اسی طرح تمام معاصی سے نفس کو روکنا یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ نیز طاعات پر پابندی کرنا بھی صبر میں داخل ہے طاعات بحالانے کے وقت ان کے حقوق و آداب کو اطمینان و سکون سے ادا کرنا بھی صبر میں داخل ہے پس

یہ ایسا جامع خلق ہے کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر داخل ہیں اسی لئے حدیث میں آیا ہے۔
الصبر نصف الايمان (کنز العمال: ۶۳۹۸)

اور یہی راز ہے کہ حق تعالیٰ نے اخلاق میں سے اس جگہ صرف صبر کو بیان فرمایا اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ اس آیت میں تمام اجزاء دین بالاجمال مذکور ہیں آگے صبر کے چند مواقع جو ہتم بالشان ہیں بیان فرماتے ہیں۔

فِي الْبَاسَاءِ وَالضُّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ یعنی وہ صبر کرتے ہیں باسًا میں اور ضراء میں اور باس کے وقت ان الفاظ کی تفسیر مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ باسے سے فقر و تنگدستی مراد ہے اور ضراء سے بیماری اور باس سے حرب لیکن عموم الفاظ پر نظر کر کے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ باسے تو فقر و تنگدستی ہی مراد ہو جس کا حاصل یہ ہو گا کہ فقر و تنگدستی میں صبر کرے یعنی خدا پر نظر کئے مخلوق کے مال و دولت پر نظر نہ رکھے۔ نہ ان سے کچھ توقع رکھئے اس میں قناعت و توکل کی تعلیم ہو گئی۔

اور ضراء سے مطلق بیماری مراد ہو خواہ ظاہری ہو یا باطنی ظاہری مرض میں تو صبر یہ ہے کہ لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھرے خدا سے دل میں تکدر نہ ہو اس میں تسلیم و رضا کی تعلیم ہو گی اور باطنی بیماریوں میں صبر یہ ہے کہ امراض قلبیہ کے مقتضاء پر عمل نہ کرے اور ہمت سے ان کا مقابلہ کرے اور ہمت کر کے عورتوں اور امردوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائے ان سے اختلاط نہ کرے بلکہ بعد اختار کرے اسی طرح بھل کا مرض ہو تو اس کے مقتضاء پر عمل نہ کرے بخلاف خدا کے راستہ میں مال خرچ کر دیا کرے۔ وعلیٰ بذراً انتہام امراض کو اسی پر قیاس کر لیا جاوے۔

اور باس سے مراد مطلق شدت و پریشانی ہو تو یہ تعمیم بعد تخصیص کے ہو جائے گی یعنی فقر و فاقہ اور امراض ظاہریہ و باطنیہ میں بھی ہمت سے کام لے اور اسی طرح جو پریشانی بھی لاحق ہو اس میں مستقل مزاج رہے جس کا ایک فرد صبر عند الحرب بھی ہے کہ جہاد کے وقت لڑائی میں ثابت قدم رہے پس اب صبر کا حاصل یہ ہوا کہ موحد کامل بن جانا چاہئے جس کی یہ شان ہوتی ہے۔

موحد چہ برپائے ریزی زرش چو فولاد ہندی نہی برسش
امید و ہر اش نباشد زکس ہمیں ست بنیاد توحید و بس
موحد کے قدموں پر اگر سونا بکھیر دویاں کی گردن پر تکوار رکھ دو وہ نہ کسی سے امید رکھتے ہیں
نہ کسی سے خوف رکھتے ہیں اور یہی توحید کی اصل بنیاد ہے جب مقام صبر کامل ہو جاتا ہے تو توحید

بھی کامل ہو جاتی ہے ان تمام اجزاء شریعت کو بیان فرمائے گے تیجے کے طور پر فرماتے ہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں اور یہی لوگ متqi ہیں۔ یہ جملہ گویا بمنزلہ مہر کے ہے کہ سارا مضمون بیان فرمائے گا اسی میں مہر لگادی کہ یہی لوگ صادق و متqi ہیں چونکہ تفصیل سابق سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس آیت میں جو اوصاف مذکور ہیں وہ تمام اجزاء دین کو جامع ہیں تو اب جملہ **أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** سے یہ مسئلہ بخوبی ثابت ہو گیا کہ صادق و متqi کامل فی الدین کو کہتے ہیں اور یہ تقویٰ و صدق کمال فی الدین کا نام ہے لہذا آیت مذکورہ میں جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ **أَتَقُوا اللَّهَ وَكُنُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ** کے یہ معنی ہیں اکملوا فی الدین و کونوا مع الکاملین یہ دعویٰ بالکل بے غبار ہو گیا اور قرآن ہی سے اس دعویٰ کی تاسیل گئی اور ظاہر ہے کہ جس تفسیر کی تاسیل قرآن کی دوسری آیتوں سے ہو جائے وہ زیادہ اولی ہے)

کامل بننے کا طریقہ

معنی آیت کے یہ ہوئے کہ اے مسلمانو! دین میں کامل ہو جاؤ۔ جس کا طریقہ یہ بھی آگے بتلاتے ہیں کہ دین میں کامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کاملین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صاحبو جو طریقہ کمال حاصل ہونے کا حق تعالیٰ نے بتایا ہے واللہ کوئی سالک کوئی محقق ہرگز نہیں بتلا سکتا۔ یہ بات کسی کی سمجھی میں آہی نہیں سکتی کہ کاملین کی معیت سے بھی کمال حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاملین کی معیت ہی معیت حصول کمال کے لئے کافی ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ یہی سمجھے ہوں مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص سالہا سال کاملین کے ساتھ رہے اور خود کچھ نہ کرے تو اس کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ اصل طریق تو کمال فی الدین حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اعمال میں کمال حاصل کرو۔ اعمال میں کمال حاصل کرنا یہ ہے کہ طاعات کو بجا لاؤ اور معاصی سے اجتناب کرو۔ چنانچہ آیت لیس البرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهُكُمْ ارخ میں انہی اعمال کو برکاتی فرمایا ہے اور ان کو بیان فرمائے گا اور صادق ہونا بتایا ہے جو ان اعمال کو اختیار کئے ہوئے ہیں جس سے اعمال پر مدار کمال ہونا بخوبی ظاہر ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اعمال میں کیسے کامل ہوں کیونکہ کمال فی الاعمال کی تحصیل میں ایک مانع پیش آتا ہے جو نفس ہے ہر عمل میں اس کا تقاضا ہوتا ہے شریعت حکم دیتی ہے کہ جائزوں میں پانچوں وقت وضو کرو نفس کی

آرام طلبی اس کی مزاحمت کرتی ہے شریعت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ سالانہ ادا کرو نفس کا تقاضا بخیل اس کی مزاحمت کرتا ہے شریعت کا حکم ہے کہ رشوت اور سودہ نفس کا تقاضا ہے حصہ اس کی مزاحمت کرتا ہے شریعت کا حکم ہے کہ لڑکوں اور نامحرم عورتوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھو تقاضا ہے شہوت اس کی مزاحمت کرتا ہے اسی طرح حکم ہے کہ فقر و تنگستی میں مخلوق کے مال پر نظر نہ کرو تقاضا ہے حصہ اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ علی ہذا القیاس جتنے احکام شریعت کے ہیں ہر عمل کے مقابلہ میں اس کے خلاف نفس کا ایک تقاضا ہے جو اس حکم کی مزاحمت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ نے دین کامل حاصل کرنے کا تو حکم کر دیا اور اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ اعمال کا جمع کرنا ہے۔

تقاضا ہے نفس کی مزاحمت

مگر اس نفس کے ان بے شمار تقاضوں کا کیا علاج ہو جو ہر حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں سو حکم تعالیٰ نے **کُوُنُواَمَ الصَّدِيقِينَ** میں اسی مانع کا مرتفع فرمایا ہے اور نفس کی اس مزاحمت ہی کا علاج بتلا یا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ طریقہ حصول کمال فی الدین کا علاج اعمال ظاہری و باطنی میں جو مزاحمت نفس کی پیش آتی ہے اس معیت صادقین یعنی کاملین میں یہ خاصیت ہے کہ وہ مزاحمت مرتفع ہو جاتی ہے یعنی نفس میں اس درجہ کا تقاضا نہیں رہتا اور جو کچھ رہتا ہے اس کی مقاومت بہل ہو جاتی ہے پس اعمال کی تکمیل سہولت سے میسر ہو جاتی ہے اور اسی طرح کمال فی الدین حاصل ہو جاتا ہے دیکھئے کتنا بہل اور آسان علاج ہے گویا دمڑی کا نسخہ اور ہزاروں کا فائدہ ہے بلکہ یوں کہئے کہ جڑی بولی کا علاج ہے جس میں وحیلہ کا بھی خرچ بھی نہیں اور اس آیت میں جو طریقہ دینی کمال حاصل کرنے کا بتلا یا گیا ہے۔ حقیقت میں وہ اصل طریقہ کمال کے مانع کا مرتفع کرنے والا ہے لیکن چونکہ وہ طریقہ بدون اس مانع کے مرتفع ہوئے دشوار تھا اس لئے اگر اسی کو طریقہ کمال کہہ دیا جاوے تو کچھ مضافات نہیں کیونکہ علت تامہ وجہ شرائط ارتقاء موانع سے مرکب ہوتی ہے اور ان دونوں میں اس کا دخل ہوتا ہے گو وجود محلول کا ان سب سے نہیں ہوتا وجود صرف جزو اخیری سے ہوتا ہے اور طریقہ تقاضا ہے نفس کی مزاحمت کو مضھل کرنے کا اس آیت میں بتلا یا گیا ہے۔ واللہ اس سے بہل علاج کوئی نہیں بتلا سکتا فن شناس لوگوں نے نفس کی اصلاح کے لئے نہ معلوم کیا کیا طریقے تجویز کر رکھے ہیں جن پر عمل کرنا ہمت والے کا کام ہے مگر یہ طریقہ تو ایسا آسان ہے کہ کسی کو بھی اس پر عمل دشوار نہیں۔ اور یہ محض قرآن کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ مشاہدہ ہے یہ بات ثابت ہے کہ کاملین کی صحبت میں یہ اثر ہے کہ ان کے پاس جا کر نفس کا تقاضا مضھل ہو جاتا ہے۔

ولایت عامہ اور خاصہ کا فرق

کاملین تو بھلا کامل ہی ہیں میں کہتا ہوں کہ عام مومنین کے مجمع میں جا کر دیکھو کہ جس وقت سب لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو بے نمازی کے دل میں بھی نماز کا تقاضا ہوتا ہے اور کیوں نہ ہوا خریہ بھی تو اولیاء اللہ ہیں کیونکہ ولایت کی دو قسمیں ہیں ایک ولایت عامہ دوسری ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اس لئے عام مومنین کی صحبت میں بھی ضرور اثر ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کیفما اتفق جمع ہو گئے ہوں چھاث چھاتھ کر بدمعاش جمع نہ کئے گئے ہوں لیکن یہ بات سن کر کوئی صاحب نازنہ کریں کہ جب عام مسلمان بھی ولی ہیں تو پھر ہم کو کسی اور ولی کی کیا ضرورت ہے ہم کیوں کسی کے پاس جائیں کیونکہ ولایت عامہ سے جو مقبولیت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے باغیوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں عام رعایا کو بادشاہ کا دوست اور فادار کہہ دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بااغی اور دشمن نہیں مگر کیا اتنی بات پر کوئی اکتفا کیا کرتا ہے اور کیا اس سے عام رعایا بادشاہ کے مقررین میں داخل ہو گئی۔ ہر گز نہیں کیونکہ رعایا میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو چوری اور بدمعاشی کرنے کی سزا میں قید خانہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں روزانہ سو بیدیں ان کی کمر پر لگائی جاتی ہیں مگر اس حالت میں بھی یہ شخص پہ نسبت بااغی کے بادشاہ کا دوست اور اس کی رعایا ضرور کہلاتا ہے جس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ بھی مراحم خروانہ سے اس کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے اور بااغی مراحم خروانہ کا اہل نہیں رہتا۔ تو ولایت عامہ یدون ولایت خاصہ کے ایسی ہے جیسے جیل خانہ کے مجرموں کو باغیوں کے مقابلے میں بادشاہ سے تعلق ہوتا ہے مگر عاقل محض اتنے تعلق پر بھی کفایت نہیں کیا کرتا وہ خاص تعلق کے لئے کوشش کیا کرتا ہے چنانچہ میں اسی کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مقاصد میں درجہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے لیکن عام مومنین کی صحبت کا اثر بیان کرنے سے میرا مقصود یہ تھا کہ جب ناقصین کی صحبت میں یہ اثر ہے تو خود سمجھ جاؤ کہ کاملین کی صحبت میں کیا اثر ہو گا۔

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشد نداخم چوں کند
وہ جرعہ جو خاک ملا ہوا ہے اس طرح تم کو مست کرتا ہے تو صاف اگر پیو گے تو تمہاری کیا
حالت ہو گی یعنی گناہوں کے نیک اعمال کے اثرات جب یہ ہیں تو چھوڑنے میں تو کیا اثر ہو گا۔
جب خاک آمیز گھونٹ میں اتنی تاثیر ہے تو صاف اور مقتدر میں تو نہ معلوم کیسی مستی ہو گی

تجربہ کر کے دیکھ لجئے کہ جس شخص کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو وہ چند دنوں ایسے لوگوں میں جا کر رہے جو رات کو اٹھتے ہیں ان شاء اللہ اس شخص کو بھی تہجد کی عادت ہو جائے گی اسی طرح جس شخص کو بھی اللہ سے مناسبت نہ ہوتی ہو وہ کچھ دنوں ذاکرین کی جماعت میں رہے بہت جلد ذکر سے مناسبت ہو جائے گی کیونکہ ذاکرین کے حلقوں میں رہ کر خود بخود اندر سے دل تقاضا کرے گا کہ میں بھی ذکر کروں گویا آج ہی سے اس کا وہ تقاضا جوڑ کر کے خلاف تھا مضمحل ہو گیا پھر جو لوگ کامل ہیں ان کی صحبت میں تو کیا کچھ نفع ہو گا۔ اس کو خود ہی سمجھ لیتا چاہئے بس اس کی صحبت کا نفع یہ ہے۔ آہن کہ بپارس آشناشد فی الحال بصورت طلاشد وہ لوہا جو پارس پتھر کے ساتھ لگ جاتا ہے فوراً سونا بن جاتا ہے یعنی برے لوگ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں وہ بھی نیک بن جاتے ہیں۔

جیسے ایک پتھر مشہور ہے جس کا نام پارس ہے اس کی یہ تاثیر سن گئی کہ لوہے کو اس سے مس کر دیا جائے تو وہ خالص سونا ہو جاوے یہ خاصیت کاملین کی صحبت میں ہوتی ہے۔

صحبت کاملین کی شرط

مگر کاملین کی صحبت کے موثر ہونے کی ایک شرط ہے اور اس کے لئے ایک پرہیز بھی ہے پرہیز تو یہ ہے کہ اعمال و افعال وغیرہ میں اس کی مخالفت نہ کرو اور شرط یہ ہے کہ اپنے حالات کی اس کو اطلاع دیتے رہو تمہارے نفس میں جو مرض بھی ہو اس سے صاف صاف کہہ دو حیانہ کرو کیونکہ طبیب اور ذاکر کے سامنے بضرورت علاج بدن مستور کا کھولنا جائز ہے اسی طرح طبیب روحانی سے نفس کے امراض بیان کر دینا جائز ہیں تو ایک مرتبہ اپنا سارا کچھ چھٹا اس کے سامنے کھول کر رکھ دو اور اس سے متذمتو کوہ ان کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے بخدا اہل اللہ کی نظر میں خود ان سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں وہ اپنے کو اتنا ذلیل سمجھتے ہیں کہ فساق و فجار بھی اپنے کو اتنا ذلیل نہیں سمجھتے اس سے بالکل مطمئن رہو پھر جب تم اپنا حال بیان کر چکو تو اس پر وہ جو کچھ بتا دیں اس کا اتباع کرو یہی طریقہ علاج ظاہری میں بھی آپ کرتے ہیں کہ پہلے اپنا حال طبیب سے ظاہر کرتے ہیں پھر وہ نئے تجویز کرتا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ پرہیز بتاتا ہے اس سے آپ نہیں ہیں یہی طریقہ حضرات کاملین کی صحبت میں اختیار کرنا چاہئے۔

بھلا اگر کوئی شخص طبیب کے پاس روزانہ محض ملاقات کے طور پر چلا جایا کرے نہ اس

سے اپنا حال کہنے نہ سننے پوچھتے تو کیا اس طرح وہ مرض شفا پاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اولیاء کی صحبت میں محض زیارت و ملاقات کی نیت سے جانا امراض باطنیہ سے شفا ہونے میں کافی نہیں گوان کی زیارت بھی موجب ثواب ہے یا الگ بات ہے مگر اس وقت محض ثواب حاصل کرنے سے گفتگو نہیں ثواب کے لئے تو اور بھی بہت سے کام ہیں یہاں تو کمال دین حاصل کرنے سے بحث ہو رہی ہے تو اولیاء کا ملین سے کمال دین اسی طرح حاصل ہو گا جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کا ہمیشہ لحاظ رکھو اور جب ان کے پاس جاؤ یا خط لکھو تو اس کا قصد کرو کہ ان کے سامنے نفس کے امراض بیان کریں گے اور جو وہ بتلا دیں گے اس پر عمل کریں گے پس اولیاء کا ملین کے پاس رہنے کی صورت میں بھی عمل کرنا آپ ہی کو پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پکھننے کرو اور کامل بن جاؤ۔

صحبت کا ملین کا اثر

مگر اتنا فرق ہو گا کہ پہلے تم عمل کا قصد کرتے تھے اور اس کے خلاف تقاضا پیدا ہوتا تھا اور ان کے پاس رہنے سے اعمال صالحہ کا تقاضا پیدا ہو گا اور دوسرا تقاضا مض محل ہو جائے گا تو یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ جس کام کا کرنا پہلے مشکل تھا آج آسان ہو گیا اور صرف آسان ہی نہیں بلکہ اس کی طرف دل کو از خود تقاضا ہونے لگا کہ اس کے بغیر تم کو چیز نہیں ملتا۔

صاحب ایہ بڑا نفع ہے اس کو کم مت سمجھو۔ کا ملین کی صحبت میں جا کر بس یہ بات پیدا ہوتی ہے جو ان سے دور رہ کر نہیں پیدا ہوتی۔ جن لوگوں کو کا ملین سے تعلق نہیں وہ بھی متغیر ہو سکتے ہیں مگر بڑی مصیبت کے ساتھ ان کو تقویٰ حاصل ہو گا اور جن کو ان سے تعلق ہے ان کو بڑی راحت اور آسانی سے تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان کی صحبت کا ادنیٰ اثر ہے کہ اعمال میں سہولت ہو جاتی ہے اس کے بعد نور فہم اور معرفت اور احوال و کیفیات کی سلامتی مقامات باطنیہ کی ترقی حاصل ہوتی ہے اس کو تو پکھا تھا نہیں۔

پس یہ مضمون اس آیت کے متعلق مجھ کو بیان کرنا تھا جس کو میں بیان کر چکا اس سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ گوئیں نے آج کوئی نیا مضمون نہیں بیان کیا مگر تحدیث بالعمدة کے طور پر کہتا ہوں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے آج خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ آپ کو بتلا دیا ہے بلکہ یوں کہئے کہ میں نے سب کو واصل کر دیا ہے۔ کیونکہ وصول کا آسان طریق بتلا دینا یہ بھی واصل کر دینا ہے اور آج میں نے ایسا آسان راستہ آپ کو بتلا دیا ہے جو شاید بھی کان میں نہ پڑا ہو گا اب بھی اگر قدم نہ اٹھا وہ اور واصل بننے کی کوشش نہ کرو تو جنت الہیہ ختم ہو چکی ہے۔

صدق کے معنی و تفسیر

اب میں اس آیت کے متعلق ایک دو باتیں مختصر طور پر بیان کر کے تقریر فتحم کرنا چاہتا ہوں ایک بات یہ جاننے کی ہے کہ اور اجمالاً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت میں صدق مراد چھپ زبان سے بچ بولنا نہیں ہے کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جس صدق کو کمال دین بتایا ہے وہ تو ہم کو حاصل ہے کیونکہ ہم بچ بولتے ہیں پس سمجھ لجئے کہ صدق کے معنی پختگی کے ہیں اور اسی سے ولی کامل کو صدق یقین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام احوال و افعال و اقوال میں مرتبہ رسوخ حاصل کر چکتا ہے۔ صدق کے معنی جو اصطلاح لغات و باغاء میں بیان کئے گئے ہیں۔ مطابقة الخير للمحكمي عنہ۔ یہ معنی اصطلاح شرعی سے خاص ہیں شریعت میں صدق عام ہے افعال کو بھی اقوال کو بھی احوال کو بھی۔

اقوال کا صدق تو یہی ہے کہ بات کی ہو یعنی واقع کے مطابق کچی بات نہ ہو جو کو واقع کے خلاف ہو جو شخص اس صفت سے موصوف ہواں کو صادق الاقوال کہتے ہیں افعال کا صدق یہ ہے کہ فعل مطابق امر ہو عکم شرعی کے خلاف نہ ہویں جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اس کو صادق الافعال کہا جاتا ہے احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں پس جو احوال خلاف سنت ہوں وہ احوال کاذبہ ہیں اور جس شخص کے احوال و کیفیت سنت کے موافق ہوتے ہوں اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں۔

نیز صدق احوال کے معنی بھی ہیں کہ وہ احوال ایسے ہوں جن کا اثر صاحب حال پر باقی رہے یہ نہ ہو کہ آج ایک حالت پیدا ہوئی پھر زائل ہو گئی اور اس کا کچھ اثر باقی نہ رہا جیسا کہ بعض لوگوں کو کسی وقت خوف کا یا تو کل کا غلبہ اپنے اور پر معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا کچھ بھی اثر نہیں رہتا اس کو صادق الاحوال نہ کہیں گے یہ مطلب نہیں کہ احوال کا غلبہ ہمیشہ رہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہمیشہ رہنا چاہئے کہ جو حالت طاری ہو وہ بعد میں مقام ہو جاوے اس میں سالکین کو بہت دھوکہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ ہم سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو تسلیم و رضا یا تو کل ورجا کا حال حاصل ہے مگر تھوڑے عرصہ کے بعد اس کا کچھ بھی اثر نہیں رہتا۔ جس سے اس حالت کا ان کو وہم ہونا ظاہر ہو جاتا ہے غرض صدق شریعت میں صرف اقوال کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور اس سمجھنے سے بہت سے اغلاط میں ابتلا ہو جاتا ہے۔

اصطلاحات شرعیہ

اسی کو امام غزالی نے لکھا ہے کہ مجملہ احداثات کے ایک یہ بھی احداث ہے کہ لوگوں نے

اصطلاحات شرعیہ کو بدل دیا ہے جیسے فقہ نام رکھا ہے کنزوہدایہ کے پڑھ لینے کا حالانکہ فقه شریعت میں محض کتاب پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک خاص فہم ہے جس سے ملکہ رانجہ پیدا ہو جاتا ہے احکام کے سمجھنے کا نیز سلف صالحین فقیہ ایسے کو کہتے تھے جس کو احکام کی فہم کے ساتھ عمل کامل بھی حاصل ہو مگر آج فقة کے لئے عمل کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اسی طرح بہت سے الفاظ شرعیہ کو شرعی اصطلاح سے بدل دیا گیا ہے مثلاً شریعت میں علم مخصوص ہے علوم نقلیہ شرعیہ کے ساتھ مگر آج کل بعض لوگوں نے اس کو عام کر دیا ہے نچری فرقہ اس مرض میں زیادہ بتتا ہے انہوں نے علم میں سائنس اور جغرافیہ کو بھی ٹھوٹ دیا ہے انگریزی زبان سمجھنے کو بھی علم میں داخل کرتے ہیں چنانچہ میں نے بعض تحریریں ایسی دیکھی ہیں جن میں علم کی فضیلت احادیث سے ثابت کر کے اس پر انگریزی تعلیم اور سائنس وغیرہ کی تحصیل کی متفرع کیا ہے وہ اپنی تحریروں میں سائنس وغیرہ کی ترغیب دیتے ہی اور استدلال کرتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالصین سے جس کا مطلب یہ لکھتا ہے کہ ان عوذ بالله احادیث نبویہ میں جس علم کی ترغیب دی گئی ہے ان میں یہ علم بھی داخل ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں جہاں علم کی فضیلت کا ذکر ہے یا اس کی ترغیب دی گئی ہے یا امر کیا گیا ہے وہاں صرف علوم نقلیہ شرعیہ مراد ہیں جن میں اصل الاصول علم فقه علم حدیث و علم قرآن ہے یہ اور بات ہے کہ ان کے مقدمات کو بحکم مقدمۃ الواجب واجب ان کے ساتھ متحق کر دیا جائے مگر سائنس و جغرافیہ تو ان علوم کے لئے مقدمات بھی نہیں ان کو کس دلیل سے علم شرعی میں داخل کیا جاتا ہے اور ان پر حدیث سے استدلال کس طرح صحیح ہو سکتا ہے یہ سخت مغالطہ ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کوالتفات ہے یہی حال اصطلاح صدق میں ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو محض اقوال کے ساتھ خاص کر لیا ہے حالانکہ شرعاً وہ افعال و احوال سب کو عام ہے خوب سمجھاو۔

تقویٰ کی فضیلت

ایک بات یہ رہ گئی کہ جب تقویٰ اور صدق دونوں کا کمال دین ہوتا ثابت ہو گیا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقویٰ کا ذکر مقدم اور صدق کو موخر کیوں کیا گیا کیونکہ آیت کا مقصود تو اس طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ یوں فرمادیتے۔

يَا يَهَا الَّذِينَ افْتَأَلُوا الصَّدْقَ وَأَكْوَنُوا مَعَ الْمُتَقْيِنِ

اسکے بھی وہی معنی ہوئے کہ ”لے مسلمانو! وین کامل حاصل کرو اور کاملین کی ساتھ رہو“ جب یہ مضمون صدق کو مقدم اور تقویٰ کو موخر کرنے سے بھی حاصل ہو سکتا تھا تو پھر تقویٰ کو مقدم کیوں کیا گیا ہے؟

یہ سوال میرے ذہن میں اسی وقت آیا ہے اس سے پہلے یہ سوال ذہن میں نہ تھا اس کا جواب بھی الحمد للہ اسی وقت ذہن میں آیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں اس سے اچھا جواب ہو وہ اس کو بیان کر دے میرے نزدیک اس میں تکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کے تنقیح سے تقویٰ کے تو درجات چند و چند معلوم ہوتے ہیں اور صدق کے درجات مختلف نہیں بلکہ اس کا ایک درجہ متعین ہے جس کی دلیل یہ آیت ہے۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَقْوَا وَآمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ أَتَقْوَا وَآمَنُوا ثُمَّ أَتَقْوَا وَأَخْسَطُوا طَوَّافَةً وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

شان نزول آیت کا یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے شراب کو مسلمانوں پر حرام کر دیا تو بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ہم میں جو لوگ تحریم سے پہلے شراب پیتے تھے مر گئے ہیں کہیں ان کو گناہ نہ ہوا ہو (یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی تو انہوں نے حرام کا ارتکاب ہی نہ کیا تھا پھر صحابہ کو ان پر گناہ کا فہم کیوں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اتنی بات تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت حرمت خمر کا نزول نہ ہوا تھا۔ لیکن ممکن ہے کہ ان کو یہ خیال ہوا ہو کہ نامعلوم اس وقت تک جو شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تو اس کا سبب یہ ہے کہ شراب اب تک واقع میں حلال تھی یا یہ سبب ہے کہ واقع میں تو وہ پہلے بھی حرام تھی لیکن چونکہ ہم لوگ اس کے عادی بہت زیادہ تھے تو دفعہ اس کی تحریم اس وجہ سے نازل نہیں کی گئی کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں گے پھر تم رجحاً جب ہمارے اندر قابلیت عمل زیادہ ہو گئی اس وقت حکم تحریم نازل ہو گیا پس صورت اول میں جن لوگوں نے تحریم سے پہلے شراب پی تھی انہوں نے حلال ارتکاب کیا لیکن دوسرا صورت میں حرام کا ارتکاب لازم آتا ہے گو بجه نص نازل نہ ہونے کے ان گناہ نہ ہوا ہو لیکن شاید ان کے درجات میں کچھ کمی اس لئے ہو گئی کہ وہ حرام فی نفسہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں)

اس شبہ کا ازالہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں پر کچھ گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو انہوں نے (اب تک) کھایا پیا ہے۔ (یعنی حکم تحریم سے پہلے شراب پیئنے میں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہوا) جب کہ وہ دوسرے گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور ایمان دار رہے ہوں اور نیک اعمال کرتے رہے ہوں۔ پھر وہ تقویٰ کرتے رہے ہوں اور ایمان دار رہے ہوں۔ اور اخلاص سے کام لیتے رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اہل اخلاص سے محبت رکھتے ہیں۔

اس جگہ اصل مقصود تو یہ بتانا تھا کہ نزول تحریم سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی ہے ان

پر اس فعل کی وجہ سے کچھ گناہ نہیں ہوا لیکن

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا

سے چونکہ بظاہر گناہ کی نفی مطلقاً ہو رہی ہے اس لئے آگے قاعدہ کلیہ کے طور پر وہ شر انٹ بھی بیان فرمادیں جن کے اجتماع کے بعد گناہ کی نفی مطلقاً صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ اگر کسی شخص نے تحریم خر سے پہلے شراب بھی پی ہوا اور نتا بھی کیا ہو تو یہ کہتا صحیح ہے کہ شراب کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوا لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوا اپس حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جب وہ لوگ دوسرے گناہوں سے بچتے رہے، وہ جن کی حرمت اس وقت نازل ہو جکی تھی نیز ان اعمال صالح کو بھی بجالاتے رہے ہوں جن کا امر اس وقت نازل ہو چکا تھا تو پھر ان کو شراب پینے کی وجہ سے کچھ گناہ نہیں ہوا۔

اب اس جگہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کا ذکر تین مرتبہ ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے جب ان کو ایک بار مومن کہہ دیا گیا اور اس کے بعد تقویٰ سے ان کو موصوف کر دیا گیا تو پھر دوبارہ آمنوا و اتقوا کے ذکر سے کیا مقصود ہے یہ ایمان کے بعد ایمان لانا اور تقویٰ کے بعد پھر تقویٰ کرنا کیسا ہے تکرار ایمان کا جواب تو یہ ہے کہ ایمان کے مختلف مراتب ہیں ایک مرتبہ ایمان کا یہ ہے کہ کفر و شرک سے توبہ کرے یہ درجہ تو ایمان کا وہ ہے جو صحبت کے لئے شرط ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ ایمان کا وہ ہے جو اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے دل میں پیوستہ اور جاگریں ہو جاتا اور اس پر ثبات استقامت حاصل ہو جانا دوبارہ لفظ آمنوا اس درجہ کی طرف اشارہ ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایمان لا کرو وہ اعمال صالح کرتے رہے اور محشرات سے بچتے رہے تو اس سے ان کو ایمان پر مداومت و استقامت حاصل ہوئی پھر اس کے بعد جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسا ہی ایمان ان سے پیدا ہوتا ہے مطلق مداومت و ثبات علی الایمان کہ اعمال صالح کے ہمیشہ بجا لانے سے ہر شخص کو حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جس شخص کے اعمال ناقص ہیں ان سے جو ایمان پیدا ہو گا وہ بھی ناقص ہو گا اور جس کے اعمال کامل ہیں ان سے کامل ایمان پیدا ہو گا۔

تیسرا مرتبہ ذکر ایمان سے اس درجہ کی طرف اشارہ ہے کہ بعد ثبات علی الایمان کے حسب اعمال ان کو ایمان میں ترقی حاصل ہوتی رہتی ہے اس کے بعد پھر ایمان کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ احسان کا ذکر فرمایا جس کے معنی شریعت میں اخلاص کے ہیں اور یہ اعلیٰ درجہ ایمان کا ہے اسی

کو صدق سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور صدق یقین بھی صاحب احسان ہی کو بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد ترقی اعمال سے درجہ احسان کا عطا ہوتا ہے اور یہی درجہ ایمان کا مطلوب ہے اور جو شخص اس درجہ میں فائز ہوتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کو کچھ عذاب اور گناہ نہیں ہوتا کیونکہ محبوب مطیع کو کوئی بھی عذاب نہیں دیا کرتا یہ جواب تو تکرار ایمان کے اشکال کا ہوا۔

تقویٰ کے درجات

اور اسی سے تکرار تقویٰ کا جواب بھی نکل آیا وہ یہ کہ تقویٰ کے بھی مدارج مختلف ہیں ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ کفر و شرک سے نچے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو ترک نہ کرے اور محرمات کا ارتکاب نہ کرے پھر جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تقویٰ پیدا ہوتا رہے اور اس تقویٰ کے کمال سے ایمان بھی کامل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ درجہ احسان جو کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے وہی تقویٰ کا بھی اعلیٰ درجہ ہے اور یہی درجہ مطلوب ہے پس اس آیت سے تقویٰ کے مراتب چند و چند ہونا معلوم ہو گیا اور صدق میں ایسے مدارج کی کوئی ولیم نہیں اور آیت بر میں اولِ نکَ اللَّٰهُمَّ صَلِّ فُوادًا لَّهُ صَدْقَةٌ کے صدق کے خاص ہونے پر انتہائی درجہ کے ساتھ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ صدق کے درجات مختلف نہیں بلکہ اس کا ایک درجہ متعین ہے جس کو میں نے ابھی بتلایا ہے کہ احسان ہی کا دوسرا نام شریعت میں صدق و اخلاص ہے جب یہ بات سمجھے میں آگئی تو اب تم جھوک اگر حق تعالیٰ اس طرح فرماتے یا یہاں الدین آمنوا صدقوا و کونو امع المتقین ۵ تو سامعین کے دل پر ایک پھر سارکھا جاتا تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم کو اول ہی دن میں کامل بن جانے کا حکم دیا گیا حالانکہ شروع ہی سے کامل بننا و شوار ہے اس لئے اول صدق کو بیان نہیں فرمایا بلکہ تقویٰ کا ذکر مقدم کیا کیونکہ اس کے درجات مختلف ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے گا کہ اول ہی دن میں کامل بننے کا حکم ہے بلکہ سامعین سمجھ لیں گے کہ تقویٰ کے درجات بہت ہیں مطلب یہ ہے کہ تدریجی کیے بعد دیگرے تقویٰ کے تمام درجات حاصل کرتے رہو یہاں تک کہ تم درجہ صدق میں پہنچ کر صادقین اور کاملین کے ساتھ مل جاؤ گے جس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ظاہر میں ان کی صحبت اختیار کرو پھر باطنًا بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔

درجات تقویٰ کا مختلف ہونا آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے شان نزول سے بھی واضح ہو جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اول فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِلَهُ کا نزول ہوا تھا صحابہ اس سے ڈر گئے کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ آج ہی سے حق تقویٰ لازم ہو گیا۔ حالانکہ شروع ہی سے حق تقویٰ کا حصول و شوار ہے۔

حق تقویٰ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جیسا تقویٰ خدا کی شان کے لائق ہے وہ اختیار کرو اتئو اللہ حق تقویٰ میں یہ مراد نہیں کیونکہ یہ تو بشر کی طاقت سے خارج ہے اور اس کی تکلیف تکلیف مالا بی طاق ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان کی وسعت کے مطابق جو تقویٰ خدا کی شان کے لائق ہے اس کو بجا لاؤ آیت میں یہی معنی مراد ہیں اور گویہ تقویٰ طاقت سے خارج نہیں کیونکہ اس کا مکلف کیا جانا دلیل ہے اس کے تحت الاختیار ہونے کی لیکن ابتداء ہی سے انسان کا اس درجہ میں پہنچ جانا دشوار ضرور ہے گو منع نہیں۔ صحابہؓ کے خوف کا سبب تھا پس وہ اس لئے خالف ہوئے کہ یہ درجہ گو اختیار سے باہر نہیں مگر عادۃ پہلے ہی دن اس کا حاصل ہو جانا دشوار ہے اور وہ صیغہ امر فاتحہ اللہ سے یہ سمجھے کہ ہم کو اس وقت اس درجہ کی تحصیل کا امر ہو رہا ہے نہ اس لئے کہ صیغہ امر فور کو مقتضی ہے بلکہ اس لئے کہ محاورات میں بسا اوقات امر فور کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے اور صحابہؓ کی نظر ہمیشہ اسی جانب جاتی تھی جس میں احتیاط ہوا س لئے انہوں نے امر فور پر معمول کیا۔

اگر یہ خطاب ہم لوگوں کو ہوتا تو ہم کو کچھ بھی اندر یہ شہنشہ نہ ہوتا کیونکہ ہم تاویل کر لیتے کہ امر فور کو مقتضی تھوڑا ہی ہے پس حق تقویٰ کا امر اسی وقت دفعہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مدرسہ حاصل کرتے رہنا یہ مطلب صحابہؓ کے ذہن میں بھی ضرور آیا ہو گا مگر انہوں نے غایت خشیت و احتیاط کی وجہ سے اس کو فور پر محمول کیا کیونکہ احتمال تو یہ بھی تھا چنانچہ محاورات میں کثرت سے امر کا استعمال فور کے لئے ہوتا ہے جس کا پتہ قرینہ مقام سے چل جاتا ہے۔

آپ اگر اپنے نوکر سے پانی مانگیں اور وہ اگلے دن لا کر پلاوے تو کیا آپ خفانہ ہوں گے ضرور خفا ہوں گے اور اس کے جواب میں نوکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے تو اتنا فرمایا تھا کہ پانی لا او یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ ابھی لا او کیونکہ قرینہ مقام سے اس امر کا فور کے لئے ہونا متین ہو چکا تھا اور اسی طرح اکثر صیغہ امر کا استعمال فور ہی میں ہوتا ہے گوئی عدم فور کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

حکایت لطیفہ

اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہمارے ہاں ایک حافظ صاحب تھے جن کا لقب حافظ جنازہ تھا وہ ایک گاؤں میں مسجد کے امام تھے وہاں کوئی مر گیا تو لوگ اس کا جنازہ مسجد میں لائے اور حافظ جی سے کہا اس کی نماز پڑھ دو تو آپ نے یہ عذر کیا کہ مجھے اس وقت ایک دعا میں شبہ ہے کہ اس کو یاد کر لوں پھر پڑھاوں گا لوگ جنازہ لے گئے اور کسی دوسرے سے نماز پڑھوا کر فون کر دیا اگلے دن حافظ جنازہ صاحب

نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی مجھے اب دعا یاد ہو گئی ہے لاؤ اب جنازہ لے آؤ گے ہنسنے لگے کہ بس جان اللہ! آپ کی دعا کے بھروساب تک ہم اس کا اچارڈا لے رکھتے ہم نے تو اس کو فتنہ بھی کر دیا۔

تو وہ میکھنے فوراً عدم فرق نہ کرنے سے لوگوں نے ان کو بے وقوف بنایا یہاں تک کہ ان کا القب ساری عمر کے لئے حافظ جنازہ ہی پڑ گیا تو صحابہؓ نے اس آیت کو معنی فوراً صححا اور پھر یہ خوف پیدا ہوا کہ حق تقویٰ کا آج ہی حاصل کرنا بڑا دشوار ہے پھر اس حکم کی تعمیل کیوں کر ہو۔ اس پر دوسری آیت نازل ہوئی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطِعْتُمْ۔ ترجمہ یعنی یہ مطلب نہیں کہ حق تقویٰ آج ہی حاصل کرلو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنا تقویٰ تم سے اس وقت ہو سکتا ہے اس وقت تو اس کو اختیار کرلو پھر ترقی کرتے رہو یہاں تک کہ حق تقویٰ حاصل ہو جاوے۔

نحو کے معنی

اس تقریر پر شاید طلبہ کو یہ اشکال ہو کہ تمہاری تقریر سے اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْبِهِ کا مامور بہ ہوتا معلوم ہوتا ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطِعْتُمْ نازل ہوئی اور اس سے پہلی آیت اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْبِهِ کو مفسون کر دیا۔

سو طلباء کو سمجھ لینا چاہئے کہ سلف کی اصطلاح میں نحو کے معنی یہاں تبدیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہاں تفسیر وغیرہ پر بھی نحو کا اطلاق کر دیتے ہیں قاضی شاعر اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں اس پر تنبیہ کی ہے واقعی بہت لطیف بات ہے خداونکو جزا خیر دے پس حدیث میں جو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطِعْتُمْ و نحو کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کی تفسیر کروی بیان تفسیر کو نحو سے تعبیر کیا گیا ورنہ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْبِهِ کے جو معنی میں نے بیان کئے ہیں وہ ہرگز قابل تبدیل و نحو نہیں ہیں۔

ایک اور بات طلبہ کو یہ بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطِعْتُمْ میں استطاعت باعتبار کیت کے مراد نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ جتنے اعمال بجالا سکو اور جتنے محramات سے نفع سکو بس انہی کے تم مکلف ہو یہ معنی بالکل غلط ہیں کیونکہ تمام واجبات و فرائض کا بجالانا اور تمام محramات سے بچنا ہر شخص پر ہر وقت واجب ہے اور سب لوگ اس وقت ان کے مکلف ہیں اور ان میں سے کوئی کام بھی استطاعت سے باہر نہیں اس لئے کیت کے اعتبار سے ما اسْتَطَعْتُمْ کی قید کا لغو ہونا لازم آئے گا بلکہ یہ قید کیفیت کے اعتبار سے ہے یعنی اعمال شرعیہ میں جس کیفیت کا تقویٰ تم اس وقت حاصل کر سکو اسکو وا بھی بجالا اور باقی کیفیات کے حصول کی کوشش کرتے

رہو پس اس سے تقویٰ کے درجات کا کیفیت کے اعتبار سے متضاد تو ہونا معلوم ہوتا ہے نہ کیتے کے اعتبار سے خوب سمجھ لو۔ اب یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ اس آیت میں صدق کا مoxر کرنا اور تقویٰ کا مقدم کرنا ہی مناسب تھا کہ اس سے سامعین کی طبیعت پر بوجھ نہیں ہوا بلکہ ہمت بلند ہو گئی کہ ہم کو مرید تقویٰ کے مراتب حاصل کر کے کمال تقویٰ تک پہنچنا چاہئے۔

بس اب میں بیان کو ختم کرتا ہوں خلاصہ یہ ہوا کہ کمال دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال کو کامل کیا جائے فرائض و واجبات کے بجالانے میں کوتا ہی نہ ہو محمرات کا ارتکاب نہ ہو اور اعمال کے کامل کرنے میں جنفس کی مزاحمت مانع ہوتی ہے اس کا علاج کاملین کی صحبت اختیار کرنا ہے ان کے پاس جانا چاہئے اور جانہ سکے تو ان سے خط و کتابت کا تعلق رکھے جس میں فضول قصے نہ لکھیں بلکہ اپنے کومریض اور ان کو طبیب سمجھ کر اپنے حالات سے ان کو اطلاع کرتے رہیں پھر اس کے بعد جو کچھ وہ بتلوادیں اس پر عمل کریں اور ان کے احکام کا اتباع کریں بس یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا جس سے آسان راستہ کوئی نہیں بتلا سکتا جست ختم ہو چکی ہے اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ شانہ ہم کو فہم سلیم اور عمل مستقیم عطا فرمادیں۔

ضَرُورَةُ الْإِعْتَنَاءِ بِالدِّينِ

اس وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا ہے یعنی قلت اہتمام دین۔ یہ وہ مرض ہے کہ اس کی بدولت آج ہم مسلمان کھلانے کے قابل نہیں رہے اور اس کی بدولت اکثر حصہ دین کا ہم سے نکل گیا ہے۔ نہ عقائد کی پروانہ اعمال کی فکر نہ حسن معاشرت کا خیال نہ بد اخلاقی پر نجاح اب آپ خود ہی خیال کریں کہ ہماری حالت اسلام کے کس قدر قریب ہے اور اس کے کتنی مناسب!

ضرورت اہتمام دین کے متعلق یہ وعظ ۳ ذی قعده ۱۳۲۹ھ کو مدرسہ احیاء العلوم الہ آباد میں قریباً ۱۰۰۰ کے مجمع میں ہوا جو بیٹھ کر بیان فرمایا اور قریباً اڑھائی گھنٹوں میں ختم ہوا۔ اسے مولانا سعید احمد صاحب تھانوی نے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

اما بعد! اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقد قال الله تبارك وتعالي ربنا وابعث لهم رسولا منهم يتلو عليهم ايشك
ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم ط انك انت العزيز الحكيم (البقرة آية ۱۷۹)
ترجمہ: اے ہمارے پروگار اور اس جماعت کے اندر ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو
ان لوگوں کو آپکی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور انکو (آسمانی) کتاب کی اور خوش فہمی کی
تعلیم دیا کریں اور انکو پاک کر دیں بلاشبہ آپ ہی غالب القدرات کامل الانتظام ہیں۔

اصلی نفع و دینی نفع ہے

یہ ایک آیت ہے جس کے نظائر قرآن میں اور بھی ہیں یعنی دوسرے مقامات پر بھی یہ
مضمون قرآن میں آیا ہے اس مقام پر یہ مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل
علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنائے کعبہ کے وقت جو دعا میں ان دونوں صاحبوں نے کی ہیں
ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ جس کا نفع ان کی اولاد کو پہنچا ان حضرات نے اول اپنے لئے دعا
کی اس کے بعد اپنی اولاد کے لئے دعا کی متحملہ دعا للاولاد کے یہ بھی ہے۔

حاصل اس دعا کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اپنی اولاد کو
ایک دینی نفع پہنچایا۔ اس دعا کے طرز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امر اصلی قبل التفات نفع

دینی ہے اور نفع دینیوی اس کے تابع اور اس کے ساتھ ملتی ہے۔ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق لیتا چاہئے کہ انہوں نے جہاں اپنی اولاد کے لئے نفع دینیوی کی دعا کی کہ۔

وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وہاں اس دینی نفع کی بھی دعا کی کہ ربنا وابعث۔ اخ تو نفع دینیوی کے لئے دعا کرنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ضروری ہے اور ظاہر بھی ہے کہ اگر دنیا کا نفع نہ ہو تو دنیا میں بہت کم طبعتیں ایسی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے رزق کی وسعت کے ساتھ اپنی صحت کے لئے بھی خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا کہ بہت لا غر ہو رہے ہیں تو حضور نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دعا تو نہیں کر لی۔ کہنے لگے کہ ہاں دعاتو کی تھی آپ نے فرمایا کیا دعا کی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ دعا کی تھی کہ جو کچھ عذاب ہوتا ہو دنیا ہی میں ہو جاوے آپ نے ان کو متذہب فرمایا تو یہ غلطی کی بات ہے کیونکہ انسان ضعیف ہے اور احتیاج اس کے خیروں میں ہے۔

ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے لئے دس روپے کا انتظام کرو کیونکہ مجھے سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کا تذکرہ کرنے لگے فقیری کا دم بھرنے کہنے لگے کہ جنت کی کیا پرواہ ہے اور دوزخ کا کیا ذرہ ہے۔ میں نے کہا میاں میٹھوتم سے دس روپے سے تو صبر ہونیں رکا جنت سے کیا صبر کر سکو گے۔ اگر ایسے مستغنى تھے تو دس روپے ہی سے صبر کر لیا ہوتا۔ تو واقعی ایسا انسان محتاج ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی اس کو ضرورت ہے اور آخرت کا دنیا سے زیادہ محتاج ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دنیا کے لئے دعا کی تھی ایسے ہی آخرت کے لئے بھی دعا کی تو گویا ہم کو سبق سکھلاتے ہیں۔

اور اولاد عام ہے۔ خواہ اولاد حقیقی ہو یا نہ ہی۔ بلکہ اولاد حقیقی بھی جب ہی اولاد ہوتی ہے کہ اتباع کرے۔ چنانچہ ارشاد ہے من سلک علی طریقی فہو الی۔ کو بعض لوگوں نے من سلک طریقی کو عام لیا ہے کہ جو شخص بھی قبیع ہو وہ آل میں داخل ہے۔ خواہ نسبتاً آل ہو یا نہ ہو مگر میرے خیال میں اتنا عام نہیں ہے بلکہ صرف آل کو عام ہے پس مطلب یہ ہے کہ اولاد نہیں میں معتقد آل وہ ہے کہ اتباع کرے۔ یعنی شرف تو صرف اولاد ہونے سے بھی ہو گا لیکن پورا شرف اسی وقت ہو گا کہ جب اتباع ہو تو من سلک آل ہی کے لئے ہے مگر آل ہی میں ایک قید معتبر ہے کہ

معتقد بدرجہ میں شرف اسی وقت ہو گا۔ بہر حال انبیاء کی اولاد بھی وہی مقبول ہے کہ جو متابعت رکھتی ہو ورنہ ایسا ہے جیسے غلط لکھا ہوا قرآن کر اس کا نادب ہے نہ بے ادبی۔ ادب تو اس لئے نہیں کہ وہ صحیح قرآن نہیں ہے اور بے ادبی اس لئے نہیں کی جائے گی کہ کچھ تو قرآن کے اجزاء ہیں۔

تو انبیاء کی زیادہ نظر اس پر ہے کہ دین کا نفع ہو۔ اور آں ہو تو ایسی ہو کہ وہ ان کے قدم بقدم چلے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لئے یہ دعا کی اور اس سے گویا ہم کو یہ سبق سکھایا کہ اپنی اولاد کے لئے دنیا سے زیادہ اہتمام دین کا کرنا چاہئے۔

اولاد کی دینی تربیت

اب ہم کو سبق لیتا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ ہم کہاں تک اپنی اولاد کے حق میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے لیکن یہ ضرور ہے کہ زیادہ توجہ محض دنیا پر ہے اس کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اولاد چار پیسے کمانے کے قابل ہو جاوے اور جب اس قابل بنادیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق واجب ادا کر چکے آگے اپنی اصلاح یہ خود کر لیں گے اور وجہ اس کی زیادہ تری یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دین کی وقت بالکل نکل گئی ہے اس لئے ہم تین دنیا پر جھک پڑے ہیں۔

اگر کسی کو یہ شب ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ضرورتوں کی خبر نہ ہوئی اس لئے انکو دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو عقل اور نقل دونوں اس شب کی تکذیب کر رہے ہیں نقل تو یہی سابق دعا جو اپنی اولاد کیلئے نہ ہوں نے فرمائی وَإِذْرُّقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرَتِ اور عقل اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق سبحانہ و تعالیٰ کے نائب ہیں اور جیسے حق سبحانہ و تعالیٰ معاش اور معاد دونوں کی تربیت فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے نائب بھی دونوں کی تربیت فرماتے ہیں کیونکہ ان حضرات کو اصلاح کیلئے بھیجا جاتا ہے۔

معاش اور معاد کی اصلاح

اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ معاش اور معاد دونوں کی اصلاح نہ کی جاوے۔ نیز تاریخ اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو عقل معاش بھی کامل ہوتی ہے مگر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں عقل معاش ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ نوکریوں اور صنعتوں کے طریقے بتلوائیں۔ لوگ یہی سمجھ کر بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے بے خبر ہیں باوجود یہ کہ دنیا کی ضرورت یقینی ہے مگر یہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے

صاحب! یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی ضرورت ہے لیکن اول یہ غور کیجئے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں دوسرے معاش کے طریقے بتانا اور اس پر ترغیب دینا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔

دیکھو! حکیم عبدالجید اپنے فن کے ماہر تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ امراض کی تشخیص کریں۔ اب فرض کرو کہ ایک مریض ان کے پاس آیا۔ حکیم صاحب نے نفس دیکھ کر تپ دق تجویز کی اور اس کے لئے نسخہ لکھ دیا۔ جب وہ نسخہ کر چلا تو راستے میں ایک موچی ملا اور اس مریض کی کیفیت دریافت کی اس نے کہا کہ حکیم صاحب نے تپ کہنے تجویز کیا ہے کہنہ لگا کہ حکیم صاحب نے جوتے کے متعلق کچھ کہا اس نے کہا کہ جوتے کے متعلق تو کچھ نہیں کہا کہنے لگا وہ حکیم نہیں ہیں ان کو اتنی ضرورت کی تو اطلاع نہیں۔ یہ نہ دیکھا کہ ایک شخص جوتے لئے بیٹھا ہے اور یہ نگھیر ہے آخراں کو جوتا پہننا چاہئے یا نہیں۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ اس موچی کی نسبت آپ کیا فتویٰ دیں گے۔ کیا اس کو عقلاء میں شمار کیا جاوے گا۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ پاگل کہا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ اس نے طبابت کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور اس کے فرالغ منصبی پر اس کو اطلاع نہیں البتہ حکیم پر اس وقت الزام تھا کہ وہ نسخہ کے اندر بلا وجہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جوتا نہ پہننا اور جب کہ وہ اس سے سکوت کرتے ہیں تو ان پر کوئی الزام نہیں۔ وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کر چکے۔

تو علماء پر دنیا کی ترغیب نہ دینے کا الزام اس وقت ہو سکتا ہے جب ان کا فرض منصبی ترغیب دینا ہوتا وہ دنیا حاصل کرنے اور ادھر متوجہ ہونے سے روکتے اور اگر کہنے کہ علماء تو روکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ روکنا بلا وجہ نہیں۔ اس روکنے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے حکیم عبدالجید کسی کو دیکھیں کہ اس نے اس طرح جو تی سلوانی کر ٹانکے کحال کے اندر سے نکالے گئے ہیں تو وہ اس طرح سے جوتا سلوانے کو ضرور روکیں گے کہ زخم کی سمیت تمام بدن میں دوز جانے کا احتمال ہے آپ لوگ بھی دنیا کی جوتیاں اس طرح سلوار ہے ہیں کہ آپ کا دین بر باد ہو رہا ہے۔ لہذا اب ان پر فرض ہے کہ وہ آپ کو منع کریں تو یہ منع کرنا بے وجہ نہ ہوا۔

اگر یہ نہ کہتا تو اپنے چاہ سے اگر خاموش پنشیم گناہ ست اگر ناپینا کے سامنے کنوں دیکھ کر بیٹھ رہوں تو گناہ ہے۔

غرض علماء کی نسبت یہ تجویز کرنا کہ وہ دنیا کی ترغیب دیں غلط ہے اور منع اس کا یہ ہے کہ سلف کو اپنی طرح معاش و معاد کا جامع سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ غلطی ہے بتائیے کسی نبی نے کسی

ریفارمر نے کہیں دنیا کے حاصل کرنے کے طریقے لکھے ہیں؟ ایک جگہ بھی نہیں البتہ اخلاق اعمال معاشرت پر گفتگو کی ہے یہ کسی نہیں بتایا کہ یوں ہل چلتا ہے اور اس طرح بویا جاتا ہے۔ انبیاء اور سلف کا یہ کام نہ تھا ہاں معاش کا وہ حصہ جو مضر معاو ہوا س کو بتلا کر منع فرمادیا ہے اور اس میں گفتگو کرنا ایسا ہے جیسے طبیب کسی مرض کو گوشت کھانے سے منع کرے تو حکیم کا کام بحالت ضرر منع کرتا ہے لیکن گوشت کے پکانے کا طریقہ بتانا یہ حکیم کا کام نہیں پس معاش کے متعلق انبیاء کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ نافع کو مجملًا بتلا دیا اور مضر کو منع کر دیا۔ غرض انبیاء علیہم السلام نے اپنی اولاد کے لئے اس کی رعایت کی ہے کہ دینی نفع ان کو زیادہ پہنچ اور دنیاوی نفع کے واسطے جو رعایت رکھی ہے اس سے ان حضرات کا مذاق معلوم ہوتا ہے۔

قلت اهتمام دین ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔

مَنْ أَمْنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ (ان میں سے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے) اے اللہ! میرے اہل بلد کو هر ادا دے مگر سب کو نہیں بلکہ اہل ایمان کو تو فرمانبرداری اولاد کے لئے دعا کی۔ اس سے اندازہ تجھے کہ ان کی نظر میں دین کس قدر عزیز ہے کہ با غی کے لئے دعا بھی گوار نہیں اگرچہ خدا تعالیٰ نے تخصیص نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ و من سخرا فامتعه قلیلا۔ یعنی کچھ دنوں کے لئے دنیا میں کفار کو بھی عیش دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام فرمایا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوجہ کفار کے با غی ہونے کے ان کے لئے دعا نہیں فرمائی۔ اس سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے مذاق کا پتہ چلتا ہے کہی اللہ کا ذوق ہے اور ہونا چاہئے با غیوں پر کچھ حرم نہ کریں نہ ان کے لئے دعا کریں اور خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقش فرمایا کہ چونکہ کفار کے لئے دعا کرنے کا حکم نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذوق مقبول ہے تو یہی مذاق ہونا چاہئے کہ مطیعین کے لئے دعا کریں اور با غیوں کو خدا کے پروردگریں۔ خیر یہ جملہ معتبر فہرست تھا۔

مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس کا مضمون قابل غور ہے اور اس وقت اس کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا چونکہ ہم میں اس وقت ایک بہت بڑا مرض ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے وہی اصلی مرض پیدا ہو گیا ہے یعنی قلت اهتمام دین۔ اور یہ وہ مرض ہے کہ اس کی بدولت آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے اس کی بدولت اکثر حصہ دین کا ہم سے نکل گیا دیکھو مالدار وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس کافی سے بھی کچھ زیادہ مال ہوا اور جس کے پاس دوچار پیسے ہوں وہ مالدار نہیں کہلاتا اور نہ چاہئے کہ ساری دنیا مالدار کہلانے لگے

حالانکہ ایسا نہیں بلکہ و فسمیں کہی جاتی ہیں ایک غریب ایک امیر تو جیسے مالدار وہ شخص ہے جس کے پاس وافر و پسیہ ہوا سی طرح ایمان دار بھی وہی ہے جو عقائد اور اعمال وغیرہ میں پوری طرح شریعت کا تبع ہوا اور یہ ایمان کچھ ایمان نہیں ہے جس کو اکثر لوگوں نے۔

من قال لا الا الله دخل الجنة (الترغیب والتربیہ ۳۲۲: ۷ حلیۃ الاولیاء لابی نعیم ۷: ۱۷۳)

جس نے کلمہ لا الا الله پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا۔

سے سمجھ رکھا ہے اگرچہ یہ کلمہ واقع میں صحیح ہے لیکن اس وقت اس کو پیش کر کے جو مقصود ثابت کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے کلمہ حق ارید بہ الباطل کہا جاسکتا ہو تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اعمال کو ناقابل شمار سمجھتے ہیں دوسرے یہ کہ خود ایمان کے کلمہ میں بھی اختصار کیا ہے یعنی اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محمد رسول اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں (نعوذ بالله) میں نے خود یہ تقریر یہیں چھپی ہوئی دیکھی ہیں کہ رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

مجھ سے ایک سفر میں اس کے متعلق ایک صاحب نے دریافت کیا کہ وہ بھی اس مرض میں بتلا تھے میں نے کہا آپ یہ بتلائیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہیں پڑھتا ہوں تو اس یہیں پڑھنے کے کیا معنی ہیں آیا یہ کہ صرف یہ کلمہ پڑھتا ہوں یہیں یا یہ کہ ساری سوت پڑھتا ہوں کہنے لگے کہ یہیں پڑھنے کے معنی تو ساری سوت پڑھنے کے ہیں میں نے کہا کہ اسی طرح لا الا الله پڑھنے کے معنی سارے پڑھنے کے ہیں دلالت کیلئے صرف جز کا اطلاق کافی ہے دوسرے جز پر بعجه ملازمت خود دلالت ہو جائیگی۔

ان لوگوں کے لا الا الله پڑھنے کے معنی سمجھنے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ریاست رام پور سے ایک طالب علم نے میرے پاس خط بھیجا کہ مجھ کو فلاں تردہ ہے اس کے لئے کوئی دعا بتلا دیجئے میں نے لکھا کہ لا حول پڑھا کرو چند روز کے بعد وہ مجھ سے ملے اور پھر شکایت کی میں نے پوچھا اس سے قبل میں نے کیا بتلایا تھا کہنے لگے کہ لا حoul پڑھنے کو بتلایا تھا سو میں پڑھتا ہوں اتفاقاً میں نے یہ سوال کیا کہ کس طرح پڑھا کرتے ہو کہنے لگا یوں کہا کرتا ہوں لا حoul لا حoul وہلم جرا۔

تو جیسے یہ بزرگ لا حoul پڑھنے کے یہ معنی سمجھے کہ صرف لفظ لا حoul کو پڑھ لیا جائے حالانکہ لا حoul اس پورے کلمے کا لقب ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی لا الا الله سے صرف یہی جملہ سمجھا حالانکہ لا الا الله سے وہی مراد ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہو۔ لہذا اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ نیز دوسرے دلائل پر بھی تو نظر ہونی چاہئے۔ مشکلہ میں

کتاب الائیمان کی پہلی حدیث میں ہے شہادۃ ان لا اللہ الا اللہ و ان محمدًا رسول اللہ۔ تو اس انہاک فی الدنیا کے سبب سے اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں پس اس کا علاج یہ ہے کہ دین کی طرف توجہ کریں اور علوم دینیہ حاصل کریں۔

انکار رسالت کا نتیجہ

اسی خیال کے ایک اور صاحب مجھے ملے کہنے لگے کہ رسالت کے اقرار کی ضرورت نہیں ہے صرف توحید کا اقرار نجات کے لئے کافی ہے میں نے کہا اول تو دلائل عقلیہ و نقلیہ جو رسالت کے ضروری ہونے پر قائم ہیں وہ تمہاری مکذب ہیں دوسرا رسالت کا انکار کرنے سے خدا تعالیٰ کی خدائی کا بھی انکار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے ماننے کے معنی نہیں کہ ان کو صرف موجود مان لیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ ان کو کمال ذات و صفات میں یکتا سمجھے کیونکہ یہ مسئلہ اجماعیہ ہے کہ اگر ذات کا قائل ہو لیکن صفات کا قائل نہ ہو تو وہ کافر ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص بادشاہ کو بادشاہ تو مانے لیکن اس کے اختیارات شاہی نہ مانے تو کیا ایسے شخص کی نسبت یہ کہا جاوے گا کہ اس نے بادشاہ کو مانا۔ بھی نہیں تو خدا تعالیٰ کے ماننے اور توحید کے مقرر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہر صفت کمال کے ساتھ علی وجہ الکمال الاصاف سمجھے کہنے لگے کہ بے شک یہ تو ضروری ہے میں نے کہا کہ صفات کمال میں سے ایک صفت صدق بھی ہے اس کے ساتھ بھی متصف ماننا ضروری ہو گا کہنے لگے کہ ہاں ضروری ہو گا میں نے کہا کہ قرآن شریف میں موجود ہے محمد رسول اللہ پس اس کا ماننا ضروری ہوا اور جو اس کو نہ مانے گا وہ موحد بھی نہ ہو گا کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے صدق کو نہ مانا جس کا ماننا ضروری تھا اور میں نے کہا کہ وہ برس کی مہلت جواب کے لئے دیتا ہوں۔ یہ توقعائد میں اختصار تھا جس کی مثالیں آپ نے سن لیں۔

اعمال میں اختصار کا اثر

اسی طرح اعمال میں بھی اختصار کر لیا ہے کہ بعض تو اعمال کی فرضیت ہی کے منکر ہو گئے اور بعض منکر تو نہیں مگر عملاً مثل منکرین کے ہیں تو ان دونوں قسم کے لوگوں کی غلطی قرآن کی آیات سے ثابت ہوتی ہے۔

رہمن قال لا اللہ الا اللہ دخل الجنة

سواس کے معنی کے لئے ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے نکاح کرے تو نکاح میں محض ایجاد و قبول دولفظ ہوتے ہیں پس اگر اس ایجاد و قبول کے بعد

یہوی اپنے خوردنوش کے لئے طلب کرے اور شوہر کہے کہ میں نے ان چیزوں کا دینا قبول نہیں کیا تھا تو وہ اس کا کیا جواب دے گی ظاہر ہے کہ یہ جواب دے گی کہ اگر چشم نے ہر ہر چیز کو علیحدہ قبول نہیں کیا لیکن میرا قبول کرنا ان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے۔

اب میں ان معترضین سے پوچھتا ہوں اگر آپ بھی اس مجلس گفتگو میں موجود ہوں تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ یہ ایک قبول ہی سب کا قائم مقام ہے توجہب لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو سارے عقائد اور اعمال کا ذمہ لے لیا۔ تو اس حدیث کا یہ مدلول ہے۔ اب چاہے ایمان کا جزو اعمال کہا جاوے یا اس سے خارج مگر لازم لیکن ایمان میں اختصار خت غلطی ہے۔ ایمان جب ہی کہلانے لگا کہ جب اس کی شان پائی جائے۔ ہم لوگ مسلم کہلاتے ہیں مگر غور کرنے کے قابل یہ ہے کہ ہماری حالت اسلام سے کس قدر قریب ہے اور اس کے کتنی مناسب ہے جیسے میں نے مثال دی ہے کہ مالدار اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس ہر قسم کا سامان ضرورت سے زیادہ ہو۔ یہی حالت اسلام کی ہے تو ہم کو اپنی حالت دیکھنی چاہئے کہ کس قدر بے اختیال ہو گئی ہے کہ نہ عقائد کی پروانہ اعمال کی فکر نہ حسن معاشرت کا خیال نہ بدائلاتی پر بنے۔

یہ حالت موجودہ دیکھ کر اس وقت یہ آیت تلاوت کی گئی ہے اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو نقل کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مدت سے تجویز شدہ بھی ہے اگرچہ اس کی ضرورت نہ تھی لیکن اس وقت مذاق کچھ ایسا بدل گیا ہے کہ اپنی شریعت میں خواہ کسی امر کی کتنی بھی تحسین کی گئی ہو لیکن اس وقت تک اس کو نہیں مانا جاتا جب تک کہ گذشتہ تاریخ میں بھی اس کی کوئی نظریہ نہ ہوا۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کر دیا۔ سو دیکھ لیجئے کہ دعائے ابراہیمی میں کن کن اجزاء ایمان کو ضروری کہا گیا ہے۔

دعائے ابراہیمی کی شرح

فرماتے ہیں کہ اے اللہ! ہماری اولاد میں ایک رسول بھیجیے جن کی یہ صفت ہو کہ ان لوگوں کو آپ کے احکام سناؤیں اور یہ شان ہو کہ ان کو کتاب اور حکمت تعلیم کریں اور ان کا ترزیہ کریں رذائل سے بے شک آپ قادر ہیں اور حکیم ہیں کہ موافق حکمت کے کرتے ہیں اور ایسا کرنا مصلحت ہے تو آپ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے اس آیت کے ترجمے سے معلوم ہو گیا کہ رسول کی تمنی صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں اور ان رسول سے مراد ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے کہ داعی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام ہیں۔

لہذا ضرور ہے کہ یہ رسول ان دونوں حضرات کی اولاد میں ہونا چاہئے اور ہر چند کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی متعدد انبیاء ہوئے مگر وہ بسلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لہذا آپ ہی مراد ہوئے۔

دعا کے درمیان میں بعثت رسول کی دعا کرنا ایک بڑی رحمت کاملہ کا مانگنا ہے ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ یوں کہتے ان کو پاک تجھے اور ان کو کتاب دتیجے اور ان کو قبول تجھے لیکن تعلیم بواسطہ وہی اس تعلیم سے افضل ہے جو کہ بلا واسطہ وہی کے بذریعہ الہام کے ہوا اگر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم بلا واسطہ زیادہ قرب کا ذریعہ ہے اور اسی وجہ سے اکثر عوام اور بعض خواص کی یہی رائے قائم ہو گئی ہے اور یہاں تک اس کا اثر ہوا ہے کہ انبیاء کی تعلیم کی وہ قدرت نہیں کی جاتی جس قدر کسی بزرگ کی تعلیم کی قدر ہوتی ہے۔

میرے استاد مولانا فتح محمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی عسرت اور قرض کو بیان کیا اور کہا کہ کوئی دعا بتلا دتیجے کہ قرض ادا ہو جائے مولانا نے یہ فرمایا یہ پڑھا کرو۔

اللهم اكفني بعذالتك عن حرامك و اغنى بفضلك عنمن

سواک (سن الترمذی: ۳۵۶۳، المسند رک للحاکم: ۵۳۸)

اے اللہ مجھے حلال کو کافی فرمادے اور اپنے فضل سے سوال سے زیادہ عطا فرما۔

اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ یہ حدیث میں وارد ہوئی ہے حدیث کا نام سن کر اس شخص کی یہ کیفیت ہوئی کہ جیسے سرد پڑ گیا اور کہنے لگا کہ حدیث میں تو بہت سی دعائیں ہیں آپ اپنے پاس سے کوئی چیز بتائیئے جو سینہ بسینہ چلی آتی ہو یہ فاسقانہ کلمہ سن کر مولانا کو بہت ہی غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ تو حضور کی تعلیم پر دوسروں کی تعلیم کو ترجیح دیتا ہے۔

تو یہ اسی خیال کا اثر ہے جس کے باعث حضور کی تعلیم پر کفایت نہ ہوئی آپ نے دیکھا ہو گا کہ جاہل عابد جس شوق سے وظیفہ یا نفلیں پیر کی بتلائی ہوئی پڑھتے ہیں قرآن شریف اور پانچ وقت کی نماز اس شوق سے نہیں پڑھتے ایک شخص نے مجھ سے فخر آکہا۔

اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اگر پیر سے تعلق نہ ہو تو حضور سے بھی کم تعلق ہو گا لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بھی بڑھ جائے۔

گر فرق مراتب نکنی زندیقی

اگر فرق مراتب نہ کرو گے تو زندیق ہو جاؤ گے۔

فضل تعلیم

غرض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الہام بلا واسطہ ہے اور وحی بواسطہ ہے تو جس میں واسطہ کم ہوگا اس میں زیادہ قرب ہوگا مگر شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ تعلیم بواسطہ تعلیم بلا واسطہ سے زیادہ فضل ہے جب یہی ہے کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ تعلیم بواسطہ میں واسطہ کس کا ہے اگر واسطہ کسی معمولی شخص کا ہوتا ہے شک بلا واسطہ تعلیم فضل ہے لیکن جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہوتا ہے بڑے واسطے کذریعے سے جو تعلیم ہوگی وہ فضل ہوگی۔

راز اس میں یہ ہے کہ جو علم بلا واسطہ وحی کے ہے اس میں غلطی کا احتمال بوجہ تقصیان استعداد کے زیادہ ہے اور بواسطہ وحی تعلیم میں غلطی کا احتمال نہیں ہے رہا حضور سے ہم تک پہنچنے کا واسطہ سوا اس میں چونکہ ثقات ہیں ان میں غلطی کا احتمال نہیں ہے ایک تو یہ تفاوت ہے۔

دوسرے ایک اطیف تفاوت ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے رحمت بنائیں ہے تو جو تعلیم حضور کے واسطہ سے ہوگی اس میں ابتلاء کا احتمال نہیں ہوگا برخلاف بلا واسطہ کے کہ اس میں احتمال ابتلاء کا ہوتا ہے۔

ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمائے ہے ہیں کہ شراب پی۔ اس نے علماء سے کہا انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے تجھ کو خواب پورا یا نہیں رہا میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ شراب سے مراد محبت الہی ہو۔ تو دیکھئے چونکہ بلا واسطہ یہ تعلیم تھی اس میں ابتلاء ہوا کہ دیکھتے یہ سمجھتا ہے یا نہیں اور حضور کے ذریعہ سے جو علوم ہوتے ہیں ان میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص خواب میں دیکھے تو اس میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ یہ شیطان ہوگا کیونکہ آپ گی شانِ شخص ہدایت کی ہے لہذا اس میں یہ اختلاط نہیں ہو سکتا بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں لیکن یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نبی ہوں وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ حکمت ابتلاء کے لئے صفتِ مصل کے ساتھ بھی متصرف ہیں دوسرے اول صورت میں متنبہ ہو جانا ممکن ہے کیونکہ خدا تعالیٰ منزہ ہے اور جس کو خواب میں دیکھا منزہ نہیں اور دوسرے میں ممکن نہ تھا۔ اس لئے آپ کے واسطے کو تمام خطرات سے حفاظ رکھا تو معلوم ہوا کہ حضور کا واسطہ ایک بڑی نعمت ہے۔

لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بجائے کتاب وغیرہ براہ راست مانگنے کے حضور کو واسطہ قرار دیا یعنی اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کی طبیعت اس پر مجبور ہے کہ اپنے بُنی نوع کو دیکھ کر اقداء

کرتے ہیں یعنی ان کو ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی فرق ہے اس میں اور جانوروں میں کہ جانوروں کو ضروریات کی تعلیم کی حاجت نہیں کیونکہ جانوروں میں جو کچھ کمالات ہیں وہ سب طبعی ہیں اکتسابی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بخشنده کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے اور ایک بڑے سے بڑے تیراک شخص کا بچہ تیراک نہ ہو گا کیونکہ کمالات انسان کے طبعی نہیں بلکہ ان کو ایک نمونہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت نمونہ ہی باعث ہے کہ انسان کو تعلیم کتب سے بھی اس قدر لفظ نہیں ہوتا جس قدر کاطلین کی صحبت سے ہوتا ہے یا ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے۔

تعلیم و تربیت کے آداب

اکثر لوگ اپنی اولاد کے لئے تمام آسانیوں کی فکر کرتے ہیں مگر اس کی ذرا پرواہ نہیں کرتے کہ صحبت بھی نیک ہو بلکہ اکثر بد اخلاق معلوموں کے سپرد کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر چہ یہ ناقص ہیں لیکن ابھی بچپن ہے کیا حرج ہے حالانکہ یہ تجربہ ہے کہ اگر مبادی خراب ہوں تو مقاصد بھی خراب ہوتے ہیں یاد رکھو کہ خاک از تودہ و کلاں بردار یہ ضرور ہے کہ اگر کامل سکھے گا تو کامل نہ ہو گا لیکن ذی استعداد تو ہو جائے گا کیونکہ کامل آدمی فن کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے بخلاف ناقص کے۔ اور یہ تو عامی ضرر ہے جس پر کم و بیش توجہ بھی ہے مگر بڑا ضرر یہ ہے کہ ناقص کی صحبت میں اخلاق بالکل بر باد ہوتے ہیں اس پر لوگوں کو ذرا توجہ نہیں۔

ہمارے ہاں ایک معلم ہیں ان کی نسبت سن اگیا ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو دوسرے معلم کے ہاں سمجھتے ہیں کہ جا کر اس کے مکتب کی چٹائیاں توڑ ڈالیں بتلائیے جب بچپن ہی سے یہ حالت ہو گی تو بڑے ہو کر ان کی کیا اصلاح ہو گی مگر اس پر بالکل خیال نہیں بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ بچہ وہی ہے جو کہ شوخ ہو حالانکہ شوٹی دوسری چیز ہے اور شرارت دوسری چیز ہے۔

غرض انسان اپنے اپنا نویں سبق لیتا ہے جو حالت دوسرے کی دیکھتا ہے وہی خود اختیار کرتا ہے مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو علاج کرانے کے لئے ایک طبیب کے پاس لے گیا ان کو میں نے دیکھا کہ بے حد متحمل تھے باوجود یہ کہ بے حد نازک مزاج تھے تو میں چونکہ ان کے پاس جاتا تھا اس لئے میرا غصہ کم ہو گیا تھا میں نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ شخص پاس بیٹھنے کا اثر ہے تو بہت اچھا طریقہ تربیت کا صحبت ہے۔

اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی عمر کو پہنچ کر ہی سن بھل جائیں گے یہ غلط ہے بلکہ جب بچہ بولنے

پر قادر بھی نہیں ہوتا اسی وقت سے اس کے دماغ میں دوسروں کی تمام حرکات منقش ہوتی ہیں اور وہ ان سے متاثر ہوتا ہے اسی واسطے حکماء نے لکھا ہے کہ بچہ کے سامنے کوئی حرکت خلاف تہذیب نہ کرنی چاہئے راز اس میں یہی ہے کہ انسان کے دماغ کی مثال پر لیں کی اسی ہے کہ کافی لکھ کر جب لگاؤ تو چھپ جائے گا اسی طرح جو چیز دماغ انسان کے رو برو ہوتی ہے وہ اس میں منقش ہو جاتی ہے اگرچہ اس وقت شعور نہیں ہوتا لیکن اس انتقال کے لئے شعور کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم پر لیں میں انگریزی چھاپ لیں اور پھر انگریزی سیکھ لیں تو چند روز کے بعد ضرور پڑھ لیں گے۔ علی ہذا بچہ اگرچہ اس وقت نہیں سمجھ سکتا لیکن بڑا ہو کر سمجھے گا۔

چنانچہ ایک عاقل عورت نے یہ کہا ہے کہ پانچ چھ برس کے بعد بچہ قابل تربیت نہیں رہتا بلکہ ہر حالت پختہ ہو جاتی ہے وہ کہتی تھی اگر پہلے بچے کو درست کر دے تو اس کے بعد کے سب بچے اسی سانچے میں داخل جائیں گے غرض معلوم ہوا ہو گا کہ صحبت کا کیا اثر ہے۔

توجہ باری تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یوں دعا کرائی کہ ان میں ایک پیغمبر بیجیے اور پھر آپ کو معموٹ فرمایا کہ آپ نمونہ ہوں سو بعض نے آپ کو دیکھا اور بعض نے آپ کی سیرت دیکھ کر آپ کی حالت معلوم کی اور اسی طرح آپ ہمارے بھی پیش نظر ہیں اور اس اعتبار سے اگر فیکم و رسولہ عام لیا جائے تو درست ہو گا۔

اسوہ حسنہ کا اتباع

واقعی آپ کی سیرت کو دیکھ کر جس قدر آسانی سے ہم اتباع کر سکتے ہیں قوانین کلیہ کو دیکھ کر نہیں کر سکتے تھے اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ ہمارے لئے نمونہ ہیں تو ہم سے یہی باز پرس ہو گی کہ تم اس نمونے کے موافق بن کر کیوں نہیں آئے۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ہم کسی درزی سے اچکن سلامی اور نمونے کے لئے اپنی اچکن اس کو دے دیں تو اس اچکن دینے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جدید اچکن کی کاش تراش سلامی وغیرہ سب اس پہلے کے مطابق ہو اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ تراش وغیرہ میں فرق ہو جائے تو درزی کو مستحق عتاب سمجھا جاتا ہے اس عتاب کے جواب میں اگر وہ یہ کہنے لگے کہ زیادہ تر موافق نمونے کے ہے اور للا کفر حکم الکل تو ہرگز یہ جواب مسحون نہیں ہوتا۔

توجہ برداشت آپ نے اس درزی سے کیا اسی کے لئے آپ خدا تعالیٰ کے سامنے تیار ہو

جائیے اور سوچ لجئے کہ جب آپ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور نمونہ نبوی پر پورے نہ اتریں گے تو کس سخت عتاب کے سزاوار ہوں گے۔ اسی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

تم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے نمونہ ہے۔

کہ بالکل اس نمونے جیسے بن جاؤ نماز ایسی ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی روزہ وہی ہونکا حشادی کا طرز وہی ہو وضع وہی ہو علی ہذا ہر چیز میں وہی طرز ہو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا یہ تو نمونہ ہے لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس نمونے میں وسعت کر دی۔

یہ ایک شبہ کا جواب ہے یعنی آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے اعتراض تو کرو یا

کہ من تشبہ بقوم فهو منهم (سنابی داؤد: ۳۰۳، مسکوۃ المصانع: ۳۳۳، تفسیر ابن کثیر: ۵۳: ۸)

(جس شخص نے کسی قوم کی شکل و صفت بتالی وہ انہیں میں سے ہے) مگر اب یہ بھی تو بتالی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کسی تھی کرتے کیسا تھا لہر مقصود اس سے علماء کو خاموش کرنا ہوتا ہے لہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو چاہو پہنچیز اس کی تائید میں عمل کو شوہر چہ خواہی پوش بھی پیش کیا کرتے ہیں۔

میں اس شبہ کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر چہ وضع وہی ہونا ضروری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع تھی لیکن اس میں کچھ وسعت ہے شرح اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ سلاطین میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قوانین لباس میں وردی والوں کے لئے ماذون فیہ کے افراد مخفی عنہ کے افراد سے کم ہوتے ہیں مثلاً پولیس کی وردی ہے کہ افراد لباس کے بہت ہیں مگر اس قانون مجازہ کی وجہ سے پولیس کو صرف ایک کی اجازت ہے کہ اس قسم کا لباس ہوا درمختی عنہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے سوا سب لباسوں کی ممانعت ہے چنانچہ اگر کسی کی وردی میں عمامہ نہ ہو تو وہ معتبر ہو گا کیونکہ وہ بھی وردی کا جزو ہے اب ہمارے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ قانون خداوندی بھی ایسا ہی تھک ہو جائے کہ ایک ہی لباس اس میں رہے یعنی خاص قسم کی ٹوپی اور خاص طرز کی ازار وغیرہ وغیرہ اور جب یہ بات نہیں ہے تو ان کے نزدیک ہر لباس جائز ہے۔

تو صاحبو۔۔ وردی تو متعین ہے لیکن یہاں تعین کی یہ صورت ہے کہ مخفی عنہ کم ہے اور ماذون فیہ زیادہ ہے یعنی جو لباس ناجائز قرار دیا گیا ہے اس کو شمار کر دیا اور اس کے ماسواب جائز رکھا گیا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کیونکہ اگر یہ حکم ہوتا کہ ایک قبا ہوا ایک کرتا کہ ایک عمامہ ہو تو جس شخص کے پاس اتنا کپڑا نہ ہوتا تو کیا کرتا؟

آج کل بعض سکولوں میں خاص وضع کی پابندی ہو گئی ہے لیکن یہ سخت مصیبت ہے اگر کوئی کہے

کہ ہم تو بہت امیر ہیں تو میں کہوں گا کہ کیا قوم کو انہی افراد میں حصر کیا جائے گا لوگ اس میں بھی سخت غلطی کر رہے ہیں کہ قوم کے افراد امراء کو سمجھتے ہیں حالانکہ غرباء شمار میں زیادہ ہیں تو قوم غرباء کا نام ہو گا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے گیہوں کا ذہیر کہ اس میں جو اور چنے بھی ہوتے ہیں مگر کثرت پر نظر کر کے اس ذہیر کو گیہوں کا ذہیر کہا جاتا ہے۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ قومی ہمدردوہ ہو سکتا ہے جو کہ غرباء کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اس زمانہ میں جو لوگ اپنے کو اپنے منہ سے ہمدرد قوم کہتے ہیں وہ صرف امراء کے ساتھ ہمدرد ہیں نہ کہ غرباء کے ساتھ۔ حالانکہ جب تک غرباء کے ساتھ ہمدردی نہ ہواں وقت تک قومی ہمدردی کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ چونکہ یہ لوگ قوم کے معنی نہیں سمجھے اس لئے اپنی اس تجویز میں وقت اور تنگی ان کو محسوس نہیں ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اسی پر نظر کر کے ماڈونات کو زیادہ اور منہیات کو کم فرمایا کہ حریر نہ ہوزری نہ ہو سخنے ذہنکے نہ ہوں تکہ نہ ہوں۔ علی ہذا۔ ان کے ماسوا عام اجازت ہے کہ البس ماشست تو وردی تو متین ہوئی لیکن رحمت اور وسعت کے ساتھ۔ لہذا وہ اعتراض کہ اگر تکہ ناجائز ہے تو حضورؐ کا خاص لباس بتانا چاہئے مندفع ہو گیا۔ پس معلوم ہوا کہ ہم کو لباس میں بھی حضورؐ کے ساتھ مشابہ ہونا ضروری ہے لیکن اس طرح کہ ان منہیات میں سے ہمارے بدن پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ پس جب ہمارے پاس یہ نمونہ موجود ہے تو خدا تعالیٰ ہم سے باز پرس کر سکتے ہیں۔

شادی کا نمونہ

اسی طرح خدا تعالیٰ نے شادی کا ایک نمونہ (یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی) ہم کو دکھلا دیا ہے کہ اس میں نہ مہمان آئے تھے نہ لال خط گیا تھا۔ نہ ذوم گیا تھا نہ نائی نہ واسطہ سے پیغام پہنچا تھا پیغام خود دو لہا صاحب لے کر گئے تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بھیجے ہوئے تھے اول حضرت فاطمہ زہرا سے حضرات شیخین نے پیغام دیا تھا لیکن ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حضور نے عذر فرمادیا۔ اللہ اکبر صاحبو! غور کرنے کی پاٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسے کیسے گھرے امور پر مطلع فرمادیا ہے یعنی حضرات شیخین سے انکار فرمائنا۔ اپنے یہ بتلا دیا کہ اپنی اولاد کے لئے شوہر کی ہم عمری کا لحاظ بھی ضرور کرو۔

ایک نوجوان عورت کی شادی ایک بوڑھے مرد سے ہو گئی تھی وہ کہتی تھی کہ جب میرے سامنے آتے ہیں تو مجھ کو بہت شرم آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دادا آ گیا۔ اور اکثر

عورتیں عمروں میں تفاوت ہونے کی وجہ سے آوارہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا دل نہیں ملتا بتائیے حضرات شیخین سے زیادہ کون ہو گا لیکن حضور نے محض عمر کی تفاوت کی وجہ سے انکار فرمادیا۔ جب دونوں صاحبوں کو اس شرف سے مایوسی ہوئی تو دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور نے ہم دونوں سے تو اس خاص وجہ سے انکار فرمادیا ہے تم کم عمر ہو بہتر ہے کہ تم پیغام دو۔ جو لوگ شیخین پر حضرت علی کے ساتھ عداوت رکھنے کا الزام رکھتے ہیں ان کو اس واقعہ میں غور کرنا چاہئے غرض حضرت علی تشریف لے گئے اور جا کر خاموش بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جس غرض سے تم آئے ہو اور مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کروں منظوری کے بعد حضرت علی چلے گئے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار اصحاب کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھ دیا چونکہ حضرت علی بھی حضور علی رضی اللہ عنہ سے موجود تھے اس لئے یہ فرمادیا کہ اگر علی منظور کریں حضرت علی بھی وجہ خبر ہوئی تو آپ نے منظور کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ایمن کے ساتھ حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر روانہ کر دیا تھا نہ ڈولہ تھا نہ برات تھی۔

اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت فاطمہ زہرا سے پانی مانگا انہوں نے اٹھ کر پانی دیا آج ہم نے اس سادگی کو بالکل چھوڑ دیا ہے نکاح کے بعد ایک مدت تک وہیں مٹھے پر ہاتھ رکھنے بیٹھی رہتی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ بجائے مٹھے پر ہاتھ کے ہاتھ پر مٹھے رکھنا چاہئے بہر حال جو کچھ بھی کہا جائے منہ ڈھکا جاتا ہے اور وہ اس قدر پابند ہنائی جاتی ہے کہ نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی جس طرح بندے کو خدا کے ہاتھ میں ہونا چاہئے تھا اسی طرح وہ نائن کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کس قدر بے حیائی ہے کہ عورتیں مٹھے دیکھ کر فیس دیتی ہیں۔ تو آج کل پابندی کی یہ حالت ہے اور حضرت فاطمہ نے اگلے ہی دن کام کیا اور پھر حضرت علی سے فرمایا کہ پانی لاو۔ وہ بھی لائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ پانی لائی تھیں حضرت علی بھی موجود تھے اب عورتیں اس فعل کو بالکل ناجائز بھتی ہیں اسی طرح کی اور بھی جہاں تیس ہیں۔

چنانچہ عورتوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ثبوت جاتا ہے اور شوہر کا نام لینا گویا بالکل ناجائز ہے مگر عورتوں کو نام لینا تو بے ادبی ہے زبان چلانا اور گستاخی کرنا بے ادبی نہیں ہے شوہر سے لڑنا یا عورتوں کو گالیاں دینا گویا ناجائز نہیں ہے بعض عورتیں تو اس کی یہاں تک پابند ہیں کہ اگر قرآن میں وہ لفظ آ جائے تب بھی اس کو نہیں پڑھتیں گویا قرآن میں ان کے شوہر ہی کا نام لکھا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض عورتیں اس کے شوہر کا نام بھی نہیں لیتیں

اور شوہر کے نام کے ہم وزن الفاظ بھی نہیں کہتیں لیکن معلوم نہیں کہ یہ ساری باتیں ناجائز ہو کر گستاخی کرنا کیسے جائز ہو گیا غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے بھی دکھلادی۔

غمی میں حضور کی سیرت

حضرت نے غمی کر کے بھی دکھلادی کہ آپ کے صاحب زادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا آپ نے نہ بزرع فزع کیا نہ کسی کو اجازت دی صرف آنسو نکلے اور یہ فرمایا کہ۔
انا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون (المسند لابن الہبی ۳۹۳: بمعظماً بفراقك لمحزونون)
(اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے مغموم ہیں۔)

اور ایک جگہ تشریف فرمائے۔ لوگ آ کر تعزیت کرتے رہے پس ہم کو بھی چاہئے کہ تسلی دیں اور ثواب بخشن۔ یہ دونوں امر مسنون ہیں اور باقی سب لغو ہیں مثلاً دور دراز کے مہمانوں کا آنا اور دسویں میں اور چالیسویں میں شریک ہوتا پھر عدالت کے ختم کے بعد اس عورت کو عدالت سے نکالنے کے لئے جمع ہونا گویا وہ کسی کو ٹھہری میں بندھی کہ یہ سب مل کر اس کا قفل توڑیں گے۔
صلع بلند شہر کے ایک ریس کا انتقال ہوا ان کے صاحبزادے نے اس رسم کو توڑنا چاہا لیکن اس کی یہ صورت اختیار نہیں کی کہ کچھ نہ کریں بلکہ یہ کیا کہ حسب تمام برادری کی دعوت کی اور بہت سے عمده عمدہ مرغون کھانے پکوانے۔ بڑے لوگوں پر ایک یہ بھی آفت ہے کہ جب تک وہ بھی کی نہر شہر بہادریں اس وقت تک ان کا کرنا کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ غرباء بحمد اللہ اس سے بڑی ہیں میں جب ڈھاکہ گیا تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں سیر بھر گوشت میں سیر بھر گئی کھاتے ہیں میں نے کہا کہ صاحب بھی کچھ بیادہ کھانے کی چیز نہیں ہے ورنہ جنت میں بھی کی بھی ایک نہر ہوتی جیسے دودھ شہر کی نہر ہے جنت میں ہیں۔

غرض جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ہاتھ دھلوا کر کھانا چنوا دیا اور سب کو بھلادیا اجازت شروع سے پہلے کہنے لگے کہ صاحبو! آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا ہے اور والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ جانا جیسے عظیم الشان صدمے کا باعث ہوتا ہے ظاہر ہے تو صاحبو! کیا یہی انصاف ہے کہ ایک تو میرا باپ مرے اور اور پر سے تم لوگ مجھ کو لوٹنے کے لئے جمع ہو تم کو کچھ شرم بھی آتی ہے؟ اس کے بعد کہا کہ کھائیے لیکن سب لوگ اسی وقت اٹھ گئے اور یہ رائے ہوئی کہ ان رسوم کے متعلق علیحدہ بینچ کر غور کرنا چاہئے چنانچہ بہت سے آدمی جمع ہوئے اور باتفاق رائے ان کو موقوف کر دیا اور وہ سب کھانا فقراء کو تقسیم کر دیا گیا۔

ہمارے جوار میں ایک قصہ کیرا نہ ہے وہاں کے ایک حکیم صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک گوجر آیا اس کا باپ بیمار ہو رہا تھا کہنے لگے کہ حکیم صاحب جس طرح ہو سکے اب کی مرتبہ تو اس کو اچھا کر دیجئے کیونکہ قحط بہت ہو رہا ہے اگر بدھا مر گیا تو مرنے کا چند اس غم نہیں مگر چاول بہت گراں ہیں برادری کو کس طرح کھلاؤں گا۔

خیر غنیمت ہے آج کل ان رسوم کا نہ موم ہونا تو اکثر نوجوان سمجھ گئے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں تو گویا زندوں کا غم مردے کے غم سے زیادہ ہوا ان کی روک ٹوک زیادہ قابل مدرج نہیں کیونکہ ان کی غرض اس روک ٹوک سے یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی کے خرچ سے بچے گا تو ہم کو ہار مونیم اور میز کریں میں خرچ کرنے کا خوب موقع ملے گا تو جس روک کا مشاء یہ ہو وہ قابل مدرج نہیں ہے لیکن خیر پھر بھی ان کی حالت اس خاص اعتبار سے دوسروں سے غنیمت ہے۔ اس وقت واقعی عقول میں گونہ روشنی آگئی ہے لیکن یہ روشنی ناکافی ہے کافی اس وقت ہو گی کہ جب ضم ضمیر بھی ہو یعنی ایک عاقل کی عقل بھی ان کی عقل کے ساتھ اور اس کی رہبر ہو اور عاقل وہ ہیں کہ جن کی نسبت کہا گیا ہے کہ۔

خلق اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوے
مست خدا کے علاوہ تمام مخلوق بچے ہیں جو خواہشات نفسانی اور حرص سے خالی نہیں وہ نابالغ ہے
تو عاقل وہی ہے جو رہیدہ از ہوئے ہو بہر حال کہاں تک تفصیل کروں خلاصہ یہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہیں لہذا ہر حالت میں ہم کو غور کرنا چاہئے کہ ہم اس نمونے کے موافق ہیں یا نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر

سلف صالحین نے تو یہاں تک کہا کہ ایک درزی کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ درمیان میں ایک جملہ مفترضہ یاد آیا کہ ہماری شان خدا جانے کیا بڑھ گئی ہے کہ ہم غریبوں کے ہاں جاتے ہوئے عار کرتے ہیں بلکہ ان کو بلا تے ہوئے بھی عار آتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ ذرا معزز عہدوں پر فائز ہیں وہ اپنی برادری کے غریب لوگوں کو اپنے پاس بلا تے ہوئے اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے عار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کہ آپ ایک غریب آدمی کے ہاں تشریف لے گئے اور اگر کوئی کہے کہ حضور غریب تھے (نعوذ باللہ) تو سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا۔ اضطراری نہ تھا فقر وہ ہے کہ جس کا فقر اضطراری ہو۔
شریف گر متواضع شود خیال بند کہ پائگاہ فیعش ضعیف خوابد شد

شریف متواضع نہ ہو تو خیال مت کر اس کا بلند مقام کمزور ہو جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم نے سلطنت چھوڑ دی تھی تو کیا ان کو فقیر کہا جائے گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اختیار سے فقر اختیار کیا تھا اور اخْتیاری بھی کیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو خدا تعالیٰ آپ کے لئے جبل احمد کو سونا کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلا کرے۔ شاید کوئی کہے کہ جبل احمد کیوں کر چلتا صاحبو! آپ کے نزدیک زمین متحرک ہے یا نہیں تو جب زمین حرکت کر سکتی ہے تو جبل احمد کے حرکت کرنے میں کیا محال لازم آتا ہے اگر کہئے کہ زمین کشش آفتاب کی وجہ سے چلتی ہے تو میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں بھی اگر کشش ہو تو کیا قباحت ہے سامنے کے مسئلے ابھی ختم نہیں ہیں کشش کے لئے جسم کا بڑا ہونا کچھ ضروری نہیں اور کشش تو محض آپ کی خاطر سے تنزل کر کے مان لی ہے ورنہ کشش کیا چیز ہے جو شخص خدا کو مانتا ہے اس کوشش وغیرہ کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے جبریل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکار ہوں اور اگر غور کیجئے گا تو معلوم ہو گا کہ حضور کی اس تجویز میں کتنی عظیم الشان حکمت پنهان ہے بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت مجھ سے محبت کرے گی اگر میں دنیا لوں گا تو تمام امت تحصیل دنیا کو سنت قرار دے گی اور دنیا کے مفاسد سے بچنے کی قوت ہو گی نہیں نتیجہ یہ ہو گا کہ امت ہلاک ہو جائے گی۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کامل آدمی جو کہ سانپ پکڑنے کا متر جانتا ہو وہ باوجود یہ کہ اپنے ضرر سے بالکل مطمئن ہے لیکن اس خیال سے کہ مجھے پکڑتے دیکھ کر بچہ بھی سانپ کے منہ میں انگلی نہ دے دے خود بھی سانپ کو نہیں پکڑتا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تکلیف برداشت کی تو کیا آپ کافرا اضطراری فقر ہو گا ہرگز نہیں بلکہ فقر اخْتیاری تھا۔

وضاحتی حکایت

مجھے حضرت شاہ ابوالمعالیٰ کی حکایت یاد آئی آپ کے ہاں اکثر فقر و فاقہ ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ ان کے پیران کے ہاں مہمان ہوئے اس روز بھی اتفاق سے فاقہ تھا اور حضرت شاہ ابوالمعالیٰ مکان پر نہ تھے گھر کے لوگوں نے پڑوس سے قرض منگانا چاہا لیکن وہاں سے قرض نہ ملا کئی جگہ آدمی کو بھیجا لیکن سب جگہ سے جواب ملا جب ان کے پیر نے کئی بار آدمی کو آتے جاتے

دیکھا تو دریافت فرمایا معلوم ہوا کہ آج فاقہ ہے۔ آپ نے کچھ نقد اپنے پاس سے دیا اور فرمایا کہ جا کر بازار سے انماج لے آؤ اور جب لاو تو مجھے دکھانا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا آپ نے ایک نقش لکھ کر اس انماج میں رکھ دیا نقش کارکھنا ایک پرده تھا ورنہ یہ آپ کا تصرف تھا اور یہ اپر سے ہوتی چلی آئی ہے خدا تعالیٰ جب کوئی خارق موافق پیدا کرتے ہیں تو اس کو ناسوت کے پردے میں پیدا کرتے ہیں جیسے بارش وغیرہ کا ہونا اسی کے موافق انہوں نے بھی وہ تعویذ لکھ کر انماج میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس میں سے لے کر پکایا کرو چنانچہ مدت تک پکتار ہا اور ختم نہ ہوا۔

حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب سفر سے واپس تشریف لائے اور یہ حالت دیکھی تو ایک روز فرمایا کہ مدت سے فاقہ نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ صاحبزادی نے یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ اب اس وقت حضرت پر سخت تنگی کا وقت ہے کہ اگر تعویذ سے کام لیں تو مذاق کے خلاف اور نہ کام لیں تو پیر کے تعویذ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ واقعی یہ حضرت جامع اضداد ہوتے ہیں اس چامع میں الاضداد پر مجھے ایک اور حکایت یاد آئی۔

ہمارے حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مضمون بیان فرمارہے تھے کہ جس طرح راحت و آرام نعمت ہے اسی طرح بلا بھی نعمت ہے کہ اسی وقت ایک شخص آیا اس کا ہاتھ زخم کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا اور سخت تکلیف میں بستلا تھا اور کہا کہ میرے لئے دعا فرمائیے اس وقت میرے قلب میں یہ خطرہ گزرا کہ حضرت اُس کے لئے کیا دعا کریں گے اگر صحبت کی دعا کریں تب تو اپنی تحقیق سے رجوع لازم آتا ہے اور اگر دعا نہ کریں تو اس شخص کے مذاق کی رعایت نہیں ہوتی اور یہ شیخ کامل کے لئے ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ سب لوگ دعا کریں کہاے اللہ! اگرچہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف بھی نعمت ہے لیکن ہم لوگ اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کے متهم نہیں ہو سکتے۔ اس نعمت کو مبدل بِ نعمت صحت فرمادیجھے۔

ای طرح حضرت شیخ ابوالمعالی نے فرمایا کہ حضرت کا تبرک ہے میرا سر اس کا زیادہ مستحق ہے یہ کہہ کر اس کو تو اپنے سر میں باندھ لیا اور انماج کے لئے حکم دیا کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے۔

تو جب حضورؐ کے ادنیٰ خدام کی یہ حالت تھی تو حضورؐ کوون فقیر کہہ سکتا ہے اور جہاں حضورؐ کی یہ حالت تھی اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے سوانح بھی اپنی طرف سے ذبح فرمائے تھے تو اب یہ شبہ نہ رہا کہ حضورؐ غریب تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے تشریف

لے گئے بلکہ آپ سلطان تھے اعتقاد اور واقعہ بھی کیوں کہ صلح، جنگ، قتل وغیرہ سب آپ کے حکم سے ہوتی تھی اور باوجود اس کے پھر آپ درزی کے گھر تشریف لے گئے اب ہم کو ان کے گھر جاتے بلکہ ان کو سلام علیکم کی اجازت دیتے بھی نہ آتا ہے۔

کسی قصہ میں ایک جامنے ایک رئیس صاحب کو السلام علیکم کہہ دیا تو رئیس صاحب نے انھ کرا ایک چپت رسید کیا اور کہا تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہم کو السلام علیکم کہے۔ حضرت سلامت کہا کر۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز پڑھی تو ختم پر بجائے السلام علیکم و رحمت اللہ کے پکار کر کہا۔ حضرت سلامت و رحمت اللہ لوگوں نے پوچھا یہ کیا حرکت ہے۔ تو کہنے لگا آج میں نے السلام علیکم کہا تھا تو ایک چپت لگا۔ مجھے ذر ہوا کہ نماز میں فرشتوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے اور ان میں حضرت عزرائیل بھی ہیں اگر کبھی وہ خفا ہو گئے تو میرا دم ہی نکال دیں گے تو جب ہمارے روسا کو سلام سے عار آتی ہے تو کھانا پینا تو بڑی بات ہے۔

غربا کا خلوص

لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ وہاں کے ایک عالم ایک سقے کے گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک رئیس ملے پوچھا کر مولانا کہاں جا رہے ہیں مولوی صاحب نے فرمایا کہ اس سقے نے دعوت کی ہے۔ رئیس نے کہا لا حول ولا قوہ آپ نے تو لٹیا ہی ڈبودی سقے کے گھر دعوت کھانے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں صاحب ٹھیک ہے اور سقے سے کہا کہ اگر تو ان کو لے چلے تو میں بھی چلتا ہوں ورنہ میں بھی نہیں جاتا وہ ان رئیس کے سر ہوا اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر لے چلا۔ مولوی صاحب نے اس تدبیر سے یہ بات دکھلادی کہ ان غرباء کا اصرار اس کس طرح کا ہوتا ہے اور ان کو کس درجہ خلوص ہوتا ہے۔ حقیقت میں امراء کو خبر نہیں ورنہ اگر ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ غرباء کو اہل اللہ و علماء سے کتنی محبت ہے تو ان کو مجبور و معدور سمجھیں جیسے خود تھوڑے سے اصرار سے یہ رئیس مجبور ہو گئے محبت وہ چیز ہے کہ۔

عشق را نازم کہ یوسف را بازار آورد ہچھو صنعا زاہدی را او بزنار آورد
میرے عشق کو ناز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سر بازار لے آیا صنعا جیسے زاہد کو اتار پہنا دیا تو اگر کسی بڑے شخص کو غریب کے گھر پہنچا دے تو کیا تعجب ہے۔ اس کے عجب و غریب اس کے تصرفات ہوتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ امراء کو ان کی اطلاع نہیں۔ کیونکہ لوگوں کو ان سے محبت ہی نہیں ہے۔ ان کی اگر تعظیم بھی کرتے ہیں تو ایسی کہ جیسے بھیزیے کی تعظیم کرتے ہیں یا اگر کھڑے

ہوتے ہیں تو جیسے سانپ کے لئے کھڑے ہو گئے متکبرین سمجھتے ہیں کہ ہماری تعظیم کی حالانکہ یہ تعظیم نہیں ہے بلکہ خوف ہے تو چونکہ ان سے کسی کو محبت نہیں ہوتی اس واسطے ان کو محبت کا اندازہ نہیں ہوتا اور اگر کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کے ساتھ ان کا وہی برتاؤ ہوتا ہے جو کہ علماء کا عوام سے۔

غرض وہاں جو پہنچ تو دیکھا کہ دوسو تین سو سو کھڑے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی سب کے سب تعظیم کے لئے بڑھے رہیں صاحب نے یہ عظمت و محبت کبھی عمر بھر میں نہ دیکھی تھی۔ آخر کھانا آیا تو مولوی صاحب نے سقوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے نہایت اصرار و خوشامد سے کھلانا شروع کیا۔ آخر اس رئیس نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ مولانا میں نے آج دیکھا اور آج مجھ کو معلوم ہوا کہ عزت رئیسوں میں جانے سے نہیں بلکہ غریبوں کے گھر جانے میں ہے۔

توجہنا ب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غرباء کی دعوت منظور فرمائیتے تھے۔ چنانچہ ایک درزی کے ہاں چلے گئے اور حضرت انسؓ ساتھ تھے آخروہ درزی کپڑے سینے بیٹھ گئے۔ آج کل اس کو بے تہذیب سمجھتے ہیں کہ مہماں کے سر پر مسلط کیوں نہ ہوا۔

صاحبوا! یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جن امور کا نام آج تہذیب رکھا ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو کوئی کام نہ ہو یا ہوتا دماغی کام نہ ہو ورنہ اگر کوئی دماغی کام ہو تو یہ آج کل کی تعظیم و تہذیب مثلاً میزبان کا مہماں پر مسلط ہو جانا اس قدر گراں گزرتا ہے کہ جس کی حد نہیں یوں معلوم کہ جیسے سر پر کوئی پہاڑ رکھ دیا لیکن اس زمانے میں لوگوں کو یہ حرکتیں گراں نہیں گزرتیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے متعلق کوئی فکر کا کام نہیں۔ اگر فکر کا کام تو ممکن نہیں کہ اس سے گرانی نہ ہو۔

ای طرح اکثر لوگ اپنے توکروں کو حکم کرتے ہیں کہ تم کھڑے رہو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کھڑے رہنے سے ان امراء کا دل نہیں گھبرا تا۔ دوسرے اگر وہ بیٹھ جائیں تو کیا مضافات ہے۔ ان کی شان ریاست میں کیا کمی آئی جاتی ہے؟

ان حرکتوں کا اثر یہ ہے کہ ان سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر خدا تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک بڑا حجاب ہے۔ خدا تعالیٰ نے کلام مجید میں ایک جگہ اپنے بندوں کی مدح فرمائی ہے تو سب سے پہلے صفت یہ فرمائی ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا
اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔

اس کے بعد نماز اور اس کے بعد معاملات اس کے بعد عقائد وغیرہ کو فرمایا ہے۔ اس ترتیب میں غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ سب سے اول تواضع کی صفت کو فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ اگر تواضع نہ ہو تو ایمان نہیں ہے اسی طرح ایک مقام پر خدا تعالیٰ نے کفار کی نہاد فرمائی ہے تو اس میں ظلماً و علواً فرمایا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ انسان بت کی طرح بیٹھا رہے اور نوکراں کے سامنے کھڑے رہیں اب چونکہ کھانے میں بھی اس قسم کے تکلفات اور تصنیعات ہوتے ہیں لہذا اگر کوئی ایسا کرے جیسا اس درزی نے کیا تو لوگ اس کو بے تہذیب بتلادیں۔

تو حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے لکڑے تلاش کر کے کھارے تھے حضور کو تلاش کرتے دیکھ کر اس روز سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی ہے آپ نے دیکھا محبت اسی چیز ہے ہم کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ ہم کو محبت نہیں ہے ورنہ محبت وہ چیز ہے کہ محبوب کی ہر ہر ادا محبوب ہو جاتی ہے۔

عظمت کا اثر

اس زمانہ میں عظمت سے اس کی مثال سمجھو معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں ایک حاکم اعلیٰ لکڑا کر چلتا تھا تو ولد ادگان فیشن نے اس کی تقلید میں لکڑا کر چلنا شروع کر دیا تھا اسی طرح ایک بادشاہ کی داڑھی گاؤدم تھی تو لوگ مدت تک اسی قسم کی داڑھی رکھتے تھے بلکہ شاید دعا کرتے ہوں کہ ہماری داڑھی بھی اسی قسم کی ہو جائے اور ہم لکڑے ہو جائیں تو دیکھئے عظمت سے اس زمانے میں تخبہ کا مسئلہ ایسا چلا کہ علماء منع کرتے کرتے عاجز آگئے لیکن لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حالانکہ اس میں کوئی معدود ری بھی نہیں ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اس میں معدود ری بیان کی جا سکتی ہے جیسے رشوت کا دینا یا بعض اوقات میں لینا اگرچہ واقعیت کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی معدود ری نہیں ہے لیکن وضع میں تو کوئی مجبوری وہی بھی نہیں مگر وضع کا چھوڑنا دشوار ہو رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ عظمت نے اس کو محبوب بنادیا ہے تو اہل دنیا کی عظمت نے جب یہ رنگ دکھلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیوں یہ رنگ نہ دکھلاتی۔

صاحبو۔۔۔ اس کا کوئی شافی جواب دیجئے کہ اطمینان ہو ورنہ اپنی حالت درست کیجئے کیا جواب ہے اس کا کہ حضورؐ کی عظمت و محبت سے تو ذرا بھی رنگ نہ بدے اور ایک بے دین کی ایسی عظمت ہو کہ اس کی تقلید میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہ رہے میں کہتا ہوں کہ اگر اس پر عذاب بھی نہ ہو صرف خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو کھڑا کر کے یہ پوچھ لیں کہ حضورؐ کی عظمت

تمہارے دلوں میں زیادہ تھی یا شاہان دنیا کی تو کیا جواب دو گے؟ اگر کہو کہ یہ اتباعِ عظمت کی وجہ سے نہیں تو میں کہوں گا کہ بالکل غلط ہے بلکہ محض عظمت ہی کی وجہ سے ہے پس معلوم ہوا کہ لباس میں بھی حضورؐ کا اتباع کرنا چاہئے اور معاملات میں بھی۔

اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میری امت میں ۳۷ فرقے ہوں گے سب دوزخ میں جائیں گے مگر ایک اور وہ مانا علیہ واصحابہ (تفییر قرطبی ۳: ۱۶۰، ۱۲: ۱۳۰، تفسیر ابن کثیر ۲: ۲۳۰) ہے۔ مانا علیہ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ بعینہ وہی لباس ہو بلکہ اگر قولی اجازت ہو تو اس پر عمل کرنے والا بھی عامل بالست ہے تو یہ حکمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد میں وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا یعنی یہ کہ آپ ایک نمونہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ضرورت کو محسوس فرمایا کہ دعا کی کہ۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ (اے ہمارے رب ان میں ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بھیجئے جوانہ میں سے ہو۔

یہ تو تمہید تھی۔ اب صرف یہ مضمون رہ گیا کہ حضورؐ کیا حالت تھی اور وہ مہتمم بالشان ہے کہ اس میں یہ بتلایا جائے گا کہ ہم میں اہتمام بالشان دینی نہیں رہا۔ سو اس کو کسی دوسرے وقت بیان کر دیا جائے گا۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری اصلاح فرمائیں اور ہمیں توفیق عمل عطا فرمائیں۔ آمین

ضَرُورَةُ الْعِلْمِ بِالدِّينِ

اس وقت تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ اسلام کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ چھوڑ کر اس سے دور ہو رہے ہیں اور نامسلم لوگ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تمہید ہے اس دن کی جس دن کہ عجب نہیں کہ ایسے مسلمان خارج از اسلام ہو جائیں اور ایسے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں۔

ضرورت علم دین کے متعلق یہ وعظ ۵ ذی قعڈہ ۱۳۲۹ھ کو مدرسہ احیاء العلوم آله آباد میں تقریباً دو ہزار کے مجمع میں ہوا۔ پونے تین گھنٹے کھڑے ہو کر بیان فرمایا جسے مولانا سعید احمد صاحب نے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلَمَ.

اما بعد! اغُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
فقد قال اللہ تبارک وتعالیٰ رَبَّنَا وَابَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُّ
عَلَيْهِمْ اِيَّكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهُمْ طَاْنِكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرہ آیت نمبر ۱۲۹)

ترجمہ:- اے ہمارے پروڈگار اور اس جماعت کے اندر ان ہی میں کے ایک
ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور
ان کو (آسمانی) کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کریں اور ان کو پاک کر دیں
 بلاشبہ آپ ہی غالب القدرت کامل الانتظام ہیں۔

قرآن کی حیثیت

یہ وہی آیت ہے جس کی تلاوت جمعہ کے روز کی گئی تھی اور اس کے متعلق بطور تمہید کے
کچھ عرض کیا گیا تھا اور اس کا خلاصہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس حکایت میں یہ بات سادی ہے کہ
تمہاری یہ خصلت کہ اعتناء فی الدین میں قلت ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیونکہ
قرآن شریف میں جتنی حکایتیں ہیں ان سے مقصود جملہ انسائی ہیں۔ اگرچہ عنوان خبر کا ہے

یعنی صرف حکایت میں جیسی حکایت مقصود نہیں ہے اس لئے کہ قرآن شریف کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ ایک روحانی مطلب ہے جس میں امراض باطنی کا علاج بتایا گیا ہے اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کیونکہ آج کل لوگوں نے قرآن کے مواضع لہ کو بالکل نہیں سمجھا۔ قرآن میں وہ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں جو کہ قرآن میں نہیں ہیں کوئی اس میں سائنس ڈھونڈتا ہے کوئی جغرافیہ تلاش کرتا ہے اور بہت زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو اس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں کیونکہ ڈھونڈتا وہ شخص ہے جو کہ جانتا نہیں تو اس پر تو یہی تعجب ہے کہ اس نے ناواقفی سے غلطی کی مگر جو لوگ ثابت کر رہے ہیں ان پر زیادہ تعجب ہے کہ جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی فلسفے کی نئی تحقیق ظاہر ہوتی ہے تو اس کو زبردستی قرآن مجید میں ٹھوں کر بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن نے تیرہ سو برس پہلے اس کی خبر دی ہے اور اس سے قرآن کی باغت ثابت کی جاتی ہے اور ان علوم کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے۔

اسیں ان علوم کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے۔ میں بقیہ کہتا ہوں کہ ان صاحبوں کو اسلامی علوم کی ہوا بھی نہیں لگی صاحبو صنعت اور سائنس سے انکار نہیں کیا جاتا مگر گفتگو یہ ہے کہ قرآن کو اس سے کیا تعلق قرآن میں اگر اس کا ذکر ہے تو محض تبعاً قرآن میں صرف ایک مضمون ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب ہے طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں سے جس چیز کو تعلق ہے اس کا ذکر مقصود ایسا تبعاً آ گیا ہے۔ مثلاً اعتقادات اور اعمال مقصود بالذات ہیں کیونکہ قرب کا طریقہ یہی ہے اور بعض چیزیں جن کو سن وجہ دخل ہے وہ تبعاً آ گئی ہیں۔

مثلاً قرآن نے توحید کا دعویٰ کیا۔ اس کی دلیل میں ائمہ فیصلہ خلق السموات والآرضی۔ اخ فرمایا جس سے مطلب یہ ہے کہ ان کائنات میں بھی توحید کے دلائل ہیں تو ان کائنات میں چند حیثیتیں ہیں۔ اول ان کا دلیل توحید ہونا

(وسرے ان کے پیدا ہونے کے طریقے اور

تمیرے ان کے تغیرات کے ڈھنگ

قرآن کو صرف پہلی حیثیت سے ان سے تعلق ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ بادل کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور بارش کیوں کر ہوتی ہے اور اسی قسم کے حالات تو قرآن سے اس کا تلاش کرنا غلطی ہے بلکہ خود اس کی فکر میں پڑنا الغو ہے۔

حدیث میں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ (امسیح للہ امام احمد: ۲۰، کنز العمال: ۸۲۹۱:۳)

ترجمہ:- اسلام کی خوبیوں میں سے ایک ہے کہ بے کار کام ترک کر دئے جائیں۔ یہ ایسی کام کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اگر اس پر کار بند ہو جائیں تو ہم بہت سی مشکلات سے نجات پا جائیں اور اس کا ذرا عنوان بدل دیا جائے تو اس کی حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اضاعت وقت سے منع فرمائے ہیں اس وقت لوگ علی اعموم اضاعت اوقات کی قباحت اور حفاظت اوقات کے تحسان پر ترقی للسان ہیں لیکن اس پر عمل اگر کیا ہے تو شریعت نے کیا ہے دوسرا مخصوص دعویٰ ہی دعویٰ کرتے ہیں تو جس چیز میں کوئی معتمد بفائدہ نہ ہو وہ لا یعنی ہے۔

قرآن اور سائنسی تعلیم

اب فرمائیے کہ اگر کسی کو یہ ثابت بھی ہو گیا کہ باطل اس طرح بتتا ہے اور بارش یوں ہوتی ہے تو کیا نفع ہو گا اور اگر نہ معلم ہوا تو اس پر کون سا کام انکا ہوا رہ جائے گا مخصوص ایک تحقیق ہے کہ جس میں نفس کو حظ ہے دوسرے اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ان تحقیقات میں کوئی دنیاوی نفع ہے تو گفتگو اس میں ہے کہ قرآن جس امر کے لئے ہے اس کے ساتھ بھی اس کو کوئی تعلق ہے یا نہیں مولیٰ بات ہے کہ قانون شاہان میں تجارت اور زراعت سے بحث کی جاتی ہے مگر اس طرح کہ کوئی تجارت جائز ہے اور کون سی ناجائز تا کہ اس قائم رہے یہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ تجارت اس طرح کرنی چاہئے اور نفع کی فلاں فلاں صورتیں ہیں اگر قانون کی کتاب میں ساری باتوں کا ہونا ضروری ہے تو دکھلائیے کہ قانون گورنمنٹ میں یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟

بس قرآن بھی ایک قانون ہے اسن اور تجارت کا اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس قائم رہے اور آخرت میں نجات ہو۔ غرض قرآن ایک قانون ہے تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ حکام ظاہری کے قانون میں تو ان مسائل سائنس کو تلاش نہ کیا جائے اور خدا تعالیٰ کے قانون میں ان تمام باتوں کو تلاش کیا جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں۔

تو اس تقریر سے ثابت ہوا کہ جغرافیہ وغیرہ مقصود نہیں ہیں البتہ اگر ان کا ذکر ہو گا تو جبعاً ہو گا۔ کسی ضرورت کی وجہ سے اور بقاعدہ ضروری یہ تقدیر بقدر ضرورتہ ان کا ذکر بھی اسی قدر ہو گا جس قدر سے کوئی ضرورت متعلق ہے چنانچہ سائنس وغیرہ کے متعلق جو گفتگو ہے مخفی اس قدر کہ یہ سب مصنوعات ہیں اور ہر مصنوع کے لئے ایک صانع کی ضرورت ہے۔ سو اس استدلال کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت بھی دریافت ہو جائے بلکہ مجملًا ان کو علم ہوتا

کافی ہے۔ بلکہ ان مسائل کو موقوف علیہ کہنا مضر ہے راہ اس میں یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ مقدمات دلیل کے یا نظری ہوتے ہیں یا بد-ہی اور نظری کا مرتع مقدمات بدیہیہ مسلم ہوں گے جب یہ سمجھ میں آ گیا تو سمجھو کر قرآن ہدی للناس ہے اور ہدی للمتقین ہے۔

قرآن فہمی کی صورت

لیکن ہدی للمتقین سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض متقيوں کے لئے ہے اور غیر متقي کے لئے نہیں۔ اس آیت سے اکثر لوگوں کو وہ کہا ہو جاتا ہے نیز دوسری آیات سے بھی غلط سمجھ لیتے ہیں اور وجہ اس کی زیادہ تریہ ہوتی ہے کہ قرآن کو فلسفی نظر سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس سفر میں مجھ سے ایک صاحب نے اس کے متعلق دریافت کیا میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں یہ محاورہ ہے مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگ متqi نظر آتے ہیں یہ اسی کی بدولت متqi بنتے ہیں اس جواب سے وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب بالکل صاف ہو گیا۔ تو اس میں کوئی توجیہ یا تاویل نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ لوگ محاورات سے قطع نظر کر کے فلسفیانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی واسطے ضروری ہے کہ قرآن کو تمام علوم فلسفیہ سے پہلے کسی محقق عالم سے پڑھ لیں۔ باقی نرے ترجمے کا خود مطالعہ کرنے سے قرآن حل نہیں ہوتا۔

مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک وکیل میرے ہاں مہمان ہوئے۔ ان کے پاس قانون تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور ان کے سامنے اس کی تفسیر کی تو کہنے لگے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب ہم اپنے ابنائے جنس کے تجویز کردہ قانون کی اردو عبارت کو مطالعہ سے بدون اس کے کہ کسی ماہر سے حاصل کریں حل نہیں کر سکتے تو قرآن شریف کو محض اس کا اردو ترجمہ دیکھ کر کیسے حل کر لیں گے۔

پس وہ لوگ جو محض ترجمہ کو دیکھ کر قرآن کے مطالب حل کرنا چاہتے ہیں کیسی بڑی غلطی میں بتلا ہیں۔ اور پھر غصب پر غصب یہ ہے کہ ترجمہ بھی وہ دیکھا جاتا ہے جو بحیثیت ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ میں یہ ضروری بات ہے کہ قرآن کا مدلول باقی رہے اور آج کل کے ترجموں میں ان کو باہمی اورہ کرنے کے درپے ہو کر اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ قرآن کے ترجمے میں با محاورہ کے اتباع کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن کوئی ادب کی کتاب نہیں ہے اس کا فیصلہ علماء سے کرنا چاہئے۔

ترجمہ قرآن کی ایسی مثال ہے جیسے نسخہ لکھتا اور اگر کوئی غیر فصحیح الفاظ میں نسخہ لکھے لیکن ادویہ سب سبھیک ہوں تو نسخہ کا آمد ہے اور اگر تہایت فصحیح بلغ الفاظ میں لکھے لیکن ادویہ کا نام غلط لکھ دے تو نسخہ برکار ہے۔

تو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ترجمے میں مخفی محاورے کا اتباع کرتے ہیں گواصل مدلول محفوظ نہ رہے۔ اس وقت اس قسم کے بہت سے ترجمے ہو گئے ہیں تھیں کی ضرورت نہیں البتہ اب لوگوں کو اتنا ضرور کرنا چاہئے کہ جب تک علماء سے دریافت نہ کرو اس وقت تک کسی ترجمہ کو بھی نہ دیکھو اور دریافت کرنے کے بعد بھی اپنے دیکھنے پر اکتفانہ کرو بلکہ کسی سے پڑھو۔ یہ صورت قرآن مجید کے صحیح سمجھنے کی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس وقت یہ غلطی عام ہو رہی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے اسی واسطے اشکالات ہوتے ہیں ورنہ کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ مثلاً ہدی للحقین ہی میں یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف ترقی کے لئے ہدایت ہے اور کسی کے لئے نہیں۔ حالانکہ یہ غلطی ہے بلکہ تعلیم اس کی عام ہے اور ولائیں بھی عام فہم ہیں۔ نجع میں ایک جملہ معترضہ کہتا ہوں۔

آج کل کا مرض

وہ یہ کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن مجید کے دلائل عام فہم ہیں تو ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت ہونی چاہئے۔ چنانچہ آج کل اجتہاد کا ایسا زور ہے کہ لوگ مخفی ترجمہ دیکھ کر اجتہاد کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک موزن آیا اور کہنے لگا کہ قرآن شریف سے مسح ارجل بھی ثابت ہے اور شاہ عبدال قادر صاحب کا ترجمہ لا کر دکھلایا۔ وہ ترجمہ اگر صحیح اور با محاورہ ہے لیکن اس کو بھی خود دیکھ کر سمجھنا مشکل ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ دھوؤ اپنے منہ اور ہاتھوں کو اور ملو اپنے سردوں کو اس کے بعد ہے وار جلکم اس کا عطف ہے ایدیکم پر۔ اور وہ معمول ہے اغسلو ا کا ترجمے میں یہ لکھا تھا کہ اور پیروں کو آپ کو بوجہ صرف و نحو نہ جانے کے یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ کس کے ساتھ متصل ہے۔ آپ نے اس کو قریب کے ساتھ متصل کیا اور ظاہر ہے کہ جو شخص صرف و نحو سے واقف نہ ہو گا وہ قریب ہی کے ساتھ متصل کرے گا اور جانے والا یہ دیکھ لے گا کہ ارجلکم ہے منصوب لہذا مجرور کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ قرات بھی دوسری لی جائے اس وقت دوسرے قواعد سے اس عطف کا پتہ چلے گا مجھ کو سخت پریشانی ہوئی کہ اس کو کیوں کر سمجھاؤں اور کیوں کر کہوں کہ اس کا عطف ایدیکم پر ہے کیونکہ یہ عطف ہی کوئی نہیں جانتا آخیر میری سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ دماغ تھکانا فضول ہے کیونکہ یہ اس کی استعداد سے بالکل باہر ہے۔

یہ بھی آج کل مرض ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی استعداد سے زیادہ سوال کرتے ہیں۔ ایک انجینئر ملے اور مجھ سے سوال کیا میں نے کہا کہ یہ بلاعثت کے متعلق ہے آپ اس کو نہ سمجھ سکیں گے کہنے لگے کہ وادھ صاحب عالم تو وہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے فہم کے مطابق سمجھادے میں نے

کہا کہ بہتر مجھے آپ اقلیدس کے مقالہ اول کی پانچویں شکل سمجھادیں لیکن اس طرح کہ نہ تو اصول موضوع کا حوالہ ہونہ علوم متعارفہ کا واسطہ ہو اگر اس طرح سمجھانا ممکن ہے تو میں اس تقریر کے سننے کا بہت زیادہ مشتاق ہوں اور اگر کہتے کہ اس طرح سمجھانا ممکن نہیں تو میں کہوں گا کہ عالم اقلیدس وہی ہے جو ہر شخص کو اس کے فہم کے موافق سمجھادے۔

کہنے لگے کہ اچھا تو ہم کو کیا کرنا چاہئے میں نے کہا کہ اگر شوق ہے تو انجینئری کو طاق پر رکھئے اور ہمارے پاس آ کر نیز ان سے کتابیں شروع کیجئے جب اس مقام تک تعلیم پہنچے گی تو ہم بتائیں گے کہنے لگے کیا بہم بڑھے ہو کر پڑھنے پڑھیں گے میں نے کہا کہ اگر تحقیق کا شوق ہے تو اس کی تو یہی صورت ہے اور اگر یہ صورت منظور نہیں تو ہماری تقلید کیجئے اور جو کچھ ہم کہیں اس کو مان لیجئے اور یہ بات ایسی بدیہی ہے کہ ہر شخص اس کو جانتا ہے اور رات دن اسی کے موافق کارروائی ہوتی ہے۔

مثلاً ایک شخص بوڑھا آپ کے پاس ۲۰ روپیہ ماہوار کی چھوڑ کر آیا اور رسولہ دن کی تنخواہ کی مقدار آپ سے پوچھئے اور آپ نے حساب کر کے بتادی تو اگر وہ یہ کہے کہ کیا میں بڑھاپے میں حساب سکھوں گا تو آپ یہی جواب دیں گے کہ وجہ سمجھنے کے لئے تو اسی کی ضرورت ہے اگر اس کی ہمت نہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کو سمجھو علی ہذا۔

ایسے ہی واقعات روزمرہ ہوتے رہتے ہیں دیکھنے دینیوی امور میں کبھی کوئی نہیں الجھتا ہمیشہ تقلید کی جاتی ہے اور دینی امور میں ہر شخص خود مجتهد ہے۔ طبیب کے پاس جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو بلا چون وچہاراں لیا جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ نسخے میں یہ دوا کیوں لکھی اور اس دوا کا یہ وزن کیوں لکھا جبکہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا منظور ہوتا ہے۔ جان کو عزیز سمجھتے ہیں کھو دکر یہ میں اندیشہ ہوتا ہے کہ طبیب بگز نہ جائے اور دین پر عمل کرنا منظور نہیں واللہ اگر دین پر عمل کرنا ہوتا تو غنیمت سمجھتے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہم کو سیدھا راستہ بتا سکتے ہیں کیونکہ جب انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے متعلق عمل کے موافق علم ہو جانے کو بہت غنیمت سمجھا کرتا ہے یہ چون وچہاروں ہوتی ہے جہاں کام کرنا مقصود ہے۔

مثلاً ایک شخص کو اشیش جانا ہے اور راستے سے واقفیت نہیں تو اگر کوئی معمولی آدمی بھی کہے کہ چلو میں اشیش پر پہنچا دوں تو بے تامل اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس امر پر کہ جس راستے کو تم جا رہے ہو یہ اشیش پر پہنچا دے گا اور اشیش سے زیادہ دور نہ کر دے گا کیونکہ جانتا ہے کہ اس میں چون وچہارا کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خفا ہو کر

یہ مجھے بھیں چھوڑ دے گا اور پھر میں نہ پہنچ سکوں گا۔

اسی طرح اگر کسی بڑے اسٹیشن پر یہ معلوم نہ ہو کہ دلی اور لکھنؤ کی جانے والی گاڑی کون سی ہے تو ایک قلنی کے کہنے پر یقین آ جاتا ہے اور بغیر کچھ پس و پیش کئے ہوئے اس کو مان لیا جاتا ہے اور اس مفت کے علم کو غنیمت سمجھ کر قلنی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے ہاں اگر جانا ہی نہ ہو تو اس میں نکتہ چیزیں نکالی جاتی ہیں اور اس کو بنایا جاتا ہے کہ ہاں جناب تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ کانپور کو یہی گاڑی جائے گی اور میں یہ کیونکر مان لوں کہ یہ دس بجے ہی چھوٹ جائے گی علی ہذا۔

غرض جب تک استعداد محققانہ نہ ہو اس وقت تک تقلید کرنی چاہئے اور جب ایسی استعداد ہو جائے تو وہ مبارک ہے اس وقت جس قسم کے سوالات بھی (بشر طیکہ لفونہ ہوں) چاہیں پیش کریں لیکن اس کی کچھ عادت ہو گئی ہے۔

چنانچہ اس موزن نے مسح ارجل کے متعلق سوال کیا میں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے کہنے لگا کہ علماء کے کہنے سے میں نے کہا کہ جب قرآن کا قرآن ہونا علماء کے کہنے سے مان لیا تو اس کو بھی علماء کے کہنے سے مان لو کہ یہ روں کا مسح نہیں ہے بلکہ غسل ہے اور واقعی یہ مولیٰ بات ہے کہ جب علماء کے کہنے سے ایک عربی کتاب کو خدا کا کلام مان لیا تو ایک مسئلے کو علماء کے کہنے سے ماننے میں کیا تاثل ہے۔

ایک شخص پرتا ب گڑھ میں ملے اور فاتحہ خلف الامام کے متعلق سوال کیا میں نے کہا کہ آپ کو دوسرے سب مسائل محقق ہو گئے۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا میں نے کہا کہ اچھا آپ مسلمان ہیں پھر میں آپ سے دلیل پوچھوں گا اور دنیا بھر کے مذاہب کو پیش کر کے سب کی تردید کروں گا اگر آپ ایک جگہ بھی جھبجھے تو آپ مقلد ہیں اور جب کہ آپ اصل مذہب میں مقلد ہیں تو فرعی مسائل میں تقلید کرتے کیوں عار آتی ہے۔

بات وہی ہے کہ اس وقت لوگوں کو کام کرنا مقصود نہیں ہے ورنہ کام کرنے والوں کی صورت ہی اور ہوتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ترجمہ اس وقت تک کافی نہیں ہے۔ جب تک کسی عالم سے اس کو پڑھنے لیا جائے اگر خود پڑھنے کا شوق ہو تو لفظ ہی پڑھنے چاہیں کیونکہ خود مطالعہ کرنے سے مطلب حل نہیں ہو سکتا اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر قانون میں امتحان دینا چاہیں اور کسی سے پڑھانے ہو تو ہرگز پاس نہ ہوں گے اور جب لکھنے بخشیں گے میں یوں شہے پڑیں گے اور اپنی سمجھ کو ہرگز کافی نہ سمجھا جائے گا۔ تو جب ایک معمولی قانون میں یہ حالت ہے تو قرآن ہی اس قدر ستائیں ہو گیا کہ ہر شخص اس میں محقق ہے اور اپنی ساری تحقیقات اس میں ختم کر دی گئی ہیں علماء سے مزاحمت کی جاتی ہے۔

مضا میں قرآن کی نوعیت

غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن بہت آسان ہے تو ہر شخص کو محقق بننے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی تو بات یہ ہے کہ الفاظ اور ترجمہ آسان ہے لیکن اخذ اور استنباط بہت مشکل ہے اس کیلئے اجتہاد کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو قرآن کا یہ جزو مشکل ہے باقی آسان اور دلائل تو حید بھی اس اعتبار سے آسان ہیں کہ جو شخص مجتہد بھی نہ ہو وہ بھی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ اب سمجھئے کہ اگر دلائل تو حید میں سائنس کے مسئلے مذکور ہوتے تو حید کا سمجھنا ان کے علم پر موقوف ہوتا اور وہ خود نظری ہیں تو تو حید بدون ان کے سمجھے ہوئے ثابت نہ ہوتی اور مخالف ان دلائل کے عرب کے بادیہ نشین تک ہیں تو وہ تو حید کو کیسے جانتے تو یہ نقصان ہے قرآن میں مسائل سائنس داخل کرنے کا کہ اصل مقصود ہی اڑا دیا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ گو قرآن میں جگہ جگہ سماوات اور ارض ہیں لیکن سماوات بے صیغہ جمع اور ارض بے صیغہ واحد لایا گیا تاکہ مقدمات میں شغب نہ ہونے لگے پھر مستقل دلیل سے بتا دیا کہ زمین بھی سات ہیں چنانچہ بعض کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ ہم تو سب جگہ پھرے ہم کو تو کوئی دوسری زمین نہیں ملی اور ارض کا ترجمہ حدیث تعداد رض میں اقليم کا کیا اور غصب تو یہ ہے کہ بعض الہ علم نے بھی یہ لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ جب قرآن میں بعد سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا کے مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ فرمایا ہے تو اقليم ترجمہ کرنے کی گنجائش کہاں ہے اور حدیث میں صاف آ گیا ہے کہ سات آسان ہیں اور ہر دو آسان کے درمیان ۵۰۰ برس کی راہ ہے پانچ سو برس سے مراد کثرت ہے۔ اس کے بعد زمین کے متعلق یہی فرمایا ب اقليم کی تاویل کیسے چل سکتی ہے رہایہ اشکال کہ ہم کو دوسری زمین نظر نہیں آتی سواں کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے آپ نے اس کو کب سمجھا ہو مثلاً ان ہی سیاروں میں سے چندیا رے ہوں۔

افسوس ہے کہ مسلمان اگر ایک بات کو اپنے لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں تو یقین نہیں کرتے اور اگر اسی بات کو دوسری قومیں کہہ دیتی ہیں تو صحیح سمجھا جاتا ہے چنانچہ اسی زمین کے مسئلے کے متعلق علماء مدت سے کہہ رہے ہیں اور لوگ یقین نہیں کرتے اور اب چند روز سے جو دوسری قومیں مرتخ کے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کر رہی ہیں جن سے بعض امور میں اس کا مشابہ اس زمین کے ہونا معلوم ہوتا ہے ان کا یقین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھئے کتنی بڑی اور کتنا نئی تحقیق ہے۔

غرض ممکن ہے کہ یہ سیارے ہی وہ زمین ہو اور کوئی دوسری مخلوق وہاں رہتی ہیں جس کا

تعین ہم نہیں کر سکتے نہ ہم کو بتلا ای گیا اور نہ اس کی ضرورت اور ہم کو اپنی تو خبر ہی نہیں دوسرا مخلوق کی کیا خاک خبر ہو سکتی ہے ہماری وہ حالت ہے۔

تو کار زمیں رانکو ساختی کے با آسمان پر جانے کی بات کرتا ہے۔
تونے زمین کے کام درست کر لئے کہ آسمان پر جانے کی بات کرتا ہے۔

ہماری حالت وہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہے کہ اس پر فوجداری کے بہت سے مقدمات قائم ہیں مگر وہ احمد اپنی فکر کو چھوڑ کر سارے الہ آباد کے مقدمات کی تحقیقات کرتا پھرے ظاہر ہے کہ اگر اس کو ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ ان سب کو چھوڑ کر اپنے مقدمات کی فکر کرتا۔ اسی طرح جو لوگ دنیا پھر کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ ان پر تعزیرات الہی کی بہت سی دفعات عائد ہو رہی ہیں یہ ان کی سخت نادانی اور غفلت ہے۔

غرض ہم کو بتایا نہیں گیا لیکن ممکن ہے کہ کچھ مخلوق چاند اور مرخ وغیرہ میں ہو۔ پس نصوص کی تکذیب کی کوئی ضرورت نہیں تو باوجود یہ کہ یہ بات ثابت تھی مگر پھر بھی قرآن میں ارضیں نہیں فرمایا بلکہ ارض صینہ واحد ارشاد فرمایا۔

وہ جو اس کی یہ ہے کہ مقصود صرف یہ ہے کہ ان مصنوعات سے توحید پر استدلال کیا جائے اور استدلال مقدمات مسئلہ سے ہوا کرتا ہے تو اگر ارضیں فرماتے تو اصل مقصود تو ثابت نہ ہو سکتا اور یہ مسئلہ گفتگو کے قابل ہو جاتا اور اب یہ ہوا کہ جو لوگ واقف ہیں وہ لفظ ارض ہی سے جو کہ اسم جنس ہے قلیل کثیر سب کو شامل سمجھے لیتے ہیں اور جو لوگ واقف نہیں وہ بھی بجہ ایک ارض کے محسوس ہونے کے نفس استدلال کو بخوبی سمجھے گئے تو معلوم ہوا کہ قرآن میں کسی ایسے مسئلے سے کام نہیں لیا گیا جس سے سامع کو الجھن ہو۔ تو اگر سائنس کے مسئلے اس میں ہوتے تو سامعین ان کی تحقیق میں پڑ جاتے اور ہر شخص کو اس کے آلات و ذرائع کی تحصیل ممکن نہ تھی تو ہر شخص ایک الجھن میں پڑ جاتا نیز ان میں اختلاف اس قدر ہے کہ آج تک بھی کوئی بات محقق نہیں ہوئی دیکھئے قطب تک پہنچنے میں جو کہ محسوس ہے کس قدر اختلاف پس مسائل حق کی بنا ان پر کیوں کر ہو سکتی ہے تو واجب ہے کہ قرآن کو سب سے خالی کیا جائے یہی قرآن کی خوبی ہے اور ہر فن کے لئے یہی بات خوبی کی ہوتی ہے نحوبی کی خوبی یہ ہے کہ اس میں طب کے مسئلے نہ ہوں طب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں زراعت تجارت کے مسئلے نہ ہوں اگر طب کی کتاب میں ہر ورق کے بعد زراعت اور تجارت کا بھی ایک ایک مسئلہ ہو تو تمام عقولاء

اس کو نہیں گے اس لئے کہ طب کی کتاب میں ان سائل کا ہونا بے موقع ہے۔

اس موقع پر مجھے یاد آیا ہمارے وطن میں ایک شاعر تھا ب ان کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے اپنا ایک دیوان مرتب کیا تھا نہایت ہی بیہودہ اس میں ردیف ضاد نہ تھی لوگوں نے کہا جناب اس میں ردیف ضاد نہیں ہے کہنے لگے کہ دوسری کسی ردیف میں سے ایک غزل لے کر ہر شعر کے آخر میں لفظ مقراض بڑھا دو اور ردیف ضاد میں لکھ دواب غور کجھے کہ ان کی اس حرکت کو س نظر سے دیکھا جا رہا ہے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن بھی ایسا ہی دیوان ہو کہ اس میں تمام ردیفیں ہوں گو بے دربط ہوں۔

قرآن کی تعلیم امن

قرآن نے صرف دو چیزوں کا اہتمام کیا ہے ایک امن عام کہ اس دنیا میں رہ کر یہ حالت ہو کہ کے ربا کے کارے بناشد کوئی کسی کے کام میں ناگ نہ اڑائے۔

میں کہتا ہوں کہ جو اس قرآن نے سکھلایا ہے کسی قانون نے نہیں سکھلایا لیکن فسوس ہے کہ اس وقت لوگ مسلمانوں کو شورش پسند کرتے ہیں حالانکہ اگر معاونہ کر کے دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ اس پسندادہ عافیت جو کوئی قوم دنیا میں نہیں ہے مثل کے طور پر ایک جزئی بیان کرتا ہوں جمع کے متعلق فرماتے ہیں۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جَبَنَازِكُمْ جَبَنَازِكُمْ هُوَ جَبَنَازِكُمْ تَوْرِيزِكُمْ تَوْرِيزِكُمْ

وہ جمع جو کہ محض خدا تعالیٰ کی عبادات کے لئے اور خدا تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لئے جمع ہوا ہے اس کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب اپنا کام کر چکو تو جمع رہنے کی کوئی ضرورت نہیں سب منتشر ہو جاؤ کیونکہ ممکن ہے فضول اجتماع سے کوئی خرابی پیدا ہو آگے فرماتے ہیں۔

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل (روزی) کو تلاش کرو۔

جس سے مقصود یہ ہے کہ منتشر ہو کر بھی ادھرا دھرمارے مارے نہ پھرو۔ کیونکہ اس میں پھر فساد کا احتمال ہے بلکہ رزق حلال کی تلاش میں لگو پھر فرماتے ہیں وَإذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یعنی خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو کیونکہ اصل مقصود یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تو حق تعالیٰ کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ جمع بلا ضرورت نہ ہوتا چاہے اور اگر کسی ضرورت سے ہو تو ضرورت کے ختم ہو جانے پر سب کو منتشر ہو جانا چاہے غور کجھے کہ نماز یوں کا جمع جس میں شورش و فساد کا احتمال ہی نہیں ہے مگر چونکہ خدا تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان ضعیف ہے عجب نہیں کہ اس میں تو تو میں میں ہو جائے اگرچہ جو تی پیز ارنہ ہو۔ اس لئے حکم فرمادیا کہ سب منتشر ہو جاؤ۔

غرض ایک تو قرآن میں اس کی رعایت ہے دوسرے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی ان دو امر کے سوا اگر کوئی تیرا مسئلہ آ گیا ہے تو وہ اس کے تابع ہو کر آیا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اس کے سوا اور کوئی مسئلہ نہ ہونڈنا چاہے علی ہذا اگر حکایتیں قرآن میں ہیں تو وہ بھی ان ہی کی خادم ہو کر ذکر کی گئی ہیں کہ فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو ان کو یہ سزا ملی اور فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو ان کو یہ اجر ملا، ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم کو بھی ایسی ہی سزا ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ جہاں جملہ خیریہ ہیں ان سے مقصود جملہ انشائیہ ہی ہیں۔

چنانچہ اس مقام پر بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعتناء فی الدین نہایت ضروری ہے جس کی تفصیل آیت میں ہے ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے ایک رسول پیدا کر کہ وہ ان کو تیری آیات سن دے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم کرے اور ان کو پاک کرے۔

اس حکایت کے نقل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اے سننے والوں بھجو جاؤ کہ ضروری چیزیں یہ ہیں جن کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور ضروری سمجھ کر ہم سے دعا کی۔

اب سمجھتا چاہئے کہ وہ ضروری چیزیں کیا ہیں سو وہ مفصلات تو تمیں چیزیں ہیں یعنی اور یعلم اور یعنی کی۔ اور محدث ایک چیز ہے جس کو دین کہتے ہیں کیونکہ سب دین ہی کے شعبے ہیں اس لئے کہ دین مرکب ہے وہ چیزوں سے ایک علم اور دوسرا عمل جیسے فن طب کہ اس میں اول علم کی ضرورت ہوتی ہے پھر عمل کی۔

روحانی امراض کی تشخیص

تو قرآن بھی حقیقت میں طب روحانی ہے کہ اس میں روحانی امراض کے علاج کے قواعد اور جزئیات بتلانے گئے ہیں امراض خواہ متعلق قلب کے ہوں یا جوارج کے اور امراض قلب کا مرض ہونا حواس سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے اور جب تک وجدان صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی اطلاع بالدلیل ہوتی ہے۔

وہ دلیل یہ ہے کہ اطاعت خداوندی صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم سے خارج ہونا اعتدال سے خارج ہونا ہے کیونکہ خط مستقیم ایک ہی خط ہوتا ہے یعنی اگر دونوں قطوب کے درمیان بہت سے خطوط سے اتصال کیا جائے تو ان خطوط میں خط مستقیم ایک ہی ہو گا جو کہ سب سے اقصر ہو باقی سب ثیڑ ہے ہوں گے اور اعتدال سے خارج ہونا مرض ہے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مرض ہوا اور اس سے معلوم ہوا ہو گا کہ سب طریقوں سے مختصر طریق اور اقصر طریق

شریعت اسلامی ہے تو اس اعتدال سے جب کوئی خارج ہو گا وہ مرض کہلاوے گا اور قرآن میں اس کو مرض کہا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے فی قلوبهم ترجمہ: (ان کے دلوں میں بیماری ہے) مرض اس کی تفسیر جب تک کہ وجدان صحیح نہ ہو سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ اس کے مرض ہونے کی صفت امر باطن ہے جو حواس سے ادراک نہیں ہوتا لیکن جب وجدان صحیح ہو جاتا ہے اس کا مرض ہونا وجدان سے معلوم ہو جاتا ہے جیسے امراض ظاہری کی حالت ہے کہ بعض اوقات وجدان سے معلوم ہو جاتا اور بعض اوقات نہیں ہوتا تو جیسے امراض طبیہ میں بعض امراض وجدانی ہیں اسی طرح امراض باطنی بھی وجданی ہیں کہ جب وجدان صحیح ہوتا ہے تو ان کا ادراک ہوتا ہے۔

اس کا ایک امتحان بتلاتا ہوں وہ یہ کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو دیکھنے کیسی تکلیف اور رنج ہوتا ہے اور اپنے نفس کو انسان کیسی ملامت کرتا ہے اگر کوئی کہے کہ ہم کو تو کبھی نہیں ہوتا دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن کچھ بھی تکلیف ورنج کا احساس نہیں ہوتا تو میں کہوں گا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ابتداء سے آج تک یہ شخص مرض ہی میں بتلا ہے صحت کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی کہ اس کی راحت کا احساس ہوا اور اس سے مرض گناہ کی کلفت کا احساس ہوا اس شخص کی ایسی مثال ہے جیسے ایک اندھا مادرزاد کہ اس کو یہی ادراک نہیں ہو سکتا کہ میں اندھا ہوں کیونکہ میں عدم البصر کو کہتے ہیں تو جس کو بصر کا ادراک نہ ہو اس کوئی کا ادراک کیوں کر ہو گا تو مریض بھی اپنے کو وہی سمجھنے گا اور مرض کی کلفت بھی اسی کو ہو گی جس نے کبھی صحت دیکھی ہو پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم کو تو کبھی تکدر نہیں ہوتا تو وہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کبھی انتشار ہی نہیں ہوا۔ اس کو چاہئے کہ انتشار پیدا کرے اس کے بعد دیکھے کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ کم از کم یہی کرے کہ امتحان ہی کے لئے ایک ہفتہ کی رخصت اپنے معمولی کاموں سے لے اور کسی صاحب برکت کے پاس جا کر رہے اور اس سے اللہ کا نام پوچھ کر جس طرح وہ بتلاوے ایک ہفتہ تک کام میں مشغول رہے کام میں مشغول ہونے کے بعد دیکھنے گا کہ دل کی ایک نئی حالت ہو گی جو کہ اس سے قبل نہ تھی اس کو تو محفوظ رکھی پھر دیکھنے کے پہلی حالت اور اس جدید حالت میں کوئی فرق ہے یا نہیں واللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی حالت نہایت مکدر تھی اور اب ایک صحت نصیب ہو گئی ہے اور ایک قسم کا انتشار قلب ہے۔

ای لئے میں نے کہا تھا کہ جب وجدان صحیح ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا مرض ہونا معلوم ہو جاتا ہے تو اسکی کوشش کیجئے کہ وجدان صحیح ہوتا کہ مرض کا مرض ہونا تو معلوم ہو جائے کہ اس کے بعد علاج پر

تعجب ہو دیکھئے اگر معمولی زکام ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے مگر افسوس ہے کہ اتنا بڑا مرض ہم کو لوگ رہا ہے کہ ہماری روح اس میں تخلیل ہو رہی ہے لیکن ہم کو ذرا فکر نہیں ہے۔ قرآن نے ہم کو اس کا علاج بتایا ہے اور ایسے مصارف پر اطلاع دی ہے تو قرآن مطب رو حادثی ہے اس میں صرف دو چیزیں ہیں ایک علم اور دوسرا عمل یعنی کی میں عمل کی طرف اشارہ ہے اور یہ علم میں علم کی طرف حاصل یہ ہوا کہ اے سنتے والو! اہتمام کے قابل دو چیزیں ہیں علم اور عمل انہی کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔

پھر علم میں دو مرتبے ہیں ایک الفاظ اور ایک معانی کیونکہ کسی چیز کے جاننے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ ان الفاظ کے معانی خواہ اردو میں ہوں یا عربی میں خواہ زبانی علم ہو یا کتاب سے تو گویا ترتیب کسی فن کے جاننے کی یہ ہوتی ہے کہ اول الفاظ کا تحقیق ہوتا ہے اور پھر دلالت علی المعانی اور پھر ان کی حقیقت کا اکشاف اور پھر عمل مثلاً اگر کسی طبیب سے کوئی نسخہ دریافت کیا تو اول اس کے الفاظ معلوم ہوئے پھر ان الفاظ سے معانی پر دلالت ہوئی پھر ان کی حقیقت کا اکشاف ہوا ان سب مراتب کے بعد اس نسخے پر عمل کیا گیا یہی ترتیب عقلی دین میں بھی ہے۔

دین کی آسانی

خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے دین کی کوئی عجیب شکل نہیں بنائی بلکہ جو ترتیب ہمارے روزمرہ امور میں ہے وہی ترتیب اس میں بھی رکھی کہ ہولت ہو حالانکہ دین وہ چیز ہے کہ اگر اس کا ذہنگ بالکل نرالا اور سخت بھی ہوتا ہے بھی اس کو بکوش حاصل کرنا چاہئے تھا کیونکہ دین کے حاصل کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا اور نہ حاصل کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ جیسے کوئی طبیب کڑوان سخن لکھ دے تو اس کے پینے سے جو کچھ نفع ہو گا میریض کو ہو گا اور نہ پینے سے بھی جو کچھ ضرر ہو گا میریض کو ہو گا چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو دو ٹوک کر کے فرمادیا ہے کہ۔

فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيُكْفُرْ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

اور قرآن میں بہت سی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ ہمارا نہ کوئی نفع تھا میرے ایمان سے اور نہ کوئی ضرر تھا میرے کفر سے اور یہ فرمانا ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کہتے لگے کہ اگر تم دو اپیو تو ہمارا کیا نفع اور نہ پیو تو ہمارا کیا ضرر بلکہ حکیم کو تو ایک گونہ نفع بھی ہے خدا تعالیٰ کو تو کچھ بھی نفع نہیں۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے لئے اسکمال بالغیر محال ہے۔ ہر چیزان کے افادہ وجود کی محتاج ہے مگر وہ

کسی امر میں کسی کم تاج نہیں ہیں۔ آفتاب عالمجاہ عطر خانہ اور گھورہ سب پر روشن ہے لیکن نہ اس کو عطر خانہ سے خوشبو پہنچتی ہے نہ گھورے سے بد بواہی کو مولا نا فرماتے ہیں۔

ما بری از پاک و ناپاکی ہمہ وز گراں جانی و چالاکی ہمہ کہ ہم تو ایے مقدس ہیں کہ پاکی سے بھی پاک ہیں۔ پاکی سے پاک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جیسی پاکی تم سمجھتے ہو، ہم اس پاکی سے پاک ہیں۔ کیونکہ انسان کتنی بھی تقدیس کرے لیکن احصاء غیر ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لا احصی ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك (المسند للإمام أحمد)

(۱۵۸:۶ اتحاف السادة المتعصمين)

ترجمہ:- میں آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا جیسی آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ واقعی بڑی سے بڑی تعریف اور تقدیس بھی اس کے واقعی تقدس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس کی مثال مولا نا نے بیان فرمائی ہے کہ۔

شah را گوید کے جواہ نیست۔ ایں نہ مدح ست او مگر آگاہ نیست یعنی اگر کوئی شخص با دشah کی یہ تعریف کرے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جوالا ہے نہیں ہیں تو کیا اس کو کوئی مدح کہے گا۔ ہرگز نہیں اسی طرح ہمارے فہم کے موافق ہمارے نفع کے لئے تسبیح کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اسی کو مولا نا فرماتے ہیں۔

من نگردم پاک از تسبیح شاہ پاک ہم ایشان شوند دور فشاں یعنی لوگوں کی تسبیح اور تقدیس سے ہم پاک نہیں ہو گئے بلکہ اس سے وہی پاک ہو گئے۔ غرض خدا تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہاں نہ نفع پہنچنے ضرر حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا مطیع ہو جائے تو خدا تعالیٰ کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا مچھر کا پر برخلاف یہاں کے سلاطین کے کہ جس قدر رعایا اطاعت کرے سلطنت زوردار ہے اور اگر رعایا اطاعت نہ کرے تو سلطنت کمزور ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا کے با دشah رعایا کے بنائے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ خود بالذات کامل ہیں۔ لہذا رعایا کو خود اپنے نفع کی فکر کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت سے کچھ بھی نفع نہیں ہے۔ غرض طبیب کہ جس میں بوسانٹ بعیدہ نفع کا احتمال ہے جب اس طبیب کو حق ہے وہ جیسا نہ چاہے تجویز کرے تو خدا تعالیٰ کو اس سے زیادہ حق ہے کہ جیسا قانون چاہئے مقرر کرتے کیونکہ وہ حاکم علی

الاطلاق بھی ہیں اور اس میں ہمارا ہی نفع ہے مگر یہ ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے نہایت آسانی اور سہولت رکھی ہے مگر افسوس ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے بھی جان چلاتے ہیں علماء سے درخواست کی جاتی ہے کہ احکام میں پچھا آسانی کر دو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ احکام شریعت کی تبدیل و تغیر بالکل علماء کے ہاتھ میں ہے مجھے ایک بڑھیا کا واقعہ یاد آیا ہے کہ جب وہ حج کو گئی اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے لگی تو دو تین پھیرے کر کے مطوف سے کہنے لگی کہ اب تو مجھ سے نہیں ہو سکتے خدا کے لئے اب تو مجھے معاف کر دو تو جیسے وہ بڑھیا یہ سمجھتی تھی کہ مطوف کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں۔

ایک رئیس والی ملک ایک بڑے حاکم سے ملنے کے لئے گئے یہ رئیس بہت دبلے ہو رہے تھے۔ اس حاکم نے پوچھا کہ آپ اس قدر دبلے کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے دبلا ہو رہا ہوں کہنے لگا کہ آپ اپنے پادریوں سے کمیٹی کرائے ان کو فروری کے مہینے میں کیوں نہیں کرا لیتے انہوں نے کہا کہ جناب اس قسم کے اختیارات آپ ہی کی کمیٹی کو ہیں ہمارے علماء کی کمیٹی کو ایسے اختیارات نہیں ہیں۔

غرض پہلے تو غیر قومیں اس قسم کی درخواستیں پیش کرتی تھیں۔ مگر افسوس ہے کہ اب مسلمان ہی اس قسم کی درخواستیں پیش کرنے لگے ہیں بلکہ یہاں تک ستم ہونے لگا ہے کہ لوگ درخواست سے گزر کر رائے دینے لگے ہیں کہ ضرور ایسا کرنا چاہئے۔

میں ایک مرتبہ لا ہور گیا تو بہت سے خیر خواہان قوم نے یہ طے کیا کہ اس وقت سود کے مسئلے پر گفتگو ہو جائی چاہئے چنانچہ ان کی خواہش پر گفتگو کی گئی لیکن جلد گفتگو کا خاص تھا۔ یعنی صرف علماء تھے سب لوگ مشتاق تھے کہ دیکھنے کیا تجویز ہوتا ہے حالانکہ وہاں اس کے سوا کیا تجویز ہو سکتا تھا جو کہ تیرہ سو برس سے چلا آ رہا ہے اس واسطے کہ اہل علم میں سے کس کی وہ ہمت ہو سکتی تھی جو کہ آج کل کے نوجوان ہمت کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک صاحب نے ایک رسالہ میں حرم الربو (سود کو حرام قرار دیا) میں یہ تحریف کی کہ ربوا کو بضم را کہا اور اس کے معنی اچکنے کے لئے میں کہتا ہوں کہ اس سے سیدھی بات تو یہ تھی کہ زنا ہی کہہ دیتے کیونکہ زنا عربی کا لفظ تو ہے ربا تو عربی کا لفظ بھی نہیں بلکہ ربودن سے فارسی کا لفظ ہے رہا سم خط کا اشکال سور با بضم الرا بھی واو سے نہیں ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے مشہور ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کو کچھ نہ دیتا تھا اس نے جا کر ایک عالم سے شکایت کی انہوں نے لڑکے کو بلا کر اس کا سبب پوچھا کہنے لگا اگر قرآن شریف میں ماں کا حق کہیں نکل آئے تو میں ضرور دوں گا چونکہ یہ بالکل جاہل تھا اس لئے ان کو فکر ہوئی کہ کوئی ایسی سنبھال ہو کہ اس کی سمجھ میں بھی آجائے آخر کہنے لگے کہ تو نے کچھ قرآن بھی پڑھا ہے اس نے کہا دو چار سورتیں پڑھی ہیں کہنے لگے کہ تبت یہاں ابی لہب و تب پڑھی ہے اس نے کہا ہاں جب اس نے تبت پڑھی اور اس میں ماکبب پڑھاتو کہنے لگے کہ دیکھ اس میں تو لکھا ہے کہ ماں کا سب سب کچھ ماں ہی کا ہے تیرا کچھ بھی نہیں لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب اب دیا کروں گا۔ تو انہوں نے تو ایک ثابت شدہ مسئلے کو اس جاہل کے ذہن نشین کرنے کے لئے محض ظرافت کے طور پر ایک اردو کے جملے کو قرآن کا جزو کہا تھا لیکن اس ظالم نے قرآن میں صریح تحریف کی کہ ربواؤ کو حلال کرنے کے لئے اس کی حرمت کو قرآن سے اڑانا چاہا۔

قرآن میں تحریف کی کوشش

غرض ہر شخص قرآن اور احکام شریعت کے متعلق ایک نئی رائے اور تجویز رکھتا ہے گویا
قرآن ایک بچوں کا کھلیل ہے کہ

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت جو بھی آیا اس نے نئی عمارت بناتی۔

آج کل کی اصلاح ایسی ہے جیسے کہ ایک بڑھیا نے باشناہی باز کی اصلاح کی تھی کہ وہ اتفاقاً اس کے ہاتھ آ گیا تھا یعنی جب اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن بھی بہت بڑھ رہے ہیں اور چونچ بھی بڑھی ہے تو بہت کڑھی اور کہنے لگی کہ تو کس بے رحم کے ہاتھ گرفتار ہو گیا تھا جس نے نہ تیرے ناخنوں کی خبر لی نہ تیری چونچ کو درست کیا تو کس طرح کھاتا ہو گا کس طرح چلتا ہو گا اور یہ کہہ کر اس کے ناخن اور چونچ سب قیچی سے کاٹ دیئے تو جیسے اس نے باشناہی کی اصلاح کی تھی ایسے ہی یہ لوگ بھی قرآن میں اصلاح کرتے ہیں۔

آخر جب وہ مجلس ختم ہوئی اور وہ مضمون شائع ہوا تو ان لوگوں نے بہت افسوس کیا اور کہنے لگے کہ افسوس اب تک بھی علماء کو ہوش نہیں آیا کہ اتنی ضرورت ہے اور یہ لوگ ابھی تک اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں میں نے ایک بیان میں کہا کہ ظالمو! اگر تم کو اپنی عاقبت ہی خراب کرنا ہے تو حلال کہہ کر ابد الاباد کے لئے تو بر باد نہ ہو تمہاری مختصر عذر ضرورتیں تو اس طرح بھی پوری ہو

سکتی ہیں کہ حرام سمجھوا اور بھتار رہوا اور خدا تعالیٰ سے معافی چاہتے رہوا پنی حرکت پر نادم رہوا اور میں نے کہا کہ یاد رکھو اگر دنیا بھر کے علماء متفق ہو کر ربوا کو حلال کہہ دیں تو جو لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں وہ اس وقت بھی حلال نہ سمجھیں گے ہاں یہ ضرور ہو گا کہ علماء کو گالیاں دیں گے کہ یہ پڑھ لکھ کر اور سمجھ بوجھ کر برباد ہونے اس واسطے کہ اس دین کا حافظ خدا تعالیٰ ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی خاص جماعت کی تعریف کرنے سے یہ دین محرف ہو سکے اس دین میں انقلاب کا اگر کسی درجے میں اندیشہ تھا تو حضور کی وفات پر تھا اور جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی دین میں انقلاب نہ ہوا تو اب قیامت تک کے لئے اطمینان ہے اب اس میں بگڑنے کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا تو اگر کوئی مولوی اس میں تحریف کرنا چاہے تو نتیجہ وہی ہو گا جو اس وقت کے محرفین کا ہو رہا ہے یعنی مرد و عنده اللہ و عنده الناس ازیں سورائدہ ازاں سواندہ

نہ خدا ہی ملا نہ ربوا ہی ملا نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے غرض یہ حالت ہو رہی ہے کہ طرح طرح کے تصرفات اور تکلفات قرآن میں کئے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے کو محقق فی الدین سمجھتا ہے حالانکہ ترقی یافتہ قوم نے جن کی ہمارے بھائی تقلید کرتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لی ہے کہ ہر شخص ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا ایک فن کا ماہر دوسرے فن میں دوسرے شخص کا مقلد ہے۔

دیکھئے۔ اگر ایک بڑا سائنس دان کسی مکان میں قیام کرے اور کوئی انجینئر آ کر کہے کہ دو گھنٹے کے اندر یہ مکان گرجائے گا تو وہ فلسفی اس کے کہنے سے فوراً مکان خالی کروے گا اور باوجود بہت بڑا فلسفی ہونے کے اس انجینئر کی تقلید کرے گا اور اس تقلید میں اس کو کچھ عارضہ ہو گی اور جب یہ مسئلہ مسلم ہے تو اس کے موافق تو ضرور عمل کرنا چاہئے اس واسطے کہ یہ آپ ہی کے پیشووالوں کی تحقیق ہے۔ غرض یا تو محقق بنئے اور اس کا سامان کریے جہل کو دور کجھے اور علم سیکھئے کیونکہ یہ ساری خرابی کم علمی کے سبب سے ہے اور یا تقلید کجھے کہ جو لوگ جانے والے ہیں وہ جو کچھ کہہ دیں اس کو صحیح سمجھتا اور عمل کجھے پس دین میں تسلیل کی غرض سے اپنی رائے سے کام نہ لجھے دین مکمل ہے اور ہل بھی ہے علم و عمل کی کمی

چنانچہ اس مقام پر اصلاح کی ترتیب کس قدر ہل ہماری فطرت کے موافق رکھی ہے کہ اول علم کی طرف اشارہ کیا پھر عمل کی طرف سواں آیت میں ان ہی دو چیزوں یعنی علم و عمل کو بیان

کیا گیا ہے اور چونکہ علم کے دو شعبے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا اس لئے گویا اس آیت کی مدلول تین چیزیں ہوئیں الفاظ اور معانی اور عمل اور ہم کو ان تینوں کا حاصل کرنا ضروری ہوا۔

اب دیکھئے کہ ہم نے ان تینوں جزوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے عمل تو قریب قریب بالکل ہی مفقود ہے لیکن خیر تھوڑا بہت مشغله ہے گو دنیا ہی کے لئے ہو اور جن لوگوں کو تحقیق حقیقت ہے وہ کچھ تھوڑا بہت عمل پر بھی متوجہ ہیں مگر ایک جزو ایسا ہے کہ اس کو بالاتفاق سب نے چھوڑ رکھا ہے یعنی خدمت الفاظ قرآن جو کہ علم کے دو شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے چنانچہ آج کل کے عقلاء کا تو اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے اور کہتے ہیں کہ بچے کے اتنے دن کیوں ضائع کئے جائیں میں کہتا ہوں کہ اگر تلاوت ایک بے کار اور فضول چیز ہے تو قرآن مجید میں جو جا بجا تلاوت کی فضیلت آئی ہے اور حکم فرمایا ہے اور تلاوت کرنے والوں کی مدح فرمائی گئی ہے کیا یہ سب تر غیب اور حکم محض بے کار چیز پر ہے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

أَتُلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

ترجمہ: جو آپ ﷺ کی طرف وحی کیا گیا کتاب میں اس کی تلاوت کیجئے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

يَتَلَوُنَ آيَاتُ اللَّهِ أَنَاءَ الْأَيَّلِ وہ ساری رات اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا قرآن کے یہ اجزاء عمل کرنے کے لئے نہیں محض دیکھنے کے لئے ہیں؟ اور کیا یہ حالت پیدا کر کے ہم لوگ صاحب کتاب کھلانے کے مستحق ہیں؟

صاحبو... اگر کسی شخص کے پاس بہت سامال ہو اور وہ اس کو کسی ایسی جگہ رکھ دے کہ اس سے منفع نہ ہو سکے تو کیا اس شخص کو مالدار کہیں گے۔ پس ایسی حالت میں جیسا وہ صاحب مال ہے ایسے ہی آپ صاحب کتاب ہیں۔ افسوس آپ نے ایک عظیم الشان دولت کو چھوڑ دیا ہے اور پھر آپ کو ذرا غم نہیں ہے حالانکہ اگر دینی پہلو سے دیکھا جاوے تب تو قرآن ہی میں یہ حکم موجود ہے اور اگر کسی کو قرآن میسر نہ ہو تو میں عقلی قواعد کی رو سے پوچھتا ہوں کہ آیا علوم دینیہ کا باقی رکھنا ضروری ہے یا نہیں یقیناً اس کا جواب بھی دیا جائے گا کہ ضروری ہے اور جب ضروری ہے تو چونکہ قرآن ان کا منع ہے اس کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہو گا ورنہ وہ کون سی صورت ہے کہ علم بدون الفاظ کے باقی رہ سکے۔ اگر کہو کہ عربی ہی کی کیا ضرورت ہے تو میں

کہوں گا کہ ترجمہ بھی کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ بعض اصطلاح ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ذوق وجود ہوتے ہیں اور ان کی مختلف تفسیریں ہوتی ہیں اب اگر الفاظ کو نہ لیا جائے تو اس کی وہ حالت ہو گی جو کہ آج کل توریت و انجیل کی حالت ہو رہی ہے کہ طالب حق کو اصل احکام معلوم ہی نہیں ہوتے معلوم ہوا کہ اصل الفاظ کا باقی رہنا نہایت ضروری ہے۔

اگر کہو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو سمجھ لو کہ اگر پڑھنا چھوٹ جائے تو قرآن کا لکھتا اور چھپنا اور فروخت ہونا سب چھوٹ جائے اور قرآن کہیں بھی دستیاب نہ ہو۔ یہ بات اس وقت آپ کو ملکی معلوم ہوتی ہے مگر ایک صدی کے بعد آپ دیکھنے کے کیا حالت ہو گی اور اگر دستیاب بھی ہو تو صحیح لکھنا جانا اور صحیح معلوم ہونا یہ سب اسی تلاوت اور حفظ کی بدولت ہے اس وقت علوم دینیہ کی جوگت ہو رہی ہے ظاہر ہے تو اگر تلاوت بھی بالکل ترک کر دی جائے اور لوگوں کے ذہن سے قرآن اتر جائے اور پھر کسی لفظ یا آیت میں اختلاف ہو تو کون شخص فیصلہ کرے گا بلکہ میں کہتا ہوں کہ علوم دینیہ اگر باقی بھی رہیں تب بھی پڑھنا چھوڑ دینے کی صورت میں قرآن مجید کی صحیح نہیں ہو سکتی۔

مجھے اپنے بچپن کا قصہ یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز میں قرآن سنارہا تھا اور والد ماجد مرحوم سن رہے تھے۔ میں اس زمانے میں صرف نحو کی چھوٹی کتابیں پڑھا کرتا تھا جب میں نے یہ آیت پڑھی۔ **فَيُؤْمِنُ الَّذِي لَا يُعَذَّبُ عَذَابَةَ أَحَدٍ**

پس اس روز خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہ نکلے گا۔

تو یعدب کی ذال کو مفتوح پڑھا اور اپنے ذہن میں عذاب کی ضمیر کا مرجع نائب فاعل انسان کو اس سے قبل آیت میں مذکور ہے قرار دیا اور کسر ذال کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہ آئی والد صاحب مرحوم نے ٹوکا میں نے پھر وہی پڑھا انہوں نے مکر ٹوکا میں نے پھر وہی پڑھا انہوں نے تیسرا بار پھر ٹوکا تو میں نے بکسر ذال پڑھا لیکن دل میں یہ خیال رہا کہ والد صاحب نے صحیح نہیں بتایا جب سلام پھیسا تو انہوں نے پوچھا کہ تم اتنا اصرار کیوں کرتے ہو میں نے کہا کہ کسرہ کے معنی نہیں بنتے اس لئے غلط ہے قرآن دیکھا گیا تو کسرہ لکلام ارے وہم کے اور قرآن دیکھا سب میں وہی کسرہ آخر اپنی غلطی ظاہر ہوئی۔

یہ مثال کے طور پر اپنا ایک واقعہ بیان کر دیا ہے اسی طرح اور بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن حفظ کی بدولت وہ سب صحیح ہو جاتی ہیں اور اگر حافظ باقی نہ رہیں تو باوجود علماء کے ہونے کے بھی تحریف ممکن ہے تو یہ سب حافظوں کی بدولت ہے کہ قرآن صحیح موجود ہے اب فرمائیے کہ حفظ کی کتنی ضرورت ثابت ہوئی بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر حفظ کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے اور

پڑھنا پڑھانا چھوٹ جائے اور قرآن کے صحیح نئے موجود ہوں تب بھی صحیح نہیں پڑھا جاسکتا۔

اس کی تائید کے لئے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میرے بھائی ریل میں سوار تھے اور ایک تفسیر آن کے ہاتھوں میں تھی جو کہ ٹاپ کے چھاپے کی چھپی ہوئی تھی ایک صاحب بہادر بھی اسی درجے میں سوار تھے بھائی سے کہنے لگے کہ میں اس کتاب کو دیکھ سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ دیکھنے آپ نے تفسیر کو اٹھا کر دیکھا اول ہی الرنکا۔ صاحب بہادر نے بہت دیر تک اس کو سوچا جب سمجھ میں نہ آیا تو بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟

آلو؟ بھائی نے تفسیر ہاتھ سے لے لی اور کہا کہ یہ آپ کے دیکھنے کی نہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ اپنی اس تجویز پر اس روز بد کو سوچ کر دیکھنے کے جب کما آپ بھی اس انگریز کی طرح آکر کوا لو پڑھنے لگیں گے واللہ جب تک کسی پڑھے ہوئے سے نہ پڑھا جائے ممکن نہیں کہ آریا اس کے مثل دوسرے الفاظ کو صحیح پڑھ دیا جاوے آخر یہ کس طرح معلوم ہو گا کہ تلفظ میں الف لازم را علیحدہ علیحدہ پڑھنے جائیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس کے صحیح پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جو اس حد تک پہنچ چکے ہوں اس وقت ہماری گفتگو نہیں ہے۔

حفظ قرآن کی ضرورت

ایک اور دلیل حفظ قرآن کے ضروری ہونے کی بیان کرتا ہوں اور یہ دلیل اس وقت کے مذاق کے اعتبار سے بہت عجیب دلیل ہے اس کے لئے اول دو مقدمے سنئے۔

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جتنی ارضی و سماوی کتابیں ہیں ان میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ یاد ہو کر یاد رہ سکے اور اگر کسی نے یاد بھی کر لیا تو بہت بڑے حافظے کی ضرورت ہے اور قرآن شریف بہت جلد یاد ہو جاتا ہے اور بہت تھوڑی عمر میں لڑکے اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔

چنانچہ قصہ پانی پت میں تو اگر دس برس کا بچہ حفظ نہ کر لے تو کہتے ہیں کہ کیا بوڑھا ہو کر حفظ کرے گا اور اکثر لڑکیاں بھی وہاں کی حافظ ہوتی ہیں اور سبھ کی جانے والی لڑکیاں متعدد ہیں اور قرآن کے حفظ کے ایسے عجیب و غریب قصے ہیں کہ لوگ سن کر تعجب کرتے ہیں۔

چنانچہ میرے ایک دوست بروڈان کے رہنے والے ہیں انہوں نے تین ماہ سے بھی کم مدت میں قرآن حفظ کر لیا تھا ایک اور میرے دوست نے اپنے پیر یعنی میرے استاد کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے سینے میں ایک نور داخل ہوا۔

انہوں نے ایک معتبر سے بیان کیا انہوں نے تعبیر یہ دی کہ تم کو قرآن حفظ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے یاد کرنا شروع کیا۔ سو چھ ماہ میں اچھا خاصہ حفظ ہو گیا۔

ایک اور قصہ یاد آیا ایک واعظ مظفر نگر میں وعظ کہہ رہے تھے ایک آیت میں قصد اُر کے اور حاضرین سے خطاب کیا کہ اس مجلس میں جتنے حافظ ہوں کھڑے ہو جائیں تاکہ میں ان سے یہ آیت پوچھ سکوں اس کو سن کر ایک کثیر جماعت کھڑی ہو گئی انہوں نے کہا کہ صاحبو! مجھ کو آیت یاد ہے میں نے صرف یہ دکھلانا چاہا کہ مسلمانوں کے اساتفاقی اور مختصر مجمع میں جہاں خاص حفاظت ہی کو جمع نہیں کیا گیا ایسی تعداد سے مذہبی کتاب کے بر زبان یاد رکھنے والے موجود ہیں کیا دوسرا کوئی قوم قصد اجمع کر کے بھی اس قدر تعداد اپنی مذہبی کتاب کے حافظوں کی دکھلا سکتی ہے غرض قرآن مجید بہت سہولت سے یاد ہوتا ہے ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔

دوسرہ مقدمہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عقلاً اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نیچر ہر زمانے میں اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کو شرعی اصطلاح میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہر زمانے میں اس چیز کو پیدا کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔

ان دونوں مقدموں کے مہد ہونے کے بعد میں کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ مادہ طبیعت میں ودیعت کیا ہے کہ قرآن شریف بہت جلد یاد ہو جائے معلوم ہوا کہ فطرۃ اس کے حفظ کی ضرورت ہے تو صاحبو! اپنے نیچر کی مخالفت نہ کرو۔

سنا ہے کہ نول کشور کے ہاں ایک پتھر پر قرآن لکھا ہوانالی پر رکھا ہوا تھا مولوی حبیب الرحمن صاحب سہارنپوریؒ نے اسے دیکھا تو اس سے کہا مشتی صاحب یہ تو ہمارے اور آپ کے دونوں کے نزدیک معظم ہے ہمارے نزدیک قرآن ہونے سے اور آپ کے نزدیک پتھر ہونے سے کہ مادہ بت کا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو لوگ رسولؐ کے قبیع ہیں ان پر رسولؐ کے کہنے سے اور جو لوگ نیچر کے قبیع ہیں ان پر نیچر کے کہنے سے اس کی حفاظت ضروری ہے پس ثابت ہوا کہ حفاظ بننا ضروری ہے ہاں آپ ڈریے نہیں۔ میں یہ نہ کہوں گا کہ ہر شخص حافظ ہو البتہ ہر شخص پر حفاظ کو ضروری سمجھنا ضروری ہے مگر ضروری سمجھنے کی یہ علامت نہیں کہ صرف نہ سے کہنے لگو کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں بلکہ اس کا ضروری ہونا دل میں رچ جانا چاہئے اور اس کا پتہ آثار سے خود بخود چل جاتا ہے۔

ویکھئے اگر شراب نہ پی ہو تو کبھی وجہ اور بے ہوشی نہیں ہو گی اگر چہ زبان سے کتنا بھی کہا جائے

کہ شراب پی ہے اور جب پی جائے گی تو فوراً ہی اس کا اثر بھی ظاہر ہو گا اگرچہ اس کو لتنا ہی روکا جائے۔
 تو محض یہ کہہ دینا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کافی نہیں ہے بلکہ دل سے ضروری سمجھنا چاہئے جس پر آثار
 بھی مرتب ہوں اور عمل بھی ہو اور اگر کہئے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ سارے کام ہم کریں ضروری بھی ہم، ہی
 سمجھیں اور اس پر عمل بھی ہم ہی کریں دنیا میں اور لوگ بھی تو ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے لوازم
 کے ساتھ ہوتی ہے اس ضروری سمجھنا بھی جب کبھی متحقق ہو گا اپنے اوازم کے ساتھ متحقق ہو گا اور وہ عمل ہے۔
 اس اعتراض پر مجھے ایک حکایت یاد آئی حضرت مولانا محمود حسن صاحب سلمہ کے ہاں ایک طالب
 علم تھے نہایت ہی کم سمجھا ایک مرتبہ سبق میں انہوں نے مولانا سے ایک سوال کیا جو مختص من ایک عویٰ کو تھا
 مولانا نے فرمایا کہ اس کی دلیل بیان کرو تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا ضرورة ہے کہ سارے کام ہم ہی کریں
 عویٰ بھی ہم ہی کریں دلیل بھی ہم ہی بیان کریں پس عویٰ ہم نے کر دیا ہے دلیل آپ بیان کر دیں۔

اب غور کیجئے کہ اس حکایت پر سب کو ہنسی آتی ہے لیکن اپنے اس خیال پر کہ جب ہم حفظ
 قرآن کو ضروری سمجھتے ہیں تو ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہنسی نہیں آتی حالانکہ دونوں واقعہ ایک ہی
 مرتبے میں ہیں صاحبو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر سب کے سب اسی پر متفق ہو جائیں
 کہ ہم کو محض ضروری سمجھ لینا کافی ہے اور اس سمجھنے پر عمل ایک بھی نہ کرے تو آخر قرآن کو حفظ
 کون کرے گا؟ کیا یہود اور نصاری کریں گے؟ اور اس وقت جو رنگ پلٹ رہا ہے اور زمانے کی
 رفتار میں جو تغیر ہو رہا ہے اس پر نظر کر کے یہ بھی بعد نہیں معلوم ہوتا اگرچہ ابھی تک اس تغیر کی
 ابتدائی حالت ہے کہ سنپھالنے سے سنپھل سکتی ہے لیکن اگر اس پر توجہ نہ کی گئی تو پچاس برس کے
 بعد بالکل ہی نئی حالت ہو گی اس واسطے کہ اس وقت مسلمانوں نے اکثر قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا
 ہے اور دوسری قوموں نے بغرض اعتراض کرنے کے پڑھنا شروع کیا ہے تو اگر یہی رفتار رہی تو
 چند روز میں عجب نہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے بعد اور آن کفار کو اسلام سے قرب ہوتا جاوے۔

دنیا کی حقیقت

اسلام سے بعد کا پہلا زیستہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف دنیا کے
 حاصل کرنے پر متوجہ ہو رہے ہیں اور تحصیل دین کو خل دنیا سمجھ رہے ہیں اور واقعی حقیقت یہ ہے
 کہ دنیاۓ حلال دین کے ساتھ سایہ کی طرح ہے اگر کوئی سایہ کو پکڑنا چاہے تو اس کی صورت
 یہی ہے کہ اصل چیز کو حاصل کرے تو دنیا بھی جبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب دین کو مضبوطی کے

ساتھ اختیار کیا ہو۔ آج افسوس ہے کہ فلسفہ و حقیقت شناسی کی اتنی بڑی ترقی ہے لیکن لوگ دنیا کی حقیقت میں ذرا غور نہیں کرتے۔ محض مال اور جاہ کی طلب کو اصل مقصد سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر دیکھنے کے قابل ہے کہ مال کیوں مقصود ہے اور جاہ کیوں مطلوب ہے۔

سو مال تو جلب منفعت کے لئے مطلوب ہے اور جاہ و فرع منفعت کے لئے یعنی ہم کو بڑائی کی اتنی ضرورت ہے کہ ظالموں کی دست بردا سے محفوظ رہیں۔ دیکھنے سے چمار وغیرہ بیگار میں پکڑے جاتے ہیں لیکن جو معزز لوگ ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے کیونکہ وہ ذمی جاہ ہیں اور جاہ ایک قدرتی قلعہ ہے تو یہ دونوں چیزیں جلب منفعت اور فرع منفعت کے لئے ہیں پس مال اس قدر کافی ہے کہ جس سے ہم منافع حاصل کر سکیں۔ اب لوگوں نے نفس مال کو معبعد مطلق بنا رکھا ہے تو یہ کتنی بڑی فلسفی غلطی ہے۔

صاحبو۔۔۔ اصل مقصود محض دین ہے جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو دوسرے مقاصد خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں چنانچہ دیکھ لجھے کہ جو لوگ خدا کے کام میں لگے ہیں ان میں کوئی بھی پریشانی میں بنتا نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ اس قدر آسانش میں ہیں کہ اہل دنیا کو بھی اتنی آسانش تصیب نہیں ہے اور امتحان اس کا یہ ہے کہ اول ایک بڑے سے بڑے دنیادار کے پاس ایک مہینہ رہے اس کے بعد اہل اللہ میں سے کسی کے پاس ایک مہینہ بھر رہ کر دیکھنے۔ پھر دونوں کی حالت میں موازنہ کیجئے۔ آپ کو صاف معلوم ہو گا کہ وہ دنیادار طرح طرح کے افکار میں بنتا ہے اور یہ دین و اپریشانی سے محفوظ و مامون ہے۔ یہ تو مال کی عایت تھی۔

رہی جاہ اس میں بھی اہل اللہ اہل دنیا سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں عزت جس چیز کا نام ہے وہ انہی حضرات کو نصیب ہے کیونکہ عزت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو عزت زبان سے اور ایک دل سے اہل دنیا کی جو کچھ عزت ہوتی ہے وہ محض زبان اور ہاتھ پیر سے ہوتی ہے یعنی لوگ ظاہر میں ان کی عزت کرتے ہیں دل میں کسی قسم کی وقعت ان کی نہیں ہوتی اور اہل اللہ کی عزت دل سے ہوتی ہے۔ دوسرے اہل دنیا اور اہل اللہ میں اس سے بھی زیادہ ایک فرق ہے اور وہ ایک تدبی مسئلہ ہے۔ یعنی معزز وہ شخص کہلانے گا کہ جو اپنی قوم میں معزز ہوا یک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرامقدمہ یہ ہے کہ مجموع مرکب میں قوم وہ جماعت ہے۔ جس کے آhad زیادہ ہوں جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گیہوں کا ڈھیزو وہ کھلانے گا جس میں گیہوں زیادہ ہوں۔ اس پر قیاس کر کے اب میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں میں زیادہ افراد کن لوگوں کے ہیں؟ غرباء کے یا امراء کے؟ ظاہر ہے کہ غرباء مسلمانوں میں زیادہ ہیں تو مسلمانوں کی قوم غرباء کی جماعت کا نام

ہو گا ب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ غرباء میں کس کی عزت زیادہ ہے اہل اللہ کی یا اہل دنیا کی ہر شخص جانتا ہے کہ اہل اللہ کی عزت غرباء میں زیادہ ہے تو قوم کے نزدیک معزز اہل اللہ ہوئے تو اس تدبی مسئلے سے ثابت ہو گیا کہ مال اور جاہ سے جواہر مقصود ہے وہ اہل اللہ ہی کو حاصل ہے۔

بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا کو تمام مقصود نہیں کہتے لیکن دین اور دنیا دونوں کا جامع بننا چاہتے ہیں اور اس کو بہت بڑی خوبی اور کمال سمجھا جاتا ہے مگر یہ جمع ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سارے زنانے کپڑے پہن کر ان کے ساتھ ایک ٹوپی بھی پہن لے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس کو دیکھے گا ایک مسخری عورت کہے گا جو لوگ جامع بن رہے ہیں ان کو دیکھے جسے کہ غالب ان کے اوپر دنیا ہی ہے۔ مسلمان کے جامع ہونے کے معنی تو یہ ہونے چاہیے کہ اس پر دین غالب ہو اور حسب ضرورت دنیا بھی لیتا ہو غرض مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان میں سب کے سب دیندار ہوں۔

اہتمام خدمت دین

چونکہ معاش کی بھی ضرورت ہے اس لئے کچھ افراد اس میں بھی لگیں اور کچھ افراد ایسے بھی ہونے چاہیے کہ وہ محض خادم قوم ہوں کیونکہ اگر سب کے سب تحصیل معاش ہی میں پڑ جائیں تو دین کا سلسلہ آگے کوئی نہیں چل سکتا۔ مثلاً سر شیۃ تعلیم کو ہی لیا جائے کہ اگر اس میں کوئی نہ جائے تو ساری نوکریاں بند ہو جائیں گی اسی طرح دین کے کام میں بھی اگر کوئی نہ لگے تو یہ کام بند ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ایک جماعت محض خادمان دین کی ہو کہ یہ لوگ اس کے سوا اور کوئی کام نہ کریں اور میں اس کی ایک نظر رکھتا ہوں کہ قانون حکم ہے کہ جو شخص ملازم سرکار ہو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا چنانچہ اگر کسی نے کیا تو اس کو یا ملازمت چھوڑ نے پر مجبور کیا گیا اور یا اس کو دسرے کام کے ترک کرنے پر مجبور کیا گیا۔

علی ہذا سید صاحب کو دیکھنے کے ان کو دنیا کی دھن تھی تو اس میں کیا حالت تھی کہ اپنی زندگی اور آسانش سب اس میں صرف کر دی میں کوئی چیز نہیں ہوں لیکن یہ حالت ہے کہ جب کبھی کوئی رسالہ لکھتا ہوں تو اتوں کو نیند نہیں آتی پہل کاغذ پاس لے کر سوتا ہوں اور اتوں کو اٹھا اٹھ کر جو کچھ یاد آتا ہے اس کو لکھتا ہوں تو اگر ایسے شخص کو کوئی دوسرا کام دے دیا جاوے تو نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ بھی خراب ہو گا اور وہ بھی۔

ایک شاعر کی حکایت مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک مصرع سو جھا فوراً نماز توڑ دی اور اس مصرع کو لکھا گواں کی یہ حرکت پسندیدہ نہ تھی لیکن اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ جب کسی کام کی دھن ہوتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے تو اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ایک جماعت کا ایسا ہوتا ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کے سوا اور کوئی کام نہ کرے۔ اس جماعت پر یہ الزام بھی

بالکل خلاف انصاف ہے کہ یہ قوم کحتاج نہیں البتہ اگر وہ تم سے مانگیں تو ان کو جو چاہو سو کہو سو
بحمد اللہ ان کا تونماق ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کہنے
لگے کہ ہم خدا کے مہماں ہیں اور مہماں تین دن کی ہوا کرتی ہے اور۔

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٌ مِمَّا تَعُدُّونَ

ترجمہ: اللہ کے یہاں ایک دن تمہارے دنوں کی گنتی سے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔
حضرات واللہ! اس وقت بھی ایسے خدا کے بندے موجود ہیں کہ لوگ ان کو دیتے ہیں اور
وہ نظر بھی نہیں کرتے اور ان کی وہ حالت ہے کہ۔

دلارا می کہ داری دل در و بند ڈگر چشم از ہمہ عالم فرو بند
اپنے محبوب کے اندر ہی دل لگا اس کے سوا ساری دنیا سے آنکھیں بند کر لے۔
وہ ایک ہی ذات میں ایسے منہمک ہیں کہ کسی دوسرے کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا شاہ
نیمروز نے ایک بزرگ کو لکھا (ویکھنے اس حکایت سے معلوم ہو گا کہ دینے والے درخواست
کرتے ہیں اور لینے والے صاف انکار کرتے ہیں) کہ میں چاہتا ہوں اپنا آدم حاکم نیمروز
آپ کے حوالے کر دوں آپ نے جواب میں تحریر فرمایا۔

چوں چتر سخبری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوں ملک سخبر
زانگہ کہ یافتہ خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم
شاہ سخبر کی تاج کی طرح میرا مقدر سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں ملک سخبر کی ہو جب سے
مجھے شب بیداری کی لذت معلوم ہوئی میں ملک نیم روز کو ایک جو کے بد لے بھی لیتا نہیں چاہتا۔
غور کیجئے کہ ادھر سے اصرار ہے اور ادھر سے سوکھا جواب کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں اور
اس میں تصنیع نہیں تھا ورنہ اثر کیوں ہوتا توجہ وہ آپ سے مانگتے نہیں تو آپ کو کیا فکر ہے اور
جب یہ بات ہے تو آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے کھائیں گے اور اگر کہنے کہ یہ تو شافی
جواب نہ ہوا کیونکہ اس میں یہ تو پتہ ہی نہ چلا کہ آخر کہاں سے کھائیں گے تو صاحبو! یہ جواب تو
میں نے مفترضین کی رعایت کر کے دیا تھا۔

خدمام دین کی خدمت

لیجئے اب میں اصلی جواب دیتا ہوں لیکن اس میں مفترضین کی رسائی ہو گی اس جواب

کے لئے اول میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور جب یہوی اس کے گھر آئی تو وہ یہوی سے پوچھنے لگا کہ تم نے نکاح تو کر لیا مگر یہ تو بتلا و کہ تم کھاؤ گی کہاں سے۔ تو وہ یہوی اس کو کیا جواب دے گی ظاہر ہے کہ یہ جواب دے گی کہ میاں میں تمہاری جیب سے لے کر کھاؤں گی۔ اور کہے گی کہ تم کو یہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی اس سوال سے خود اپنی بے عزتی ظاہر کر رہے ہو اور یہ جواب نہایت سچا اور حق جواب ہو گا۔

جب یہ مثال سمجھ میں آگئی تو اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ لوگ انہی معتبر ضمین کی جیبوں سے وصول کر کے کھائیں گے اور اس سوال سے یہ معتبر ضمین اپنی قلعی کھول رہے ہیں کہ ہم میں حمیت نہیں ہے کہ خادمان دین کی خدمت کو ضروری سمجھا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو شخص کسی کام میں محبوس ہواں کا ننان و نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے چنانچہ یہوی کا ننان نفقہ اسی لئے شوہر پر واجب ہے چنانچہ اگر وہ از خود اپنے گھر چلی جائے تو شوہر پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا حالانکہ یہوی اس وقت بھی رہتی ہے۔ اسی طرح قاضی کا نفقہ بیت المال میں سے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی ضرورت میں محبوس ہے۔

اب دیکھئے کہ بیت المال کس چیز کا نام ہے سو بیت المال کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال کا مجموعہ اور بلطفہ دیگر مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے مگر چندہ ذیل لفظ ہے اور بیت المال اور خزانہ معظم لفظ ہے لیکن حقیقت ایک ہی ہے چنانچہ بادشاہ کو خزانہ شامی سے تنخواہ ملتی ہے وہ خزانہ کیا چیز ہے کیونکہ خزانہ بھی مسلمانوں کے پیسے پیسے دو دو پیسے کے مجموعہ کا نام ہے تو اگر یہ ذلت ہے تو بادشاہ نے بھی یہی کیوں لیا تیز تمام حکام کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اس مد میں سے ملتی ہے کیونکہ وہ اس قدر محبوس اور مجبور ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا کام کریں تو مجرم سمجھے جاتے ہیں۔

اور یعنی جب کسی کو گواہی میں طلب کیا جاتا ہے تو اس کو خوارک کی رقم دی جاتی ہے اور اس کی مقدار متفاوت ہوتی ہے یعنی بڑے آدمی کے لئے زیادہ اور ادنیٰ درجے کے لئے کم اس میں بھی وہی راز ہے کہ اس مدت تک یہ شخص من لہ الشہادۃ کے کام میں محبوس رہا یہ مسئلہ ایسا بدیہی ہے کہ کفار تک نے بھی اس کو سمجھا تو خادمان قوم جب قوم کے کام میں لگے ہیں تو وہ بھی اپنا خرچ قوم سے لیں گے اور اگر یہاں نہ ملے گا تو خدا تعالیٰ کے ناش کر کے لیں گے عرض عقلاء نقلا دونوں طرح یہ مسئلہ ثابت ہے مگر چونکہ ہماری قوم کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ دوسری اقوام کو بھی کوئی کام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس لئے ایک تیری دلیل بھی بیان کرتا ہوں۔

آپ کو معلوم ہے کہ آریہ اپنے مذہب کی اشاعت میں بہت سرگرم ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک جماعت ان میں مذہب ہی کی حمایت کرنے کے لئے رہے اور تمام قوم ان کی مستکفل ہو صاحبو افسوس کی بات ہے کہ ایسی قوم جس کے پاس مذہبی جماعت نہ تھی اس نے مذہبی جماعت تیار کرنے کی کوشش کی اور تمہارے پاس ایک عظیم الشان جماعت موجود ہے اور تم اس کو توڑنے کی فکر میں ہو لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نہ بھی کفالت کرو بلکہ تمام لوگ اس جماعت کے مخالف ہو جائیں اور سب اس کو دینا اور مدد کرنا بند کر دیں تو بھی یہ جماعت قائم ہی رہے گی اور مولوی کھاتے ہی رہیں گے اگر کہے کہ کیوں کر کھاتے رہیں گے اور کہاں سے ان کو ملے گا تو یجئے میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے ان کو ملے گا قرآن شریف میں ارشاد ہے۔

هَانُتُمْ هُؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُتَفَقَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَسْخَلُ وَمَنْ يَسْخَلُ فَإِنَّمَا يَسْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلُوا يَسْتَبِدُ قَوْمًا غَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَا أَمْثَالَكُمْ

حاصل ترجمہ یہ ہے کہ تم کو انفاق فی سبیل اللہ کے لئے بلا یا جاتا ہے مگر بعضے بخل کرتے ہیں اور اس بخل سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں ورنہ خدا تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو اگر تم اس سے بے تو جہی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے بد لے دوسری قوم پیدا کر دیں گے جو کہ دین کی خدمت کرے گی اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ قوم کہاں سے پیدا ہو گی تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ روزانہ یہ سلسلہ خلق جاری ہی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت تمام عالم کے انسانوں کی حالت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ اسلام کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو جھوڑ چھوڑ کر اس سے دور ہو رہے ہیں اور نامسلم لوگ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جزئیات شرع کے اسرار و حکم تک بیان کرنے کا ان کو خیال ہے چنانچہ ایک ڈاکٹر نے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا پاک کرنے کے متعلق کہا ہے کہ مٹی بہت سے قروح کا علاج ہے تو پیشاب میں جو مادہ تیزاب کا ہے اس کی مضرات روکنے کے لئے مٹی کا استعمال مصلحت ہے۔

اسی طرح ایک اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کتابت کو چاٹ جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤالو۔ ان سات مرتبہ میں ایک مرتبہ مٹی سے بھی دھوؤالو۔ اس ارشاد میں مجھے یہ خیال ہوا کہ مٹی سے دھونے کو کیوں فرمایا

کیا سات مرتبہ پانی سے دھونا کافی نہیں آخر بہت دنوں کی چھان میں اور تلاش کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مٹی میں ایک جزو نوشادر کا ہے اور نوشادر لعاب کلب کی سمیت کا دافع ہے مگر ہر جگہ وہ میسر نہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز ارشاد فرمائی جو کہ ہر جگہ میسر ہو اور آسانی سے میسر ہو یعنی مٹی تو مسلمانوں کی وہ حالت ہے اور غیر مسلموں کی یہ حالت ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہید ہے اس دن کی جس دن کہ عجب نہیں کہ ایسے مسلمان خارج از اسلام ہو جائیں اور ایسے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور اگر مسلمانوں کو اس امر کا خیال ہے کہ یہ روز بدنہ دیکھنا پڑے اور حفاظت اسلام کی سعادت تمہارے نام رہے تو سنہللو اور کام میں مشغول ہو جاؤ۔ مسلمانوں کا ہر ابھر اکھیت سوکھتا ہے۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا اگر ذرا سی توجہ بھی یہ کریں تو کافی ہو گا اور نہ مجھے اس وقت کی حالت سے سخت اندیشہ ہے غرض یہ معلوم ہو گیا کہ خادمان دین کی خدمت اور ان کی مدد خود غیب سے ہو گی اب جس کا جی چاہے اپنے نفع کے لئے اس سعادت کو حاصل کرے ان کو کسی خاص شخص یا خاص جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ان کی وہ حالت ہے کہ گرنٹانی بسم میرسد اگر خوشی سے نہ دو گے تو زبردستی مجھ تک پہنچ جائے گا۔

اور میں اہل انجمن اور اہل مدارس کو بھی یہی رائے دیتا ہوں کہ وہ مانگنا بالکل چھوڑ دیں ان شاء اللہ جس دن یہ ایسا کریں گے خدا تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیں گے ارشاد ہے۔

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَبِ

ترجمہ:- یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ رزق عطا فرمائیں گے کہ ان کو گمان بھی نہ ہو گا۔ تو ایک خاص جماعت تو ایسی ہونی چاہئے مگر ہر شخص چونکہ خادم دین نہیں ہو سکتا اس لئے اکثر کو یہ کرتا چاہئے کہ۔

چوں باز باش کہ صیدے کنی ول قمہ دہی طفیل خوارہ مشو چوں کلام غبے پرو بال باز کی طرح رہو کہ خود شکار کرو اور دوسروں کو دو، بغیر پروں کے کوؤں کی طرح طفیل نہ بنو۔ یعنی یہ لوگ کما نہیں اور دوسروں کی مدد کریں۔

اہل اللہ خوار نہیں

اس حالت سے کوئی اہل اللہ کو طفیل خوار نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ سرکاری لوگ ہیں دیکھنے گورنر جزل کو کثیر التعداد قم ہر صینے ملتی ہے حالانکہ بظاہر اس کو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کرنا پڑتا لیکن

محض اس لئے کہ اس کا کام دماغی کام ہے تو حضرات اہل اللہ پر جو گزرتی ہے اور جو دماغ سوزی ان کو کرنی پڑتی ہے اگر آپ پر وہ گزرے تو چند روز میں جنون ہو جائے اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہو گئی کہ اہل اللہ پر اپا بیج ہونے کا الزام بھی بالکل غلط ہے وہ ہر گز اپا بیج نہیں ہوتے ہاں وہ بدن کے اعتبار سے اپا بیج ہیں۔ سو یہ فخر ہے ان کی یہ شان ارشاد خداوندی میں مذکور ہے۔

أَخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِبًا فِي الْأَرْضِ

اللہ کے رستے میں گھرے ہوئے ہیں زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

تو یہ عدم استطاعت مایہ فخر ہے نیز یہ خود کہتے ہیں کہ۔

ما اگر فلاش و گر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیانہ ایم
ہم اگر فلاش اور دیوانہ ہیں تو کوئی بات نہیں اس لئے کہ اپنے ساقی اور پیانے ہی میں مست ہیں۔
یہ اگر طفیلی ہیں اور ان کا جسم کو معطل ہے لیکن ان کی روح ایک بہت بڑے کام میں ہے
ان کی روح نے اس بارگراں کو اٹھایا ہے جس کے اٹھانے کی پہاڑ بھی تاب نہ لاسکتا اور زمین
آسمان سے بھی نہیں اٹھ سکا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاصِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کو اللہ
کے خوف سے لرزتا اور کانپتا ہوا پاتے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُونَ وَالْأَرْضِ وَالْجَانِلِ فَابْتَيْنَ أَنْ
يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ.

ہم نے اس بار امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا پس سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا
اور اس سے کنارہ کشی اختیار کی اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔

تو جکلی روح اتنا بارگراں اٹھائے ہوئے ہے وہ اپا بیج کیسے کہا جا سکتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔
اے تر اخبارے بپانہ شکستہ کے دلی کے چیست حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند
اے وہ شخص جس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہیں چجھا اس کو ان کے حال کی کیا خبر جن
کے سروں پر مصیبتوں کی تلواریں چلتی ہیں۔

آپ کو کیا خبر ان پر کیا گزرتا ہے صاحبو اور اس مشقت میں ہیں جس کا ایک نمونہ یہ ہے۔

لَعْلَكَ بِالْحَقِّ نَفَسَكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

شاید ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ ﷺ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے (اشراف: ۳)

غور کیجئے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر تی ہو گی جو یہ نکتہ فرمایا۔

حافظت قرآن کی ذمہ داری

تو اکثر لوگ ایسے ہو نے چاہئیں کہ وہ تحصیل معاش کی طرف متوجہ ہوں لیکن دین دار ہونا ان کا بھی ضروری ہے اور احکام شریعت پر چلتا اور دین کی حفاظت کرنا ان کو بھی لازم ہے محض ضروری سمجھنے پر بس کرنا کافی نہیں۔

دیکھئے اگر ایک جائیداد کی آدمیوں میں مشترک ہو کا ایک کے اس میں آٹھا نے ہوں دوسرے کے چار آنے تیسرے کے دو آنے چوتھے کا ایک آن اور کوئی ظالم اس جائیداد پر وست برداشت کرے تو کیا ایک آن کا شریک خاموش ہو کر بیٹھے گا۔ ہرگز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ مشترک چیز کی حفاظت تمام شرکاء کو چاہئے اسی طرح قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جائیداد ہے اس لئے اسکی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہئے۔

اگر کہئے کہ مشترک نہیں تو مہربانی کر کے یہ لکھ کر دے دیجئے کہ ہم اس کو شائع کر دیں پھر ان لوگوں سے ہم ہرگز اس کی حفاظت کا خطاب نہ کریں گے اور ان شاء اللہ کوئی بھی نہ کرے گا اور جب یہ گوارا نہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کے ذمہ بھی ضروری ہے اور دوسروں کو بھی اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے جبرا اس کی حفاظت کرائیں خواہ مال لے کر یا کسی دوسرے طریقے سے۔

اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چین و آرام تو ہر طرح کا ہم کو رہے اور مصیبت و مشقت دوسروں پر رہے ہم جس طرح چلیں مولوی ہمارے تابع ہو جائیں اور ہمارے جادہ موصل الی المسق سے سرموہم کونہ ہٹائیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ پرانے مولوی تو تمہارے قابو سے نکل چکے ہیں وہ تمہارے تابع نہیں ہوں گے ان سے یہ امید رکھنی تو فضول ہے البتہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ وہ تمہارے کہنے میں ہو گی ان سے اپنی مرضی کے موافق کام لینا مگر ہم نے آج تک کسی ہمدرد و قوم کو نہ دیکھا کہ اس نے قومی ہمدردی میں اپنی اولاد کو پڑھایا ہو کیونکہ سمجھتے ہیں کہ علم دین پڑھ کر ہماری اولاد کو یہ بڑے بڑے عہدے کہاں مل سکیں گے اور اگر کسی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو علم دین کے لئے تجویز بھی کیا ہے تو اس کو جو سب میں احمد اور کودن ہے سبحان اللہ! کیا علوم شریعت کی قدر کی ہے صاحبو! غور کیجئے کہ جب سارے الٰہی پڑھیں گے تو وہ الٰہی رہیں گے۔

مولوی منفعت علی صاحب سلمہ سے ایک شخص نے کہا کہ کیا وجہ علماء میں اب رازی غزالی پیدا نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ اس وقت انتخاب کا قاعدہ یہ تھا کہ قوم میں جو سب سے ذہین اور ذکری ہو وہ علوم دین کیلئے منتخب ہوتا تھا اب انتخاب کا یہ قاعدہ ہے کہ جو سب میں حمق اور وہ غبی ہواں کیلئے تجویز ہوتا ہے۔

دلیل اس کی بھی ہے کہ اب بھی جو ذہن و ذکر کی پڑھتے ہیں وہ غزالی اور رازی سے کم نہیں ہوتے میرے ساتھ چلو اور علماء کی حالت دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت بھی غزالی اور رازی موجود ہیں اور ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن عدد میں کم ضرور ہیں اور وجہ اس کی بھی ہے کہ جو لوگ قابل ہیں وہ تو ادھر متوجہ نہیں ہوتے ورنہ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر بھی آدمی ایسے پڑھیں تو ان میں پندرہ غزالی اور رازی ضرور نہیں گے اب بیچارے غریب غرباء جو لا ہے وہنے پڑھتے ہیں ان کی جیسی سمجھ ہوتی ہے ویسے ہی نکلتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب غرباء کے بچوں کو نہ پڑھایا جائے کیونکہ امراء نے خود چھوڑا اور ان سے ہم چھڑا دیں تو پھر علم دین کس کو پڑھائیں نیز غریب غرباء کیا کریں۔ انگریزی تو پڑھنہیں سکتے کیونکہ اس کی تعلیم نہایت گراں ہے اور عربی ہم نہ پڑھائیں تو یہ بے چارے تو بالکل ہی کو رے رہے۔

علم دین کی ارزانی

واقعی علم دین ایسی عجیب چیز ہے کہ اس میں محنت بھی کم اور خرچ بھی کم بخلاف انگریزی کے علم دین کی ارزانی دیکھئے کہ اگر کوئی شخص میزان سے اخیر تک ایک کتاب بھی نہ خریدے تو ہر کتاب اس کو میر آ سکتی ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تمام درسیات مدرسون سے مستعار ہی لے کر پڑھی ہیں آپ ایک شخص کو بھی نہیں بتا سکتے کہ جس نے بی اے تک پڑھا ہوا اس کو قریب قریب کل کتابیں نہ خریدنی پڑی ہوں اس سے معلوم ہوا کہ دینی تعلیم نہایت ارزان اور دنیاوی تعلیم نہایت گراں ہے اس پر مجھے اپنے بھائی کا مقولہ یاد آیا۔

ایک مرتبہ انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے توحش لیتے ہیں اور بڑے بھائی سے نہیں لیتے حالانکہ میرا خرچ بھائی سے بہت زیادہ ہے مجھ کو تو اگر ایک قلم کی ضرورت ہو تو وہ بھی آٹھا نے کو آئے گا اور وہ تو چھپر میں سے ایک سلیمان کال قلم بنالیں تو کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھئے کس قدر ارزان ہے اور یہی دلیل ہے اس کے معزز ہونے کی کیونکہ فطرت کا قاعدہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اسی قدرستی ہوتی ہے اور ہر جگہ میر آ سکتی ہے اور

جس قدر بے کار ہوتی ہے اسی قدر گرائ کم یا پ ہوتی ہے یہ خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے اسی پر غور کر کے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ عربی کی کیا قدر ہے اور انگریزی کی کیا قدر ہے یعنی عربی کی طرف زیادہ توجہ ہوئی چاہئے کیونکہ وہ زیادہ ضرورت کی چیز ثابت ہوئی اور انگریزی کی طرف کم اور کم متوجہ ہونے کی اجازت بھی دینداروں کے لئے ہے ورنہ جن کے دین بگڑ جانے کا ذرہ ہے ان کو تو انگریزی سے قطعاً روا کا جائے وہ انگریزی کو بالکل چھوڑ دیں۔ صرف عربی کی طرف متوجہ ہوں یہاں تک اصلاح یا حفاظت دین کی ضرورت کے واسطے عربی کا ضروری ہونا ثابت ہوا۔

علوم عربیہ کی اہمیت

اب میں اخیر درجہ کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لئے عربی نہ پڑھتو کم سے کم انگریزی ہی کے لئے عربی ضرور پڑھ لو تو یہ اس کی یہ ہے کہ علوم عربیہ کے پڑھنے سے استعداد میں ترقی ہوتی ہے اور اس استعداد سے انگریزی تعلیم میں بہت مدد ملتی ہے میرے سب سے چھوٹے بھائی بغض بُرینگ مراد آباد میں گئے وہاں ان کی ذہانت کی یہ حالت تھی کہ تمام لوگ متوجہ تھے حتیٰ کہ ان کے ماشی بھی ان کی ذہانت سے عاجز تھے۔

ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ رمضان المبارک کا زمانہ قریب آ گیا اور بُرینگ کے لڑکوں نے چاہا کہ کسی حافظ کو بلا کر ایک قرآن سنیں پُرپل سے پوچھا تو جواب ملایا امر جدید ہے اجازت نہیں ہو سکتی بھائی نے کہا کہ اگر قدیم ہوتا تو اجازت مل جاتی؟ کہا گیا ہاں۔ بھائی نے کہا آپ کے قاعدے سے لازم آتا ہے کہ کبھی کوئی امر قدیم پایا ہی نہ جائے کیونکہ ہر قدیم کسی وقت جدید تھا اور جدید ہونا مانع اجازت ہے جب اس کی اجازت نہ ہوگی وہ قدیم کب بن سکے گا پُرپل حیران رہ گیا آخر انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دار و مدار اجازت کا قدیم ہونے پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ اس میں کوئی مفسدہ نہ ہو تو اس میں کیا مفسدہ ہے پُرپل نے اجازت دے دی۔

یہ مخفی عربی کی استعداد کی بدولت تھا کیونکہ اس میں احتمال آفرینی کی استعداد ہو جاتی ہے ایسے بہت سے قصے ان کے ہوئے نیزان کے سوامیں نے بہت سے واقعہ دیکھے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لئے عربی نہیں پڑھتے تو اپنی انگریزی ہی کے لئے پڑھ لو شاید کسی کو یہ شہر ہو کہ ایسے علم دین کے پڑھنے سے کیا فائدہ کہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے سمجھو کو علم دین وہ چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا اثر ضرور کرتا ہے اور اس شخص کو اپنا بنا لیتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

تعلمنا العلم لغير الله فابي العلم الا ان يكون لله

یعنی ہم نے علم غیر اللہ کیلئے پڑھا تھا علم نے سوائے اللہ کے اور کا ہونے سے انکار کر دیا۔

میں سچ کہتا ہوں کہ علم عربی وہ علم ہے کہ ہر چیز کو اس سے انجلاء ہو سکتا ہے اخلاق بھی اس سے درست ہوتے ہیں۔

میں ایک انگریزی خوان کی حکایت بیان کرتا ہوں اس سے اندازہ کرو کہ ان پر علم دین نے کیا یہ اثر کیا اور کیا یہ اثر نری انگریزی تعلیم سے آ سکتا ہے اور وہ اثر کس قدر ضروری ہے واقع یہ ہے کہ میں جس زمانے میں کانپور میں پڑھاتا تھا ایک روز حسب معمول پڑھارہا تھا کہ ایک نائب تحصیلدار آئے اور اپنے لڑکے کے لئے استاد کی ضرورت ظاہر کی اس وقت جو طالب علم مجھ سے پڑھ رہے تھے میں نے عربی زبان میں ان سے بیان کیا تا کہ یہ نہ مجھیں میری گفتگو شروع کرتے ہی وہ کہنے لگے کہ جناب کے عربی میں گفتگو کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت کی گفتگو کو مجھ سے پوشیدہ رکھنا منظور ہے لیکن میں عربی سے واقف ہوں اس لئے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں ان کے اس کہنے سے مجھے بے حد شرمدگی ہوئی اور یہ خیال ہوا اللہ اکبر! میں نے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا آخر میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ میری غلطی ہے واقع میں کوئی پوشیدہ بات نہ تھی اب میں اردو میں گفتگو کرتا ہوں۔

اب میں دو باتیں اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں اول تو یہ کہ کیا بدوں علم دین کے یہ اثر پیدا ہو سکتا ہے سو ظاہر ہے کہ ہر گز نہیں ہو سکتا دوسرا بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اثر نہایت ضروری ہے یا نہیں ظاہر ہے نہایت ضروری ہے کیونکہ ہم کو باہم جائز نہیں کہ ہم کسی کے اسرار پر مطلع ہوں غرض تہذیب اخلاق تعلیم انگریزی ہر ایک کے لئے علم دین کی ضرورت ہے حاصل یہ ہے کہ علم دین کی جس میں قرآن بھی داخل ہے ہر شخص پر حفاظت ضروری ہے یہ تو ضرورت کے متعلق گفتگو تھی۔

الفاظ قرآن کی اہمیت

اب ایک سوال اور رہ گیا جو اکثر لوگوں کی زبان پر آیا کرتا ہے وہ یہ کہ قرآن کو اگر پڑھا جائے تو نزے الفاظ کے پڑھنے سے کیا نفع؟ اس سوال کا ایک جواب تو ہو گیا کہ اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے اور ضرورت کے ہوتے کسی جدید نفع کا ہونا ضروری نہیں کیا اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ پانی پینا چاہے اور کوئی شخص اس سے کہے کہ پانی پینے سے کیا فائدہ تو اس کو یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے اگرچہ کوئی جدید فائدہ مرتب نہ ہو اور اگر بالخصوص نفع ہی تلاش ہے تو لمحے نفع بھی بیان کئے دیتا ہوں مگر پہلے یہ بتلائیے کہ نفع کس کو کہتے ہیں کیونکہ مشاء اشتباہ یہی

ہے کہ نفع کو منحصر سمجھ لیا ہے صرف ایک ہی میں کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب سمجھ ہی میں نہ آیا تو طو طے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ معلوم ہوا کہ محض سمجھنے کو نفع کہتے ہیں سواں میں ہے گفتگو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص امتحان دینا چاہے تھا خیلداری کا اور اس میں یہ قانون ہو جائے کہ جو شخص فلاں کتاب سنا دے گا وہ پاس ہو جائے گا اگرچہ اس کتاب کو نہ سمجھے تو اگر ایسا قانون واقع ہو جائے تو کیا اس قانون کے مقرر ہونے کے بعد آپ سوال کریں گے کہ اس کتاب کے حفظ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ ہرگز نہیں تو معلوم ہوا کہ فائدہ صرف سمجھنے میں منحصر نہیں بلکہ اور بھی منافع ممکن ہیں البتہ اگر قرآن میں اس کے سوا کوئی نفع نہ ہوتا یہ سوال متوجہ ہو سکتا تھا اور جب کہ دوسرے منافع ہیں تو یہ سوال نہیں ہو سکتا۔

آخرت کا مسئلہ

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی یہ شان ہے کہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
آپ کا فرمان اللہ ہی کا فرمان ہے اگرچہ عبد اللہ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے۔

ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی گئیں تو پورے قرآن پر کس قدر نیکیاں لکھی جائیں گی تو یہ کتنا بڑا نفع ہوا اور اگر کوئی کہے کہ نیکیوں کو کیا کریں تو سمجھو کہ نیکیاں اس وقت تم کو بے کار نظر آتی ہیں لیکن جب تم دار دنیا سے چل کر دار عربی میں پہنچو گے تو معلوم ہو گا کہ حنات کیسا کار آمد سکتے تھا۔

دیکھو اگر ایک شخص مکہ جا رہا ہو اور بسمی میں پہنچ کر اس کو کسی نے خاص مکہ کار رنج الوقت سکھ دیا تو اگرچہ یہ سکھ بسمی یا عدن میں نہیں چلتا لیکن چونکہ وہ جانتا ہے کہ میں چار دن بعد مکہ پہنچ جاؤں گا اس لئے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو کیا کروں اور اگر کہے تو اس کو یہی جواب دیا جاتا کہ آٹھوں کے بعد دیکھ لینا کہ تم اس کو کیا کرو گے۔

اس وقت حنات بیکار معلوم ہوتے ہیں لیکن جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہو گے اور لوگوں کے اعمال نامے وزن کئے جا رہے ہوں گے اور ان کے موافق جزاں رہی ہو گی اور تم تھی دست ہو گئے اس وقت معلوم ہو گا کہ حنات کیا چیز تھیں فرماتے ہیں کہ کہ بازار چند آنکہ آنکہ آنکہ تر تھی دست را دل پر آنکہ تر

اگر کسی عمدہ بازار میں کسی مفلس کو بھیج دیا جائے تو اس کو انہائی پرا گندگی حاصل ہوگی کیونکہ جدھر نظر پڑے گی اچھی اچھی قسمی چیزیں نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا افلاس اور تھی دستی بھی یاد آئے گی اس لئے حسرت بھی بڑھتی جائے گی بالخصوص جب کہ بازار جاتے وقت اس سے کہا گیا ہو کہ کچھ نقد لیتے جاؤ اور وہ چھوڑ کر چلا گیا ہو۔

پس یہی حالت میدان قیامت میں ان لوگوں کی ہوگی اور وہ ایسا وقت ہو گا کہ سوائے اس مکہ کے اور کوئی سکھ کام نہ دے گا کیونکہ کوئی چیز یہاں سے ساتھ ہی نہ جائے گی چنانچہ فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادِيٍّ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَأَءَ ظُهُورِكُمْ كَمْ اَكْلَيْتُمْ اَوْ هُوَ اَوْرَثْتُمْ چیزیں، تم نے تم کو دی تھیں سب پس پشت چھوڑ آئے اور اگر لاتے بھی تو کیا ہوتا چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر تمام زمین کے خزانے بھی اس وقت مل جاتے تو انہیں اپنی جان کا فدیہ دیتا لیکن اس سے قبول نہ ہوتا تو اب اس کا جواب معلوم ہو گیا کہ نیکیوں کو کیا کریں گے یعنی اس وقت ان کی قدر ہوگی وہاں نیکیوں کی یہ حالت ہوگی کہ سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہوں گی۔

حتیٰ کہ ایک شخص کے اعمال وزن کے جامیں گے تو اس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی حکم ہو گا کہ اگر ایک نیکی کہیں سے لے کر آؤ تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی یہ سن کر بہت خوش ہو گا کہ بھائی بیٹا بآپ ماں وغیرہ دوست احباب بہت لوگ ہیں کوئی تو ضرور ہی دے گا چنانچہ یہ سوچ کر سب کے پاس جائے گا اور سب کے سب انکار کر دیں گے سخت پریشان ہو گا اور بالکل مالیوں ہو جائے گا کہ ایک شخص سے ملاقات ہوگی اور وہ اس کی حالت کو دیکھ کر پوچھے گا کہ کس فکر میں ہو یہ کہے گا کہ ایک نیکی کی تلاش میں ہوں کیونکہ مغفرت میں ایک نیکی کی کمی ہے لیکن کوئی شخص نہیں دیتا یہ سن کروہ کہے گا کہ جب صرف ایک نیکی کی کمی مانع مغفرت ہو گئی تو میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی عمر بھر کی ہے باقی تو تمام معاصی۔ وہ ایک نیکی کیا کام آئے گی اچھا لو میں وہ نیکی تم کو دیتا ہوں کہ تمہاری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ یہ شخص نہایت خوش و خرم اس نیکی کو لے کر جائے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اس نیکی دینے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔

اس مضمون سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ نیکی کتنی قدر کی چیز ہے اور میدان قیامت میں اس کی کیا کچھ ضرورت ہوگی اور یہ کیسی نایاب ہوگی اس وقت معلوم ہو گا کہ اگر کسی نے قرآن کا ایک ختم دنیا میں کر لیا تھا تو اس سے کیا کچھ فائدہ اس کو ہوا اور کتنی نیکیاں اس کے صحیفہ اعمال میں لکھی گئیں اور اس سے زیادہ واضح مثال میں سمجھئے

اسکولوں میں لوگوں کو اقلیدس پڑھائی جاتی ہے بیس لوگوں میں ایک بھی بمشکل ایسا ہوتا ہے کہ مسائل اقلیدس کو سمجھ سکے لیکن امتحان کے زمانے میں بغیر سمجھے ہی اس کو رٹ لیتے ہیں اور اسی کی بدولت پاس ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بے سمجھے محض رٹ لینا بھی مفید ہے۔ تو صاحبو! کیسے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے معاملات میں جو باتیں مسلم ہیں وہی باقاعدے دین کے معاملات میں پیش کی جائیں تو تردید ادا نکار کیا جاتا ہے تو یہ تو صحیح اور وال غلط ہم لوگوں کی وہ حالت ہو رہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بتا یہاں ابی لہب شروع کی تھی یہ تو کہتے بذہب تب اور بت زبردست کہا اور وال پڑھا تو بخ. اسی طرح اس وقت لوگ فردا فردا ہر مقدمے کو تسلیم کرتے اور مانتے ہیں لیکن مجموعہ مقدمات سے جو نتیجہ لکھتا ہے کہ وہ بمنزلہ وال کے ہے اس کو نہیں مانتے کیسی ہٹ دھرمی اور تعصباً ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ جب سارے مقدمات مسلم ہوں تو نتیجہ مسلم کیوں نہ ہو ضرور ہونا چاہئے۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن کا پڑھنا اگرچہ بے سمجھے ہو نہایت ضروری ہے اس کی حفاظت کی وجہ سے اور نہایت مفید ہے اجر جزیل کے مرتب ہونے کی وجہ سے۔

تعلیم قرآن کا صحیح وقت

سب سے اول مسلمان کے بچے کو قرآن پڑھانا چاہئے کیونکہ یہ تجربہ ہے کہ تھوڑی عمر میں علوم حاصل کرنے کی استعداد تو ہوتی نہیں تو قرآن مفت برادر پڑھ لیا جاتا ہے ورنہ وہ وقت بے کار ہی جاتا ہے اور بعضے لوگ بڑی عمر کے بھروسے کہ یہ خود پڑھ لے گا انہیں پڑھاتے سو مشاہدہ ہے کہ زیادہ عمر ہو جانے کے بعد نہ خیال میں وہ اجتماع رہتا ہے نہ اس قدر وقت ملتا ہے نہ وہ سامان بھم پہنچتے ہیں فلر معاش الگ ستائی ہے ابی دعیال کا جھگڑا الگ چلکتا ہے خیالات میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اتنے موائع کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اگر کسی ایک دونے کریسا تو وہ قابل اعتماد نہیں ایسے مستثنیات ہر جگہ میں ہوتے ہیں مگر یہ حکم کی کلیت کو مبطل نہیں اور جب بڑے ہو کر پڑھنا مشکل بلکہ قریب قریب ناممکن ہے تو عجب نہیں کہ اگر یہی حالت رہی جواب ہے تو چند روز میں مسلمانوں کے بچوں کو نماز میں قرآن پڑھنے کے لئے آریوں اور عیسائیوں سے قرآن پوچھنا پڑے۔

مسئلہ استیضان کی حکمت

آپ شاید اس کو تعجب کی نظر سے دیکھیں لیکن غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ موجودہ رفتار کا یہ مآل چند اس عجیب نہیں دیکھئے ادکام شریعت کو آپ نے چھوڑا اور دوسری قوموں نے ان کی خوبیاں دریافت کر

کے ان کو اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ بہت سے اسلامی احکام کو اسلامی احکام نہیں سمجھتے بلکہ انگریزوں یا کسی دوسری قوم کی خصوصیات معاشرت میں سمجھتے ہیں اور ان سے لے کر عمل کرتے ہیں۔

ازال جملہ مسئلہ استیضان ہے کہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مکان خلوت میں اگرچہ وہ مکان مردائی ہو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ صاحب مکان سے اجازت نہ لے واقعات اور تجارت سے اس کی خوبی دریافت کر کے تمام متمدن قوموں نے اس پر عمل شروع کر دیا لیکن مسلمان اس کو معاشرت یورپ کی خصوصیات سے سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ حکم شریعت مطہرہ کا ہے اور دوسروں نے یہیں سے لیا ہے حالانکہ یہ ایسا صریح حکم ہے کہ صاف صاف قرآن میں موجود ہے۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا
عَلَىٰ أَهْلِهَا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

اے ایمان والوں (اپنے خاص رہنے کے) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو وجہ تک ان سے اجازت نہ حاصل کرلو اور (اجازت لینے سے قبل) انکے رہنے والوں کو سلام کر لو یہی تمہارے لئے بہتر ہے (یہ بات تم کو اس لئے بتائی ہے) تاکہ تم خیال رکھو (اور اس پر عمل کرو) اور راز اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے اتفاق قومی باقی رہتا ہے کیونکہ اتفاق کی جڑ صفائی قلب ہے اور صفائی قلب اس وقت تک باقی رہتی ہے کہ جب ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور مسئلہ استیضان پر عمل نہ کرنے سے بسا اوقات تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف موجب تکدر ہے اور تکدر مورث نفاق و افتراء ہے اور جب اس مسئلے پر عمل کیا جائے گا تو ہرگز یہ نوبت نہ آئے گی کیونکہ فرض کیجئے ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی آپ نے بے تکلف کہہ دیا کہ میں اس وقت کام میں ہوں یا آرام کرنا چاہتا ہوں چنانچہ جو قومیں اس مسئلے کو بر رہی ہیں وہ اسی کی بدولت دیکھ لججئے کہ کس قدر آرام میں ہیں۔

علی ہذا اور بہت سے دوسرے مسائل ہیں کہ وہ ہمارے اسلام نے بتائے تھے اور آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری قوموں نے ان پر عمل کیا ہے اور اب اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو دوسروں سے اخذ کر کے اور ان کی چیز کیجئے کر عمل کرتے ہیں تو ان احکام کی طرح مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن بھی دوسروں سے پوچھ کر پڑھنے کی نوبت نہ آ جاوے۔ اور اگر ایسا

(خدانہ کرے) ہو تو کیا مسلمانوں کی غیرت اس کو گوارا کرے گی اگر نہیں تو کیوں اسی وقت سے اس کا تدارک نہیں کیا جاتا۔ صاحبو! یاد رکھو۔

سر چشمہ باید گرفتن بہ میل چو پرشد نشاید گزشتن بہ پیل
چشمہ پر ابتدا ہی سے بند باندھ دینا چاہئے اس لئے کہ جب وہ بھر جائے تو اگر ہاتھی بھر منٹی بھی ڈالوں بھی نہیں رکے گا۔ جب سر سے پانی گزر جائے گا تو اس وقت کوئی تدیر کا گرنہ ہو سکے گی۔

دماغی کمزوری کا عذر

ان ساری باتوں کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ اس قدر شیریں اور باحلاوت ہیں کہ ان کی طرف خود کشش ہونی چاہئے اگر اس پر ثواب وغیرہ کا وعدہ بھی نہ ہوتا ہے بھی اس کو یاد کرنا چاہئے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفظ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کو حفظ نہیں کراتے کیونکہ کمزوری دماغ کے بعد وہ کسی دوسرے کام کے نہیں رہتے اس کے جواب میں ڈاکٹر کا قول نقل کر دینا کافی ہے۔

ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دماغ صرف قوت فکر یہ سے کمزور ہوتا ہے حفظ الفاظ سے نہیں ہوتا کیونکہ حفظ دماغ کی اصلی ریاضت نہیں وہ صرف زبان کی ریاضت ہے اور دماغ کی ریاضت غور و فکر ہے تو حفظ سے دماغ نہ تھکے گا۔ اگر تھک سکتی ہے تو زبان اور زبان ٹھکتی نہیں۔

دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ قرآن اس وقت یاد ہو جاتا ہے کہ بچا اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی اس کے دماغ میں کسی کام کے کرنے اور غور و فکر کی قابلیت نہیں ہوتی اور اگر زبردستی اس وقت کسی دوسرے کام میں لگادئے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مضر تیس اٹھاتے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص احتدال کی رفتار سے چلے تو قرآن شریف اس وقت حفظ ہو جائے گا جس وقت تک وہ خود بھی بچے کو کسی فکر کے کام میں نہ لگائے اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ دماغ کمزور ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ دماغ کس کا ہے صاحبو! کتنی شرم کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا عطا کیا ہوا دماغ ساری عمر اپنے لئے اس کو صرف کیا جائے اور خدا تعالیٰ کے لئے دو چار سال بھی نہ دیئے جائیں غرض جس پہلو سے بھی دیکھا جائے قرآن کا یاد کرنا نہایت ضروری ثابت ہوتا ہے اور ایک بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کے حفظ سے دوسرے علوم نہایت درجہ آسان ہو جاتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے پاس جب کوئی اپنے بچے کو لاتا تو دریافت فرماتے کہ اس نے قرآن شریف حفظ کیا ہے یا نہیں اگر وہ حافظ ہوتا تو فرماتے کہ ان شاء اللہ یہ پڑھ لے گا اور

اگر حافظ نہ ہوتا تو وعدہ نہیں کرتے تھے یوں فرماتے تھے کہ میں بھی دعا کروں گا تم بھی دعا کرنا۔

واقعی یہ تجربہ بھی ہے کہ جو لوگ حافظ ہیں اکثر ان کو دوسرے علوم بھی نہایت آسانی سے آ جاتے ہیں لیکن اگر حافظ بناؤ تو اس کا خیال رکھو کہ ان کو یاد بھی رہے کیونکہ اکثر لوگ انگریزی میں اس قدر کھپ جاتے ہیں کہ ماں باپ کی ساری کوشش اور اپنے بچپن کی تمام محنت رائیگاں جاتی ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی بدولت عقلائے وقت کو یہ مہمل خیال پیدا ہوا کہ قرآن پڑھنا وقت ضائع کرنا ہے اس لئے اس کے بقاء حفظ کا ضرور خیال رکھو اور کوئی وقت روزانہ اس کی تلاوت کا نکال لو۔

اگر کہو کہ کثرت کام سے وقت نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم کو کوئی بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر اس بیماری میں یہ تجویز کرے کہ ایک گھنٹے تک روزانہ صبح کو قرآن پڑھا کرو تو اس وقت تمہارے پاس کہاں سے وقت نکل آئے گا۔ تو تھوڑی دیر کے لئے دین کو ایسا ہی سمجھ کر اس کے لئے وقت نکال لیا کرو۔

(یہاں پہنچ کر مجلس وعظ میں کاتب کے پاس کاغذ نہ رہا اور حاضرین میں سے کسی سے مستیاب بھی نہ ہوا مجبور آگے مضمون نہ لکھا جا سکا اور پہنچ میں چھوڑنا پڑا۔ انا اللہ)

ضَرُورَةُ الْعُلَمَاءِ

خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل اس واسطے دی ہے کہ اس سے وہ انجام کو سوچے۔
 جب دنیا کے کاموں میں انجام پر نظر رکھتے ہو جس میں رہنا محض موہوم ہے تو
 آخرت کے انجام پر بھی نظر رکھنی چاہئے جہاں جانا یقینی ہے مگر افسوس کہ
 آخرت سے اس درجہ غفلت ہو گئی ہے کہ وہ یاد ہی نہیں آتی۔

علماء دین کی ضرورت کے متعلق یہ وعظ خورجہ چوپال جناب حکمت اللہ خاں
 صاحب میں ۸ جماوی الثاني ۱۳۳۰ھ کو بروز التواریخ یا دو صد سامعین کی
 موجودگی میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا جو تین گھنٹوں میں ہوا اور مولانا سعید
 احمد تھانوی صاحبؒ نے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلَّمَ.

اما بعد! اعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
اُذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً طَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ وَ لَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا طَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف آیت نمبر ۵۵)

ترجمہ:- دعا کیا کرو تمل طاہر کر کے بھی اور چکے چکے بھی (البتہ یہ بات) واقعی (ہے
کہ) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو (دعائیں) حدادب سے نکل جائیں۔

اہم ترین وجود

ہر چند کہ اس وقت میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں جن کے سننے کے بعد یہ انتظار ہو گا کہ ان
دونوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ مگر اس وقت مقصود ان آیات کے مدلول میں سے صرف ایک
ہی جزو کا بیان کرنا ہے یعنی وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (زمیں میں فساد نہ پھیلاؤ) کا کہ اس
سے ایک دعوے کا مستبط کرنا ہے باقی اس جزو کے سیاق و سباق کو اس دعوے کے لئے موید بنانا
ہے اور اس سیاق و سباق سے اس دعویٰ پر استدلال کرنا ہے۔

وہ دعویٰ جس کو ثابت کرنا ہے نہایت عجیب ہو گا مگر بالکل سچا اور مانوس اور واقع کے مطابق ہو گا
اور اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہو گا کہ وہ دعویٰ پہلے سے سب کے نزدیک مسلم تھا مگر عدم تدبیر کی وجہ

سے متکلم فیہ ہو گیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بعض النبی پر اس کی ضد کا دعویٰ ہونے لگا ہے لیکن اگر ذرا تم بر سے کام لیا جائے گا تو وہ دعویٰ بالکل فطری معلوم ہو گا علماء کے نزدیک تو اس کا فطری ہونا مسلم ہی ہے لیکن مدعا عیان عقل کے نزدیک بھی اس سے انکار نہ ہو گا۔ مگر پھر بھی اس دعویٰ کو عجیب اس لئے کہا کہ اس وقت قلت علم سے بکثرت لوگوں کو اس میں تعجب ہونے لگا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ وہ عقائد میں داخل ہوتا مگر اس وقت اس کی ضد عقائد میں داخل ہو گئی ہے تو چونکہ وہ عام خیالات کے خلاف ہے اور دنیا کا اکثر حصہ اس وقت عامیوں ہی کا ہے اس لئے وہ دعویٰ اس وقت عجیب ہو گیا۔

وہ دعویٰ اس سوال کا جواب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ضروری وجود کس کا ہے اور وہ ضرورت بھی دنیوی حیثیت سے جس کے لوگ طالب ہیں نہ کہ دنیوی حیثیت سے جس کو ترک کر دیا گیا ہے اور اس قید سے ظاہر ہے کہ یہ سوال عام لوگوں کی نظر میں نہایت باوقعت وقابل اہتمام ہو گا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ فلاج دنیوی کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے۔

علماء عوام کی نظر میں

سو جواب اس سوال کا یہ ہے کہ فلاج دنیوی کے لئے بھی سب سے زیادہ ضروری وجود جماعت علماء کا ہے اور اس دعویٰ کا عام خیالات کے خلاف ہونا ظاہر ہے کیونکہ عموماً لوگ ان کو نکلا سمجھتے ہیں پھر ان میں جو بے باک ہیں وہ توصاف کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے نکھے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کو بھی نکلا کر دیا اور جو ذرا اہمیت سے کام لیتے ہیں وہ عام مجموعوں میں تو ایسا نہیں کہتے مگر اس عقیدہ کے جو آثار ہیں وہ ان میں بھی پائے جاتے ہیں اور جب آثار پائے جاتے ہیں تو وہ بھی عالماندی ہیں اور دعویٰ عملی قولی دعویٰ سے زیادہ قوی ہوا کرتا ہے۔

مثلاً ایک شخص تو یہ کہے کہ میں پانی پیوں گا اور ایک جا کر لیں گی تو اگرچہ دوسرا نے زبان سے پانی پینے کا دعویٰ نہیں کیا لیکن اس کا عمل پہلے کے لسانی دعویٰ سے زیادہ قوت کے ساتھ اس کے دعویٰ کو ثابت کر رہا ہے اور وہ آثار جو اس عقیدے کے خواص میں سے ہیں یہ ہیں کہ وہ شخص جو کہ اس مضمون کا کہ یہ جماعت نکھلی ہے معتقد ہو گا وہ اس جماعت سے معرض ہو گا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کو پسند نہ کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے سے روکے گا۔

اب دیکھ لججے کہ عقلاء زمانہ میں یہ آثار پائے جاتے ہیں یا نہیں سو ظاہر ہے کہ یہ آثار واقع ہو رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اس جماعت کو ناکارہ سمجھتے ہیں اس لئے یہ دعویٰ کہ سب سے زیادہ ضروری وجود انہی کا ہے اس طور پر عجیب ہو گیا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اب میں اس دعوے کے اثبات کی تقریر کرتا ہوں مگر اس دعوے کے اثبات سے پہلے میں ایک اور بات دفع وحش کے لئے یہ کہتا ہوں کہ اس کے ثابت کرنے سے مجھ کو یہ کوشش کرنا مقصود نہیں ہے کہ سب مولوی ہو جائیں ممکن تھا کہ اس جماعت کو سب سے زیادہ ضروری الوجود سن کر لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ اب یہ رائے دی جائے گی کہ سب لوگ مولوی ہو جاؤ۔ اس لئے دفع وحشت کے واسطے بھی سے کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ مقصود نہیں ہے۔

بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت بھی رہنی چاہئے اور دوسرا لوگوں کو اس جماعت سے وابستہ رہنا چاہئے۔ اب تو وحشت بالکل دور ہو جانا چاہئے کیونکہ سب کو مولوی نہیں بنایا جاتا۔ صرف اتنی اصلاح کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بے کار نہ سمجھو۔ سواں سے آپ کے کسی کام میں یا کسی قسم کی ترقی میں یا کسی توکری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں ایک غلط خیال میں جو آپ بتلا ہیں اس سے وہ غلطی جاتی رہے گی۔ نیز اس جماعت کے فیوض سے اس وقت جو آپ محروم ہیں جب آپ کو ان کے ساتھ وہ نہیں ہو گی تو آپ ان کے فیوض سے ممتنع ہوں گے البتہ موجودہ حالت میں اور اس حالت میں ایک فرق ضرور ہو گا خواہ اس کو آپ دنیوی ضرر سمجھ لیں یا ترقی کی کمی سمجھ لیں تو ممکن ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ تعزیرات الہیہ کے بہت سے جرائم میں بتلا ہیں وہ اس وقت چھوٹ جائیں گے۔ اس کو آپ نفع سمجھیں یا نقصان۔ آپ کے عادات میں بھی تغیر و تبدل ہو گا لیکن نہایت لطیف اور تدریجی نرمی کے ساتھ۔ اس کی تائید یہ ہے کہ آپ دیکھیں عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جرم کا مرتكب ہو تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہئے لیکن قواعد شریعت بعض معااصی کی نسبت جو کہ جرائم ہیں یہ تجویز کرتے ہیں کہ چھوڑنے میں جلدی نہ کرو پہلے کوئی اس کا بدل تجویز کرلو اور اس زمانہ تک اپنے کو گنہگار سمجھ کر استغفار کرتے رہو۔ پھر جب دوسرا انتظام ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا۔ بھلاند نیا کا کوئی قانون بھی ایسا ہے جس میں یہ سہولت ہو۔ واللہ اعظم شریعت میں وہ حسن و جمال ہے وہ لطف ہے کہ اس کی نسبت بے ساختہ یہ شعر زبان سے نکلتا ہے۔

زفرق تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا انجاست
سرے پیر تک سرایا اتنا حسین ہے کہ جہاں بھی نظر پڑ جاتی ہے دل یہ کہتا ہے کہ دیکھتا ہی رہوں۔

مگر افسوس کہ لوگوں نے کبھی شریعت کو تحقیق کی نظر نہیں دیکھا۔ اس لئے وہ لوگوں کا ایک خونخوار دیوانظر آتا ہے صاحبو اشریعت آپ کی دشمنی کرنے والی ہے بعض جرائم تک میں مثلاً ناجائز نوکری میں یہ اجازت ہے کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور کوئی سبیل نہیں نکل سکتی تو پہلے اس کی سبیل نکلنے کا انتظام کر کے پھر چھوڑ دینا اور اگر اس پر بھی شریعت سے حاشت ہوتی ہے تو ہم ذمہ دار نہیں۔

غرض علم و اہل علم کے ساتھ تلبس رکھنے سے کوئی دنیوی ضرورت و مصلحت فوت نہیں ہوتی۔ صرف جرائم کا انسداد ہو گا اور وہ بھی اس لطف کے ساتھ۔ سواں کی نسبت میرا یہ کہنا کہ اس جماعت کے ساتھ وابستگی کرنے سے اتنا نقصان ہو گا کہ یہ جرائم چھوٹ جائیں گے ایسا ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

وَلَا عِيبٌ فِيهِمْ غَيْرُ أَنْ سَيُوفِهِمْ بِهِنْ فَلُولٌ مِّنْ قِرَاعِ الْكَتَابِ
ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اسکے کہ آپ کی تکوڑوں میں دشمن کو قتل کریں گے سدنے پڑے گئے۔
یہ تو جملہ مفترضہ کے طور پر تھا۔ اب اس دعویٰ کو عرض کرتا ہوں اور احتیاطاً پھر کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس دعویٰ سے متوجہ نہ ہوں کہ شاید سب کو مولوی بناتا مقصود ہے میں ہرگز سب کو مولوی نہیں بناتا بلکہ جس غلط دعوے کے آپ معتقد ہیں کہ علماء کو نکلا سمجھتے ہیں اس کو بدلا چاہتا ہوں۔ واقعی ہمارے عقلاء میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اولاد علماء عموماً پھر ان میں سے وہ علماء خصوصاً جو کہ درس و تدریس میں مشغول ہیں محض بے کار ہیں کیونکہ واعظین کو تو بعضے کام کا سمجھتے بھی ہیں۔ سو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو کام سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہو اسی کو سب سے زیادہ بیکار کہا جائے۔

صاحب۔۔۔ افسوس ہے کہ آپ کے ہم طلن ہندوؤں نے تو تعلیم کے اہم ہونے کو محسوس کیا کہ ان میں بکثرت لوگ امتحان سے فارغ ہو کر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت سرشناس تعلیم میں داخل ہو۔ اس لئے کہ سب شاخصیں اس کی فرع ہیں تو تعلیم میں اپنا دخیل ہونا ذریعہ ہے ترقی قومی کا، مگر ہم کو اب تک بھی اس کی خبر نہیں اور پھر بھی اپنے کو عاقل سمجھے ہوئے ہیں۔ تعلیم کی حالت دوسرے کاموں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے انجمن کا پہیہ کہ اسی کے چکر پر تمام گاڑیوں کی حرکت بند ہو جائے اگر اس کی حرکت بند ہو جائے تو تمام گاڑیوں کی حرکت بند ہو جائے گی۔ مگر اس کی ضرورت کا احساس لوگوں کو اس واسطے نہیں ہوتا کہ جو چیز مدارکار ہوا کرتی ہے وہ اکثر لطیف زیادہ ہوتی ہے۔

جیسے گھڑی کافر اور بال کمانی کے گنوار آدمی گھڑی کو دیکھ کر سب سے بڑی چیز اس کے

گھنٹے کو سمجھتا ہے لیکن حقیقت شناس جانتے ہیں کہ گھنٹہ کی حرکت کا مدار فر پر ہے اگر فر کی حرکت بند ہو جائے تو گھنٹہ کو ایک دفعہ بھی حرکت نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح درس و مدرس سب مکملوں کی روح ہے خواہ تقریر ہو خواہ تحریر خواہ تصنیف، سب اسی تعلیم کی فرع ہیں مگر اس وقت سب سے زیادہ اسی کو بیرکار سمجھ رکھا ہے اور علامت اس کی یہ ہے کہ عام طور سے لوگوں کی نظر میں علماء کی وقت کم ہے اور اس علامت کی بڑی علامت یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لئے علم دین بہت کم تجویز کیا جاتا ہے پھر ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مدارس میں چندہ بھی دیتے ہیں اور مدارس دینیہ کی ضرورت بقاء کو ساناً تسلیم کئے ہوئے بھی ہیں جن کے لئے اہل مدارس ان کے بڑے بڑے شکریے ادا کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ دلچسپی ہو لیکن واقع میں ان کو دلچسپی کچھ بھی نہیں ہوتی۔

فقر کی اہمیت

صاحبہ دلچسپی اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کے لئے بھی اس کو قولہ و عملہ اختیار کر کے دکھلا دیا۔ قول اتویہ کہ خدا تعالیٰ سے دعا کی۔ اللهم اجعل رزق ال محمد قوتاً (اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بقدر کفایت رزق عطا فرما) اور عملایہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو سب خاندان سے زیادہ محبوب تھیں اور جن کے لئے آپ فرماتے ہیں کہ ہر چھٹے ہو جاتے تھے اور جن کے لئے آپ نے یہ فرمایا کہ سیدۃ النساء اهل الجنة فاطمہ۔ (حضرت فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں) نیز حضرت علیؓ نے جب نکاح ثالثی کا قصد فرمایا تو آپؓ نے یہ فرمایا کہ یو ذینی ما اذها (جو چیز حضرت فاطمہؓ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے) اتنی پیاری بیٹی نے جب ایک مرتبہ چکلی چلانے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جانے کی شکایت کی جس کو آج کل اس قدر عیب سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خاندان کی عورتوں کو بوجہ مصلحت یہ رائے دی کہ نبی لڑکیوں سے چکلی پسواو کیونکہ اکثر امارت کے لئے بیماری لازم ہو گئی ہے۔ وہ امیر بھی کیا ہوا جس کے پاس صحبت جیسی خدا کی نعمت نہ ہو اور وجہ اس کی یہی آرام طلبی ہے۔ اس لئے میں نے جو کہا کہ تم ایسا کیا کرو تو ان میں سے بعض کہنے لگیں کہ خدا نہ کرے تم ایسی فال کیوں نکالتے ہو اور یہاں تک ہم لوگوں کی شان بڑھ گئی ہے کہ اکثر عورتوں نے چرخہ کا تنا تک چھوڑ دیا ہے۔

ہمارے وطن میں ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ چرخہ کات رہی تھیں اور اس زمانہ میں ان کی ساس مرگی تھیں تو کوئی عورت جوان کے یہاں تعزیت کے لئے آتی تو آہٹ پاتے ہی چرخہ کو اٹھایا اور

اندھے باولوں کی طرح ایک کوٹھری میں پھینک کر آگے سے کواڑ بند کر دیتے تاکہ مہماں کو معلوم نہ ہو۔ غرض حضرت فاطمہؓ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے حضرت علیؑ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلام لوٹنڈی لے آؤ تاکہ کچھ مدد دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئیں اپنی راحت کے لئے یا شوہر کے انتشال امر کے لئے جس وقت حضرت فاطمہ حضور کے کھر پہنچیں تو حضور تشریف فرمائے تھے۔ یہ حضرت عائشہؓ سے کہہ کر چلی آئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ سے معلوم ہوا۔ پھر آپ حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت فاطمہؓ یعنی ہوئی تھیں آپ کو دیکھ کر اٹھنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی رہو۔ غرض اس وقت پھر حضور سے عرض کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کہو تو غلام لوٹنڈی دے دوں اور کہو تو اس سے بھی اچھی چیز دے دوں۔

یہ سن کر حضرت فاطمہؓ نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی ہی چیز دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت سبحان اللہ تین تیس بار اور الحمد لله تین تیس بار اور اللہ اکبر چوتیس بار پڑھ لیا کروں یہ غلام اور لوٹنڈی سے بھی بہتر ہے اس خدا کی بندی نے خوشی سے اسکے قبول کر لیا۔ تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر محبوب تھا تو اپنی اولاد کے لئے بھی آپ نے اس کو تجویز کر کے دھلادیا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ ہماری اولاد کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسے قوانین مقرر ہوتے کہ سب روپیہ انہی کو ملتا مگر ایسا نہیں ہوا تو دین میں دلچسپی اس کو کہتے ہیں۔

دین میں عدم دلچسپی

اب میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں کیا انہوں نے اپنے لڑکوں کے لئے بھی کبھی اس تعلیم کو تجویز کیا ہے اب تو یہ حالت ہے کہ ریاست رام پور میں ایک صاحب نے اپنے ایک دوست کو جن کا لڑکا قرآن پڑھتا تھا انگریزی پڑھنے کی رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ ذرا قرآن ختم ہو جائے تو انگریزی میں لگایا جائے۔ انہوں نے پوچھا کتنا قرآن ہوا ہے اور کتنے روز میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نصف ہوا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میاں دو برس تو صالح کئے اور دو برس بھی کیوں صالح کرتے ہو۔ صاحبو! غصب تو یہ ہے کہ خدا کے قاتل آخوت کے قاتل اور پھر یہ خیالات اور یہ مقالات۔

مجھے ایک دیندار فلسفی کا قول یاد آیا کہ انہوں نے ایک معتقد ارتقاء کو لکھا تھا کہ ڈارون نے جوار تقاء کے سلے کو مانا ہے اس کو تو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ خدا کا قاتل نہ تھا تو جس امر میں مشاہدہ

نہیں ہو سکا اس کی بابت تجھیں کی رائے قائم کر لی۔ انسان کا تکون بھی ایک واقعہ تھا اس کی نسبت بھی ایک رائے قائم کرنی پڑی تو انکار صانع کی صورت میں اس کا قاتل ہونا چند اس بعد نہیں لیکن جو شخص خدا کا قاتل ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس تجھیں پر چلے۔ اگر وہ یوں کہہ دے کہ خدا نے پیدا کیا تو اس میں کیا اشکال ہے۔ پس وجود صانع کا قاتل ہو کر اس کا قاتل ہونا سخت بعید ہے۔

اسی طرح میں کہتا ہوں کہ عالم قرآن کو پہ کار اور تضعیف اوقات کہنا اس سے تو بعد نہیں جو آخرت کا قاتل نہ ہو مگر جو شخص آخرت کا قاتل ہے اس کی زبان سے ایسا نکلا کہ قرآن کی تعلیم میں وقت کے صرف کرنیکو اضاعت وقت کہنا سخت عجیب ہے۔ کیا آخرت ہوئیکی صورت میں اس کا شرہ نہ ملے گا؟

فلک آخترت کی ضرورت

صاحب... خدا تعالیٰ نے عقل اس واسطے دی ہے کہ اس سے انجام کو سوچے اور جیسا یہ انجام سوچنے کے قابل ہے کہ ہم آج پڑھ لیں گے تو کل ڈپٹی ٹکٹری ملے گی۔ ایسا ہی اس سے آگے کا انجام بھی تو سوچنے کے قابل ہے کہ آخرت میں کیا ہو گا اور اگر کہو کہ آگے کوئی انجام نہیں تب تو پھر تم سے کوئی خطاب ہی نہیں لیکن چونکہ تم اگلے انجام کے بھی قاتل ہو اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں کیا ذخیرہ کی ضرورت نہ ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو پھر قرآن کی تعلیم کو تضعیف اوقات کس منہ سے کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ دنیا میں رہنا محض موہوم اور اس کے لئے یہ کوشش اور آخرت میں جانا یقینی ہے اور اس کے لئے سامان کی ضرورت نہ ہو اور اس سامان کو اضاعت وقت کہا جائے۔ اصل یہ ہے کہ خود آخرت ہی سے اس درجہ غفلت ہو گئی ہے کہ وہ یاد ہی نہیں آتی۔

ایک مرتبہ میں سہارنپور سے کانپور کو چار باتھا۔ میرے ساتھ کچھ پونڈے (گنے) بھی تھے۔ میں نے وزن کرنا چاہا جو لوگ رخصت کرنے آئے تھے۔ انہوں نے تواریخ کی مخالفت کی ہی مگر خود اشیش والوں نے بھی کہا کہ آپ لے جائیں ہم گارڈ سے کہہ دیں گے، کوئی مزاجمت نہ کرے گا۔ میں نے پوچھا یہ گارڈ کہاں تک جائے گا۔ جواب ملا کہ غازی آباد تک میں نے کہا، آگے کیا ہو گا؟ جواب ملا کہ آگے وہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا۔ میں نے کہا کہ آگے کیا ہو گا؟ جواب ملا بس آگے تو کانپور آجائے گا اور سفر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ آگے کیا ہو گا؟ جواب ملا کہ اسے گارڈ مزاجمت سے بچا میں گے سب چپ ہو گئے اور محصول لیا گیا۔ غرض آخرت ان اہل الرائے کو یاد نہ آئی۔

یہاں سے ایک جملہ معتبر ضمیم قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس قصہ میں جو باوجود اہل اختیار کی رعایت کے اس رعایت کو قبول نہیں کیا گیا اس کا سبب بجز ارشاد تعلیم شریعت کے کیا ہے۔ کیا آج کل کوئی مہذب ایسا کر سکتا ہے کہ اگر صاحب حق کو حق کی اطلاع بھی نہ ہوتی بھی دوسرے کا حق ادا کرے۔ لیکن شریعت اس کو ضروری بتلاتی ہے۔ اب شریعت اور اپنی تہذیب مختصر کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے۔ واللہ! ہم نے دیکھا ہے کہ غریب دین دار لوگ جن کو معمق عقل سمجھا جاتا ہے وہ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں مگر ہمارے معزز جو عقولاء کہلاتے ہیں ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ صاحبو! عاقل وہی ہے جو ان جام پر بھی نظر کرے۔ پس جس میں دین نہیں وہ عاقل کیا ہو سکتا ہے۔ آج کل عقل اور دین میں منافات سمجھی جاتی ہے حالانکہ ہمارے تمام بزرگ دنیا کی عقل کے ساتھ دین میں بھی ہمیشہ کامل ہوئے ہیں۔

ہر قل نے حضرت عمر کی نسبت سفیر اسلام سے پوچھا تھا کہ وہ کیسے شخص ہیں۔ اس نے جواب دیا تھا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ۔

لایخدع ولا یخدع یعنی نہ کسی کو دھوکا دیتے ہیں نہ ان کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہر قل نے کہا کہ اگر وہ ایسے ہیں تو ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا کیونکہ جس میں دین اور عقل دونوں جمع ہوں اس کی قوت کا مقابلہ ممکن نہیں ہوتا۔

یہ جملہ معتبر ضمیم ختم ہوا۔ بیان اس کو کر رہا تھا کہ آخرت سے بے خبری بے حد ہو گئی ہے اور اس بے خبری کی یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ جو باخبر ہو کر اس کی فکر کرتے ہیں ان کو حمق سمجھا جاتا ہے۔ میرے ایک دوست جو بی اے تک تعلیم پائے ہوئے ہیں مگر دیندار ہیں اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار بوجہ تنگی وقت بدون اسباب وزن کرانے ہوئے ریل میں سوار ہو گئے۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ملکٹ کلکٹر سے اس کی اطلاع کی اور وزن کرا کر محصول دینا چاہا۔ ملکٹ کلکٹر نے کہا کہ لے بھی جاؤ وزن کی کچھ ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو رعایت کا حق نہیں آپ مالک نہیں۔ اس کو تعجب ہوا اور اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا۔ انہوں نے وہاں بھی یہی تقریر کی تو وہ دونوں باتیں انگریزی میں یوں کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے شراب پی رکھی ہے۔ گویا دوسرے کا حق دینا ایسا عجیب امر ہے کہ حق دینے والے پرنسپلیٹی کا شہر ہوا۔ لیکن ہاں واقع میں وہ شراب محبت میں مدھوش تھے اور اسی کا نشہ ان کو چور کئے ہوئے تھا۔

آخر انہوں نے کہا کہ جناب میں شراب پئے ہوئے نہیں ہوں لیکن اسٹیشن والوں نے ہرگز محصول

نہ لیا مجبور ہو کر دوسرے طریقہ سے انہوں نے ادا کیا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی ربلوے کا ہمارے ذمہ کچھ رہ جائے تو اس قیمت کاٹکٹ اسی لائن کا لے کر تلف کر دیں اور اس نکٹ کو استعمال نہ کریں۔

اس قصہ کو میں نے اس واسطے بیان کیا کہ انجام پر بھی نظر ہونا چاہئے۔ بالخصوص جب کہ دنیا کے کاموں میں انجام پر نظر کرتے ہو تو آخرت پر تو بہت ہی ضرور ہے۔ صاحبو۔۔۔ کیا موت کے انجام کا انکار ہو سکتا ہے یہ تو وہ انجام ہے کہ اس سے کفار کو بھی انکار نہیں البتہ کفار میں ایک شرذہ مذکولہ جو اہل ملت نہیں وہ البتہ آخرت کے منکر ہیں وہم لا اعتدابهم غرض جب آخرت حق ہے اور اس کے لئے عمل کی ضرورت اور اس کے لئے علم اور تعلیم کی ضرورت پھر اس میں مشغول نہ ہونا چہ معنی مگر بہت لوگ پھر بھی اس کو اضاعت وقت سمجھتے ہیں اور اگر یہ اعتقاد بھی نہ ہو تو عمل تو اسی کے موافق ہے جس سے اعتقاد میں بھی ایک گونہ ضعف ثابت ہوتا ہے ورنہ اگر علم دین سے وچپی ہے تو علماء کی بے وقتی کی کیا وجہ؟ اور اگر ان کی وقت بھی کی جائے تو اولاد کو علم دین نہ پڑھانے کی کیا وجہ؟ یہ آثار برے ہی عقیدے کے ہیں۔

محض اعتقاد کافی نہیں

علماء کی بے وقتی کے متعلق بعضی یہ عذر کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے وعظنا اور معتقد بھی ہوئے مگر آخیر میں جو مولوی صاحب نے سوال کر دیا تو سارا اعتقاد حل گیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص حکیم عبدالعزیز صاحب وغیرہ سب کو اس وجہ سے چھوڑ دے اور سب کی برا بیاں شروع کر دے کہ اس نے عطا نیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ اس کو صاحب الرائے سمجھیں گے اور کیا آپ نے بھی سب ہی حاذق اطباء کو چھوڑ دیا ہے تو جن کی حکایتیں آپ نے یاد کر کھی ہیں وہ واقع میں اندازی عطا نی ہیں افسوس عطا نیوں کے پھیل جانے سے آپ نے اطباء کو نہ چھوڑ اگر چند سالوں کی وجہ سے محقق مولویوں کو چھوڑ دیا۔ مگر مولویوں کے نہ چھوڑنے سے میرا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے خالی معتقد رہو اور ان کے ہاتھ چوم لو۔ ہاتھ تو ہم خود تمہارے چوم لیں گے مطلب یہ ہے کہ علماء سے دین کا نفع حاصل کرو۔

اس وقت مولویوں کے ساتھ جو تمہارا خشک اعتقاد ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مشہور ہے کہ دو کنجوں تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم کھانا کیونکر کھاتے ہو اس نے کہا کہ بھائی ہر مہینے ایک پیے کا گھنی لے آتے ہیں اور سامنے رکھ کر اس کو خطاب کرتے ہیں کہ میں تجھ کو کھا جاؤں گا۔ پوامہینہ یوں ہی

کاٹ دیتے ہیں پھر آخر میں اس کو کھایتے ہیں۔ وہ بولاتم بڑے فضول خرچ ہوتا ہم تو روٹی پا کر جس گلی میں گوشت بھینے کی خوشبو آتی ہو وہاں کھڑے ہو کر خوشبوونگھتے جاتے ہیں اور روٹی کھایتے ہیں۔

تو یہ دونوں بھی گھنی کے معتقد تھے اور ایک گون تلبس بھی تھا لیکن ان کو اس کا کیا نفع ہوا۔ ایسے ہی آپ کو نہ رے اعتقاد سے اور محض ادب و تعظیم سے کیا نفع ہو گا۔

اولاد کے لئے ضروری تعلیم

غرض یہ آثار ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علماء کو بالکل بے کار چیز سمجھتے ہیں مجھ سے ایک شخص کی گفتگو ہوئی کہنے لگئے کہ آپ نے اپنے بھتیجے کے کے لئے کیا تجویز کیا میں نے کہا کہ عربی پڑھتا ہے تاکہ دین کی خدمت کرنے کہنے لگے مدرسہ دیوبند میں ہمیشہ سوڈیڑھ سو آدمی فارغ ہو کر نکلتے ہیں وہ خدمت دین کے لئے کافی ہیں۔ آپ نے ان کے لئے انگریزی کیوں تجویز نہ کی کہ دنیوی ترقی کرتا میں نے کہا کہ جناب خادم دین ہوتا اگر خسارہ کی بات ہے تو کیا وجہ ہے کہ طلبائے دیوبند کے لئے یہ پست حالت پسند کی جائے بلکہ چلو اور یہ مشورہ دو کہ سب چھوڑ کر انگریزی میں مشغول ہو جاؤ۔ آخر وہ بھی قوم کے ہی بچے ہیں اور اگر خادم دین ہوتا کوئی نافع امر ہے تو کیا وجہ کہ میرے بھتیجے کے لئے اس کو تجویز نہ کیا جائے۔ آخر بالکل خاموش ہو گئے۔

فسوں کی بات ہے کہ دیوبند کے طالب علم تو ایسے ذیل کہ جس شغل کو آپ بالکل بے کار سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کے لئے تجویز کیا اور آپ کی اولاد اسی محبوب و معزز کر اس کے لئے ڈپٹی گلکشیری اور تحصیلداری تجویز کی جائے۔ صاحبو! میں ڈپٹی گلکشیری وغیرہ سے منع نہیں کرتا لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ آپ نے اولاد کے لئے دین کی کیا فکر کی ہے کیا آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کی اولاد دار آخوت میں نہ جائے گی اور اگر جائے گی تو اس کا کیا حشر ہو گا۔ اسی طرح یہ سوچئے کہ کیا خادمان دینی کی ضرورت نہیں اور اگر ضرورت ہے تو کیا سب مسلمانوں پر اس کا اہتمام ضروری نہیں۔ تو آپ نے کیا اہتمام کیا۔

اس موقع پر ممکن ہے کہ بعض لوگ خوش ہوں کہ ہم اس الزام سے بری ہیں کیونکہ ہم نے ایک بچہ کو عربی میں داخل کر دیا ہے لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کیونکہ آپ نے جس معیار پر اس بچہ کو انتخاب کیا ہے اس طرز پر وہ بچہ خود اس مقصود کے لئے کافی نہیں کیونکہ آج کل معیار انتخاب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غبی اور کم عقل ہوتا ہے اس کو عربی کے لئے تجویز کیا جاتا ہے حالانکہ دنیا کمانے کے لئے بڑے عالی دماغ ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو چکلی پینا ہے جس کو

تحوڑی سب مناسبت بھی ہوگی وہ بھی اس کو بخوبی کر سکتا ہے دماغ کی ضرورت زیادہ اس کام کے لئے ہے جس کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے۔ اللہ اکبر! کتنا قلب موضوع ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کیا چیزیں ہیں۔ صاحبو ادبیا کی عقل بھی ان کے برابر کسی کو نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو ہر ایک قسم کا شرف عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو جو کام نیابت انبیاء کا ہے اس کے لئے بھی تو ایسی ہی عقل کامل کی ضرورت ہے۔ اب بتائیے کہ اولاد کا انتخاب کس قاعدے پر ہونا چاہئے۔ اور منع لوگوں کے اس خیال کا کہ باکار اولاد کے لئے علم دین تجویز نہیں کرتے یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی پڑھ کر لڑکا کھانے کمانے کے قابل نہیں رہے گا۔

کھانے کمانے کی حاجت

سو اول تو یہ غیر مسلم ہے کیونکہ کھانا کمانا تو ایک محدود حاجت ہے تو اپنی حاجت کے لائق سب ہی کر لیتے ہیں اور اگر بہت ہی کمایا تو خاص اس کے کام میں تو تھوڑا ہی آئے گا بلکہ جو اصلی مقصود ہے کھانے کمانے سے کہ جان کو لگے اس میں اکثر غرباء اکثر امراء سے بڑھے ہوئے ہیں۔ میں ایک امیر اور ایک غریب کی حکایت سناتا ہوں کہ وہ دونوں آپس میں دوست تھے مگر غریب تو بہت موٹا تازہ اور امیر صاحب نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے غریب دوست سے پوچھا کہ یار تم کیا چیز کھاتے ہو کہ اس قدر تو انا ہو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کھانا تم سے لذیذ کھاتا ہوں امیر بولا بھائی وہ کھانا ہم کو بھی کھلاو۔ اس غریب نے دعوت کر دی وقت پر اس کے مکان پر پہنچے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر جب دیر ہو گئی اور بھوک لگی تو بے تکلفی کے سبب کھانے کا تقاضا کیا۔ اس نے وعدہ کیا ابھی آتا ہے پھر اور دیر ہوئی اور زیادہ بھوک لگی زیادہ تقاضا کیا اور وہ یوں ہی نال تارہا۔ آخر جب وہ بہت ہی بے تاب ہوا اور سخت تقاضا کیا تو میز بان نے کہا کہ بھائی کھانا تو ابھی تیار نہیں لیکن دن کی باسی روٹیاں موجود ہیں اگر کہوتا لے آؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کے لئے تم باسی ہی لے آؤ۔ چنانچہ وہ کچھ تھوڑے سے باسی ملکڑے اور کچھ ساگ وغیرہ لایا۔ ان کی تو بھوک کے مارے بری حالت تھی بس ان ہی ملکڑوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت مزے لے لے کر شکم سیر ہو کر کھائے۔ وہ غریب منع کر رہا ہے کہ صاحب زیادہ نہ کھائیے بہت مزے دار کھانا پکڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب اب تو یہی بے حد مزے دار معلوم ہوتا ہے۔

تب اس غریب نے کہا کہ صاحب جو مزے دار کھانا میں ہر روز کھاتا ہوں وہ یہی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں اسی وقت کھانا کھاتا ہوں۔ جب سخت بھوک لگتی ہے اس لئے جو کچھ کھاتا ہوں

جز و بدن ہوتا ہے اور تم مخصوص ضابطہ پری کرتے ہو کہ کھانے کا وقت ہوا خادم نے آ کر عرض کیا حضور کھانا تیار ہے تم نے سنا اور کھانے کے لئے آ مادہ ہو گئے اگرچہ اس وقت تم کو بھوک بھی نہ ہو۔

غرض اگر کسی نے بارہ سو تیرہ سو کمائے بھی تو کھانا تو اس کا بھی جو مقصود بالذات ہے محدود ہی ہو گا۔ ہاں کمانا غیر محدود ہو گا۔ مگر جب کہ کھانے کی غایت محدود ہے تو کمانے کا غیر محدود ہو تو اس کو کیا کار آمد ہوا جب مقصود بالذات ہی کم ہے تو مقصود بالغیر کے زیادہ ہونے سے کیا نفع؟ سوال تو اسی مقدمہ میں کلام ہوا کہ مولوی ہو کر کما کھانہ سکیں گے کیونکہ بقدر ضرورت تو سب ہی کما کھائیتے ہیں اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کو بھی ثابت کیجئے کہ وہ کمانا جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یعنی تو کریٰ تجارت وغیرہ آیا وہ ضروری ہے بھی۔ اس کا اندازہ اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کسی خادم دین کو بھوکا نہ گا دکھلاؤ سمجھئے اور خدمت دین کی عام ہے خواہ وہ مدرسیں ہو یا وعظ ہو یا کسی خادم دین کو ذلیل دکھلا دیجئے پھر جب یہ بھوکے نہ گئے بھی نہیں ذلیل بھی نہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو خادمان دین میں کم ہے؟ اگر وہ کوئی چیز ہے تو آپ کی ہو سیں ہیں، تو ان کے لئے یہ جواب کافی ہے کہ۔

حص قانع نیست صائب ورنہ اسباب معاش آنچہ مادر کاردار ایم اکثرے در کار نیست لائچ ہی انسان کو قیامت کرنے نہیں دیتی ورنہ جو اسباب معاش ہم اختیار کرتے ہیں وہ ان میں اکثر کی ضرورت نہیں ہے۔

ترقی دنیوی مطلوب نہیں ہے

ذر آ آپ اپنے ہی گھر میں جا کر اسباب کا جائزہ لیجئے تو نصف سے زیادہ وہ سامان نکلے گا جس کے استعمال کی بھی نوبت بھی نہیں آتی اور چوتھائی سے زیادہ وہ نکلے گا کہ اس کی نسبت آپ کو آج تک یہ بھی خبر نہیں کہ وہ گھر میں بھی ہے تو ایسے اسباب کے جمع کرنے کی آپ ہی بتلائیے کیا ضرورت ہے؟ اور اگر مراد آپ کی تاکارہ ہونے سے یہ ہے کہ وہ ترقی نہیں کر سکتا تو حضرت ایسا ناکارہ ہونا تو عین مطلوب ہے اور آئین وفاداری ہے۔ مولا نافرماتے ہیں۔

تابدانی ہر کہ ایزو بخواند از ہمہ کار جہاں بیکار ماند
خبردار غور سے سن لو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کراپنا بنائیتے ہیں اسے دنیا کے تمام دھندوں سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

ما اگر فلاش و گر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیانہ ایم

ہم اگر نگال اور دیوانے ہیں تو کیا ہوا، تم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی محبت کے جام سے سرمست ہیں۔ لیکن یہ تو مولانا رومی کا کلام ہے اس سے تو صرف اہل دل متاثر ہوں گے۔ اب میں آپ کے مسلمات سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ایک نوکر ہے۔ اس کو آپ دس روپے دیتے ہیں اور آپ کو اس پر اعتماد ہے۔ اتفاق سے کہیں باہر کا ایک شخص اس کو ملا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اور تم کو کیا معاونتہ ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نوکر ہیں اور دس روپے ملتے ہیں اس کوں کراس مسافرنے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو میں تم کو بیس روپے دوں گا اور اس سے نصف کام تم سے لوں گا۔

اب دل میں ٹھوں کر بتائیے کہ اس نوکر کے لئے خوبی اور فخر کی بات کیا ہے۔ آیا یہ کہ ترقی کا نام سن کر پھسل جائے یا یہ کہ صاف جواب دے دے اور کہہ دے کہ آپ مجھے بہکانے آئے ہیں۔ یقیناً آپ دوسری شق کو اس کے لئے خوبی سمجھیں گے۔

اب انصاف سے بتلائیے کہ اگر کوئی خدا کا نوکر ہے اور پائچ روپے میں گزر کرتا ہے اور اس حالت میں وہ ہزار روپے پر اس طرح لالات مار دے کہ باوجود قدرت تحصیل اسباب کے وہ اسباب تعلیم معاش وغیرہ ترک کر دے تو اس کو کم حوصلہ اور محروم الترقی کیوں کہا جاتا ہے۔ صاحبو! اس کی قدر تو اور بھی زیادہ ہونی چاہئے نہ یہ کہ اس کو خشک دماغ بتلایا جائے صاحبو! جس کا نام آپ نے ترقی رکھا ہے اس کا خلاصہ واللہ شخص عرض پرستی ہے خود پرستی ہے اگرچہ اس کے پچھے ساری عقل اور دین سلب ہو جائے اسی کو کہتے ہیں۔

عاقبت سازد ترا از دیں بری ایں تن آرائی و ایں تن پروری تمہاری یہ تن آرائی اور جسم پروری آخر کار تمہیں دین سے محروم کر دے گی۔

تو مولانا کے قول سے اگر تسلی نہ ہوئی تھی لیکن آپ کے نوکر کی مثال سے تو تسلی ہو گئی ہو گی۔ صاحبو! جس سے دلچسپی نہیں ہوتی اس میں انسان ترقی نہیں کر سکتا۔

انبیاء در کار دنیا جبریند اشقيا در کار عقبی جبریند انبیاء را کار عقبی اختیار اشقيارا کار دنیا اختیار حضرات انبیاء علیہم السلام دنیوی کام جبر سے جبکہ آخرت کے کام اشتیاق و رغبت سے کرتے ہیں عرض اپائچ اور چست سب ہیں لیکن اہل دنیا کار دنیا میں چست اور کار عقبی میں ست ہیں اور اہل اللہ کار دنیا میں ست اور کار عقبی میں چست ہیں اور اگر اب بھی تمہارے نزدیک فیصلہ نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے کہ

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهُ وَيَحْلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

”اگر تم ہم سے تم خدا کرتے ہو تو ہم بھی تم سے ٹھٹھا کرتے ہیں جس طرح تم ٹھٹھا کرتے ہو۔
سوغیریب معلوم کراوے گے کہ رسا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور دائی گئی عذاب کس پر اترتا ہے۔“

فسوف تری اذا انکشاف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار
عفتریب جب غبار پھٹ جائے گا تو تم کو پتہ چلے گا کہ تمہارے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا۔
کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے کہ تو گدھے پر سوار ہے مگر کثرت
غمبار سے اس کو پتہ نہیں چلتا اور کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں۔ پہلا شخص جواب دیتا ہے
کہ اچھا ذرا غبار بیٹھ جائے تو پھر تم کو معلوم ہو گا کہ تمہاری ران کے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا۔

اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پر راضی نہیں تو ذرا صبر کیجئے۔ سَيَغْلَمُونَ عَذَابَ
مَنِ الْكَذَابُ الْآثِرُ، ورنہ صاحبو جب آپ کے ملازم کے لئے ترقی نہ چاہتا خوبی اور
وفاداری ہے تو خدا کے نوکر کے لئے کیوں یہ خوبی اور وفاداری نہیں ہے تو صاحب یہ ہے کہ وہ
نکما ہونا جس کی حقیقت آپ نے اعتراض کر کے خود کھلوائی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ نکما کہنے
سے بر انہیں مانتا بلکہ خود اس پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کام یہ ہے۔

عاشق بدنام کو پرواۓ ننگ و نام کیا اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا
صاحب وہی نکھے تھے کہ اگر آج ان کی جوتیاں مل جائیں تو سر پر کھلی جاتی ہیں۔

امراء کی وجہ پسی کا اثر

بس یہ نیج تھا، علم دین سے بے رغبتی کا کہ لوگ ان کو بے کار سمجھتے ہیں اور اسی لئے اس سے مطلق
وجہ پسی نہیں ہے ورنہ وجہ پسی کی توبیہ علامت ہے کہ اسکو اپنے لئے اور اپنی اولاد کیلئے بھی تجویز کرتے۔
مجھے عالمگیر کی ایک حکایت یاد آتی ہے (یہ حکایت زبانی ہے کتابی نہیں) کہ ایک روز
جامع مسجد میں انہوں نے طالب علموں کو دیکھا کہ سخت پریشان پھرتے ہیں اور خورد و نوش کی
کوئی سبیل نہیں، سمجھے کہ سبب اس کا بے رغبتی امراء کی ہے۔ چاہا کہ اس کی اصلاح ہو۔ بس وضو
کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر نماز میں فلاں شبہ ہو جائے تو کیا کرے؟
وزیر صاحب اس کا جواب نہ دے سکے۔ عالمگیر نے ذرا غصب ناک نظر سے وزیر کی طرف
دیکھا اور کہا کہ تم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ فقہ کے ضروری مسائل یاد کرو۔ وزراء وغیرہ سب تھرا

گئے اور فوراً ہی طلباء کی تلاش شروع ہو گئی اور روزانہ ان سے سمجھتے اور اس طرح سے وہ سب اطمینان کی حالت میں ہو گئے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ طالب علم ڈھونڈے نہ ملتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عالمگیر کو بارہ ہزار حدیثیں یاد تھیں۔

دیکھئے جب امراء کو اس جماعت سے دچپی ہوئی گوبصر و رت کی تو اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ ان سے مستفید ہونے لگے۔ اگر آپ کو بھی اس سے دچپی ہوئی تو کم از کم ہفتہ میں ایک ہی دن کسی عالم سے مسائل پوچھ لیا کرتے۔ اگر خود ان کے پاس نہ جاتے تو انہی کو اپنے پاس بلا لیتے کیونکہ آج وہ رئیس کہاں رہے ہیں جو خود طالبانہ حاضر ہوں۔

پہلے یہ حالت تھی کہ ہارون الرشید نے امام مالک سے درخواست کی کہ شہزادوں کو حدیث پڑھا جایا تبھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی کے خاندان سے علم دین کی عزت ہوئی اور آپ ہی بے عزتی کرتے ہیں۔ ہارون نے کہا کہ اچھا شہزادے وہاں ہی حاضر ہوں گے مگر اس وقت عام رعایا سے الگ کروئے جایا کریں۔

آج بھی بعض رئیس جماعت میں نہیں آتے کہ خلط ملط سے لوگ ہمارا رب نہ کھائیں گے۔ صاحبو! ذرا سنبھلو! یہ طرز در پردہ حکم شریعت پر اعتراض ہے کہ ایسا مضر قانون تجویز فرمایا، دوسرے یہ بالکل غلط ہے کہ خلط ملط سے رعب جاتا رہے گا۔ رعب تو اس وقت بھی ہو گا لیکن انس کے ساتھ ہو گا اب وحشت کے ساتھ ہے۔

ہمیت حق

خدا تعالیٰ کے احکام ایسے بے ڈھنگے نہیں ہیں کہ ان کے مضر آثار ہوں۔ دیکھئے خلقائے راشدین کا کس قدر رعب رعایا پر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھ لیجئے کہ خلفاء کی طرف سے کیا تو اضع ہوا کرنی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ہر سر ممبر فرمایا کہ اسمعوا و اطیعوا تم سنو (حکم خلیفہ) اور اطاعت کرو) سامعین میں سے ایک شخص نے کہا کہ لانسمع ولا نطيع (ہم نہیں سنتے اور نہ اطاعت کرتے ہیں) حضرت عمر نے وجہ پوچھی، تو اس شخص نے کہا کہ غنیمت کے چادرے جو آج تقسیم ہوئے ہیں سب کو تو ایک ایک ملا ہے اور آپ کے بدن پر دو ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تقسیم میں عدل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی، تو نے اعتراض میں بہت جلدی کی۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس آج کرتے نہیں تھا، تو میں نے اپنے چادرے کو ازار کی جگہ باندھا اور

ابن عمر سے ان کا چادرہ مستعار لے کر اس کو کرتہ کی جگہ اوڑھا ہے۔

اس واقعہ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان حضرات میں بڑے چھوٹے سب برابر حصے کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ آج بڑوں کا دوہرا حصہ ہونا تو گویا لازمی امر ہے البتہ اگر مالک ہی دوہرا حصہ دے تو کچھ مضا لفظ نہیں۔

غرض تواضع کی توبیہ کیفیت تھی اور با وجود اس نرمی کے رعب کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آپ بہت سے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ اتفاقاً پشت کی طرف جو آپ نے نظر کی تو جس جس پر نظر پڑی، سب گھٹنوں کے بلگر پڑے۔

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید ترسید از دے جن و انس و ہر کہ دید جو حق سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ جن اور انسان جس کو وہ دیکھتا ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں۔

یعنی جو خدا تعالیٰ سے ڈرے گا اس سے سب ڈریں گے اور اگر کسی کے رعب میں کمی ہے تو تقویٰ کی کمی کی وجہ سے ورنہ ضروریت ہوتی ہے ہاں وحشت اور نفرت نہیں ہوتی اور اجتناب و عدم اختلاط کے ساتھ جو ہبہت ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے لوگ بھیڑیے سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں بھیڑیا آجائے تو ابھی سب کھڑے ہو جائیں۔

تو جیسے آج کل رہما کو خیال ہے ایسا ہی ہلوں الرشید کو یہ خیال ہوا کہ شہزادے سب سے الگ پڑھیں گے تو ان کا رعب باقی رہے گا۔ اس لئے امام مالک سے عرض کیا کہ شہزادوں کے ساتھ کسی کو نہ بھلا کیے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا عرض آخر شہزادے ہی حاضر ہوا کرتے اور حدیث سناؤ کرتے۔

تو اس وقت تو بادشاہ ایسے تھے کہ ایک عالم نے روکھا سا جواب دے دیا اور اس کو بادشاہ نے قبول کر لیا لیکن آج وہ حالت نہیں ہے۔ اس وقت بھی علماء کو چاہئے کہ اپنے کو ذلیل نہ کریں لیکن بہت زیادہ اجتناب بھی نہ کریں کہ اس میں اہل دنیا بالکل ہی محروم رہیں گے یعنی اگر کوئی شخص انتفاع دین کے لئے اہل علم کو قدر کے ساتھ بلاۓ تو چلا جانا مناسب ہے۔

دین کی دوستی

میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالموں کو بنا کر آپ ان سے عربی پڑھئے اس میں تو آپ کو پھر عذر سو جھیں گے۔ سو میرا یہ مطلب نہیں کیونکہ محمد اللہ اردو میں بھی ایسا کافی ذخیرہ مذہبی ہو گیا ہے

کہ آپ کو عربی کی ضرورت نہ پڑے گی لیکن یہ خوب یاد رکھئے کہ مذہبی کتابوں سے مراد علماء باعمل کی کتابیں ہیں نصیریوں کے خرافات مراد نہیں اگرچہ لقب ان کا بھی مولوی ہو۔

مجھ سے ایک نائب تحصیلدار صاحب نے کہا کہ میں مذہبی کتابیں دیکھا کرتا ہوں۔ دریافت جو کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نیا چہہ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب آپ قانون گورنمنٹ یادنہ کریں اور اخبار ہی دیکھا کریں تو کیا آپ گورنمنٹ کی عملداری میں رہ کر کام چلا سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں کیونکہ جو نصاب گورنمنٹ نے تجویز کیا تھا آپ نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی طرف سے ایک نیا نصاب تجویز کر لیا۔ تو اسی طرح مذہب میں بھی وہ کتابیں دیکھتے جو مذہبی نصاب میں داخل ہیں۔

اس وقت لوگوں نے نصاب تعلیم بھی اپنی رائے سے تجویز کر لیا ہے۔ چنانچہ مردوں نے تو یہ نصاب مذکور تجویز کیا یعنی بد دینوں کی تالیفات اور عورتوں کے موضوع قصہ کہانیوں کی کتابیں تجویز کیں جیسے معجزہ آں نبی وغیرہ جس کا مہمل ہوتا نام ہی سے ظاہر ہے کیونکہ معجزہ آں نبی کا نہیں ہوتا۔ دوسرے اس میں حضرت علیؓ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے حضرات حسینؑ کو کسی فقیر کو ہبہ کر دیا تھا اور اس نے کسی اور کے ہاتھ پنج دیا تھا اور ایسے قصہ پڑھنے والے تو جاہل ہی ہیں۔ ان جاہلوں سے بڑھ کر بعض مولویوں نے یہ غصب کیا ہے کہ نفع تجارت کے لئے وہ قصہ چھاپا اور چونکہ موضوع کی اشاعت ناجائز ہے اپنے کو بری کرنے کے لئے آخر میں یہ لکھ دیا کہ یہ قصہ موضوع طبع ہوا۔ اول تو آپ کو اس کی اشاعت کی کوئی دینی ضرورت تھی پھر یہ کہ عوام تو موضوع کے معنی بھی نہیں سمجھتے، اگر لکھتا تھا تو یہ لکھتے کہ یہ قصہ بالکل لغو اور جھوٹ ہے اس کا پڑھنا جائز نہیں لیکن اگر ایسا لکھتے تو وہ بتا کہاں! خدا بچائے ایسے دین فروشوں سے اسی لئے کہا ہے۔

بد گہر را علم و فن آموختن دادن تیغست دست راہزن

(نااہل کو علم دین سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تکوار دینا ہے)

اب اگر کہو کہ پھر اس صورت میں تو انتخاب بہت مشکل ہوا تو واقعی تم کو انتخاب مشکل ہے مگر کسی عالم سے انتخاب کرائیے۔ یہ تو نصاب تعلیم میں گفتگو تھی مگر اس کے ساتھ ہی یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ابتداء ہی سے اپنی اولاد کو کسی بزرگ کی صحبت میں وقایا فوت قرار رکھئے اور خود بھی رہئے۔ اس کی صحبت میں خدا تعالیٰ نے اصلاح کا اثر رکھا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

قال را گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو

باتیں بنانا چھوڑ دو عمل کے بندے بنو کسی کامل بزرگ کے سامنے اپنے کو مٹا دو
صحبت نیکاں اگر یک ساقتست بہتر از صد سالہ زہد و طاقتست
ہر کہ خواہد ہم نشینی باخدا گو نشید در حضور اولیاء
نیک بزرگ کی ایک گھڑی کی صحبت سو سال کے زہد و عبادت سے بہتر ہے جو خدا کی
ہمنشینی چاہے اس کو بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے۔

مگر صحبت کا ہم لوگوں میں بالکل ہی اہتمام نہیں۔ میں نے ایک موقع پر اس کو ایک
مستقل تقریر میں بیان کیا ہے اور اب پھر کہتا ہوں کہ جہاں اور تمام ضروریات اپنی اولاد کے
لئے تجویز کی جاتی ہیں چند روز کے لئے اس کا بھی انتظام کر لیجئے کہ اس کو کسی بزرگ کے پسروں کر
دیجئے اور کم سے کم ایک سال تک ان کے پاس ضرور رکھئے۔ اگر کہئے کہ اس میں تو ان کی دنیوی
تعلیم کا بڑا نقصان ہو گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی یہ صورت کیجئے کہ ہر چھٹی میں چند روز رکھا
کیجئے اس طرح چند مرتبہ میں یہ مدت پوری ہو جائے گی غرض صحبت کا بھی اہتمام ہو اور محقق علماء
کے تجویز کردہ نصاب کی تعلیم ہو۔ اس طرح دین کی درستی ہو سکتی ہے اگر فرصت کم ہو تو اردو بھی
ورنہ وقت ملے تو عربی سے بھی نہ چوکئے کہ تحری و تحقیق کا یہ طریقہ ہے۔

علم دین کی خاصیت

میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ علوم عربیہ اگر دین کے لئے نہ پڑھائے جائیں تو دنیا ہی کی
لیاقت اور استعداد کے لئے پڑھائیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایم اے ہیں مگر عربی کی
استعداد نہیں رکھتے ان سے لیاقت میں عربی خواں جوانتر نہیں بھی نہیں پڑھے بڑھے ہوتے ہیں
تو اگر عربی کی تعلیم دین کے لئے نہ ہو تو کم از کم دنیا ہی کے لئے ہو۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے
کہ میں علم دین کو دنیا کے لئے حاصل کرنے کی رائے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ علم دین کی
خاصیت ہے کہ بھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور کرتا ہے اور حاصل کرنے والے کو دیندار بنا کر رہتا ہے
یہ سمجھ کر میں نے کہہ دیا کہ خواہ دنیا ہی کے لئے حاصل کرو غرض جس طرح ہو علم دین کا اہتمام
کرو۔ گواں کے ساتھ انگریزی بھی ہو میں انگریزی تعلیم سے منع نہیں کرتا مگر اس وقت تو اسلام
ہی کے لालے پڑ رہے ہیں آخر اس کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بس اس کی رائے
دے رہا ہوں اور یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ دنیا کے سنبھالنے کے لئے بھی دین ہی کی ضرورت ہے
اس لئے میں نے تمہید میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری جماعت مولویوں کی ہے۔

فساد اور اصلاح

اب ان آیتوں سے اس کو ثابت کرتا ہوں تو سمجھئے کہ ان دو آیتوں میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا الاعراف آیت ۵۶ اور یہی جزو ہے جو اس وقت مقصود بالبیان ہے یعنی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاو۔

اب دیکھئے کہ فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے اسی کے فیصلے کے لئے میں نے یہ دونوں آیتوں پوری پڑھ دی ہیں تاکہ سیاق و سبق سے اس کی تعریف ہو جائے تو پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ۔

أَذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً اپنے رب کو گزر گذا کرا اور آہستہ آہستہ پکارو۔

اور بعد میں یہ فرمایا کہ

وَأَذْعُوا حَوْقًا وَ طَمْعًا۔ اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔

اور دعا میں دو احتمال ہیں یا تو دعا کے وہی معنی ہوں جس کو عرف میں دعا کہتے ہیں یا دعا کے معنی عبادت کے ہوں کیونکہ قرآن میں دعا کے معنے عبادت کے آئے ہیں چنانچہ بعض نے اذْعُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میں عبادت کے معنی لئے ہیں اور بعض نے دعا کو اپنے معنی میں رکھ کر لفظ عبادت کو جو **إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي** (جو لوگ میری عبادت سے عار کرتے ہیں) میں ہے دعا کے معنوں میں لیا ہے۔ نیز دوسرا جگہ ارشاد ہے **وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ** اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے یہاں دعا کے معنی عبادت ہے غرض دعا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

تو اس آیت میں اگر عبادت کے معنے لئے جائیں تب تو خلاصہ یہ ہو گا کہ اول بھی عبادت کا حکم ہے اور بعد میں بھی اور درمیان میں فساد کی ممانعت ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادت نہ کرنا فساد ہے اور اس سے اصلاح کی بھی تعریف ہو گئی کہ بعد انتظام عبادت ترک عبادت نہ کرو۔

اگر دعا کے معنی عبادت کے نہ لئے جائیں بلکہ اپنے ظاہری معنی پر رکھا جائے تو اس وقت بظاہر یہ آیت اس دعویٰ کے اثبات کے لئے مفید نہ ہو گی لیکن غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اس صورت میں بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ عبادت دو قسم کی ہے ایک تو عبادت جس سے مقصود دین ہی ہے اور ایک وہ عبادت جس سے کبھی دنیا بھی مقصود ہوتی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ پہلی عبادت اپنے عبادت ہونے میں زیادہ قوی ہے۔

اب سمجھتے کہ دعا عبادت کی ایسی فرد ہے کہ اس سے دنیا کی بھی طلب ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے دعا دوسرے درجے کی عبادت ہو گئی تو جب اس کے ترک کو فساد فرمایا گیا ہے تو جو عبادت خالصہ ہے اس کا ترک تو کیوں موجب فساد نہ ہو گا تو قرآن اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ عبادت کا ترک کرنا موجب فساد فی الارض ہے اور انتظام عبادت کو اصلاح فی الارض فرمارہا ہے۔

باقی یہ کہ جس وقت یہ ارشاد ہو رہا ہے اس وقت یہ موجہ وجوہ اصلاح کہاں تھی جس کے بعد فساد سے منع فرماتے ہیں کیونکہ کفار کی کثرت تھی جو ہر وقت فساد ہی میں رہتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اصلاح سے سامان اصلاح ہو گا یعنی بعثت نبی کریمؐ کو وہ سامان تھا اصلاح فی الارض کا تو معنے یہ ہوئے کہ ہم نے یہ اصلاح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر سامان اصلاح کر دیا۔ اگر تم ان کو چھوڑو گے تو تم فساد کرو گے یہ تو آیت کامل لول ہوا جس کا حاصل یہ ہوا کہ عبادت یعنی دین نہ ہونا موجب فساد ہے۔ اب میں اس کو مشاہدہ سے ثابت کرتا ہوں۔

و دین کی حقیقت

لیکن اول اس کو سمجھتے کہ دین کیا چیز ہے تاکہ آپ کو پھر ملول آیت میں تعجب نہ ہو تو دین حقیقت میں چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مگر ہم لوگوں نے اس وقت دین کا یہ سُت نکالا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور بس اور بعض نے تو یہ بھی نہیں رکھا بلکہ محض من قال لا اله الا الله دخل الجنة۔ اپنی مزاعم تفسیر کے اعتبار سے ان کا مذہب ہے اور اس پر غصب یہ ہے کہ بعض نے محمد رسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں نے اس کی تفسیر دیکھی ہے کہ (نَعُوذ باللهِ) رسالت کاماننا نجات کا موقع علیہ نہیں۔

صاحبو۔۔۔ مولوی اسی کو رو تے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے لیکن آپ کو خبر نہیں، صاحبو! غصب ہے کہ غیر قومیں تو اسلام کی تعریف کرتی چلی جاتی ہیں اور ہم اسلام کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ غرض چونکہ ہم لوگوں نے دین کا سُت نکال لیا ہے۔ اس لئے میں بتلاتا ہوں کہ دین واقع میں چند چیزوں کا نام ہے اور وہ پانچ چیزیں ہیں۔

۱۔ عقائد ۲۔ عبادات ۳۔ معاملات ۴۔ ادب معاشرت ۵۔ اخلاق باطنی

یعنی یہ کہ تکبرتہ ہو؛ ریانہ ہو؛ تواضع ہو؛ اخلاص ہو؛ فقامت ہو؛ شکر ہو؛ صبر ہو؛ علی ہذا پس ان پانچ چیزوں کا نام دین ہے اس وقت کسی نے کسی کو کسی نے کسی کو چھوڑ رکھا ہے، کسی نے اعمال کو چھوڑا، کسی نے معاملات کو، کسی نے معاشرت کو اس طرح سے اپنی معاشرت کو چھوڑ کر

غیروں کی معاشرت کو اختیار کر لیا ہے اور بعض نے اخلاق باطنی کو چھوڑ دیا ہے بلکہ ان آنحضرت کے دو جزو کو تو قریب سب ہی نے چھوڑ دیا ہے۔

اس تفصیل کے بعد حاصل آیت کا یہ ہوا کہ دین کو یعنی ان پانچ چیزوں کو اصلاح فی الارض میں اور ان پانچوں کے اخلال کو افساد فی الارض میں داخل ہے۔ بس اب اس کو دیکھ لیجئے مشاہدہ کہ اصلاح فی الارض میں جدا جدا ہر ایک کا کیا داخل ہے سو بعض کا داخل تو ہمین ہے۔ مثلاً اخلاق کہ ان کا اثر امن عام میں نہیں ہے اور ذرا سے غور سے معاملات کا اثر بھی امن عام میں ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ احکام معاملہ کا حاصل حقیقت یہ ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ کیا جائے پس معاملات کو بھی اتفاق میں بڑا اثر ہے۔ بشرطیکہ وہ شریعت کے موافق ہوں کیونکہ آپ کی رائے ان مصالح کی رعایت نہیں کر سکتی۔ جن کی شریعت نے کی ہے جیسے پہل فروخت کرنا کہ آپ نے قبل از وقت پہل فروخت کے تو اس صورت کو شریعت نے حرام کیا ہے کیونکہ پہل آنے سے پہل فروخت کرنے میں معدوم کی بیع ہے اور بیع معدوم میں کسی نہ کسی کا ضرر ضرور ہوتا ہے اور شریعت کے موافق کرنے میں کسی کا ضرر نہیں اور جب کسی کا ضرر نہیں تو امن قائم ہو گا تو ان دونوں کا اثر تو دنیا کے انتظام میں صاف معلوم ہوتا ہے۔ باقی اور تین چیزوں کا امن عام میں دخیل ہونا سو یہ کم ظاہر ہے اس لئے اس کو بھی ثابت کرنا ضرور ہے کہ یہ بین چیزیں بھی امن عام میں دخیل ہیں۔

عقائد اور امن عامہ

سو اول یعنی عقائد کو تو یوں سمجھو کر توحید اور رسالت اور معاد امن العقائد ہیں اور ان سب کو امن عام میں بڑا داخل ہے۔ آپ نے اخلاق اور معاملات کو تو امن عام میں دخیل مان ہی لیا ہے اسی کی تسلیم سے یہ دعویٰ بھی ثابت ہو جائے گا۔

ایک مثال بطور نمونہ کے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً اخلاق میں جھوٹ نہ بولنا ہمدردی کرنا، خود غرضی نہ کرنا سب داخل ہے اور یہ اصول تمدن میں سے بہت بڑی چیزیں ہیں جن پر تمام دنیا کا مدار ہے لیکن واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اخلاق دو شخصوں میں پائے جائیں جن میں ایک توحید اور رسالت کا قائل ہو اور دوسرا اس کا قائل نہ ہو تو یقیناً دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گا یعنی منکر توحید میں تو یہ اخلاق محدود العمر ہوں گے۔ اس طرح سے کہ جب تک ان اخلاق پر عمل کرنے میں اس کے دنیاوی منافع فوت نہ ہوں یا ان کے خلاف عمل کرنے سے دوسروں کو خبر ہو کر

رسوائی کا اندیشہ ہواں وقت تک تو ان اخلاق پر عمل کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا موقع آپڑے گا کہ ان اخلاق پر عمل کرنے سے دنیوی ضرر ہوتا ہو اور ان کے خلاف کرنے میں کسی کو خبر بھی نہ ہو جس میں اندیشہ بدنامی نہ ہو تو اس منکر تو حیدر سالمت کو بھی ان اخلاق کے ترک کی پرواہ ہوگی۔

ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کبھی بے دین سلطنتوں میں آپس میں معابدہ ہوتا ہے تو اس کی پابندی اسی وقت تک کی جاتی ہے جب تک اپنے منافع حاصل ہوتے ہیں یا خلاف کرنے میں اپنا ضرر ہوتا ہے اگر خلاف کرنے میں اپنا ضرر نہ ہوتا ہو تو عہد شکنی میں ذرا بھی آپس و پیش نہیں ہوتا۔

یا فرض کرو کہ دو شخص ہم سفر ہوں جن میں ایک کے پاس ایک لاکھ روپے کے نوٹ ہوں اور دوسرا ایسا ہو کہ اس پر فاقہ گزرتے ہوں۔ اتفاق سے وہ متمول انتقال کر جائے اور دوسرے رفیق سفر کو ان نوٹوں کے لے لینے کا موقع ملے اور عاقل بھی یہ اتنا بڑا ہو کہ بلا تکلف ان کو فروخت کر سکے اور اس مرحوم کے ورثہ میں بھی صرف ایک نابالغ بچہ ہو اور ان نوٹوں کی اور کو خبر بھی نہ ہو کہ اس شخص کے پاس یہ ذخیرہ ہے اس صورت میں اخلاق اور نفس میں سخت کشاکشی ہو گی۔ اخلاق کا فتویٰ تو یہ ہو گا کہ یہ روپیہ اس وارث کو دینا چاہئے اور نفس کا فتویٰ یہ ہے کہ جب اس روپے کے رکھ لینے میں کوئی بدنامی نہیں، کسی قسم کا اندیشہ نہیں تو پھر ان کو کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ اس کشاکشی میں میں نہیں سمجھتا کہ نری اخلاقی قوت انسان کو اس عظیم مہلکہ سے بچائے۔

پس جس شخص کو نری اخلاقی تعلیم ہوئی ہے وہ ہرگز اس خیانت سے نہیں بچ سکتا۔ البتہ جو اخلاقی تعلیم کے ساتھ خدا اور قیامت کا بھی قائل ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہاں بچ گیا اور مجھے دنیا میں خمیازہ بھگتا نہ پڑا تو قیامت میں تو ضرور ہی بھگتا پڑے گا۔

اسی طرح ایک اور جزئی یاد آئی کہ میرے پاس اکثر ایسے نلکت آ جاتے ہیں کہ ڈاک خانہ کی مہر سے بچ ہوئے ہوتے ہیں اگر میں ان کو استعمال کرلوں تو کوئی بھی باز پس نہیں کر سکتا کیونکہ نہ میرے پاس ڈاک خانہ والے ہوتے ہیں نہ کوئی دوسرا دیکھنے والا ہوتا ہے لیکن محض خدا کے خوف سے اکثر میں سب سے اول ان ہی کو چاک کر کے پھینک دیتا ہوں۔ اس کے بعد خط پڑھتا ہوں۔ علی ہذا اگر روزمرہ کے واقعات کو دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ دوسروں کے حقوق کی پوری حفاظت جب ہی ہو سکتی ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو۔

یہ مثال نمونہ کے طور پر بیان کی ورنہ غور سے معلوم ہو گا کہ تمام مسائل تمدن میں اس کی

ضرورت ہے کہ مبداء و معاد کا معتقد ہو۔ اس کی تفصیل کے لئے رسالہ مال تہذیب، دیکھنے کے قابل ہے اس میں دکھلایا ہے کہ اس مختصر تہذیب کا دنیا ہی میں ہونے والا ہے۔ انہوں نے ایک ایک مفسدہ کو لکھا ہے اور ختم پر ہر جگہ یہ کہہ دیتے ہیں فویل یومِ نذلللمهذبین (پس سخت عذاب ہو گا قیامت میں (نئے) مہذبین کو) غرض امن عام اور تمدن اس وقت باقی رہ سکتا ہے جب اخلاق درست ہوں اور اخلاق کی کامل درست جب ہو سکتی ہے کہ عقائد درست ہوں۔

اعمال شرعیہ اور امن عامہ

اب اعمال کا دخل بیجتے یہ بھی ان شاء اللہ اخلاق، کی ضرورت تسلیم کر لینے سے ثابت ہو جائے گا۔ سب کو معلوم ہے کہ اخلاق میں بڑی چیز تواضع ہے اس کے نہ ہونے سے تمام عالم میں فساد پھیلتا ہے کیونکہ فساد کا منبع ہے ناقاقی اور ناقاقی تکبر سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اگر تکبر نہ ہو اور آپ مجھ کو بڑا مانیں اور میں آپ کو بڑا مانوں تو ناقاقی کی کوئی وجہ نہیں۔ تو اتفاق کے لئے تواضع کے پیدا کرنے اور تکبر کے مٹانے کی ضرورت ہے اور اس تواضع کی عادت نماز سے خوب ہوتی ہے نفس کا یہ خاصہ ہے کہ اگر کہیں اس کو ذلت نہ سکھلائی جائے تو اس میں فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے اور نماز میں اول ہی سے اللہ اکبر کی تعلیم ہے تو مجھ پا خ وقت زبان اور دل سے اللہ اکبر کہے گا اور جو ارج سے رکوع اور سجده کرے گا زمین پر پیشانی رکھے گا وہ کیوں کرانے کو بڑا سمجھے گا۔

اگر کہو اس سے تو یہ ہو گا کہ اپنے کو خدا سے بڑا نہ سمجھے گا لیکن دوسروں سے تو بڑا نہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ ناقص تحریک کاری کا اعتراض ہے۔ دیکھو اگر تحصیلدار اپنے جوش حکومت میں تحصیلداری کر رہا ہوں اور اچانک لفڑت گورنر آ جائے تو خود ان کے ذہن میں بھی وجود اناسب اختیارات مسلوب سے ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی حضور بھی کہہ دیتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی۔

تو جس کے دل میں خدا کی عظمت ہو گی وہ اپنے کو چیزوں سے بھی مغلوب اور ناتوان سمجھے گا۔ کیونکہ بڑوں کے سامنے ہوئے چھوٹوں پر بھی حکومت نہیں رہتی۔ تو اللہ اکبر کی تعلیم وہ ہے کہ اس سے تکبر کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے اور پھر اس سے ناقاقی کا جاتا رہنا لازمی ہے۔

علی ہذا قوت بہمیہ سے سینکڑوں فساڈ رائی جھگڑے دنیا میں ہوتے ہیں اور روزے سے قوت بہمیہ ٹوٹتی ہے۔

ای طرح زکوٰۃ کہ اس سے لینے والے کے علاوہ دوسروں کو بھی زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ دیکھو حا تم طائی سے بوجہ سخا کے سب کو محبت ہے اور اتفاق کا منع یہی محبت ہے۔ تو دیکھو زکوٰۃ کو اتفاق میں کتنا بڑا دخل ہے۔

علیٰ ہذا حج پر غور کیجئے کہ اس میں پوری دنیا کے آدمی ایک شغل ہیں، ایک زمانہ میں، ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں اور تمام سامان تکبر سے خالی ہو کر ایک عظیم الشان دربار میں حاضر ہوتے ہیں جس کو اتفاق و اتحاد میں بہت دخل ہے۔ جیسا اور پذیرہ کورہوا اور اسی اتفاق فی الہیال کا اثر ہے کہ دوسرے مجموعوں میں جن کو مجع جاج ہے کچھ نسبت بھی نہیں ہوتی، بہت سی واردات ہو جاتی ہیں اور وہاں بہت کم حادثے پیش آتے ہیں۔

البته اکثر لوگ شاند بد و دل کے شاکی ہوں گے۔ سو اصل میں ان کا مقصد سلب و قتل نہیں ہے بلکہ وہ ایک درجہ میں جاج کی بے پرواٹی کا انتقام لیتے ہیں ان کی حالت بالکل یہاں کے گاڑی بانوں کی سی ہے کہ اگر گھاس دانہ زیادہ دیا تو خوش ہیں ورنہ پھر دیکھنے کیسے پیر پھیلاتے ہیں ویسے ہی اگر بد و دل کی مدارات کی جائے ان کو انعام کے طور پر کچھ زیادہ دے دیا جائے تو وہ بہت آرام پہنچاتے ہیں اور یہ جو سننے میں آتا ہے کہ بد و پھر مار کر مال چھین لیتے ہیں تو اول تو ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو ایسے بد و دل کے ہاتھ سے جو اس مجع کے نہیں بلکہ وادیوں میں دیہات کے لوگ پھیلے رہتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب کہ خود اپنی حفاظت نہ کرے کہیں قافلے سے آگے پیچھے رہ جائے۔ غرض حج کو اتفاق و امن میں بہت بڑا دخل ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اعمال حج از سرتاپ اتواضع سے پر ہیں۔

معاشرت شرعیہ اور امن عامہ

اب رہی معاشرت۔ سوتا مل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جتنے طریقے ناجائز ہیں وہ سب کے سب وہی ہیں جن سے تکبر پکتا ہے مثلاً ناجائز وضع سے شریعت نے منع کیا ہے۔ سو جتنی ناجائز اوضاع ہیں ان سب میں تکبر ہے جو لوگ خلاف شریعت وضع رکھتے ہیں وہ غور کر لیں کہ اس وقت ان کے دل کی کیا حالت ہے اور اس حالت کو یاد رکھیں اور پھر ایک ہفتہ شریعت کے موافق وضع اور لباس اختیار کر کے اس کا اثر دیکھیں۔ ان کو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی تقریر ہے۔

ایک دوسری تقریر یہ ہے کہ جوان تنوں میں مشترک ہے وہ یہ کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے پس اسی طرح اعمال میں بھی ایک خاصیت ہے اور عقائد میں بھی اور معاشرت میں بھی اور وہ یہ ہے کہ ان سب سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے اس کی وحالت ہو جاتی ہے۔

الْمُسْلِمُ مِنْ سَلَمٍ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانٍهُ وِيدُهُ
الصَّحِيحُ لِيَحْمَارِيٌ ۚ ۱۲۷: ۹۶

(صحیح مسلم کتاب الايمان: ۶۵)

(مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں یعنی انکو کچھ ہایڈ انڈے) اب میں ایک اور بات کہتا ہوں جو تمام اجزاء دین کو عام ہے وہ یہ کہ دین کی یہ غرض ہی نہیں کہ دنیاوی نفع ہو بلکہ اس سے مقصود رضاۓ حق ہے اور جب خدا تعالیٰ راضی ہو جائیں تو وہ خود ہی اس کی تمام مصالح دنیویہ کی رعایت فرمائیں گے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ سَعْيِهِ لَا يَحْتَسِبُ
جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس ڈرنے والے کے لئے رہائی (آفات دارین) کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

پس دین کی درستی کو! اس طرح دنیا کی درستی میں دخل ہوا مگر دین کے کام اس نیت سے بھی نہ کرنا کہ خداراضی ہو گا تو دنیا کے کام نہیں گے بلکہ صرف اس لئے کہ۔

دلا رائے کہ داری دل درو بند و گر چشم از ہمہ عالم فرو بند
اپنے دل کو محبوب ہی میں لگا اور ساری دنیا سے قطع تعلق کر لے۔

اور جو مصلحتیں سامنے آئیں میں بھی تو یہ پڑھ دو کہ

مصلحت دید من آنست کہ یاراں ہمہ کار بگزارند و خم طرہ یارے گیرند
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چہ کار کار ملک ست آنکہ تدبیر و محتمل باید ش
میں تو مصلحت اسی میں سمجھتا ہوں کہ آدمی باقی سب کام چھوڑ کر محبوب ہی کے درسے وابستہ ہو جائے۔
ہمیں مصلحتوں سے کیا لینا مگر ضرور ہوں گی وفادار نوکر وہ ہے کہ آقا کی رضا مندی کو اپنی
مصلحت پر مقدم رکھے اور کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے ورنہ اس کو خود غرض اور خود
کام کہا جائے گا۔ پھر آقا اپنے کرم سے خود ہی اس کی مصلحتوں کی رعایت فرمائے گا اور اگر
دیکھا جائے تو راحت بھی اسی میں ہے کہ کسی کے حکم کا تابع رہے چاہے مصلحت سمجھ میں آئے یا

نہ آئے اور اگر ہر کام میں مصلحت سوچتا رہے تو کام کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے کام کرنے کی حالت میں ہر وقت تنخواہ کے روپے کے مصارف و مداخل کے حساب میں لگا رہے تو یقیناً کچھری کا سارا کام بر باد ہو جائے گا۔

جیسے ایک کاتب کی دکایت ہے کہ بیوی کو خط لکھ رہے تھے۔ ایک چڑیا نے بیٹ کر دی تو آپ نے اس چڑیا کو ایک گندی گالی دی۔ چونکہ اس گالی میں مشغولی زیادہ ہوئی تو وہی گالی خط میں بھی لکھی گئی۔ وہاں جو خط پہنچا تو تعجب ہوا اور وجہ پوچھی کہ مجھ سے کیا قصور ہوا۔ آخر سارا تصریح کر دیا۔ تو یہی حال ہے مصالح کے مشغول کا کہ مقصود کام کا ستیاناس ہو جائے۔

حاصل یہ کہ اگر آدمی کام کے وقت ثمرات پر نظر رکھے تو وہ خود کام سے چاہب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح کوئنے والا مزدور اگر کوئی وقت پیسوں کی فکر میں رہے تو ضرور کہیں چوت کھا جائے گا اگر چوت سے بچتا ہے تو اس وقت مزدوری پر بالکل نظر نہ کرے مگر دنیا کے کاموں میں لوگ ان قواعد کو ضروری سمجھتے ہیں اور دین کے کاموں میں ان سے کچھ کام نہیں لیا جاتا حالانکہ ضروری بات ہے۔ میں نے تین تقریریں کیں۔ ہر تقریر سے یہ ثابت ہو گیا کہ دین کی اطاعت کو امن عام میں بہت دخل ہے اور یہ تین تقریریں اس لئے کیں کہ مذاق مختلف ہیں یہ قواعد دینیہ کی خوبی ہے کہ ان سے ہر مذاق کے پسند پر دین کا حسن ثابت ہو گیا۔ تو دین کو یا اس شعر کا مصدقہ ہی ہے۔

بہارِ عالم حسن دل و جان تازہ می دارد برگ اصحاب صورت را بپوار باب معنی را
تیرے حسن کی خوبی سے دل و جان سیراب ہوتے ہیں جو صورت کے دلداوہ ہیں ان کی

تلی ظاہری صورت سے اور جو معنی کے طالب ہیں ان کی تسلی باطنی خوبی سے ہوتی ہے۔

غرض جس پہلو سے چاہو پر کھالو الحمد للہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امن کی صورت اگر ہے تو احکام خداوندی کی پابندی سے ہے۔ اور اگر کہو کہ بہت سی قومیں مسلمان نہیں ہیں اور وہ پابند نہیں ان میں امن کیسے قائم ہے تو میں اجمالي جواب تو پہلے دے چکا ہوں۔ اور اس اجمالی کی تفصیل کو مال لعہذہ یہ پر حوالہ کرتا ہوں پتہ مطبع نظامی کا نپورا اس کے نو مقامے ہیں وہ قابل اس کے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ غرض یہ بات بلاشبہ ثابت ہو گئی کہ امن عام کی بقا مخصوص دین پر ہے۔

بعاوضت کا انجام

اس سے اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ

لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ لَا يَقَالُ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ (الْمَسْدَلُ لِإِمامَ اَحمدَ ۳۶۸۴۰۱۰۷:۳)

جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہ آئے گی۔

مختصر اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام طاعت ہے اور کفر بغاوت ہے تو دنیوی سلطنتوں کا تو یہ
قاعدہ ہے کہ اگر کسی شہر میں باغی زیادہ ہوں تو شہر پر توب خانہ لگا دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بھی اگر
یہی کرتے تو اکثر اوقات توب لگے ہوتے۔ مگر یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قانون
مقرر کیا کہ اگر کل باغی ہوں مگر صرف ایک غیر باغی ہو تو اس کی بدولت تمام عالم محفوظ رہے گا۔
ہاں جب بغاوت عام ہو جائے اس وقت پھر ہلاک عام بھی ہو گا۔

یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بہت سے لوگ جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں
جیسے اللہ اللہ کہنے والے غباء وہ آپ کی بقاء کے سبب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس خلق کا اتباع
ہم کو بھی کرنا چاہئے کہ ایک کے لئے سب کی رعایت فرمائی۔ شیخ فرماتے ہیں۔

مراعات صد کن برائے یکے ایک کی خاطر سو کی رعایت کرو
اور فرماتے ہیں۔

خورند از برائے گلے خارہا

ایک پھول کے لئے کا نٹوں سے الجھتے ہیں۔

یعنی ایک پھول کے لئے دس جگہ کا نٹوں میں الجھتے ہیں تو ہم کو بھی ایسے لوگوں کے لئے
مشقتیں اٹھانا چاہئیں۔ غرض جب ان میں سے ایک بھی نہ رہے گا۔ اس وقت توب لگ جائے
گی کہ گھر کا گھر گر پڑے گا۔ تو تمدن اور امن اطاعت ہی سے ہے۔

اب یہ بھی سمجھو کہ اطاعت ایک عمل ہے اور عقلی مسئلہ ہے کہ عمل بدؤں علم کے نہیں ہو سکتا۔
تو امن عام کے لئے علم دین کی ضرورت ہوئی اور اس کے حامل علماء ہیں۔ تو اب بتاؤ کہ یہ
جماعت دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہوئی یا سب سے زیادہ بے کار؟

اگر کسی مقدمہ میں کوئی خدشہ رہے تو بسم اللہ میں ہر وقت حاضر ہوں۔ میں نے کوئی
شاعری نہیں کی۔ نہ کسی کی طرف داری کی اور صاف کہہ دیا کہ ان میں بعض بدنام کنندہ نیکاں
بھی ہیں۔ وہ ہماری بحث سے خارج ہیں لیکن اگر وہ بھی اپنی اصلاح کر کے اس مقبول جماعت
میں آنا چاہیں تو بسر و چشم آئیں۔

ہر کہ خواہد گویا وہ ہر کہ خواہد گویرو دارو گیر و حاجب و در بار دریں در گاہ نیست

جس کا دل چاہے اندر آئے جس کا دل چاہے باہر جائے اس درگاہ میں کوئی دربار اور روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔

لاکھ برس کا عابد اگر محلے تو کان پکڑ کر باہر اور اگر لاکھ برس کا کافر آئے تو بسم اللہ۔

طلباًء اور عوام

صاحب۔۔۔ امید ہے کہ مسلمانوں کو اس بیان سے حقیقت حال منكشف ہو گئی ہو گی۔

اب میں نہایت ادب سے تھوڑا سا خطاب طالب علموں کو کرتا ہوں کہ آپ کی ضرورت محض علم و عمل کی وجہ سے ہوئی ورنہ آپ کوئی چیز نہیں۔

یاد رکھو کہ جتنا الطیف کھانا ہوتا ہے اس میں زیادہ اور جلدی بدبو ہو جاتی ہے۔ پس جس طرح آپ بحالت درستی نافع الوجود ہیں اسی طرح نادرستی میں مضر اور سبب فساد بھی ہوں گے۔ اس لئے آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے اور آپ کی اصلاح کے دو طریق ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمانہ تحریک میں استاد دیندار ڈھونڈ ہیے۔ بد دین استاد ہرگز ہرگز اختیار نہ کرو۔ یہی طالب علمی وقت ہے تھم پاشی کا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں پڑھ کر کسی اہل اللہ کی چندے صحبت اختیار کرو۔ تب البتہ تم خادم دین بن سکو گے۔ پھر لوگ تمہارے قدم دھو میں گے۔

غیر اہل علم کو خطاب

پھر پہلی جماعت غیر اہل علم سے خطاب کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب علم ایسا نہ ہو تو اس کو چھوڑو۔ اور اس کو نہ دیکھو وہ سرکاری آدمی نہیں مگر یہ یاد رہے کہ وہ کام کا آدمی بھی ان ہی تاکاروں میں ملا جلا ہوا ہے اور اس کی تلاش کے لئے البتہ ان سب کی بھی خدمت کروان ہی میں وہ مل جائے گا۔

مراعات صدق کرنے برائے یکے ایک کی خاطر سوکی رعایت کرو کا یہی مطلب ہے۔

شیخ نے حضرت ابراہیم کی حکایت لکھی ہے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے ایک دن مجوس مہمان ہوا جس نے کھانے پر بسم اللہ نہ کہی۔ آپ نے ناراضی ہو کر اٹھا دیا۔ فوراً وجہ سے ارشاد ہوا کہ۔

گرا وی برد پیش آتش وجود تو واپس چڑا میکشی دست جود

خورش وہ بکشک و سبک و حمام کہ شاید ہمارے درافتہ بدام

چوں ہر گوشہ تیر نیاز افگنی بنگاہ میتی کہ صیدے کنی
اگر وہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو اپنے دست سخاوت کو کیوں کھینچتا ہے۔ جب یا، چکور اور کبوتر

سب ہی پرندوں کو دانہ ڈالو شاید ہما جیسا عظیم پرندہ تمہارا شکار بن جائے جب ہر جانب تیر چلائے جائیں تو شاید تم اس کو شکار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔

جب شکاری شکار کرتا تو چیل اور کوؤں کو نہیں اڑاتا ان ہی کے ساتھ ہما بھی پھنس جاتا ہے۔

اسی طرح اگر ہم انتخاب کر کے تعلیم دین اور ان میں عیب نکالیں گے جیسا کہ آج کل لوگ طالب علموں میں عیب نکلتے ہیں تو بخدا بہت سے اچھے اچھے بھی دولت علم سے محروم رہ جائیں گے کیونکہ بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ اول اول ان میں قابلیت نظر نہیں آتی مگر بعد میں ان کے جو ہر کھلتے ہیں۔ لس ان سب کی خدمت کرو انہیں سے لعل و جواہر بھی نکلا آئیں گے۔

ایک بادشاہزادے کا لعل شب کو جنگل میں پڑا تھا تو حکم دیا کہ سب کنکروں کو جمع کرو روشنی میں چھانٹ لیں گے انہیں کنکروں میں سے وہ لعل پا گیا۔

تو آپ اپنے انتخاب سے ہمیں معاف تھے اور آپ ان پر اعتراض نہ کیجئے البتہ اگر تم طالب علموں کے ساتھ اولاد کا سا برتاو کرو اور اپنی اولاد سمجھو اور پھر شفقت و خیر خواہی سے ان کی بے عنوانی پر ان کو تنبیہ بھی کرو پھر دیکھو وہ بھی سمجھیں گے کہ۔

آں را کہ بجاے ہر دم تست کرے عذرش بنہ ارکند بھرے سے جو شخص تجوہ پر زندگی بھرا حسان کرتا رہے اگر وہ ایک بار ظلم بھی کرے تو اسے معذور سمجھو۔ غرض اولاد کو جس درجہ کی تنبیہ کرتے ہو اس کی اجازت ہے اور اس سے زائد اجازت نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑی ضرورت دنیا میں اہل علم اور دین کی ہے ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ مگر واپسگی کے یہ معنی نہیں کہ چندہ میں روپیہ دے کر بے فکر ہو جاؤ۔ روپیہ خدادے گا بلکہ اس سے کھل کر ملو اور ان سے مسئلے پوچھتے رہوتا کہ تم کو دین اور اہل دین کی محبت بڑھے اور تمہارے لئے یہ وعدہ صادقہ پورا ہو جائے کہ المزمع من احباب اور آدمی (قیامت میں) اس کے ساتھ ہو گا جسے (دنیا میں) دوست رکھتا ہے) اور اگر تم کو ان کی محبت ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ سے بھی تم کو محبت صادقہ ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ خود تو علماء کی طرف متوجہ ہوتے نہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ علماء ہماری خبر نہیں لیتے۔ تو صاحبو! مریض طبیب کے پاس جایا کرتا ہے، طبیب مریض کے پاس از خود نہیں جایا کرتا۔ کیا وجہ ہے کہ سول سرجن کی شکایت نہیں کی جاتی کہ ہماری خبر نہیں لیتا۔ صاحبو! سول سرجن کی شکایت تو ناجائز اور علماء کی شکایت جائز۔

صاحب! تم نے علماء کو اپنی خبر کب دی۔ اگر تم دو دفعہ جا کر ان کو اپنے مرض کی خبر دو گے تو وہ ایسے شفیق ہیں کہ چار دفعہ خود آئیں گے۔ اب تو مولوی اس لئے بھی بچتے ہیں کہ ان کا از خود متوجہ ہونا خود غرضی پر محمول ہو گا۔ مشہور مقولہ ہے۔

نعم الامیر علی باب الفقیر، وبشس الفقیر علی باب الامیر.

وہ امیر اچھا شخص ہے جو فقیر کے دروازے پر حاضر ہو اور وہ فقیر برا ہے جو امیر کے دروازے پر جائے۔ تو یہ معنی ہیں وابستگی کے اور جب آپ وابستہ ہوں گے تو وہ بھی آپ سے زیادہ متوجہ ہوں گے اس سے ملا پ پیدا ہو گا۔ مگر ابتداء اس کی اہل دنیا کی طرف سے ہونا چاہئے اور اس وابستگی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی علم دین پڑھائیے۔

غرض یہ چیزیں ضروری الوجہ ہیں، ان کی فکر کیجئے اب ختم کرتا ہوں خدا تعالیٰ سے توفیق علم عمل کی دعا کیجئے۔

أَسْبَابُ الْغَفَلَةِ

انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمارا مال ہے ہم جہاں چاہیں اڑائیں! مگر یہ اس کی غلطی ہے انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ حق تعالیٰ کا ہے، جس کا وہ محض امین ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کی اجازت ہو وہیں صرف کرنے کا اختیار ہے۔ اور جہاں ممانعت ہے وہاں اس کو ہرگز اختیار صرف نہیں۔

اولاد و اموال کی محبت کے متعلق یہ وعظ مسجد محلہ پیر غائب مراد آباد میں بعد عصر ۲۵ صفر ۱۳۳۱ھ کو ہوا۔ جو ایک گھنٹہ پندرہ منٹ میں ختم ہوا۔ اور مولانا احمد سعید صاحب تھانوی نے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَسْوَكُلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

اما بعد! اغُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهمكم اموالكم ولا اولادكم عن
ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ (النافعون آیت نمبر ۹)
ایے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد (مراد اس سے مجموعہ دنیا ہے) اللہ کی
یاد اور (اطاعت) سے (مراد اس سے مجموعہ دین ہے) غافل نہ کرنے پائیں جو
ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔

نداق کی رعایت

قبل اس کے کہ اس آیت کے متعلق کچھ بیان کیا جائے اتنا سن لینا ضروری ہے کہ اس وقت کے بیان سے زیادہ تر مستورات کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے اور چونکہ مستورات دریافت کم پڑھتی ہیں یا بالکل نہیں پڑھتیں۔ نیز ان کو اہل علم کی صحبت بہت کم میسر ہوتی ہے اس لئے ان کا فہم سادہ ہوتا ہے تو ان کی رعایت سے اس وقت مضامیں بھی سادہ بیان کئے جائیں گے۔ پس ممکن ہے کہ اس وقت کے بیان میں اہل علم کو حظ حاصل نہ ہو سکے اور حظ مقصود بھی نہیں۔ دیکھئے دوسرے خصیل حظ کا کون قصد کیا کرتا ہے بلکہ دوسرے اصل مقصود صحت ہوتی ہے گووہ کیسی ہی بد مزہ ہو گر مقصود میں معین و مفید ہونے کی وجہ سے گوارا کی جاتی ہے۔ اسی طرح وعظ بھی

اصلاح نفس کے لئے بمنزلہ دوакے ہے۔ اس میں بھی حظ مقصود نہ ہونا چاہئے اور نہ بیان کرنے والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہئے ہاں اگر مقصود میں خلل نہ ہو تو ایسے مضمایں علمی کا بھی درمیان میں بیان کر دینا مضمائی نہیں جن سے اہل علم کو حظ حاصل ہو۔ جیسے اطباء بھی دوکے ساتھ مصری یا شربت ملا دیا کرتے ہیں تاکہ طبیعت اس کو سہولت سے قبول کرے لیکن اس وقت چونکہ مستورات مخاطب ہیں اور زیادہ مقصود ان کو نفع پہنچانا ہے اور ان کو مضمایں علمی سے دلچسپی یا حفظ حاصل نہیں ہوتا اس لئے مضمایں علمی کو قصد آپجا یا جائے گا۔ ہاں استطرد ادا اور جبعاً کوئی بات آجائے تو ممکن ہے۔

گواں وقت جو بیان بھی ہو گا وہ ایسے مضمایں نہ ہوں گے جن سے مردوں کو نفع نہ ہو، ان کو بھی ان سے نفع ضرور ہو گا اور کم سے کم یہی نفع ہو گا کہ وہ یہ مضمایں وقتاً فو قتاً اپنی مستورات کو سناسکیں اور بتلا سکیں لیکن چونکہ روئے سخن زیادہ تر مستورات ہی کی طرف ہو گا اس لئے میں نے پہلے سے مردوں کو متنبہ کر دیا کہ اس وقت کے بیان میں ان کے مذاق کی رعایت نہ ہو گی بلکہ مستورات کے مذاق و فہم کی زیادہ رعایت ہو گی، کیونکہ شاید کسی کو مضمایں علمی کا انتظار ہو تو وہ اس انتظار میں نہ رہے بلکہ محض مقصود پر نظر رکھے۔

اس تہمید کے بعد اب بیان شروع کرتا ہوں گواں وقت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں کیونکہ وقت بہت بڑک ہے۔ عصر کے بعد مغرب ہی تک بیان کرنے کا ارادہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس قلیل وقت میں زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس وقت اختصار کو ملحوظ رکھ کر صرف مضمایں کثرالوقوع بطور قواعد کلیہ کے بیان کئے جائیں گے جزئیات کا احاطہ اول تو یہ بھی مشکل ہے، پھر وقت بھی زیادہ نہیں۔

صدور و معاصی کے اسباب

خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے کو ایک خاص حالت مذمومہ کے متعلق گفتگو کرتا ہے جس میں عموماً ہم سب بتلا ہیں اور خصوصاً مستورات کو اس کی زیادہ نوبت پیش آتی ہے، چنانچہ ترجمہ آیت ہی سے اس خاص حالت کا پتہ چل جائے گا کہ اس حالت مذمومہ میں ابتلاء عام ہے یا نہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو مال و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانے سے منع فرمایا ہے اور اس بات پر آگاہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کی وجہ سے غفلت میں پڑ جائیں گے خسارہ میں ہیں۔ اب آپ اپنی حالت میں غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ معصیت کا زیادہ سبب اکثر مال و اولاد ہی کا تعلق ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اسی سے روکتے ہیں کہ ایسا

نہ ہو کہ مال و اولاد تمہارے لئے ذکر اللہ سے غفلت کا سبب ہو جائیں۔

یہاں ذکر اللہ سے مراد طاعت اللہ ہے چونکہ طاعات کی وضع ذکر اللہ ہی کے لئے ہے اس لئے ذکر بول کر طاعت مرادی جاتی ہے (اور کنایہ میں نکتہ یہ ہے کہ جس طرح معصیت کا سبب غفلت ہے جس پر لا تلہم کم میں دلالت ہے اور غفلت کا سبب دنیا کے ساتھ قلب کا تعلق ہوتا ہے جس پر اَمُواْلُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ دلالت کر رہا ہے جس سے مراد مجموعہ دنیا ہے اور ان دونوں کی تخصیص لفظی کی وجہ ہے کہ یہ دونوں دنیا کے اعظم افراد ہیں۔ اسی طرح طاعت کی بجائے ذکر اللہ کہنے میں اس پر دلالت ہے کہ طاعات کا سبب غفلت کا مقابلہ ہے یعنی ذکر اور ذکر کا سبب خدا کے ساتھ دل کا متعلق ہوتا ہے جس پر اضافت ذکر ای اللہ سے دلالت ہو رہی ہے) تو اس سے یہ بات مفہوم ہوئی ہے کہ مال و اولاد اکثر طاعت سے غفلت کا سبب ہوا کرتے ہیں اور جب طاعت سے غفلت ہو گی تو وہ معصیت ہو گی نتیجہ یہ لکھا کہ معصیت کا زیادہ سبب مال و اولاد کا تعلق ہے اور جب یہ زیادہ تر معصیت کا سبب تھے جبھی توحیق تعالیٰ نے ان کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالیٰ حکیم ہیں اور حکیم کا کوئی کلام حشو وزائد نہیں ہوتا پس دنیا بھر کی چیزوں میں سے اموال و اولاد کو خاص طور پر ذکر فرمانا اس کی صاف دلیل ہے کہ ان دونوں کو غفلت عن الطاعات یعنی صدور معاصی میں زیادہ دخل ہے۔

دوسرے قاعدہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کے کلام میں تصریح کے ساتھ ممانعت اسی چیز سے ہوتی ہے جس میں ابتلاء زیادہ ہو جو کثیر الوقوع ہو اور جس میں ابتلاء نہ ہو اس کا وقوع زیادہ نہ ہو اس سے با تصریح ممانعت نہیں کی جاتی۔ کیونکہ اس تصریح کے ساتھ ممانعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مثلاً شریعت میں شراب پینے کی تو ممانعت بالتصريح ہے لیکن پیشاب پینے کی ممانعت بالتصريح نہیں ہے کیونکہ شراب خمر میں ابتلاء کی کثرت تھی اور شرب بول میں کوئی بتنانہ تھا۔ اس لئے اول سے صراحةً منع کیا گیا اور دوسرے سے صراحةً منع نہیں کیا گیا۔ پس کسی چیز سے صراحةً ممانعت کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کثیر الوقوع ہے۔

تو حق تعالیٰ کا اموال و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمانا اس کی دلیل ہے کہ یہ زیادہ تر معصیت کا سبب ہوتے ہیں خود کلام اللہ بھی اس کو بتلارہا ہے اور مشاہدہ بھی۔ چنانچہ اپنی حالت میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مال و اولاد کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔

مال واولاد کے درجے

تفصیل اس کی یہ ہے کہ مال میں عمل کے دو مرتبے ہیں ایک درجہ حاصل کرنے کا اور ایک اس کو محفوظ رکھنے کا۔ اسی طرح اولاد میں بھی یہ دو مرتبے ہیں ایک اولاد حاصل کرنے کا دوسراے ان کی حفاظت کا۔ اور ایک تیسرا مرتبہ اور ہے لیکن یہ مرتبہ اموال واولاد میں دونوں کے لئے جدا ہے پہلے دو مرتبوں کی طرح مشترک نہیں ہے۔ چنانچہ مال میں تو تیسرا مرتبہ درجہ صرف کرنے کا ہے اور اولاد میں تیسرا مرتبہ ان کے لئے آئندہ کی فکر کرنے کا ہے۔

غرض تین درجے عمل کے مال میں ہیں اور تین درجے اولاد میں ہیں۔ مال میں تو تین عمل یہ ہیں۔

۱۔ مال کا پیدا کرنا۔ ۲۔ مال کی حفاظت کرنا۔ ۳۔ مال کا صرف کرنا۔

اور اولاد میں تین درجے عمل کے یہ ہیں۔

۱۔ اولاد کا حاصل کرنا۔ ۲۔ پھر اس کی حفاظت کرنا۔ ۳۔ پھر اس کے لئے آئندہ کی فکر کرنا۔

تو کل چھ مرتبے ہوئے جو کہ حقیقت میں اعمال کے درجے ہیں اب ان چھ مرتبوں میں بہت مختصر انداز سے اپنی حالت کو دیکھ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان میں ہمارا برتاؤ کیا ہے اور ان میں ہم کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں مثلاً مال میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دوسرے حفاظت کرنا تیسرا صرف کرنا اب دیکھئے یہ مال کتنے ناج نچاتا ہے۔ سب سے اول مرتبہ مال حاصل کرنے کا ہے اسی کو دیکھئے کہ اس میں کس قدر بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ جب کوئی یہ نیت کر لیتا ہے کہ اتنا مال اپنے پاس آنا چاہئے پھر حلال و حرام کی تینیز بہت مشکل ہے پھر جیسا بھی کچھ ہوا احتیاط نہیں کرتا۔

میں اپنی حالت کہتا ہوں کہ میں نے اکثر احوال میں ہدیہ یہ لینے کے لئے کچھ شرائط و قواعد مقرر کر کھے ہیں۔ مثلاً پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں لیتا۔ اور جب تک خلوص و محبت کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں لیتا اور ان سب کے بعد یہ قاعدہ کر رکھا ہے کہ کسی سے اس کی ایک دن کی آمد نی سے زیادہ نہیں لیتا۔ مثلاً کسی کی تیس روپے ماہوار آمد نی ہے تو اس سے ایک دفعہ میں ایک روپیہ سے زیادہ نہیں لیتا اور ایک دفعہ کے بعد دوسرے ہدیہ میں ایک ماہ کا فاصلہ ضروری کر دیا ہے تاکہ کوئی ایک مہینہ میں ایک دن کی آمد نی سے زیادہ نہ دے سکے۔ لیکن جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور کوئی خاص مقدار رقم کی اس کے لئے ضروری کچھی جاتی ہے تو پھر آنکھ بند کر کے لے لیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ قواعد و شرائط محفوظ نہیں رہتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ

بعض اوقات اپنی ذات کو بھی اس رقم سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے ہی کی نیت سے کچھ رقم جمع کرنا مقصود ہوتا ہے اس میں بھی احتیاط نہیں کی جاتی۔

تحصیل مال میں بے احتیاطی

مثلاً کسی نیک کام کے لئے رقم جمع کی جائے اور یہ تجویز کر لیا جائے کہ اس کے واسطے اتنی رقم جمع ہونی چاہئے تو اب حلال و حرام کی کچھ پرواہیں ہوتی۔ غصب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ذات کے واسطے لینے میں احتیاط کرتے ہیں وہ بھی نیک کاموں کے واسطے لینے میں اتنی احتیاط نہیں کرتے۔ چنانچہ اب کے چندہ بلقان میں میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ محتاط رہنڈی بھڑروں کا روپیہ بھی نہ لیتے تھے انہوں نے اس چندہ میں ان کا روپیہ بلا تامل لے لیا۔

اسی طرح مدرسوں اور انجمنوں کے چندوں میں کوئی بندہ خدا ہو گا جو احتیاط کرتا ہو گلے ہے مشکل ہے۔ اس میں محتاط لوگ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے لئے تو احتیاط کرنا ممکن ہے کیونکہ اس میں احتیاط کرنے سے اگر آمدی کم ہوئی تو اپنی ذات پر تھوڑی سی دقت برداشت کر لیں گے کہ ایک وقت کھایا، دوسرے وقت نہ کھایا۔ لباس عمدہ نہ پہنا گھٹیا ہی پہن لیا۔ مگر یہاں مدرسوں اور انجمنوں کے چندہ میں یا ترکوں کے چندہ میں احتیاط کیسے کریں۔ یہاں تو دس ہزار کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم میں کام ہی نہیں چل سکتا اور اتنی بڑی رقم تو اسی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ جہاں سے جو ملے لے لیا جائے۔ پھر نفس یوں سمجھاتا ہے کہ یہ تو خدا کا کام ہے ہمارا ذاتی کام تھوڑا ہی ہے اس میں تھوڑی سی چشم پوشی بھی کر لی جائے تو کچھ حرج نہیں۔

واقعی مولویوں کا نفس بھی مولوی ہوتا ہے اور درویشوں کا نفس درویش۔ تو وہ یوں ان کو تاویلیں بتادیتا ہے حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے کیونکہ اپنے نفس کے لئے گناہ کرنے میں کچھ مقصود ہو جاصل ہو جاتا ہے کم سے کم اپنے پاس روپیہ ہی آتا ہے اور دین کے کام میں گناہ کرنے سے تو مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دین کے کام سے تورضاۓ حق ہی مقصود ہے۔ سو معصیت میں وہ کہاں؟ اور روپیہ اپنے کو نہ ملنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہ دوسروں کو چیخ گیا۔ بس تم خواہ مخواہ نجع میں خالی ہاتھ بھی رہے اور گناہ میں بھی مبتلا ہوئے تو ایسے کام میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہئے۔

اب میں کہتا ہوں کہ جب ہم جیسوں کو خدا کے کام میں تحصیل مال کے لئے اتنی وسعت ہو جاتی ہے اور اس میں ہم سے اتنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جہاں اپنے کو کچھ حاصل بھی نہیں

ہوتا تو جہاں اپنے نفس کے لئے مال حاصل کرنا مقصود ہو وہاں تو کس قدر بے احتیاطیاں ہوں گی کیونکہ وہاں تو مال سے اپنے آپ کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اپنا کام نکالنے کے لئے تو کچھ بھی حلال حرام کی پرواہ ہو گی بالخصوص جب کہ صرف کام نکالنا ہی مقصود نہ ہو بلکہ کچھ جمع کرنا بھی منظور ہو اب تو بے احتیاطیوں کا دروازہ بہت ہی وسیع ہو گا۔ ہاں اگر کسی کو مال جمع کرنے کی پرواہ ہو تو البتہ وہ احتیاط کر سکتا ہے۔ چنانچہ دین داروں میں تو بفضلہ تعالیٰ ایسے بہت ہیں جن کو مال جمع کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی پھر دنیا داروں میں ایسے بہت کم ہیں ان کی تو ہر وقت یہی نیت ہوتی ہے کہ اتنا سرمایہ جمع ہونا چاہئے اتنی جائیداد ہونی چاہئے۔

پھر اس کے لئے نہ سود نہ رشوت سے دریغ ہوتا ہے نہ قرض لے کر مار لینے سے نہ قرض لے کر انکار کرنے سے نہ بہنوں کا حق دبانے سے نہ کسی کی زمین غصب کر لینے سے غرض وہ طرح طرح کے گناہ مال جمع کرنے کیلئے کرتے ہیں اور حلال و حرام کی کچھ تمیز نہیں رہتی۔

حفظ مال کے لئے حیلہ سازیاں

یہ تو مال حاصل کرنے کا حال تھا۔ اب آگے رہ گیا حفاظت کرنا تو مال کی حفاظت تو پوری پوری جب ہوتی ہے کہ نہ زکوٰۃ دے نہ صدقة فطر دے نہ کسی کو اللہ واسطے کچھ دے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سائل کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی محتاج ہے لیکن محض اس لئے نہیں دیتے کہ مال کم ہو جائے گا بعض لوگ زیور میں زکوٰۃ نہیں دیتے حالانکہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک زیور میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مگر اس میں لوگوں نے دوسرے مجتہدوں کی آڑ پکڑ لی ہے کہ ان کے نزدیک واجب نہیں۔ سو خوب سمجھو لو کہ محض حظ نفس کے لئے کسی دوسرے امام کا نہ ہب اختیار کر لینا یہ دین نہیں بلکہ اتباع نفس اور تلاعيب بالدین ہے۔ (یعنی دین کو کھیل بنانا ہے)

علامہ شامی نے ایک بزرگ کا قول لکھا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص نے کسی عالم کا واقعہ بیان کیا جو خنفی تھے کہ انہوں نے ایک محدث کو اس کی لڑکی کے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے کہا میں پیام منظور کر سکتا ہوں مگر تم خنفی اور میں محدثین کے طریقہ پر ہوں اس طرح بناہ نہیں ہو گا۔ اگر تم امام ابوحنیفہؓ کی تقلید کو ترک کر کے محدثین کا نہ ہب اختیار کر لوتو پھر مجھے کچھ عذر نہ ہو گا۔ چنانچہ اس عالم نے اس شرط کو مان لیا اور نکاح ہو گیا۔

سائل نے ان بزرگ سے پوچھا کہ اس صورت میں ترک تقلید جائز تھی؟ فرمایا مجھے

امدیشہ ہے کہ مرتبے وقت اس شخص کا ایمان نہ سلب ہو جائے کیونکہ جس مذہب کو یہ اب تک حق صحیح ہوئے تھا اور حق سمجھ کر ہی اس کی تقلید کرتا تھا اس کو اس نے محض ایک ہوائے نفس کے لئے ترک کر دیا ہے۔ تو اس کا ایمان پچھا بہت مشکل ہے۔

اعاذنا اللہ منه اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور و من

العمی بعد البصر و من الضلالۃ بعد الہدای. امین)

اسی طرح بعض لوگوں نے محض اپنا مال بچانے کے لئے زیور کے مسئلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب لے لیا ہے۔ اس میں تو شافعی ہو گئے پھر دوسرا جگہ اگر کہیں اڑگڑے میں پہنچے تو وہاں ابوحنیفہ کا قول لے لیتے ہیں۔ اس وقت حنفی بن جاتے ہیں تو ان کا نفس ایسا ہے جیسے شتر مرغ کہ صورت میں اونٹ کے بھی مشابہ ہے اور پردار ہونے کی وجہ سے پرندہ بھی ہے۔ اب اگر کوئی اونٹ سمجھ کر اس پر بوجھ لا دتا چاہے تو اپنے کو پرندہ کہتا ہے اور اس طرح جان بچاتا ہے۔ اور اگر کوئی پرندہ سمجھ کر یہ کہے کہ ذرا اوپر کو اڑ کر دکھا تو کہتا ہے کہ میں تو اونٹ ہوں بھلا کہیں اونٹ بھی اڑا کرتا ہے؟ حضرت فرید الدین عطہ راہی کو کہتے ہیں۔

چوں شتر مرغ نے شناس ایں نفس را نے کشد بار و نہ پر و در ہوا گر پر گویش ، گوید اشتزم ور نبی بارش گوید طارم نفس کو شتر مرغ کی طرح سمجھونہ وہ بوجھ اٹھانے کا متھل ہے نہ ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اس سے اڑنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اونٹ ہوں کیا اونٹ بھی ہوا میں اڑتے ہیں اگر اس سے کہا جائے کہ تم اونٹ ہو تو بوجھ اٹھاؤ تو وہ کہتا ہے کہ میں پرندہ ہوں کیا پرندے بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔

تو واقعی نفس کی بھی کیفیت ہے کہ یہ اپنے اوپر بات آنے ہی نہیں دیتا بس کبھی کچھ بن گیا کبھی کچھ بن گیا۔ بعضوں کا نفس تو دنیا کے پردہ میں ایسی چالا کیاں کرتا ہے اور بعض دین کی آڑ میں یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ بس کسی سے سن لیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیور میں زکوٰۃ نہیں تو وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لئے شافعی بن گئے۔ یہ تو دینداروں کا حال ہے۔ جو خلاف شرع کام کرنے سے اپنے نزدیک بہت بچتے ہیں اور جہاں اس کی ضرورت نہیں وہاں تو کچھ بھی پردا نہیں ان کی طرف سے چاہے کسی مذہب میں جائز ہو یا ناجائز سب برابر ہے ان کو تو اپنے کام سے کام۔ تو یہ حفاظت مال میں ہمارا برتاؤ ہے۔

خرج کرنے میں عدم احتیاط

اب تیسرا مرتبہ رہا صرف کرنے کا۔ اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مال ہے جہاں ہم چاہیں اڑا کیں مگر یہ اس کی غلطی ہے انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ حق تعالیٰ کا ہے جس میں وہ محض امین ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کی اجازت ہو وہیں صرف کرنے کا اختیار ہے اور جہاں ممانعت ہے وہاں اس کو ہرگز اختیار صرف نہیں ہے۔

اب سمجھو کہ بعض جگہ خرج کرنا گناہ بھی ہے جیسے ناج رنگ میں اور تفاخر کی رسماں میں۔ مگر بہت لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اسے میں تو احتیاط کی ضرورت ہے لیکن خرج کرنے میں کیا ضرورت ہے اس خیال کا نشاء یہی ہے کہ انسان اپنے کو صرف کرنے میں خود مختار سمجھتا ہے جس کا غلط ہونا بھی معلوم ہو چکا ہے اور اس غلط خیال کے بعد بعض کو تو خرج کرنے میں یہاں تک وسعت ہے کہ ناج رنگ میں بھی صرف کرنے سے باک نہیں کرتے اور بعض تو اتنی وسعت نہیں کرتے، وہ ناج رنگ میں مال خرج کرنے کو برآمجھتے ہیں لیکن رسوم فخر میں صرف کرنے سے ان کو بھی باک نہیں۔ جن سے غرض صرف یہی ہوتی ہے کہ نام ہوا اور افسوس یہ ہے کہ بعض دین داروں مقتداء بھی ان رسوم میں روپیہ صرف کرنے کو برآجیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے۔ کھلانا اور پلانا اور برادری کو جمع کر کے دعوت دینا کیوں ناجائز ہو گیا۔

میں کہتا ہوں کہ جناب ذرا اس کی غرض تو دیکھئے۔ لوگوں کی نیت پر تو نظر کیجئے کہ اس دعوت اور دھوم دھام میں نیت کیا ہوتی ہے نیت صرف تفاخر اور ریاء، ہی کی ہوتی ہے کہ ہمارا نام ہو لوگ کہیں کہ بڑے حوصلہ کا آدمی ہے اور جب یہ نیت ہے تو بتلائیے کہ یہ افعال کہاں جائز رہے۔ کیونکہ مباحثات کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ فی نفسہ جائز ہیں لیکن ان کو بری نیت سے کیا جائے تو ناجائز ہو جاتے ہیں مگر افسوس اب تو یہ بات بھی لوگوں کی سمجھی میں نہیں آتی۔ کہ نام و نمود کا قصد کرنا کوئی برآ کام ہے۔ اس میں بھی گفتگو اور بحث کی جاتی ہے۔

جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم دین کی خبر نہیں۔ حدیث و قرآن کو نہیں پڑھتے۔ اور جو پڑھتے ہیں وہ اکثر سمجھتے نہیں حدیث کو دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب الذل يوم القيمة (سنن ابو)

(رواہ: ۳۰۴۹ الترغیب والترہیب للمنذری ۱۱۶:۳)

”یعنی جو کوئی شہرت اور نام کے لئے کہڑا پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لباس ذلت

پہنچیں گے۔ ”حالانکہ کپڑے میں کچھ زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا مگر شہرت کے لئے اتنا خرچ کرنا بھی جائز نہیں۔ پھر جہاں اسی غرض کے لئے ہزاروں پر پانی پھر جاوے وہ رسمیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں۔

معین علی المعصیت

(یہ وعید تو نام نہود کا قصد کرنے والے کے لئے ہے جس سے ان رسماں میں روپیہ بر باد کرنے کا عدم جواز ظاہر ہے اور اسی سے دوسروں کے لئے بھی ان رسماں کی شرکت ناجائز ہونا معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ معین علی المعصیت ہیں اگر لوگ ایسی رسماں میں شرکت نہ کریں تو کسی کوان میں روپیہ بر باد کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ دوسری ایک حدیث میں شرکت کرنے والوں کے لئے بھی صاف ممانعت وارد ہے۔ حدیث میں ہے کہ

نهی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام المتبارین ان یو کل (من ابی داؤد ۲۷۵۳) رواه ابو داؤد مرفوعاً وقال محبى السنة والصحیح مرسل والمتباريان المفاحرون بالطعام قال الخطابي وانماکره ذلك لمافيه من الرياء والمباهة ولا نه داخلي فی جملة ما نهى عنه من اكل المال بالباطل يعني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو شخصوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے جو باہم فخر کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ممانعت کی علت فخر و ریاء کے سوا کچھ نہیں تو ایسی تقریبات کی شرکت اس لئے صراحتہ ممتوع ہو گئی جن میں دعوت وغیرہ سے فخر و ریاء کا قصد ہو۔

قال الامام الشعراںی فی العہود المحمدیۃ اخذ علینا العہد العام من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان لاتخلف عن الاجابة الى الملاحم الا بعد رشیعی الى ان قال و من عذرنا فی ذلك الاكل وجود شبهة فی الطعام او عدم صلاح النية فی عمله ثم ذکر الحدیث نهی رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام المتبارین ان یو کل ص ۳۱۹
نام اور نہود اور ریا کا براہونا کون نہیں جانتا۔ تو اگر ان رسماں میں اور بھی کچھ خرابی نہ ہو تو یہ کیا کچھ کم خرابی ہے کہ ان میں لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی اور اگر کسی کو خود ان کی براہی محسوس نہ ہو تو ہمارے لئے یہ دلیل کافی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہود اور ریا کے لئے کوئی کام کرنے سے منع فرمایا ہے یہ تو ایک نیت کی خرابی تھی پھر ان رسماں کے واسطے جو سودی قرض لیا جاتا

ہے اور بے موقع اسراف کیا جاتا ہے یہ گناہ الگ رہے اور یہ تو عام اور مشترک واقعات تھے۔

اب میں خاص عورتوں کو مخاطب کرتا ہوں کہ ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ مال حاصل کرنے میں وہ کیا کیا کچھ گناہ کرتی ہیں عورتیں خود تو کمانے کے قابل نہیں ہیں مگر کمانے والوں کو گناہ میں زیادہ تر یہی بتلا کرتی ہیں ان کے منہ میں یہ زبان ایسی ہے کہ مردوں سے سب کچھ کرا لیتی ہیں۔ بس انہوں نے پہلے سے نیت باندھ لی کہ ایک جوڑا ایسا بڑا بھاری اپنے پاس ہونا چاہئے اب وہ مزدور گھر میں آیا یعنی شوہر اور انہوں نے فرمائش کی اور کہنے کا طریقہ ان کو ایسا آتا ہے کہ مرد کے دل میں بات گھستی چلی جاتی ہے اب وہ ان کی فرمائش پوری کرنے کے لئے رشوت ستانی اور ظلم سب کچھ کرتا ہے کیونکہ حلال آمدنی میں اتنی گنجائش کہاں جو عورتوں کی فرمائش پوری ہو سکیں۔ پس ظاہر میں تو عورتوں کے پاس یہ بات کہنے کو ہے کہ ہم تو کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ مرد کماتے ہیں اور کمانے میں جو کچھ گناہ ہوتا ہے وہ مردوں ہی کے ذمہ ہے مگر اس کی خبر نہیں کہ مردوں کو حرام کمائی پر کون مجبور کرتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ زیادہ تر عورتوں کی فرمائشیں ہی مردوں کو حرام آمدنی اور رشوت ستانی پر مجبور کرتی ہیں پس مردوں کے ان سب گناہوں کا سبب تھی ہیں اس لئے یہ بھی اس گناہ سے بچ نہیں سکتیں۔

میں مردوں کو متذہب کرتا ہوں کہ عورتوں کی فرمائشوں کا زیادہ تر سبب ان کا باہم ملنا جانا ہے۔ جب یہ محفلوں میں جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حرص کرتی ہیں کاش میرے پاس فلاں جیسا زیور اور کپڑا ہوتا۔

میں نے ایک کورٹ انسپکٹر کو دیکھا ہے کہ ان کی تخلوہ چار پانچ سوروں پر تھی مگر ابتداء ان کی یہ حالت تھی اپنی تخلوہ کا زیادہ حصہ اپنے غریب عزیزوں پر صرف کرتے تھے۔ بہت سے محتاجوں کی انہوں نے ماہوار تخلوہ ایس مقرر کر رکھیں تھیں اور اپنے اوپر بہت کم خرچ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے گھر میں کھانا پکانے والی کوئی ماما بھی نہ تھی۔ بی بی اپنے ہاتھ سے گھر کا سارا کام کرتی تھی نہ بیوی کے پاس کچھ زیور تھاںہ بڑھایا کپڑے تھے بے چاری اپنے ہاتھ سے آٹا تک پہنچتی تھی آخر ان کی بد لی سہار پور ہوئی اور ایک سر رشتہ دار کے پاس کرایہ کا مکان لیا۔ کچھ دنوں تو وہ اسی حال میں رہے جس میں پہلے سے تھے۔ پھر ایک دن سر رشتہ دار صاحب کے گھر والوں نے فرمائش کی کہ کورٹ انسپکٹر صاحب کی بی بی ہمارے پاس بہت دنوں سے رہتی ہیں ہمارا ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے اول تو انہوں نے اپنی بی بی کے بھیجنے سے انکار کیا مگر اصرار کے بعد بھیجنا پڑا۔

میل جوں کا اثر

اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ سر رشتہ دار صاحب کی بی بی اور بچیاں سرے پیر تک سونے کے زیوروں میں لدمی ہوئی ہیں اور گھر میں فرش فروش اور ساز و سامان بہت کچھ ہے کھانا پکانے والیاں ایک چھوٹ دو قسمیں نوکر ہیں اور بی بی صاحب کوئی کامل پنے ہاتھ سے نہیں کرتیں۔ بس بیٹھی بیٹھی سب پر حکومت کرتی ہیں۔

اب اس کی آنکھیں کھلیں کہ تنخواہ تو سر رشتہ دار صاحب کی میرے میاں سے کم اور پھر ان کے یہاں ایسی اجگری (رونق) ہے اور میرے میاں کی اتنی بڑی تنخواہ اور میرے اوپر نیستی برستی ہے وہاں سے آتے ہی اس نے کورٹ انپکٹر صاحب پر برسنا شروع کیا کہ تم مجھ کو بہت نگ رکھتے ہو۔ تم سے کم تنخواہ والوں کی یہیاں مجھ سے اچھی حالت میں ہیں اور میں اس مصیبت میں ہوں مجھ سے کھانا نہیں پکایا جاتا تھا میں آتا پیسوں گی پکانے والی نوکر کھوا اور مجھے بھی زیور اور لباس عمدہ بنانے کر دوجیسا سر رشتہ صاحب کی بی بی کا ہے۔ آخر بے چارے مجبور ہوئے اور سب کچھ کرنا پڑا۔

واقعی شیخ کامل کی صحبت ایسی ہی ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں اپنا اثر دکھادے تو یہ عورتیں اس بارہ میں شیخ کامل ہیں کہ ذرا سی دیر میں دوسروں کو اپنا سا بنائتی ہیں۔

اس کے بعد وہ مجھ سے آلا آباد بلے تھے کہنے لگے جناب شیخ کامل کی تھوڑی اسی صحبت کا اثر ہوا کہ میری سالہاں سال کی صحبت کا اثر دم بھر میں زائل ہو گیا۔ اب نہ وہ خیرات رہی نہ صدقات رہے ساری تنخواہ گھر ہی میں خرچ ہوتی ہے اور پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ بس رات دن زیوروں کی فرمائش ہے اور کپڑوں برتوں کا رونا ہے۔ چنانچہ آج کل مکان بنانے کی فرمائش کے پورا کرنے میں مشغول ہوں۔ اسی واسطے میں رائے دیتا ہوں کہ عورتوں کو آپس میں ملنے دیا کرو۔ خربوزہ سے دوسرا خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔

نخست مواعظت پر صحبت ایسی تھی سنت کہ از مصاحب نا جنس احتراز کنید
عقل مند بوڑھے کی یہ بات کبھی نہ بھولو کہ ہمیشہ نا جنس کی صحبت سے بچو۔

عورتوں کے عیوب

بلکہ پاس رہنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک خربوزہ دوسرے خربوزے کو دیکھ کر ہی رنگ پکڑ لیتا ہے ان عورتوں کی نگاہ ایسی تیز ہوتی ہے کہ خدا کی پنا۔ کہیں محفل میں جائیں گی تو ذرا سی دیر میں سب کے زیور اور لباس پر فوراً نظر پڑ جائے گی اگر بیس مرد ایک جگہ بیٹھیں تو وہاں سے انھ کر ایک دوسرے کا لباس نہیں بتانا سکتے کہ کون کیسا کپڑا پہن رہا تھا۔ کون کیسا، مگر عورتیں پارچ سو بھی ہوں تو ہر ایک کو دوسروں کی

پوری حالت گلے اور کان تک کا زیور سب معلوم ہو جاتا ہے کچھ تو دیکھنے والی کی نگاہ تیز ہوتی ہے پھر کچھ دوسری بھی دکھلانے کا اہتمام کرتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کا زیور تو ہر ایک کو خود ہی نظر آ جاتا ہے اس کے دکھلانے میں تو اہتمام کی ضرورت نہیں البتہ گلے اور کان کا زیور دوپٹہ کی وجہ سے چھپا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی کان کھجلانے کے بہانے سے دوپٹہ کو سر کایا جاتا ہے کبھی گرمی کے بہانے سے گلا کھولا جاتا ہے تاکہ سب دیکھ لیں کہ اس کے کانوں میں اتنے زیور ہیں اور گلے میں اتنے۔

اب یہ سب کے زیور اور کپڑے دیکھ بھال کر گھر آئیں تو خاوند کو پریشان کرنا شروع کیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا کر دو اور غصب یہ کہ اگر وہ زیور جو دوسری کے پاس دیکھا ہے اپنے پاس بھی ہو لیکن دوسرے نمونہ کا ہوتا بھی پریشان کرتی ہیں کہ یہ بحدا بنا ہوا ہے فلاںی کا نمونہ اچھا ہے ویسا بنادو، اب اگر خاوند ہزار کہے کہ اس میں پہلی گھڑائی کا نقصان ہے اور دوسری گھڑائی خواہ خواہ ذرا سے نمونہ کے واسطے دینی پڑے گی تو ایک نہیں سنیں گی۔

حالانکہ عقلاء نے زیور کی تجویز اس لئے نکالی ہے کہ یہ نقد کی قید ہے کہ اس سے رقم محفوظ ہو جاتی ہے۔ یعنی مثلاً اگر ہم کو کسی وقت چار آنے کی ضرورت ہو تو اس کے لئے روپسیہ تو توڑا میں گے مگر پانچ سور روپسیہ کی چوڑیوں کو فروخت نہیں کر سکتے تو روپسیہ اکثر جمع نہیں رہ سکتا اور زیور سے رقم محفوظ ہو جاتی ہے یہ ہے اصلی غرض زیور سے۔ یہی وجہ ہے کہ قصبات میں زیور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دیہاتی لوگ بنک وغیرہ میں رکھنا نہیں جانتے اور جب یہ غرض ہے تو اس کا خوبصورت اور بد صورت ہونا کیسا۔ بلکہ اس غرض کے لئے تو اور بحدا بنا کر پہننا چاہئے تاکہ کسی کی نگاہ اس پر نہ اٹھے اور کوئی لاگو نہ ہو جاوے۔ اور اگر بحدا بھی نہ ہو تو خیر پہلی دفعہ خوبصورت بنالو پھر جیسا بن جاوے اس پر اکتفا کرو۔ بار بار توڑ پھوڑ میں علاوہ گھڑائی ضائع ہونے کے خود سونا بھی ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ شارہر دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ملاتے ہیں جس سے دو تین دفعہ میں زیور کی مالیت آدھی رہ جاتی ہے مگر عورتوں کی بلا سے وہ جانتی ہیں کہ مزدور لا اکر دے گا جو چاہے فرمائش کرو۔

پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجبوراً خاوند کو رشوٹ لینی پڑتی ہے تو اکثر رشوٹ لینے کا سبب یہ عورتیں ہی ہوتی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ کمانے میں سارا گناہ مرد کو ہوتا ہے بلکہ یہ بھی اس کے ساتھ عذاب بھکتیں گی۔

عورتوں میں ایک یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب مرد سفر سے آئے تو اس کی لیاقت یہ ہے کہ ان کے واسطے کچھ سوچاتے لے کر ضرور آئے اور جو قدم دے گیا تھا اس کا حساب کتاب کچھ نہ لے اور اگر کوئی مرد حساب لیتا ہو کہ میں اتنا دے گیا تھا وہ کہاں خرچ ہو گیا تو اس پر فتویٰ اللہ تا ہے کہ یہ مرد بہت برا ہے ذرا

ذرا سی چیز کا حساب لیتا ہے بس ان کے یہاں سے سب سے اچھا وہ ہے جو بالکل زن مرید ہو کہ جو بیوی نے کہا فوراً پورا کر دیا اور رقم دے کر کچھ نہ پوچھنے کرم نے کہا خرچ کیا اور یہ ساری خرابی حب مال کی بدولت ہے جو عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یہ تو آدمی کے متعلق ان کے گناہ تھے۔

اب رہے حفاظت کے متعلق سوانح کی تفصیل یہ ہے کہ اول تو اکثر عورتیں زکوٰۃ نہیں دینیں کیونکہ روپیہ خرچ ہو گا۔ بعض دفعہ زیور کی زکوٰۃ نہ مرد دیتا ہے نہ عورت۔ مرد کہہ دیتا ہے کہ زیور عورت کا ہے اور عورت کہہ دیتی ہے کہ زیور مرد کا ہے میں کیوں زکوٰۃ دوں جس کامال ہے وہ خودوںے مگر اس بہانہ سے خدا کے یہاں نہیں چھوٹ سکتے۔ آخر دنوں میں سے کسی کا تو ہے ہی۔ بس اسی کے ذمہ زکوٰۃ ہے اور اگر دنوں کا ہے تو ہر ایک اپنے اپنے حصہ کی زکوٰۃ ادا کرے (اور اگر واقعی نہ اس کا ہے نہ اس کا تو پھر یہ مال خدا کا ہے اس کو وقف کے مصارف میں کسی مسجد یا مدرسہ میں لگادینا چاہئے یا غربیوں کو بائیث دینا چاہئے۔

بعضی عورتیں مرد سے چھپا کر روپیہ جوڑا کرتی ہیں اس خیال سے کہ شاید مرد پہلے مر جاوے تو یہ رقم بعد میں میرے کام آئے گی اب اگر اس کو مشاہدہ کیا جائیں روپے ماہواروںے گئے تو اس میں بیس خرچ کرتی ہیں اور بیس کو انہما کر جمع رکھتی ہیں (پھر اگر اتفاق سے مرد پہلے مر جاوے تو یہ جمع خالص انہی کے پاس رہتی ہے اس کی کسی کو خبر نہیں کرتیں۔ یاد رکھو یہ تاجائز ہے اگر کچھ جمع کرنا ہو تو مرد کو اس کی اطلاع کر دو اور اس سے یہ رقم اپنے واسطے مرض موت سے پہلے ہبہ کرو۔ اس طرح تو یہ رقم تمہاری ملک ہو جاوے گی اور نہ اس میں سب وارثوں کا حق ہے اور تھا عورت کو اس کا مالک بننا حرام ہے)۔

بعضی عورتیں رقمیں جوڑ جوڑ کر خاوند سے چھپا چھپا کر اپنے گھر والوں کو بھرا کرتی ہیں کسی بہانہ سے باپ کو دے دیا کسی بہانہ سے مال بہن کو دے دیا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ مرد کے مال میں عورت کے عزیزوں کا شرعاً کوئی حق نہیں۔ اگر ان کو دینا ہو تو مرد سے پوچھ کر دینا چاہئے اور اگر تم پوچھو گی تو مرد ایسے عالی حوصلہ ہوتے ہیں کہ ضرورت کے موافق دینے والانے سے اکثر انکار نہ کریں گے خاوند جو مال عورت کو بالکل بطور ملک کے دے ڈالے اس میں سے بلا اجازت صرف کرنا تو عورتوں کو جائز ہے اور جو مال اس کو ہبہ نہ کرے بلکہ گھر کے خرچ کے واسطے دے یا جمع کرنے کے لئے دے اس میں سے بلا اجازت صرف کرنا ہرگز جائز نہیں حتیٰ کہ سائل کو دینا بھی جائز نہیں (ہاں اگر اس نے اجازت دے رکھی ہو کہ تھوڑا بہت سائلوں کو دے دیا کر دتو اس وقت اتنی مقدار کا دینا جائز ہے جو عرف فاسائلوں کو دی جایا کرتی ہے)

عورتیں اور چندہ

میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں چندہ کے بارے میں سمجھی ہوتی ہیں جہاں انہوں نے صدقہ کے فضائل کسی کے وعظ میں سنے اور زیور نکالنا شروع کیا تو یاد رکھو جوز زیور خاص تمہاری ملک ہو اس میں سے دینے کا تو مفضلہ نہیں مگر جوز زیور شوہرن مجھنے پہنچنے کے لئے دیا ہواں کو چندہ میں دینا بدوں خاوند کی اجازت کے جائز نہیں۔ مگر عورتیں اس باب میں بہت سمجھی ہیں اور لینے والے بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ قصد آئور توں میں اس لئے وعظ کہتے ہیں تاکہ زیور وصول ہو۔

میں نے اب کی مرتبہ اپنے یہاں جو مستورات میں چندہ بلقان کے لئے وعظ کہا تو یہ کہہ دیا تھا کہ عورتوں سے زیور نہ لیں گے اور اگر کوئی مرد زیور لا یا تو اس میں خوب کھو دکر یہ کی کہ یہ زیور تمہاری ملک ہے یا بیوی کی اور اگر بیوی کی ہے تو اس نے خوشی سے دیا ہے یا تمہارے کہنے سے اور اگر اس نے از خود دیا ہے تو تمہاری بھی رائے ہے یا نہیں جبکہ اچھی طرح معلوم ہو جاتا کہ میاں بیوی دونوں کی رضا مندی سے دیا جا رہا ہے اس وقت قبول کیا جاتا۔

عورتیں بعض دفعہ خاوند کے مال میں تصرف کرتے ہوئے نہ سمجھتی ہیں کہ وہ اجازت دے دے گا اور بعض دفعہ خاموش ہو بھی جاتا ہے مگر بعض مرتبہ خوب خفا ہوتا ہے اور میاں بی بی میں اچھی طرح تو تو میں میں ہوتی ہے کاپور میں ایک دفعہ کسی بی بی نے مراد آبادی حق ایک مدرسہ کے جلسہ میں عاریہ دے دیا خاوند نے بے حد سختی کی غرض جب تک اجازت صراحتہ نہ ہو یا نظر غالب نہ ہواں وقت تک عورتوں کو چندہ میں کچھ دینا چاہئے اور یہ تو اس صورت میں تفصیل ہے کہ خاوند کا مال دیا جائے۔

خاوند سے مشورے کی ضرورت

اگر خاص عورت ہی کامال ہے تو گواں میں اجازت خاوند کی ضرورت نہیں مگر اس سے مشورہ کر لینا ضرور چاہئے۔ نسائی میں ایک حدیث ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها اذا ملك زوجها عصمتها الا باذن زوجها۔ (سنن الترمذی ۲۸۸:۶)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے بعد عورت کو اپنے مال میں سے ہبہ کرنا بدوں اجازت زوج کے جائز نہیں۔ اس میں بعض علماء نے اضافت بادنی ملابست مانی ہے اور مالھا سے مراد مال زوج لیا ہے لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اس پر محمول کیا

جاوے کے عورتیں ناقصات اعقل ہوتی ہیں اگر یہ اپنے مال میں خود مختار ہوں گی تو نہ معلوم کہاں کہاں روپیہ برباد کریں گی۔ اس لئے آپ ناقص العقل طبقہ کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال میں بھی جو تصرف کرو اس میں اپنے مرد سے مشورہ کر لیا کرو تو یہ بات جی کو لگتی ہے اور اس میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس طرح برداشت کرنے میں میاں بی بی میں اتحاد بڑھتا ہے اور مرد کو عورت سے محبت زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مجھ سے اتنا تعلق ہے کہ اپنے مال میں بھی کوئی کام بغیر میرے مشورے کے نہیں کرتی اور اگر عورت اپنی جمع کو الگ رکھ کر اس میں اپنی رائے سے تصرف کرے تو اس صورت میں ایک قسم کی اجتماعیت معلوم ہوتی ہے اس وجہ سے میرے نزدیک حدیث اپنے ظاہر پر مجمل ہے اور مالحاء سے مال زوج مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔

(قلت قال السندي في تعليقه على النسائي و هو عند اكثرا العلماء
على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج واحذمالك
يظاهره في ما زاد على الثالث.

توجب اس کی تفسیر بنا پر عورت کو اپنے مال میں بھی مرد سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے تو شوہر کے مال میں تو کیسے ضرورت نہ ہوگی۔ البتہ اگر کوئی ایسی معمولی چیز ہو جس میں غالب احتمال اجازت کا ہو تو خیر اور یہ بھی سائلوں کو دینے کے متعلق ہے جب معمولی چیز دینے کے متعلق بھی اتنی احتیاط شرط ہے کہ غالب طن اجازت کا ہو تو بھلا باپ مال اور بہن بھائی کا گھر بھرنے کی کب اجازت ہوگی کیونکہ ان کو تو معمولی چیزیں نہیں دی جاتیں ان کو ایک روٹی یا روٹی کا مکڑا کون دیتا ہے وہاں تو انقدر وہ پے یا کپڑوں کے جوڑے بھیجے جاتے ہیں جس میں غالب طن یہ ہے کہ خاوند کو اطلاع ہو تو شاید اسے ناگوار ہو اور اسی وجہ سے اپنے عزیزوں کو عورتیں خفیہ خفیہ بھرتی ہیں اور خاوند کو ذرا بھی خبر نہیں ہونے دیتیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غریب جتنا کچھ کہاتا ہے سب دوسروں کو لگ جاتا ہے۔

شادی کے لئے موزوں رشتہ

اسی وجہ سے پہلے تو عقلاء کی یہ رائے تھی کہ غریب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہئے مگر ان واقعات کی وجہ سے اب بہت لوگوں کی رائے یہ ہے کہ غریب کی لڑکی ہرگز نہ لئی چاہئے کیونکہ وہ اپنے مال باپ کو غریب دیکھ کر شوہر کا مال لگادیتی ہے، خیر میں تو یہ رائے نہیں دیتا لیکن مجھ کو بتانا یہ ہے کہ عورتوں کی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ اب بہت سے عقلاء

غريب کی لڑکی لینے کو برا سمجھتے ہیں (میری رائے تو یہ ہے کہ آدمی اپنے برابر کی لڑکی سے شادی کرے) کیونکہ اگر اپنے سے زیادہ امیر کی لڑکی سے نکاح کیا تو گواہ ہر یص نہ ہوگی نہ اپنے گھر والوں کو بھرے گی مگر بد دماغ ہوگی اور شوہر کی اس کی نگاہ میں کچھ قدر نہ ہوگی اور غريب کی لڑکی سے کیا تو وہ ہر یص بھی ہوگی ہر ایک چیز کو دیکھ کر اس کی رال ٹنکے گی اور اپنے عزیزوں کو بھی بھرے گی۔ خریبی بات تو تجربہ کے متعلق ہے میرا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مال کے صرف کرنے میں ایسی ہے احتیاطیاں کرتی ہیں جنکی وجہ سے عقلاً کو یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ امیر کی لڑکی لینا چاہئے یا غريب کی یا برابر کی۔ اور بڑا اگر عورتوں کو فضول خرچی سے روکنے کا یہ ہے کہ مال اور زیور پر ان کو قبضہ نہ دیا جائے۔ بس ضرورت کے موافق تھوڑا سارو پیسہ ان کو دے دیا جائے۔ باقی کو مرداپنے قبضے میں رکھے اسی طرح یہ زیورات نادیا جائے جس سے اس کا ناک کان ڈھک جائے۔ باقی سب شوہر کو اپنے پاس رکھنا چاہئے (جب کبھی ضرورت پہنچنے کی ہو وے وے دیا جائے اور اس کے بعد پھر واپس لے کر رکھ لیا جائے اس طرح کرنے سے وہ فضول خرچی نہ کر سکے گی نہ جو اگر کسی کو دے سکے گی پھر چاہے غريب کی لڑکی سے شادی کرو یا امیر کی لڑکی سے کسی سے کچھ خطرہ نہ ہو گا)۔

شادی بیاہ کا خرچ

ایک بے جا خرچ جو عورتوں اور مردوں کو سب کی شرکت سے ہوتا ہے بیاہ شادی کا خرچ ہے گویہ ہوتا ہے سب کی شرکت سے مگر اس میں بھی امام اور مقتداء عورتیں ہیں مردوں کو کچھ بھر نہیں ہوتی کہ شادی کے متعلق کیا کیا خرچ ہوتے ہیں، بس عورتوں سے پوچھ پوچھ کر سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہی حاکم ہوتی ہیں بھلا کیا مجال جوان کی منشاء کے خلاف کچھ بھی ہو سکے۔

میں نے کانپور میں دیکھا ہے کہ ایک صاحب کے یہاں بارات آئی مگر جب تک یہوی نے اجازت نہ دی اس وقت تک بارات کو ٹھہر انہیں سکے۔ مردوں میں تو ان حضرت کی بڑی ذلت ہوئی۔ مگر وہ بی بی پھولی نہیں سماتی تھی کہ دیکھا ہماری اجازت کے بغیر بارات بھی نہ ٹھہر سکی پھر اس کے بعد شادی میں یہ عورتیں ایسے بے تکے خرچ نکالتی ہیں جن سے مرد کا پڑا ہو جاتا ہے اور اگر کسی وقت شوہر کہتا بھی ہے کہ ذرا سنبھل کر دیکھ بھال کر خرچ کرو تو یہوی صاحبہ کہتی ہیں کہ بہت اچھا میرا کیا حرج ہے میں کفایت شعاراتی سے کام کرنے لگوں گی۔ مگر پھر دیکھنے میں نہ جانوں کہیں برا دری میں ناک کٹ جائے۔ بس ناک کٹنے کے خوف سے مرد بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور عورتیں اندهاد ہندرو پیسہ برباد

کرتی ہیں حالانکہ یہ محض ان کا ہی خیال ہے کہ سادگی کے ساتھ بیاہ کرنے سے ناک گئتی ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سادگی میں کچھ بھی ناک نہیں گئی اور زیادہ دھوم دھام کرنے میں ہمیشہ گئتی ہے۔

حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوہ لڑکی کی شادی اس طرح کی تھی جیسے کنواری کی کرتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ بیوہ کے نکاح کو نک کئی سمجھتے تھے بعد نکاح کے مولانا نے ناکی کو حکم دیا کہ آئینہ تمام برادری کو دھلا دے سب اپنی اپنی ناکوں کو دیکھ لیں کہ کہیں تو نہیں۔

تو اس رسم بد کی مخالفت سے مولانا کی عزت میں کیا فرق آیا۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس دھوم دھام کو دیکھ کر دوسرا مالداروں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم سے بھی بڑھنے لگا۔ اب وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انتظام میں کوئی عیب نہایں اگر کچھ بھی انتظام میں کمی رہ گئی تو پھر کیا ٹھکانہ ہے ہر طرف اس کا چہ چاں لجھے۔ کوئی کہتا ہے کہ میاں کیا ہمیں تو حقہ بھی نصیب نہ ہوا۔ دوسرا کہتا ہے میاں ہمیں تو پان کے پتے سے بھی کسی نے نہ پوچھا۔ تیسرا کہتا ہے میاں بھوکے مر گئے رات کے دو بجے کھانا نصیب ہوا۔ جب انتظام نہیں ہو سکتا تھا تو اتنے آدمیوں کو بلا یا کیوں تھا۔ غرض اس کم بخت کا تو روپیہ بر باد ہوا اور ان کی ناک بھی سیدھی نہ ہوئی۔ بعض دفعہ حسد میں کوئی یہ حرکت کرتا ہے کہ کچھ دیگر میں ایسی چیزوں وال دیتا ہے جس سے کھانا خراب ہو جائے۔ پھر اس کا ہر محفظ میں چہ چاہ ہوتا ہے اور اچھی طرح ناک گئتی ہے اور اگر سارا انتظام عمدگی سے بھی ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی برانہ کہے تو بھلا بھی نہیں کہتا۔

حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ نے ایک مہاجن کی حکایت بیان فرمائی تھی کہ اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں بہت دھوم دھام کی تھی اور سارا انتظام بہت اچھا کیا اور جب بارات رخصت ہونے لگی تو ہر باراتی کو ایک ایک اشرفتی دی اور اپنے دل میں خیال کیا کہ آج سارے بارات والے میری ہی تعریف کرتے جائیں گے۔ چنانچہ وہ اپنی تعریف سننے کے لئے اس راستہ میں جس سے بارات گزرنے والی تھی ایک جہاڑ کی آڑ میں چاہیٹا۔

تحوڑی دیر میں بہلیاں گزرنا شروع ہو گئیں۔ پہلے ایک گزری پھر دوسرا پھر تیسرا مگر سب میں سنا تھا کسی نے بھی لالہ صاحب کی تعریف میں ایک لفظ نہ کہا۔ آخر اسی طرح بہت سی بہلیاں خاموشی کے ساتھ نکل گئیں۔ لالہ جی کو بڑا غصہ آیا کہ یہ لوگ بھی عجب نمک حرام ہیں (بلکہ اشرفتی حرام کہنا چاہئے) کہ میں نے اتنا روپیہ ان پر خرچ کیا اور کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی تعریف کا نہ نکلا۔

آخر اس نے تھک کرلوٹنے کا ارادہ کیا تو اخیر کی بھلیوں میں سے ایک شخص کی آواز آئی جو دمرے سے کہہ دہاتھا کہ بھائی لالہ جی نے تو بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام کیا کہ ہر آدمی کو ایک ایک اشرفتی دی۔ لالہ جی کی ذرا جان میں جان آئی کہ کچھ تو محنت وصول ہوئی۔ دوسرا بولا اونہہ! سرے نے کیا کیا۔ اس کے گھر میں تو اشرفیوں کے کوئی بھرے ہوئے تھے اگر دو دو بانٹ دیتا تو اس کے یہاں کیا کمی آ جاتی۔ سرے نے بانٹی بھی تو ایک ایک اشرفتی بس لالہ جی یہ جواب سن کر اپنا سامنہ لے کر واپس چلے گئے۔

تو صاحب کتنا ہی خرچ کیجئے نام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اول تو حسد کی وجہ سے لوگ الثابدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو یہ بھی نہ ہوا تو یہ ہوتا ہے جو لالہ جی کے ساتھ کہ ایک ایک اشرفتی بانٹی اور سرے ہی کھلانے۔ اور یہ بھی نہ ہوا تو یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میاں کیا کیا جن کے پاس روپیہ ہوتا ہے وہ کیا ہی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جب اس قصہ سے کچھ حاصل نہ وصول تو ان سب کو چھوڑ دینا چاہئے اور یہ حال ہونا چاہئے۔

ترکت اللات والعزی جمعیا کذالک يفعل الرجل البصير میں نے لات اور عزی اور تمام بتوں کو چھوڑ دیا اہل بصیرت لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔

صرف مال کی خرابیاں

عورتوں میں ایک مرض یہ ہے کہ جب یہ شادی بیاہ کے خرچ مردوں کو بتلاتی ہیں اور خاوند پوچھتا ہے کہ اتنا خرچ میں کہاں سے کروں مجھ میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے تو وہ کہتی ہیں قرضہ لے لؤ شادی کا قرضہ رہا نہیں کرتا سب ادا ہو جاتا ہے۔ خدا جانے یہ انہوں نے کہاں سے سمجھ رکھا ہے کہ شادی اور تعمیر کا قرضہ ادا ہو ہی جاتا ہے چاہے وہ سودی ہی قرضہ ہو اور چاہے خرچ بے تکا ہی ہو۔ صاحب ہم نے تو ان قرضوں میں جائیدادیں نیلام ہوتے دیکھی ہیں جب یہ نوبت پہنچ گئی تو اب لوگ خود بھی ان کی برائی کچھ سمجھ گئے ہیں مگر پھر بھی پوری عقل نہیں آئی۔ ہنوز بہت کچھ رسوم باقی ہیں یعنی گو آج کل شرک و بدعت کی رسمیں تو کم ہو گئیں لیکن تفاخر کی رسمیں بڑھ گئی ہیں چنانچہ زیور اور لباس میں آج کل پہلے سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے پہلے تو سب سے بڑھیا کپڑا مشروع کا سمجھا جاتا تھا اور اب اطلس کنواب، زری اور اُسر اور سرنج وغیرہ نہ معلوم کتنی قسم کے کپڑے بڑھیا بڑھیا ایجاد ہو گئے ہیں اسی طرح برتوں اور فرش و فروش میں قسم قسم کے تکلف پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ اس قسم کی بڑھیا چیزیں کسی ایک دو شخص کے

یہاں ہوتی تھیں شادی بیاہ میں سب لوگ ان سے مانگ مانگ کر کام نکال لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے یہاں ایک رئیس تھے ان کے یہاں ایک مراد آبادی حق تھا اور ایک بڑا سافر شاہ اور کسی کے ہاں یہ چیزیں تھیں تو شادی بیاہ کے موقع پر ساری براوری میں وہ حقہ اور فرش مانگا مانگا پھر تھا اور اب تو اونی سے ادنیٰ آدمی کے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو آج کل ان تکلفات میں بہت کچھ روپیہ برباد ہو رہا ہے اور دیکھئے اگرچہ اس زمانہ میں بہت سے علماء نے ان رسوم کے مٹانے کی کوشش کی ہے اور بہت لوگ سمجھ بھی گئے ہیں لیکن اب بھی بہت سے بھدی عقل کے لوگ موجود ہیں۔

ایک صاحب نے اصلاح الرسم سے یہ کام لیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت سی رسماں کو بھول گئے تھے۔ خدا اصلاح الرسم کے مصنف کا بھلا کرے کہ انہوں نے سب کو محفوظ کر دیا۔ اب ہم اس کتاب کو دیکھ کر سب رسمیں کر لیتے ہیں حالانکہ اس کتاب میں رسماں کی تردید کی گئی ہے اور سب کی خرابیاں دکھلائی گئی ہیں۔ مگر ان حضرات نے اس سے یہ کام لیا۔

اس کی تواہی مثال ہے جیسے کوئی شخص قرآن میں سے کفار کے اقوال چھانٹ لے۔

إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ أَوْرَ الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ عَزَّيْرُونَ ابْنُ اللَّهِ اُوْرَ اتَّخَذَ اللَّهَ وَلَدًا اُوْرَ مَا اتَّنَزَّلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ اُوْرَ سَانَزِلُ مِثْلُ مَا اتَّنَزَّلَ اللَّهُ وَغَيْرُهُ۔ اور ان اقوال کی تردید جو قرآن میں کی گئی ہے۔ اس کو چھوڑ دے اور یوں کہے کہ ہم کو قرآن سے بہت نفع ہوا کہ پہلے کفار کے اقوال ہم کو معلوم نہ تھے۔ اب معلوم ہو گئے اور ایسے ایسے وظائف کفریہ ہاتھ لگ گئے تو بتائیے اس شخص کی حماقات میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ بس ایسا ایسا ہی نفع ان صاحب نے اصلاح الرسم سے حاصل کیا۔

اس لئے میں کہتا ہوں کہ بھی تک رسوم کی پوری اصلاح نہیں ہوئی بلکہ ایسے ایسے عقائد بھی موجود ہیں۔ یہ وہ خرابیاں تھیں جو صرف مال میں ہوتی ہیں۔ غرض مال میں ہمارے عمل کے تین درجے تھے ان میں جو خرابیاں مرد کرتے ہیں اور جو عورتیں کرتی ہیں وہ سب میں نہ مختصر ابیان کر دی ہیں۔

زوجہ صالحہ کی شناخت

مگر اخیر میں اتنا اور کہتا ہوں کہ اگر عورتیں اس میں ہمت سے کام لیں تو بہت جلد یہ خرابیاں زائل ہو سکتی ہیں اور زائل نہ ہوں تو کم ضرور ہو جائیں گی۔ کیونکہ میں نے بتا دیا ہے کہ مرد زیادہ تر مال کے گناہ میں عورتوں ہی کی وجہ سے بتا ہوتے ہیں اگر یہ ذرا ہمت کر کے زیور اور لباس کی فرمائش کم کر دیں اور

مردوں سے کہہ دیں کہ ہماری وجہ سے حرام کمالی میں بدلائی ہوئی تو پھر بہت کچھ اصلاح ہو جائے۔
حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا جب نکاح ہوا تو ان کے نامہ مذموم لوگی
ابراہیم صاحب اس وقت ڈپٹی نے تھے تxonah بھی زیادہ نہ تھی اس لئے بالائی آمدی کی بھی کچھ اعتیاط
نہ تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے پہلے ہی دن ان سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے
گھر اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی جب تک بالائی آمدی سے تم تو یہ نہ کرو گے غرض اس اللہ کی
بندی نے جاتے ہی خاوند سے توبہ کرائی اور عہد لیا کہ آئندہ سے رشوت کی بھی نہ لی جائے۔

صاحبزادی صاحبہ کے متعلق ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے پیشمن گوئی
کی تھی کہ یہ لڑکی بہت زاہدہ ہو گی۔ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ ایام غدر میں ایک مرتبہ گنگوہ
تشریف لے گئے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود نہ تھے حاجی صاحب نے قیام
مولانا ہی کے یہاں فرمایا اور صاحبزادی صاحبہ کو بلا کر ایک روپیہ دیا۔ انہوں نے لے کر اسے
حاجی صاحب کے پیروں میں ڈال دیا حضرت نے پھر دیا انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ کئی دفعہ
یہی قصہ ہوا اور انہوں نے نہیں لیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ لڑکی بہت زاہدہ ہو گی۔

چنانچہ واقعی بہت زاہدہ ہیں ان کا ایک زہد تو یہی ہے کہ پہلے دن خاوند کو رشوت سے روک دیا
حالانکہ اس وقت عورت کو روپیہ کا لائق ہوا کرتا ہے خصوصاً اس کو جسے ماں باپ کے یہاں سے بھی
زیور کپڑا امیرانہ تدبیا گیا ہو مگر بایس ہمسان کو دنیا کی مطلق حرمت ہوئی بلکہ دین کا خیال غالب ہوا۔
اسی طرح کا ندھلہ میں ایک بی بی تھیں۔ ان کے خاوند تحصیلدار تھے جن کے متعلق
آبکاری کا انتظام بھی تھا ان بی بی نے اپنے خاوند کی آمدی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ اس میں سے
زیور بنایا، نہ کپڑا اور کمال یہ کیا کہ مقام ملازمت کے زمانہ میں غلہ اور نمک اور ہر چیز اپنے میلے
سے منگاتی تھیں اور شرافت یہ کہ شوہر کو اطلاع تک نہیں کی کہ ان کو رنج نہ ہو۔

ہمارے ہاں ایک کا ندھلہ کی بی بی تھیں ان کے شوہر کے یہاں کچھ زمین رہن تھی جس کی آمدی
وہ اپنے صرف میں لاتے تھے مگر ان کی بی بی نے رہن کی آمدی میں سے ایک جب بھی نہیں کھایا۔
میں سچ کہتا ہوں کہ بعضی عورتیں مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اس لئے جو عورتیں یہ کہتی
ہیں کہ ہم مجبور ہیں جو خاوند لاتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے یہ مخفی ان کے لچر بھانے ہیں اگر یہ زیور اور کپڑوں
کی فرمائش نہ کیا کریں تو بہت سے مرد تو خود ہی رشوت سے توبہ کر لیں اور اگر جو کوئی پھر بھی لے تو عورتیں
ہمت کر کے ان سے کہہ دیں کہ ہمارے پاس رشوت کا مال نہ لانا صرف حلال تxonah کا روپیہ لانا ورنہ
آخرت میں ہم تمہارے دامن گیر ہوں گے۔ دیکھنے پھر مردوں کی کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے۔

میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے سنا ہے کہ میری (والدہ صاحبہ مرحومہ) نے سارا زیور اتار کر والد صاحب کے سامنے پھینک دیا تھا اور فرمایا کہ یا تو اس کی زکوٰۃ دو ورنہ اس کو اپنے پاس رکھو میں نہ پہنؤں گی۔ آخر مجبور ہو کر والد صاحب نے سب کی زکوٰۃ دی جب وہ زیور پہننا گیا۔

ذرائع و عورتیں اس طرح کر کے تو یہیں ان شاء اللہ خود بخود مردوں کی اصلاح ہو جائے گی کیونکہ جس طرح بعض دفعہ مرد سے عورت کی اصلاح ہوتی ہے اسی طرح عورت سے بھی مرد کی اصلاح ہوتی ہے اور زوجہ صالحہ تو وہی ہے جو مرد کو دین میں محتاط بنادے نہ یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ اور بے احتیاط بنادے۔

اولاد کا و بال

یہ گفتگو توال کے متعلق تھی اب دوسرا جزو قابل بیان رہ گیا۔ یعنی اولاد کے متعلق۔ سو اولاد میں بھی تین درجے ہیں اور ان میں بھی ہر درجہ میں ہم سے مختلف گناہ ہوتے ہیں۔ مختصر طور پر ان کو بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے اولاد کے پیدا ہونے میں اکثر لوگوں کی اور خصوصاً عورتوں کی یہ عادت ہے کہ کہیں منتظر کرتی ہیں کہیں گذے اور اس کی بھی پروانیں کرتیں کہ یہ شریعت کے موافق ہیں یا نہیں۔ اس میں بعض عورتیں یہاں تک بے باک ہیں کہ اگر کوئی ان سے یہ کہہ دے کہ تم فلانی کے بچہ کو مار ڈالو تو تمہارے اولاد ہو جائے گی تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتیں۔ بعض دفعہ کسی کے بچہ پر (ہوئی دیوالی کے دنوں میں) جادو کر دیتی ہیں یا خود کر دیتی ہیں بعضی جاہل عورتیں ستیلا پوچھتی ہیں کہیں چورا ہے پر کچھ رکھ دیتی ہیں مخفی اس غرض سے کہ اولاد پیدا ہو پھر وہ اولاد بعض دفعہ ایسی خبیث پیدا ہوتی ہے کہ بڑے ہو کر باب مال کو اتناستا تی ہے کہ وہ بھی یاد ہی کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایسی اولاد کو جس کی تمنا میں سیکنڑوں گناہ کئے تھے ہزاروں کو سنے دیتے ہیں۔ زیادہ وجہ اولاد کے خبیث اٹھنے کی یہ بھی ہے کہ تمنا کی اولاد کے لاڈ پیار بہت کئے جاتے ہیں۔ بچپن میں ان کے اخلاق خراب کر دئے جاتے ہیں کہ چاہے وہ کسی کو گالی دے لے یا کسی کو مار پیٹ لے لاؤ کی وجہ سے کوئی اسے کچھ نہیں کہتا اور کہنا سننا کیسا بعض عورتیں تو اس کی تمنا کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ گالی دینے کے قابل ہو جاوے۔

چنانچہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ اگر میرے لڑکا ہو اور وہ ماں کی گالی کھا کر گھر میں آئے تو میں اللہ واسطے پانچ روپیہ کی مٹھائی تقسیم کروں گی۔ بڑے ہو کر ان کو بھی گالیوں سے یاد کرتی ہے اور بعضے لڑکے تو ایسے جلا دھوتے ہیں کہ بیوی کے مقابلہ میں ماں کو لاثیوں سے کوئٹے ہیں۔ اس وقت یہ ساری تمنا میں خاک کے رستے سے نکل جاتی ہیں۔ خیریہ گناہ تو بچہ کے پیدا ہونے میں کئے جاتے ہیں۔

اب وہ پیدا ہو گیا تو یہ حالت ہے کہ آج کان دکھر رہا ہے آج ناک میں تکلیف ہے آج کھانسی ہے آج بخار ہے۔ گوان امراض میں سب ہی بتلا ہوتے ہیں مگر بچوں کی زیادہ نگہداشت کی جاتی ہے ان کے لئے حکیم کو بلا یا جاتا ہے کہیں عامل کو اور بات بات کے لئے ٹونے ٹونکے کئے جاتے ہیں اور یہ بھی کسی نے نہ کیا تو اس گناہ میں تو قریب قریب بھی عورتیں بتلا ہیں کہ بچہ ہونے کے بعد اکثر نماز نہیں پڑھتیں اور جو کوئی نماز کو کہتا ہے تو جواب دیتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ نماز پڑھنا کہاں ممکن ہے۔ ہر وقت تو کپڑے ناپاک رہتے ہیں۔ کبھی پاخانہ کر دیا، کبھی پیشتاب کر دیا، پھر کپڑے بھی بدل لیں تو بچے گود سے نہیں اترتے۔ نماز کے لئے ان کو الگ کریں تو روتنے دھوتے ہیں، چیختنے چلاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مولویوں کے تو بچے نہیں ہوتے، انہیں اس مصیبت کی کیا خبر، ان کو توبس نماز کے لئے تاکید کرنا آتا ہے۔

میں کہتا ہوں مولویوں کے بچے نہیں ہوتے تو مولویوں کے تو ہوتے ہیں۔ پھر ذرا جا کر دیکھ لو کہ وہ کس پابندی سے پانچوں وقت کی نماز میں پڑھتی ہیں اور بعضی اللہ کی بندیاں نماز کے بعد تلاوت قرآن اور مناجات مقبول اور اشراق تک کی بھی پابند ہیں۔ کیا ان کے اولاد نہیں؟ ایسی انوکھی اولاد تمہاری ہی ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنا مجال ہے۔

پھر میں کہتا ہوں کہ جس وقت تمہارا بچہ روتا ہو اور گود سے ہرگز نہ اترتا ہو اگر اس وقت تم کو پیشتاب یا پاخانہ کا تقاضا لگے تو بتلا و تم کیا کرو گی۔ کیا اس کو پلنگ پر روتا ہوا ڈال کر پاخانہ میں نہ جاؤ گی۔ یقیناً سب جاتی ہیں اور وہاں جا کر بعض دفعہ خوب دیگتی ہے اور بچے کے رونے کی کچھ پرواہیں کی جاتی تو کیا نماز کے لئے تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا جتنا پیشتاب پاخانہ کے لئے کرتی ہو؟ افسوس!۔ بس معلوم ہوا کہ یہ سب مہمل عذر ہیں۔

تمیری بات یہ ہے کہ آدمی جس کام کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو جو عورتیں ایسے بہانے کرتی ہیں وہ ذرا نماز شروع کر کے دیکھیں ان شاء اللہ پھولوں کی طرح ہلکی ہو جائیں گی۔ مگر اب تو ارادہ ہی نہیں کرتیں، اس لئے نہ کرنے کے سو بہانے ہیں ورنہ ارادہ وہ چیز ہے کہ ایک وہ شخص جس سے بارش یا سردی میں خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا جاتا اگر صاحب ٹکڑا کا حکم اس حالت میں اس کے پاس پہنچ جائے کہ فلاں مقام میں ہم سے آ کر ملو تو وہ دو میل پیادہ چلا جاتا ہے لوگ حیرت کرتے ہیں کہ اس میں یہ قوت کہاں سے آ گئی میں کہتا ہوں یہ ارادہ کی قوت ہے جس پر حق تعالیٰ نے امداد کا وعدہ فرمایا ہے۔

قضايا کا کفارہ

تو جناب یہ عورتیں نماز کا ارادہ ہی نہیں کرتیں ورنہ کچھ مشکل بات نہ تھی۔ لیجئے میں ایک تدبیر بتلاتا ہوں جس سے بہت جلد نماز کی پابندی حاصل ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ جب ایک وقت کی نماز قضاۓ ہو تو ایک وقت کا فاقہ کرو۔ پھر دیکھیں نماز کیسے قضا ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نماز کی پابندی تو فاقہ کی پابندی کیوں کر ہو گی اس کی بھی تو کوئی ترتیب تجویز بتاؤ کیونکہ یہ تو نماز سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ فاقہ کس سے ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ فاقہ کے لئے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا بلکہ چند کاموں سے اپنے کرو و کتنا پڑتا ہے اور یہ اختیاری بات ہے کہ ایک کام مت کرو۔ کسی کام کا کرنا تو مشکل ہوتا ہے مگر کرنا کیا مشکل ہے۔

اگر کسی سے یہ نہ ہو سکے تو وہ اپنے ذمہ کچھ جرمانہ مالی مقرر کر لے کہ اتنے پیسے فی نماز خیرات کیا کروں گی یا کچھ نمازیں مقرر کر لیں کہ ایک نماز قضا ہوئی تو مثلاً دس روپیں نفل جرمانہ کی پڑھا کروں گی اس طرح چند روز میں نفس نھیک ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ ذرا عمل کر کے تو دیکھو۔

مستقبل کی غلط فکر

تیری غلطی اولاد کی آئندہ کے لئے فکر کرنے میں کی جاتی ہے اس میں لوگ بڑی خرابیاں کرتے ہیں اول تو مسلمان تمام جائیداد ان کے نام کر دیتے ہیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں اس کا سخت و بال ہے پھر مزایہ کہ وہ جائیداد حرام طریقے سے حاصل کی جاتی ہے کہیں رشوت سے کہیں سود سے، یہ و بال الگ رہا، پھر زندگی ہی میں اولاد کے نام داخل خارج کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ وہ دنیا ہی میں دیکھ لیتے ہیں کہ بعض دفعہ اولاد جائیداد کی مالک بن کر ماں باپ کو ایک دانہ بھی نہیں دیتی اور پچھے تو ان کو ثواب کون پہنچاتا ہے کوئی بھول کر نام بھی نہیں لیتا۔ ہاں دو چار دن برادری کے دکھانے کو کچھ کر دیتے ہیں۔ سواس سے والدین کو کچھ نفع نہیں ہوتا کیونکہ نیت ریاء کی ہے اور اپنے اوپر سے الزام و طعن کا دفع کرنا مقصود ہوتا ہے۔

پھر اس بے انتہائی کے ساتھ یہ بھی تو نہیں کرتے کہ ماں باپ کو بھلا کران کے جمع ذخیرہ جائیداد سے خود ہی راحت اٹھا لیں۔ اگر اتنا بھی کریں تو خیر والدین کا کچھ مقصود تو حاصل ہو جائے۔ مگر وہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی رقم اور جائیداد کو دل کھوں کر اڑایا جاتا ہے اور کہاں رہنڈی بھڑزوں میں، یار دوستوں میں، ماں باپ نے تو مصیبت جھیل کر پیٹ اور تن کاٹ کر اور نماز ایمان کھو کر، گناہ سر پر لا کر مال و جائیداد جمع کی تھی صاحب زادہ نے اس کی یہ قدر کی ک

سب رذیل لوگوں میں اڑادی (کیوں نہ ہومال حرام بود جائے حرام رفت)

اسی لئے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے لئے کچھ جمع نہ کرے اور اس کی وجہ پر فرمائی کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ اولاد خدا کی دوست اور مطیع ہو گی یاد نہیں ونا فرمان۔ اگر دوست اور مطیع ہوئے تو خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اس صورت میں تم کو ان کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر یہ خدا کے دشمن ونا فرمان ہوئے تو خدا کی تافرمانی میں ان کو امداد و بیانیہ کیا مناسب ہے۔ واقعی بات تو خوب فرمائی لیکن میرا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ ایسے ہی بن جائیں یا ان کی خاص حالت تھی جس میں سب کو اس حال کی تعلیم کی ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو اس کی ترغیب ہے کہ اپنی عیال کو غنی چھوڑتا اس سے اچھا ہے کہ ان کو خالی ہاتھ چھوڑ جاؤ۔ تو اولاد کے لئے کچھ اندوختہ چھوڑ جانا برائی نہیں مگر یہ تو نہ ہو کہ دوسرے کا گلا کاٹ کر ان کا کرتہ سیا جائے کہ رشوت اور سود سے ذخیرہ جمع کیا جائے، غریبوں کی زمین ناحق دبا کر اپنی جائیداد کو بڑھایا جائے اور کسی نے اگر یہ ظلم بھی نہ کیا تو دوسرا یہ ظلم کیا کہ بیٹیوں کو محروم کر کے سب زمین بیٹوں کے نام کر دی۔

یہ ہیں وہ گناہ جو مال اور اولاد کی وجہ سے ہم کرتے ہیں جن کو میں نے مختصر آپیان کر دیا۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ مال و اولاد اکثر معصیت کا سبب ہو جاتے ہیں اس لئے حق تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! یہ اموال و اولاد تم کو ذکر اللہ یعنی طاعت سے غافل کر کے معصیت کا سبب نہ بن جاویں اور جو ایسا کرے گا تو وہ زیاں کار ہے۔

اہل خسارہ

یہاں کیا اچھا لفظ ارشاد فرمایا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ جس میں جیسا کہ ابھی مذکور ہوتا ہے اس طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص نفع کی چیز میں ثوٹا اٹھانے والا ہو گا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مال و اولاد فی نفسہ فرر کی چیز نہیں بلکہ اگر معصیت کا سبب نہ بنے تو واقع میں نفع کی چیز ہے اور یہ اشارہ اس وجہ سے ہے کہ خسارہ مطلق نقصان کو نہیں کہتے بلکہ نفع کی چیز میں نقصان کو خسارہ کہا کرتے ہیں۔ بہر حال ایسے لوگ خسارہ میں ہیں اور زیاں کار ہیں۔

اطلاق خسارہ سے اس پر بھی دلالت ہے کہ صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی یہ لوگ خسارہ ہی کے اندر ہیں۔ کیونکہ مال و اولاد کی لہکی محبت و بال جان ہو جاتی ہے اور مال و اولاد ایسے ہی شخص کے لئے معصیت کا سبب ہو جاتے ہیں جس کو ان سے لے لکی محبت ہو۔ سمجھتے مال کا بال جان ہونا تو ظاہر ہے کہ ہر

آدمی کو اسی کی فکر رہتی ہے کہ آج اتنے روپے ہیں تو کل کو اتنے ہو جائیں چنانچہ اپنی جان پر مصیبت ڈال ڈال کر روپیہ جوڑا جاتا ہے پھر رات کو اسے بار بار دیکھا جاتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہے بھی یا نہیں۔

چوروں کے کھنکے سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اولاد کا و بال جان ہونا آپ کو اس حکایت سے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ایک والی ملک کی بیٹی کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنے بیٹوں سے اس قدر محبت تھی کہ رات کو وہ سب کو ساتھ لے کر لیتھی تھیں۔ جدا کر کے ان کو چین، ہی نہ آتا تھا۔ پھر جب بچے زیادہ ہو گئے اور ایک پنگ پرنہ آسکے تو انہوں نے پنگ پرسونا چھوڑ دیا۔ سب کو لے کر بچے زمین میں فرش پر سویا کرتی تھیں اور اس پر بھی اعتبار نہ آیا بلکہ کسی پر ہاتھ رکھ لیتیں اور کسی پر پیر اور رات کو بار بار آنکھ کھلتی اور بچوں کو ٹھوٹ کر دیکھ لیا کرتیں۔

واقعی یہ محبت تو عذاب ہی ہے پھر اگر ایمان بھی نہ ہو تو دونوں عالم میں معدب ہے۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَا تُغْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ طَإِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الدُّنْيَا وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفَّارُونَ

اور ان کے اموال اور اولاد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تعجب میں نہ ایں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کا دم حالت کفر ہی میں نکل جائے۔ کیونکہ ان کو نہ دنیا میں چین ملانہ آخرت میں اور اگر ایمان ہوا تو خیر دنیا ہی بے لذت ہوئی۔ آخرت کا انعام کارانشاء اللہ پر لطف ہو جائے گا۔ غرض ثابت ہو گیا کہ محبت مال و اولاد بھی معصیت کا سبب ہو جاتی ہے اور اس سے دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہو جاتا ہے خواہ خسارہ محدود ہو یا غیر محدود البتہ جو لوگ اعتدال کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حقوق الہیہ کو غالب رکھتے ہیں ضائع نہیں کرتے وہ ہر وقت لطف میں ہیں۔ لیکن اب میں ختم کرتا ہوں دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ ہم کو اپنی یاد سے غافل نہ فرمائیں اور مال و اولاد کو ہمارے لئے سبب فتنہ نہ بنائیں۔ آمین

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا

محمد و على آله واصحابه اجمعين وآخر دعواانا

ان الحمد لله رب العالمين۔

مَظَاهِرُ الْأَعْمَالُ

انہاک فی الدنیا کی ترہیب اور استعداد الآخرت کی ترغیب کے متعلق یہ وعظ
بروز یکشنبہ ۲۴ جمادی الثانی ۱۴۳۵ھ کو تقریباً ۵۰۰ کے مجمع میں ہوا اور اڑھائی
گھنٹہ میں ختم ہوا۔ اسے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے قلمبند فرمایا۔

اعمال صالحہ کو حقیر سمجھنا سخت غلطی ہے۔ ہر عمل قابل وقعت ہے۔ اپنے عمل کو
اس حیثیت سے تو کچھ نہ سمجھو کر تم نے کیا ہے مگر اس کی اس حیثیت سے قدر
کرو کہ یہ نعمت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔

خطبہ ما ثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلَمَ.

آمَّا بَعْدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيَّةُ الصِّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلَا (الحف آیت نمبر ۲۶) مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے
اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے
اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہے۔

طلب دنیا

ہر چند کہ یہ مضمون بارہا سنا ہو گا اس آیت کے ظاہری مضمون کو سننے والوں نے سمجھ لیا ہو گا
اور اسی کے ساتھ یہ بھی دل میں کہتے ہوں گے کہ پرانا مضمون انہا ک دنیا سے منع کرنے کا ہے
اور شاید اس لئے اس کی وقعت بھی دل سے نکل گئی ہو گی کیونکہ آج کل نئے مضمون کی زیادہ
وقوع ہوتی ہے جو پہلے سے نہ سنا ہو۔

مگر میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کا پرانا ہونا اس کی بے قعی کا سبب نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے
میں اسلام کو دلیل میں پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی بہت پرانا ہے تیرہ سو برس سے زیادہ کا ہو گیا ہے اگر
کوئی چیز پرانی ہو کر بے وقعت ہو جاتی ہے تو کیا نعوذ باللہ اسلام کو بھی بے وقعت کہا جائے گا۔ اگر

کوئی شخص اس کے لئے آمادہ ہوا اور کسی سچے مسلمان سے تو مجھے اس کی امید نہیں۔ ہاں کوئی نام کا مسلمان اس کے لئے تیار ہوتا میں اس سے کہوں گا کہ یہ حیلے حوالے کیوں کئے جاتے ہیں صاف تھی کہہ دو کہ ہم خدا تعالیٰ ہی کو چھوڑتے ہیں کہ وہ بھی بہت پرانے ہیں الاول الذکری لیس قبلہ شئی۔ وہ تو ایسے قدیم ہیں کہ ان سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ گواں وقت کا انوں سے آواز سنائی نہیں دیتی مگر سب کے دل سے دل میں آواز آ رہی ہے کہ اسلام کو اور خدا تعالیٰ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب خدا تعالیٰ کو نہیں چھوڑا جاتا تو ان کے کلام کو کیوں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس لئے میں تلمیس نہیں کرتا کہ کسی نئے مضمون سے شروع کر کے مقصود کی طرف رجوع کروں براہ راست پرانا ہی مضمون شروع کر کے اپنے مقصود کو صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں پیچ ہے۔ لاشے ہے جیسے ستارے آفتاب کے سامنے کچھ نہیں اور کاشیبل و اسرائے کے سامنے کچھ نہیں۔ واللہ دنیا کے لئے یہی فخر کافی ہے کہ وہ آخرت کے ساتھ ذکر ہوتی ہے۔

فِي الْجَمْلَةِ نَسْبَتِ بَوْ كَافِي بُودَ مَرَادَ بَلْبَلَ هُمْ كَهْ قَافِيَهْ گُلَ شُودَ بُسَ سَتَ
مَجْمَلَهْ مجْحَهْ تَجْهَهْ سَاتِنِيَهْ نِسْبَتِ كَافِيَهْ جِسْ طَرَحَ بَلْبَلَ كَوْتَهِيَهْ كَافِيَهْ ہُوَ جَاهِيَهْ۔
كَاشِيبلَ كَلَهْ یَهِ وَقْعَتِ كَافِيَهْ ہے کَوَهْ مَلَازَمَانَ سَرَکَارِيَهْ مِنْ وَاتَّسَرَائَهْ کَے سَاتَّهَذَ ذَکَرَ ہُوتَا
ہے۔ کِيَا الْمَلِلَ دَنِيَا يَهِ چَاهِتَهْ ہیں کہ ہم دِينَ کا نَامَ ہی نَامَ اور دَنِيَا ہی کا ذَکَرَ رَاتَ دَنَ کِيَا کِرِيں۔ یہ ہم
سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان کی خاطر سے کبھی کبھی دنیا کا ذکر بھی کر دیتے ہیں وہ بھی کون اسی دنیا؟ دنیا نے
محمودہ جو عین آخرت ہو کیونکہ دنیا نے مذمومہ تونہ انفراداً قابل ذکر ہے نہ انضماماً نہ مددۃ نہ ذمہ کو مذموم
ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے مگر بلا ضرورت ذم کے ساتھ بھی قابل ذکر نہیں۔

اکی وجہ سے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے چند زاہدوں کو تنبیہ فرمائی تھی جوان کے سامنے دنیا کی مذمت کر رہے تھے۔ قومُوا عنِی فَإِنَّكُمْ تَحْبُّونَ الدُّنْيَا

میرے پاس سے اٹھ جاؤ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو حالانکہ وہ دنیا کے مذموم ہونے کا ذکر کر رہے تھے مگر بلا ضرورت کر رہے تھے اور اس وقت کے مسلمانوں کو اس مردار سے ایسا تعلق ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جو خدا سے کرتا چاہے تھا یعنی خدا تعالیٰ کی طلب کی یہ شان ہونا چاہئے تھی۔

اے برادر بے نہایت در گہیست ہرچہ بروے می ری بروے مالیست اے بھائی یہ لامنتھا درگاہ ہے کہ جس درجہ پر پہنچو اس پر مت ٹھہر و بلکہ آگے ترقی کی کوشش کرو مگر آج کل طلب دنیا کے ساتھ بعینہ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اسی کی کسی حد پر بس نہیں کرتے۔

لانتہی ارب الالی ارب

ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو گئی۔

ایک کام کو ختم کرتے ہیں دوسرے میں لگ جاتے ہیں ہزار روپیہ جمع ہو گئے تو دو ہزار کی فکر ہے کسی کے پاس ایک لاکھ جمع ہیں تو وہ دولاکھی تمنا کر رہا ہے۔ بس اس مردار کو یوں سمجھ لیا ہے کہ۔

بھریست بحر عشق کہ چیخ کنارہ نیست آں جا جزا نکہ جاں بسارند چارہ نیست
دریائے عشق ایسا دریا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس جگہ سوائے جان سوپنے کے کوئی چارہ نہیں
چنانچہ آج اس پر فخر ہوتا ہے کہ ہم تو دنیا میں کھپ گئے ہیں ہم کو سوائے کمانے کے اور کوئی دھندا
نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ مجھ کو اتنا فرع ہوا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا جمع ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ
میرے پاس اتنی دکانیں ہیں اور ہر ایک کی اتنی آمدی ہے ان باتوں کو فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔
مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے دو بھنگی آپس میں فخر
کریں۔ ایک کہے کہ میں نے اتنے گندگی کے نوکرے کمانے دوسرا کہے میں نے تجھ سے زیادہ کمانے۔
یہ ہے دنیائے نہ موم جس نے خدا تعالیٰ سے غافل کر رکھا ہے۔ باقی دنیا نے محمودہ کو منع نہیں کیا جاتا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عاقل الناس ہیں اور صرف ہمارے ہی نزدیک نہیں، ہم تو
غلامان غلام ہیں، ہم تو آپ کو عاقل الناس افضل الناس اکمل الناس سب کچھ مانتے ہیں لیکن آپ تو
ایسے عاقل ہیں کہ کفار بھی آپ کا لوبہاں گئے بلکہ وہ حضور کو ہم سے بھی زیادہ عاقل مانتے ہیں کیونکہ ہم
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مد والہی کی وجہ سے مقاصد میں کامیاب مانتے ہیں اور کفار یہ دیکھ کر نور اسلام
روز بروز بڑھتا جاتا ہے اس کو حضور کی عقل و فہم کا شر سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول اس
قدر عاقل تھے کہ ایسی تدبیریں کر گئے جس سے تمام عالم کو اسلام کا گرویدہ بنادیا۔ تو جس چیز کو ہم
قدرت نبویہ سے خارج اور تأسید الہی کا شر سمجھتے ہیں وہ اس کو حضور کی عقل کا نتیجہ سمجھتے ہیں تو اس طرح
گویا کفار نے حضور کو ہم سے بھی زیادہ عاقل سمجھا۔ تو وہ عاقل الناس فرماتے ہیں۔

کسب الحلال فریضة بعد الفریضة (حلیۃ الاولیاء ۷: ۱۲۲، کشف الخفاء للجلوی ۱۶۲: ۲)

حلال روزی کمانا فریضہ خداوندی ادا کرنے کے بعد فرض ہے۔

یعنی دنیا کی ضروری مقدار حاصل کرنے کو حضور فرض فرماتے ہیں آپ لوگ تو دنیا کے
طلب کو حاضر واجب عقلی ہی کہہ رہے ہیں اور حضور اس کو فرض شرعی فرماتے ہیں جس کے ترک پر

عذاب آخرت ہو گا غرض بقدر ضرورت کسب دنیا منوع نہیں البتہ اس کی محبت اور دل میں اس کی وقعت کرنا منوع ہے خواہ پیرا یہ نہ ملت ہی میں ہو۔

طلب جاہ

ای لئے حضرت رابعہ نے فرمایا تھا قومواعنی فانکم تعجبون الدنيا۔ اس پر ان زاہدوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو دنیا کی نہ ملت کر رہے ہیں، ہم محبت دنیا کدھر سے ہو گئے۔ فرمایا من احباب شیشا اکثر ذکرہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بہت کیا کرتا ہے تمہارے دل میں دنیا کی کچھ وقعت ہے جو اس کی نہ ملت کرنے بیٹھے ہو کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی دل میں کچھ بھی وقعت نہ ہو اس کا ذکر نہ ملت سے بھی نہیں کیا جاتا۔

چنانچہ جب ہم لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو عہدہ داروں کی نہ ملت کرتے ہیں۔ چمار کی نہ ملت نہیں کرتے کیونکہ چمار کی ہماری نظر میں کوئی وقعت نہیں اور عہدہ داروں کی وقعت ہے۔ یہاں ایک طالب علم اشکال ہو سکتا ہے شاید کسی طالب علم کے ذہن میں یہ اشکال آیا ہو وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دنیا کی نہ ملت کی ہے تو کیا نعوذ بالله حضور کی نظر میں بھی اسکی وقعت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کی نظر میں تو اس کی وقعت نہ تھی مگر امت میں بعض لوگ اس کے رنگ دروپ پر فریفہت ہونے والے اور اس کی وقعت کرنے والے ضرور تھے۔ اس لئے آپ کو اس نہ ملت کی ضرورت ہوئی۔ اگر امت میں بھی کوئی اس کی وقعت کرنے والا ہوتا تو حضور کبھی بھی اس کی نہ ملت نہ فرماتے۔ چنانچہ پیشاب پا خانہ کی نہ ملت آپ نہیں فرمائی کیونکہ اس سے سب کو فرط ہے شراب کی نہ ملت فرمائی کیونکہ اس سے سب کو فرط نہیں ہے بلکہ بعض اس کے فریفہت ہیں گو حضور کی نظر میں یہ بھی پیشاب پا خانہ ہی کے مثل تھی مگر بعض افراد امت کی رغبت کی وجہ سے نہ ملت خمر کی ضرورت ہوئی۔

غرض دنیا کی آپ نے بضرورت نہ ملت فرمائی ہے اور جو لوگ حضرت رابعہ کے پاس حاضر تھے ان کو کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہاں دنیا دار کون تھا سارے زاہدوں جمع تھے مگر زاہدوں بعض دفعہ امرائے سے اعراض کرنے اور ان کے ہدایا واپس کرنے کا ذکرہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ اپنا کمال ظاہر ہو۔ اس پر تقاضا خر مقصود ہوتا ہے تو گو بظاہر اس ذکرہ میں دنیا کی نہ ملت ہی کی جاتی ہے مگر حقیقت میں یہ شخص طالب جاہ ہے اور طلب جاہ بھی طلب دنیا ہی ہے محقق اس نہ ملت سے بھی تازیت ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی وقعت ہے۔

بہر رنگ کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت را می شاسم
جس رنگ کا کپڑا پہن لے گا قد کے انداز میں تجھ کو پیچان لوں گا

اعوذ باللہ کا اثر

غرض نہ مت دنیا تین وجہ سے ہوتی ہے یا بغرض محمود یا بغرض نہ موم یا بلا فائدہ نہ مت۔
بغرض محمود تو دین ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام اور کاملین کے کلام میں دنیا کی نہ مت ہے اور
بغرض نہ موم جیسے نہ مت کر کے اپنا کمال ظاہر کرنا مقصود ہو یہ نہ مت نہیں بلکہ حقیقت میں طلب
دنیا ہے اور نہ مت بلا فائدہ یہ گو طلب دنیا نہ ہو مگر محبت دنیا کی علامت ہے کیونکہ۔

گر ایں معنی دوست بناختے ہے پیکار دشمن نہ پرداختے
اگر یہ معنی محبوب کا عارف ہوتا تو دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول نہ ہوتا۔

جس کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے وہ محبوب کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے بلا فائدہ دشمن
کا ذکر نہیں کیا کرتا۔ غالباً حضرت رابعہ کے پاس والے بلا فائدہ نہ مت کر رہے تھے اس لئے
ان کو تنبیہ فرمائی۔ اسی اصل پر حضرت رابعہ کی یہ بھی عادت تھی کہ شیطان پر لعنت بھی نہ کرتی
تھیں اور یہ فرماتیں کہ میں دوست کا ذکر چھوڑ کر دشمن کا ذکر کیوں کروں۔ مگر اس کا یہ مطلب
نہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بھی نہ پڑھا جائے۔
جیسے بعض بزرگوں کی حکایت سے یہ شبہ ہو سکتا ہے۔

وہ حکایت یہ ہے کہ ایک بزرگ کسی دوسرے بزرگ کی زیارت کو گئے مگر دفعۃ سامنے
حاضر نہیں ہوئے بلکہ مجرہ سے باہر ٹھہرے اور توقف کر کے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کس شغل میں ہیں
اس وقت دوسرے بزرگ تلاوت قرآن کا قصد کر رہے تھے حسب معمول انہوں نے اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم پڑھا اور فوراً ہی فرمایا کہ اے شیطان! میں تجھ سے پناہ اس
واسطے نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے کچھ ڈرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ بدون حکم الہی کے تو کچھ نہیں
کر سکتا مگر بوجہ امر الہی کے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ
سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى
الَّذِينَ يَتَوَلَُّونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

پس جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شیطان راندہ درگاہ سے پناہ چاہیں بلاشبہ مومنین متولیین پر اس کا قابو نہیں چل سکتا اس کا قابو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے دوست ہیں اور ان لوگوں پر جو مشرک ہیں۔

اس میں حق تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مومنین متولیین پر شیطان کا قابو نہیں چل سکتا مگر پھر بھی سید المตولیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امر ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کہہ لیا کجھے کہ عبدیت اور عجز کا اظہار ہو کہ ہم ایسے عاجز ہیں کہ بے حقیقت شے سے بھی پناہ چاہتے ہیں یعنی کران زائر بزرگ کو حیرت ہو گئی کہ اللہ اکبر ان کا کیسا عالی مقام ہے سواس حکایت کے اول جزو سے ترک تعوذ کا شਬہ ہو سکتا تھا مگر اسی کے دوسرے جزو میں اس کا جواب بھی مذکور ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کو جو یہ حالت نصیب ہوئی کہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں شیطان سے بے خطر ہو گئے یہ بھی اعوذ باللہ پڑھنے ہی کا اثر تھا یعنی پہلے سے وہ جو اعوذ باللہ پڑھتے آئے ہیں اس کی برکت سے حق تعالیٰ نے یہ حالت عطا فرمائی کہ شیطان سے بے خوف ہو گئے اگر وہ ساری عمر سے اس کو نہ پڑھتے تو یہ حالت نصیب نہ ہوتی۔ تو اس کا بھی مقتضایہی ہے کہ اس کی اور کثرت کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کا گزر ایک پتھر پر ہوا جو، بہت رورہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ نہ ہے وَقُوَّدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جہنم میں پتھر بھی جائیں گے اس وقت سے مارے خوف کے رورہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بشارت سنادی۔ بہت خوش ہوا اور رونا موقوف ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے واپسی میں پھر اس پر گزر ہوا تو دیکھا اب بھی رورہا ہے پوچھا اب کیوں روتا ہے کہاں موسیٰ! رونے ہی کی بدولت تو یہ بشارت نصیب ہوئی تھی تو جس چیز سے مجھے یہ دولت ملی اسے کیوں کر چھوڑوں۔

اسی طرح حضرت جنید کو کسی نے دیکھا کہ تسبیح ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں۔ کہا حضرت آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو کامل و متنبی ہیں آپ کے تو رگ و پے میں ذکر سراہیت کر چکا ہے فرمایا تسبیح ہی کی بدولت تو یہ حالت حاصل ہوئی ہے تو کیا ایسے رفیق کو چھوڑ دوں۔ جس سے یہ دولت ملی۔ سبحان اللہ! خوب فرمایا۔ اہل سہواں کی حقیقت بھجتے ہیں وہ اس میں سہو نہ کریں گے گواہل سکر یہی کہتے ہیں کہ ہم کو تسبیح کی کیا ضرورت ہے۔ خیر یہ جواب تھادرمیان

میں ایک شبہ کا بطور جملہ معتبر فہ کے اب پھر عود کرتا ہوں اصل مضمون کی طرف وہ یہ کہ بزرگوں نے بے قائدہ باتوں سے یہاں تک احتراز کیا ہے کہ حضرت رابعہ بے ضرورت شیطان پر بھی لعنت نہ کرتی تھیں پھر دنیا کی نعمت بے قائدہ کو وہ کیسے گوارا کرے گی۔

تکرار کی ضرورت

اسی لئے میں نے کہا تھا کہ دین کے ساتھ ہم دنیا نے مذموم کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتے البتہ کبھی کبھی دنیا نے محمودہ کا ذکر کر دیتے ہیں بس دنیا کے لئے اتنا فخر کافی ہے۔ باقی وہ اس قابل تو ہے ہی نہیں کہ اس کا انفراد اذکر کیا جائے کیونکہ وہ یقین اور لاثہ ہے اور اس مضمون کو عجیب نہ سمجھو کیونکہ قوی کے سامنے ضعیف ہے بے حقیقت ہی ہوتی ہے اسی طرح آخرت کے سامنے دنیا بے حقیقت ہے جو انفراد اتوکسی طرح ہرگز قابل ذکر ہے ہی نہیں اور گویہ مضمون پر اتنا ہے مگر میں کہہ چکا ہوں کہ پرانا ہونے سے مضمون بے وقت نہیں ہو سکتا۔

اس پر شاید یہ سوال ہو کہ مضمون تو بے وقت نہیں مگر اس کے بیان کی ضرورت کیا ہے کیونکہ یہ تو بارہا کا سانا ہوا ہے پھر تکرار فضول ہے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا تکرار فضول اور بے ضرورت نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کھانا کھایا کرتے ہیں جو ہر دن مکرر ہوتا ہے بلکہ دن میں چار دفعہ ہوتا ہے چنانچہ اول توجیح ہی یا رد دوست جمع ہو کر چائے نوشی کرتے ہیں جو بقول حضرت مولانا دیوبندی ثقہ لوگوں کی بھنگ ہے توجیح ہی یہ بھنگ یعنی چائے اڑائی جاتی ہے جس کے ساتھ بسکٹ اور انڈے وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو خاصی غذا ہے پھر دو پھر کو اور اس کے بعد شام کو کھانا کھایا جاتا ہے پھر رات کو دودھ یا چائے پی کر سوتے ہیں اور چائے کو میں نے کھانا اس لئے شمار کیا کہ اگر یہ نہ ہو تو ایسی بے چینی ہوتی ہے گویا کھانا ہی نہیں کھایا۔

جیسا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ آپ کے یہاں ایک بنگالی مہمان ہوا تھا۔ مولانا گھروالوں کو کھانا کھلانے کی تاکید فرمائیں کہ درس وغیرہ میں چلے گئے۔ واپسی پر مہمان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا۔ کہنے لگنے نہیں۔ مولانا گھر میں آ کر ناخوش ہونے لگے۔ گھروالوں نے کہا، تم تو کھانا کھلا چکے۔ مولانا کو حیرت ہوتی۔ سوچنے سے یہ بات سمجھئے کہ یہ لوگ چاول کو کھانا کہتے ہیں۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ روٹی گئی تھی چاول نہ تھا وہ لوگ چاول ہی کو کھانا کہتے ہیں۔

اسی طرح جب چائے کے بدون کھانے سے قناعت نہیں ہوتی تو ان کا کھانا چائے ہی ہوتی۔

اسی طرح سے چار بار کھانا کھاتے ہیں غرض کھانے کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے تکرار کی وجہ سے کوئی اس کو بے ضرورت نہیں کہتا۔ نیز تینی شادی والے سوچیں کہ وہ روز روز بیوی کے پاس کیوں لیٹتے ہیں چاہئے کہ ہر دن نئی شادی کیا کریں۔ ایک دن کے بعد پھر پہلی بیوی کے پاس نہ جایا کریں کیونکہ اب تو وہ مکر رہے مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ بیوی سے مل کر اس کے پاس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔

اللہ ایک ادنیٰ سے جمال سے تو سیری نہ ہوا اور حضرت حق سے سیری ہو گئی کہ ان کے احکام ایک دفعہ سن کر پھر بے ضرورت ہو گئے۔ شاید تم یہ کہو کہ یہاں تو بار بار شور بڑھتا ہے اور وہاں کیا بڑھتا ہے؟ ارے جن پر حضرت حق کی محبت کا غالبہ ہے ان سے پوچھو کیا بڑھتا ہے اسی کی تو شکایت ہے کہ ہم کو حضرت حق کے ساتھ تعلق نہیں۔ جن کو تعلق ہے ان کی تو یہ حالت ہے۔

دیدہ از دیلش نکشے سیر بھناں کز فرات مستقی
آنکھا سکدے یکھنے سے سیر نہیں ہوتی جس طرح جادو والا دیاے فرات سے سیر نہیں ہتا لوفرماتے ہیں۔

دلا رام دربر دلام جوئے لب از تنگی خشک و برطرف جوئے
نہ گویم کہ برآب قادر نیند کہ برساحل نیل مستقی اندر
محبوب گود میں ہے اور محبوب کوڈھونڈھر ہے ہیں نہر کے کنارہ پر ہیں اور ہوت پیاس سے
خشک ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ پانی پر قادر نہیں بلکہ نہر کے کنارے پر جلنڈھر کے پیار کی طرح ہیں۔
اور یہاں تو انکشاف جمال ایک حالت اور ایک حد پر ختم بھی ہو جاتا ہے مگر پھر بھی اس سے سیری نہیں ہوتی تو جہاں انکشاف ہر دم بڑھتا رہتا ہے وہاں کیا حال ہو گا جمال حق کے انکشاف کی تو یہ حالت ہے۔

نہ گرد قطع ہرگز جادہ عشق از دوید نہا کہ می بالد بخدا ایں راہ چوں تاک از برید نہا
عشق کا راستہ دوڑنے سے ہرگز قطع نہیں ہوتا جیسا انگور کو جتنا قطع کیجئے اور بڑھے گا۔

اور ان کے جمال کی یہ شان ہے

نہ حسن غایتے دار دن سعدی راخن پایاں بمیر شش مستقی و دریا بھناں باقی
نہ محبوب کے حسن کی انتہا ہے نہ سعدی کے کلام کی جیسے جلنڈھر والا مر جاتا ہے اور دریا باقی
رہ جاتا ہے ایسے محبوب کے حسن کا بیان باقی ہے۔

اسی لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

قلم بیشکن سیاہی ریز و کاغذ سوز و دم درکش حسن ایس قصہ عشق است در دفتر نمی گنجد
قلم کوتوڑ روشنائی کو بکھیر اور کاغذ جلا خاموش رہ وہ حسن یہ عشق کا قصہ ہے جو دفتر میں نہیں سما سکتا۔
بلکہ محققین کا قول ہے کہ ترقی معرفت جنت میں بھی ختم نہ ہوگی وہاں بھی ترقی ہوتی رہے
گی حتیٰ کہ بعض اہل حال کا قول ہے کہ جنت میں ایک جماعت ہوگی جونہ قصور پر توجہ کریں گے
نہ حوروں پر بلکہ وہ ہر دم ارنی کہیں گے کیونکہ وہاں اکشاف متزاں ہے اس لئے ہر بچلی کے
بعد دوسری بچلی کا اشتیاق ہو گا اور اس کی لذت کے سامنے حور و قصور سب چیز معلوم ہوں گے۔

اسرار و قیقه

ہم نے دنیا میں خود بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو حوروں کے طالب نہ تھے مغض خدا تعالیٰ
کے طالب تھے مگر یہ باتیں ان لوگوں سے معلوم ہوتی ہیں جو کسی قدر مجد و بھی ہوں یعنی جن
پر جذب کا غلبہ ہو۔ عارفین کا ملین ایسی باتیں نہیں ظاہر کرتے۔ اسی لئے عارف فرماتے ہیں۔
راز درون پرده زرندان مست پس کیس حال نیست صوفی عالی مقام را
پرده کے اندر کا حال مست رندوں سے پوچھا س لئے کہ یہ حال عالی مقام صوفی کا نہیں ہے۔
وجہ یہ کہ صوفی عالی مقام اپنے حال پر غالب ہوتا ہے اس لئے وہ ضبط کئے ہوئے رہتا
ہے اسرار کو ظاہر نہیں کرتا۔ یا تو وجہ غیرت کے اسرار پر۔ اس وقت تو وہ یوں کہتا ہے۔

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ وہم گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دہم
مجھ کو آنکھوں پر شک آتا ہے کہ ان کو محظوظ کے چہرہ انور کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی
اس کی باتیں نہ سننے دوں۔ اور یا بوجہ مخاطب کے معاند ہونے کے۔ اس وقت یوں کہتا ہے۔
بادعی مگو اسرار عشق و مسی بگزارتا بیگرد در رنج خود پرستی
عشق و مسی کے اسرار مدعی کے سامنے مست بیان کر، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ اور رنج و
خود پرستی میں مرنے دو۔

اور یا اس لئے ظاہر نہیں کرتا کہ مخاطب میں اسرار و قیقه کے سمجھنے کی اہلیت نہیں جیسے مولانا فرماتے ہیں۔
نکھنا چوں تبغ فولادست تبغ چوں نداری تو سپرداپس گریز
بہت سے مضامین باریک فولادی تبغ کی طرح تیز ہوتے ہیں اگر تیرے پاس پر
(تموار مفہوم فہم) نہ ہو تو چیچھے ہٹ جا۔ پر سے مراد فہم ہے۔

پیش اس الماس بے اپر میا کز بریدن تنع را نبود جیا
اس تنع آبدار (مسئل دیقہ) کے رو برو بے پر (فهم) ن آنا چاہئے کیونکہ ملوار کا شے
سے نہیں شرماتی۔ اس مقام پر مولانا نے ان لوگوں کی بہت خبری ہے جو بے دھڑک ہر ایک کے
سامنے اسرار کو ظاہر کرتے پھر تے ہیں چاہے مخاطب میں فہم ہو یا نہ ہو۔ فرماتے ہیں۔

ظالم آں قوئے کہ پہماد و خند از سخبا عالم را سوختند
بڑے ظالم تنے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ایسی باتوں سے ایک عالم کو ویران کر دیا۔
مراد ظالم سے صوفیاء کے باطل فرقے ہیں۔

غرض مولانا نے سامع اور متکلم دونوں کا انتظام کیا ہے کہ اگر متکلم مغلوب الحال نہ ہو
جب تو اس کو تنعیہ کی ہے کہ ہر ایک کے سامنے اسرار کو ظاہر نہ کرو اور اگر وہ مغلوب الحال ہو تو
سامع کو تنعیہ ہے کہ اسرار و دیقہ کو نقل نہ کرو نہ خود ان میں تامل کرو اسی لئے ہمارے حضرت تو ان
باتوں کی رسید ہی نہیں دیتے گو وہ خود رشید ہی ہوں۔ اور اگر بعضے کسی وقت ظاہر بھی کرتے ہیں تو
ہر اک کے سامنے ظاہر نہیں کرتے بلکہ مجمع خاص میں کچھ کہہ دیتے ہیں۔

چنانچہ ایک بار مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں حاضر تھا تھائی کا
وقت تھا خاص مجمع تھا ہر ایک کو آنے کی اجازت نہ تھی جب کوئی آتا تو اس پر ڈانٹ پڑتی
ضرورت ہے ایسے بزرگوں کی بھی جو کبھی کبھی مریدوں کو ڈانٹ دیا کریں۔ بعضے تو بہت ہی سختی
کرتے ہیں ایسی سزا میں اور قاعدے مقرر کرتے ہیں جیسے سلاطین کے یہاں انتظام ہوتا ہے یہ تو
اچھا نہیں کہ خلاف سنت ہے اور بعضے بہت نرمی کرتے ہیں کہ مریدوں کو کسی بات پر تنعیہ نہیں کرتے
ہیں۔ یہ بھی زیبا نہیں۔ بس نرمی اور گرمی دونوں چاہئیں۔ اس سے اعتدال ہو جائے گا۔

جیسے ایک بزرگ سے کسی سانپ نے بیعت کر لی تھی انہوں نے اس سے یہ عہد لیا کہ کسی
کو ڈسانہ نہیں۔ جانوروں نے جو دیکھا کہ یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تو نذر ہو کر سب نے اس کو مارنا اور
ٹنگ کرنا شروع کیا۔ چند روز کے بعد وہ بزرگ کے پاس آیا تو دیکھا بہت ہی بڑی حالت میں
ہے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حضور نے کاشنے سے منع کیا تھا جانوروں کو جو یہ خبر ملی تو اب سب
مجھے ٹنگ کرنے لگے۔ فرمایا میں نے کاشنے ہی سے تو منع کیا ہے پھنکارنے سے تو نہیں منع کیا۔
بس اب سے جو جانور پاس آئے فوراً پھنکا ر دیا کرو۔ وہ بھاگ جائے گا اس روز سے غریب کو
چین ملا اسی طرح بزرگوں کو بھی چاہئے کہ کبھی کبھی پھنکا ر دیا کریں۔

غرض اس وقت ایسی تہائی تھی کہ حضرت مولانا نے ایسی خاص باتیں فرمائیں جو لوگوں کے سامنے کہنے کی نہ تھیں۔ مجملہ ان کے ایک یہ بات بھی فرمائی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے (گویا اس کا تو اطمینان تھا) اور حوریں ہمارے پاس آئیں گی تو ہم کہہ دیں گے کہ بی اگر قرآن سناؤ تو ہمارے پاس بیٹھو درتہ بس جاؤ۔

مگر مولانا نے یہ بات یہاں کی حالت کے اعتبار سے فرمائی جس کو میں غلبہ حال پر محمول کرتا ہوں۔ اس وقت مولانا کی نظر اس پر نہ تھی کہ جنت میں معرفت ایسی کامل ہو گی کہ حور کی طرف التفات کرنے سے بھی توجہ الی الحق میں کمی نہ آئے گی۔

جنتیوں کی اقسام

عارفین کا ملین حور سے بھی نظر خدا تعالیٰ ہی پر کریں گے اسی کو عارف فرماتے ہیں۔
حسن خویش از روئے خوبیں آشکارا کردا پس بچشم عاشقان خود را تماشا کردا
تونے اپنے حسن کو حسینوں کے چہرہ سے آشکارا کیا ہے پھر اپنے عاشقوں کی آنکھیں
تماشا کیا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ محبوب نے ایک وقت مقرر کر دیا ہو کہ اس وقت میں
بلاؤ اسطر روت ہو گی اور دوسراے وقت میں ایک آئینہ دے دیا کہ ہم کو اس میں سے دیکھو۔ اسی
طرح حوریں عارفین کا ملین کے لئے مراءت جمال حق ہوئی گی۔

تو جنت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک کا ملین وہ تو دنوں صدیوں میں جمال حق ہی کا مشاہدہ
کریں گے دسرے ناقصین وہ ایک دنے ہوں گے کہ صرف ارنی ارنی پکاریں گے ان کو کسی چیز کی طرف
تجہیز ہو گی۔ مگر یہاں قصین کا ملین کے سامنے ناقص ہیں ہم سے آپ سے توبہ بڑھے ہوئے ہیں۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرود لیک بس عالی ست پیش خاک تود
آسمان اگرچہ عرش کی نسبت پست ہے مگر ایک خاک کے نیلے کے سامنے بہت بلند ہے۔

عشق حق

غرض خدا تعالیٰ کے شوق میں مست ہونا جنت میں تو ہو ہی گا ہم نے تو یہاں بھی ایسے
بزرگ دیکھے ہیں جو حسن و جمال حق میں ایسے مست تھے کہ حوروں کی طرف بھی التفات نہ کرتے
تھے مگر تم نے حسن حق کو سمجھا کیا ہے حق تعالیٰ شانہ کا حسن کوئی چدائی جیسی روشنی نہیں ہے۔ بہت
لوگ یہی سمجھتے ہوئے ہیں یہ غلط ہے انہوں نے حق تعالیٰ کے حسن کی قدر ہی نہیں کی وہ حسن تو

ایسا ہے کہ اس کی حقیقت یہاں سمجھ میں آہی نہیں سکتی۔ اسی لئے بزرگوں کا ارشاد ہے۔

ما خطر ببالک فھو هالک والله اجل من ذالک

کہ اس وقت جو کچھ میں انوار و تجلیات نظر آتے ہیں وہ سب بالک و فانی ہیں حق تعالیٰ ان سب سے بالا و برتر ہیں۔

یہاں سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو انوار قلب کو یا انوار ذکر کو نور حق سمجھ لیتے ہیں۔ اس غلطی میں بہت لوگ متلا ہیں۔ ایک سالک تجلی روح کو تیس برس تک تجلی ذات حق سمجھتے رہے۔ بعد میں تنبیہ ہوئی تو اس سے توبہ کی۔ غرض یہاں حسن و جمال حق کی حقیقت اور کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی اور حقیقت تو آخر میں بھی معلوم نہ ہو گی مگر وہاں اکشاف صحیح ہو گا اسی کو سعدی فرماتے ہیں۔

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم وز ہر چہ گفتہ اندوشنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تہمام گشت و بپایاں رسید عمر ما ہمچنان در اول وصف تو ماندہ ایم
اے اللہ تعالیٰ آپ وہم و گمان خیال و قیاس سے بالاتر ہیں اور جو کچھ بزرگوں نے کہا اور ہم نے نہ
اور پڑھا اس سے بھی برتر ہیں دفتر تمام ہو گیا اور عمر اختتام کو پہنچ ہم ایک وصف بھی آپ کا بیان نہ کر سکے۔

مشابہہ حق

ہاں جب اکشاف کا وقت آئے گا اس وقت یوں ترجمہ کیجئے گا۔

بے جبابا نہ در آ آز در کاشانہ ما کہ کے نیست بجز درد تو درخانہ ما
یعنی ہمارے کاشانہ قلب میں بے جبابا آ کہ ہمارے خانہ قلب میں بجز درد محبت کے اور
کوئی خبر نہیں ہے۔

اس میں وجہ بھی بتلادی کہ اس وقت بے جبابا رہیت کی درخواست اس لئے کریں گے
کہ اس وقت غیر دل میں نہ ہو گا اور اب غیر دل میں گھسا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی تجلی غیر کے
سامنے کسی دل پر نہیں ہو سکتی۔ اس کی توشان یہ ہے۔

چوں سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بحیب عدم در کشد
یعنی جب محبوب حقیقی کی تجلی قلب پر وارد ہوتی ہے اس لئے کہ ہمارے خانہ قلب میں بجز
درد محبت کے اور کوئی خبر نہیں ہے۔

اور اس سے معلوم ہو گیا کہ مانع ادھر سے ہے ادھر سے مانع کوئی نہیں اسی لئے حق تعالیٰ نے

مویٰ علیہ السلام سے لن تر انی فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لن اری نہیں فرمایا کہ میں نظر نہیں آ سکتا۔ وہ تو ہر وقت نظر آ سکتے ہیں مگر یہاں ہماری آنکھوں میں تحمل دیدار کی طاقت نہیں ہے۔

شدھفت پرده برقشم ایں ہفت پرده چشم بے پرده ورنہ ما ہے چوں آفتاب دارم
اس آنکھ کے سات پردوں پر سات پرده اور ہو گئے ورنہ میرا محظوظ حقیقی سورج کی مانند بے پرده ہے۔
بس یہاں پرتوان کے دیکھنے کی سب سے اکمل یہ صورت ہے کہ قرآن کے اندر ان کے جمال و جلال کا مشاہدہ کر لیا جائے اس پر مجھے مخفی کا شعر یاد آتا ہے۔

درخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد درخن بیند مرا
میں خن میں مخفی ہوں جس طرح برگ گل میں مخفی ہے جس شخص کو میرے دیکھنے کی خواہش
ہو وہ مجھے اپنے کلام میں دیکھ لے۔

اسی طرح گویا دنیا کے اعتبار سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ہر کہ دیدن میل دارد درخن بیند مرا
جو شخص میرے دیکھنے کا خواہش مند ہے مجھ کو میرے کلام میں دیکھ لے۔
ابھی قرآن پڑھا گیا تھا اس وقت سامعین کی کیا حالت تھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اثر لہجہ اور
آواز کا تھا تو میں کہتا ہوں کہ ذرا انہی قارئی صاحب کو کافیہ دے دیا جائے اور ان سے کہنے کہ اس کو
اسی لہجے کے ساتھ پڑھیں۔ یقیناً خاک بھی اثر نہ ہو گا یہ شہادت کافیہ ہے اس امر کی کہ دراصل قرآن کا
اثر ہے البتہ لہجہ اور آواز سے بھی اس میں کچھ خوبی آ جاتی ہے دوسرے لہجہ اور آواز کا اثر ایک دو دفعہ
کے بعد نہیں رہا کرتا اور قرآن میں ایسی حلاوت ہے کہ جتنا بھی ناجائز اس سے سیری نہیں
ہوتی۔ کسی حسین صورت سے ایک عمدہ ہی غزل سنئے۔ پہلی بار تو اثر ہو گا مگر تکرار میں جی بھر جائے گا
کیونکہ وہ کلام انسانی ہے۔ جب متکلم فانی ہے تو اس کے کلام کی لذت بھی فانی ہے اور قرآن کا
چاہے کتنا ہی تکرار کیا جائے اس سے جی نہیں بھرتا بشرطیکہ پڑھنے والا بے تکلف اور صحیح پڑھتا ہو
کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جیسے وہ خود باقی ہیں ایسے ہی ان کے کلام کی لذت بھی باقی ہے۔

گو قرآن یعنی کلام لفظی بدیجہ کلام نفسی بناء بر تحقیق متکلمین حق تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہو مگر ذات
حق سے اس کو ایسی نسبت ہے جیسے شاعر کو آفتاب سے پس ایک قرص آفتاب ہے کہ وہ اس کی ذات
ہے دوسرے اس کی صفت نور جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تیری شاعر چوتھی زمین منور یہ شاعر

نور قائم بالشمس کی طرح ہمنہ شمس سے متصل ہے اور نہ میں کی طرح شمس سے بالکل منفصل۔

اسی طرح کلام لفظی نہ صفات ذاتیہ کی طرح ذات کے ساتھ قائم اور نہ دوسرے حوادث کی طرح بعید اعلق، بلکہ باوجود حادث ہونے کے دوسرے حوادث سے زیادہ شدید اعلق اور اسی شدت اعلق کے سبب اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے کلام حادث کو کلام اللہ نہیں کہا جا سکتا اور اسی وجہ سے بعض متكلمین نے اس کلام لفظی کو بھی قدیم کہہ دیا ہے گو ظہور اس کا حادث ہوا اور مسئلہ دقيق ہے بلا ضرورت اس میں خوض کرنا بھی جائز نہیں۔ باقی میرا مقصود دونوں قولوں پر حاصل ہے کہ ان الفاظ میں ایک خاص شان ہے جس سے اس میں کہنگی نہیں آتی۔

پس جب قرآن کے الفاظ سے جی نہیں بھرتا تو اس کے معانی سے کیونکر سیری ہو سکتی ہے اور اس پر عمل کرنے کے انوار سے کیونکر جی بھر سکتا ہے واللہ! جو لوگ انوار معانی قرآن سے اور انوار اعمال سے مشرف ہو چکے ہیں ان کو کبھی سیری نہیں ہوتی اور نہ ان کو کسی حد پر چین ہے مگر مزہ یہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں ان کو بڑے چین کے ساتھ بھی چین نہیں یعنی ان کو اس بے چینی میں ایسا چین ہے کہ فلت اقلیم کی سلطنت اس کے سامنے حقیر ہے۔ غرض جب قرآن شریف کی یہ حالت ہے تو اس کے مضمون سے سیری کیونکر ہو سکتی ہے اور احکام الہی کے ذکر سے جی کس طرح بھر سکتا ہے۔ لہذا کوئی مضمون پر اتنا سنا ہوا ہے مگر اس کا تکرار بے فائدہ نہیں ہے بلکہ قدر تکرار کا سا تکرار ہے۔

آیت کی تفسیر

دوسرے اگر پرانی بات چھوڑنے کے قابل ہے تو یہ آپ کا شہبھی پرانتا ہے آپ ہی اس شب کو جانے دیجئے جب میں قتوح گیا تھا تو وہاں ایک محلہ والوں نے اپنے محلہ کا نام اس لئے بدل دیا تھا کہ پہلے نام میں اس کی قومیت ظاہر ہوتی تھی اس کو چھپانے کے لئے نام بدل لا گیا۔ میں نے اس پر ایک وعظ کہا تھا دوبارہ جب پھر گیا تو وعظ میں پھر اس کا ذکر ہوا۔ اس محلہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے پڑ گئے پہلے بھی وعظ میں ہم کو برا بھلا کہا تھا اب پھر وہی کہا۔ ایک صاحب نے جواب دیا کہ تم نے خود کہلوایا ہے اس نے نہیں کہا۔ اگر تم اول ہی اصلاح کر لیتے تو دوبارہ کہنے کی کیوں نوبت آتی۔

اسی طرح آپ کہلوار ہے ہیں اگر آپ پہلے مضمون کو سن کر اپنی اصلاح کر لیتے تو مجھے وہی مضمون دوبارہ کہنا نہ پڑتا۔

یہ تو تمہید تھی۔ اب میں اصل مقصود شروع کرتا ہوں۔ یہ آیت جو میں نے اس وقت

تلاوت کی ہے اتفاق سے جب میں جلسہ میں آیا تو قاری بھی آیت پڑھ رہا تھا اسی وقت میرے خیال میں آیا کہ آج اسی آیت کا بیان کروں گا۔ گویا حق تعالیٰ نے فعلًاً اس آیت کے بیان کو ترجیح دے دی اس آیت میں حق تعالیٰ نے دنیا نے مذموم سے منع فرمایا ہے اور آخرت کی ترغیب دی ہے مگر عنوان دونوں جگہ ایسا عجیب ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں کی اصلی حقیقت تھوڑے سے لفظوں میں ظاہر فرمادی۔ واقعی خدا تعالیٰ کے سوا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے پہلے دنیا کا بے حقیقت ہونا ایک مثال سے ظاہر فرمایا ہے۔

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ بَأْثَ
الْأَرْضِ فَاصْبَحَ هَشِيمًا تَلْرُؤُهُ الرِّيحُ طَوْكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا
اور بتلاوۃ صحیحے ان کو مثل دنیا کی زندگی جیسے پانی اسراہم نے آسمان سے پھری یہ ملا جلانکلا اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ پھر کل ہو گیا چورا چورا ہوا میں اڑتا ہوا۔ اور اللہ کو پوری قدرت ہے۔

اس کے بعد یہ آیت ہے **الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** کہ مال اور اولاد حیات دنیا کی زینت و آرائش ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ زینت ہر چیز کی اس کے تابع ہوا کرتی ہے اور جب تابع ہے تو اس کا مرتبہ اصل سے کم ہوا۔ اور متبع کا بے حقیقت ہونا پہلے یعنی اوپر کی آیت میں بیان ہو چکا ہے اس سے خود ہی معلوم ہو گیا کہ اس کا تابع کچھ کیسا ہو گا تو ایک لفظ زینت سے اس قدر ان کی بے قعی کو واضح فرمایا ہے عجیب فصاحت و بلا غلط ہے۔

اس کے علاوہ اس میں اور بھی نکتہ ہے وہ یہ کہ آرائش اور زینت کی چیزیں اکثر فضول اور زائد اور بے ضرورت ہوا کرتی ہیں تو حق تعالیٰ نے مال و بنوں کا بے حقیقت و بے ضرورت ہونا لفظ زینت سے ظاہر فرمادیا ہے کہ یہ سب زینت ہی زینت ہے اور کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مال و اولاد تم کو مطلوب ہے جس میں آخرت کو چھوڑ کر تم منہمک ہو رہے ہو وہ بے ضرورت اور زائد چیزیں ہیں کیونکہ مال سے مقصود رفع ضرورت ہے اور رفع ضرورت سے مطلوب بقاء نفس ہے تو اصل مقصود کے لئے یہ واسطہ در واسطہ ہے پھر ایسے واسطے کو مطلوب بنالینا حماقت نہیں کہ رات دن اسی میں منہمک ہو اور بقاء نفس جو مطلوب ہے وہ بے حقیقت ہے کیونکہ اس کا بقاء چند روزہ ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ غرض مال خود مطلوب بنانے کے قابل ہرگز نہیں اور اولاد تو اس سے بھی گھٹایا ہے کیونکہ وہ تو بقاء نفس کے لئے بھی نہیں صرف بقاء نوع کے لئے مطلوب ہے اور بقاء نوع کے لئے اسی کی کیا

ضرورت ہے کہ آپ ہی کے اولاد ہو۔ اگر میرے اولاد نہ ہوئی اور آپ کے دو ہو گئیں تو اس سے بھی بقاء نوع ہو سکتا ہے دوسرے بقاء نوع کی آپ کو کیا فکر ہے جب تک حق تعالیٰ کو انسان کی آبادی دنیا میں مطلوب ہے اس وقت تک وہ اس کی تدبیر کریں گے آپ اس میں رائے دینے والے کون ہیں کہ خواہ مخواہ آپ کی نوع باتی ہی رہے اور وہ بھی اس صورت سے کہ آپ ہی کے اولاد ہو۔

پرده اور تعلیم

یہاں ایک بات قابل تنبیہ ہے وہ یہ کہ اس جگہ حق تعالیٰ نے بنوں کو زینت حیوة الدنیا بتلایا ہے بنات کو بیان نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بنات کو خود تم نے بھی بے حقیقت سمجھ رکھا ہے کیونکہ لوگوں کو لڑکوں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور لڑکیوں کو عموماً وبال سمجھتے ہیں تو تمہارے نزدیک وہ کیا خاک زینت دنیا ہوں گی۔

دوسرانکتہ بنات کے ذکر نہ کرنے میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بنات زینت دنیا بھی نہیں ہیں بلکہ محض زینت خانہ ہیں اگر وہ بھی زینت دنیا ہوتیں تو حق تعالیٰ ان کو یہاں ذکر فرماتے۔ پس صرف بنوں کو زینت دینا فرمانا اور بنات کو ذکر نہ فرمانا اس کی دلیل ہے کہ لڑکیاں دنیا کی بھی زینت نہیں ہیں کیونکہ عرف از زینت دنیا وہ سمجھی جاتی ہے جو منظر عام پر زینت بخش ہو اور وہ ایسی زینت نہیں کہ تم ان کو ساتھ لئے لئے پھر و اور سب دیکھیں کہ ان کی اتنی لڑکیاں ہیں اور ایسی آراستہ پیراستہ ہیں بلکہ وہ محض گھر کی زینت ہیں۔

یہاں سے پرده کی دلیل کی طرف اشارہ نکل آیا۔ دوسرے لفظ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عورتوں کا پرده کرایا جائے کیونکہ اردو میں عورت کو عورت کہتے ہیں جس کے معنی لفظ میں ہیں چھپانے کی چیز تو اس کے ساتھ یہ کہنا کہ عورتوں کو پرده نہ کراؤ ایسا ہے جیسا یوں کہا جائے کہ کھانے کی چیز کوں کھاؤ۔ پہنچنے کی چیز کوں پہنچو اور اس کا لغو ہونا ظاہر ہے تو یہ قول بھی لغو ہے کہ عورتوں کا پرده نہ کراؤ۔ ان کو عورت کہنا خود اس کی دلیل ہے کہ وہ پرده میں رہنے کی چیز ہیں۔

ایک ترقی یافتہ کہتے تھے کہ عورتیں پردوے کی وجہ سے ترقی علمی سے رکی ہوئی ہیں میں نے کہا جی ہاں اسی داسطے تو ان چھوٹی قوموں کی عورتیں جو پرده نہیں کرتیں بہت تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں یہ جواب سن کروہ خاموش ہی تو رہ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ ہونے میں پرده یا بے پردوگی کو کوئی خلل نہیں بلکہ اس میں بڑا خلل توجہ کو ہے اگر کسی قوم کو عورتوں کی تعلیم پر توجہ

ہو تو وہ پرداہ میں بھی تعلیم دے سکتے ہیں ورنہ بے پرداہی میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ غور کیا جائے تو پرداہ میں تعلیم زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ تعلیم کے لئے یک سوئی اور اجتماع خیال کی ضرورت ہے اور وہ گوشہ تنہائی میں زیادہ حاصل ہوتی ہے اسی واسطے مرد بھی مطالعہ کے لئے گوشہ تنہائی تلاش کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ طلباء کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے پس عورتوں کا پرداہ میں رہنا تو علوم کے لئے معین ہے نہ کہ مانع۔ نہ معلوم لوگوں کی عقلیں کیا ہو جیں جو پرداہ کو تعلیم کا منافی سمجھتے ہیں۔

ہاں علوم تجارت اور علوم تجارت کے لئے سیر و سیاحت کی البتہ ضرورت ہے مگر عورتوں ناقص اعقول اور کم حوصلہ ہیں ان کے لئے سیر و سیاحت سے تجربہ میں حقیقی یعنی اخلاقی ترقی نہ ہوگی بلکہ آزادی اور شرارت بڑھے گی اسی لئے شریعت نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی کیونکہ یہ ایسی کم حوصلہ ہیں کہ ذرا سی بات پر آپ سے باہر ہو جاتی ہیں مردوں برسوں میں کسی بہت ہی بڑی بات پر طلاق کا قصد کرتا ہے وہ بھی ہزاروں میں سے ایک ورنہ زیادہ تو ایسے ہی مردوں ہیں جو عورت کی بد تمیزیوں پر صبر کرتے ہیں اور اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو یہ تو ہر ہمیہ شوہر کو طلاق دے کر نئی شادی کیا کر سکتیں۔ بس عورتوں کے لئے یہی سیر و سیاحت کافی ہے کہ اپنے گھر میں چل پھر لیا کریں۔ جن تجربوں کی ان کو ضرورت ہے وہ گھر میں رہ کر ہی ان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔

تعلق مع اللہ کا اثر

بلکہ میں کہتا ہوں نظرِ حقیقت میں سے دیکھئے تو مردوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں۔ اگر سیر تماشا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے دل کی آنکھوں سے دیکھ لوم کو اپنے ہی اندر ایسا تماشا نظر آئے گا کہ دنیا کے پھول پھلواریوں سے استغنا ہو جائے گا۔

تم ست اگر ہوست کشد کہ بسر و سمن در آ تو زغبچے کم مددیدہ در دل کشانچمن در آ
چوں کوئے دوست ہست بصر اچھا حاجت ست خلوت گزیدہ را بہ تماشا چھ حاجت ست
تمہارے اندر خود چمن ہے اس کا پھانٹک تمہارے ہاتھ میں ہے جب چاہے سیر کرو جب
تم محبوب کے دربار میں ہو تو جنگل کی ضرورت، خلوت نشین کو تماشہ کی کیا حاجت۔

جس کو یہ دولت مل گئی ہے اس کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ آنکھوں سے کچھ نظر آتا ہو وہ تاپینا تی کی حالت میں بھی خوش و خرم رہے گا بینا سے تابینا ہونے کے بعد مطمئن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا مگر حضرت مولا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے ابھی دیکھا ہے مولا نا

نیز بینائی کی حالت میں بھی ایسے مطمئن تھے جیسے بینائی کی حالت میں تھے آخر مولانا میں کیا بات تھی مولانا نبی تو نہ تھے امتی ہی تھے تو جو بات ان کو حاصل تھی وہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی تعلق مع اللہ۔ یہ وہ دولت ہے کہ اس کے بعد کسی سیر و تماشہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کشف و کرامت کو مولانا کی طرف منسوب کر رہا ہوں کہ مولانا کو نیز بینائی کی حالت میں بھی ویسا ہی نظر آتا تھا جیسا کہ بینائی کی حالت میں۔ اس لئے آپ مطمئن تھے ان حضرات کے سامنے کشف و کرامت کی حقیقت ہی کیا ہے نہیں بلکہ مولانا کے اطمینان کا سبب محض تعلق مع اللہ تھا ان کو دنیا سے تعلق ہی نہ تھا اس لئے بینائی کے جاتے رہنے کا بھی کچھ غم نہ تھا بلکہ عجب نہیں کہ اس سے خوش ہوئے ہوں کہ پہلے اغیار پر نظر پڑتی تھی اب محبوب کے سوا کسی پر نظر نہیں۔

افسوس! ان حضرات پر نادانوں کو یہ شبہ تھا کہ وہ شورش برپا کریں گے اس لئے ان کی سخت گمراہی چاہئے۔ ہائے! شورس یہ کریں گے جن کو دنیا سے کچھ علاقہ، ہی نہیں۔ شورش تو وہ کرے جس کو دنیا مطلوب ہو اور ان حضرات کی توجیہ حالت ہے کہ بے شورش کے بھی اگر ان کو کوئی ملک ملتا ہو تو اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں شورش کر کے تو ملک و حکومت بھی لیں گے۔

حضرت سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملک سخرا کے باڈشاہ ملک نیمروز کا خط آیا تھا کہ میں ملک نیمروز کا ایک حصہ آپ کو خرچ خانقاہ کے لئے دینا چاہتا ہوں اگر یہ حضرات طالب حکومت ہوتے تو فوراً منظور کر لیتے مگر آپ نے جواب میں تحریر فرمایا۔

چوں چتر سخرا رخ بختم سیاہ باد دردول بود اگر ہوں ملک سخرا
اگر میرے دل میں تیرے ملک کی ہوں تک بھی ہو تو خدا کرے میرا بخت سیاہ رو ہو جائے۔
یعنی اگر میرے دل میں تیرے ملک کی ہوں تک بھی ہو تو خدا کرے میرے بخت سیاہ رو
ہو جائے جیسا کہ تیرا چتر سیاہ ہے اس زمانہ میں سلاطین کا چتر سیاہ ہوا کرتا تھا آگے اس کی بے رغبتی کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

زانگہ کہ یافتہ خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز به یک جو نمی خرم
کہ جب سے مجھے نیم شب یعنی آدھی رات کی باڈشاہت ملی ہے اس وقت سے میں
ملک نیمروز کو ایک جو کے بد لے بھی نہیں خریدنا چاہتا (اس وقت ایک طرف سے آواز آئی کہ
حضرت ادھر بھی رخ کیجئے آواز نہیں آتی۔ فرمایا کہ پھر ایک واعظ اور بلاوجہ ادھر والوں کو تا

دے گا۔ ہم کسی کے نوکر نہیں جو آپ کے گھمانے سے گھومتے رہیں جب جی چاہے گا تو ادھر بھی رخ کر لیں گے اور اگر کسی کو آواز نہ پہنچتی ہو اور اس لئے بیٹھنا گراں ہو تو وہ انہوں کر چلا جائے۔)

واللہ جس کو یہ دولت مل گئی ہے اس کو سلطنت کی ہوں نہیں رہ سکتی۔ بلکہ وہ تو اس سے گھبرا تا ہے کیونکہ اس سے تعلق مع اللہ میں تشویش اور تشتت پیدا ہوتا ہے لوگ آج کل حضرات صحابہ کے قصوں کی بحث میں اوقات ضائع کرتے ہیں۔ مثلاً بعضے کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اول خلیفہ کرنا چاہئے تھا میں بقسم کہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دل سے پوچھا جائے وہ تو حضرات شیخین کے احسان مند ہوں گے کہ انہوں نے ان کو مصیبت سے بچالیا کیونکہ حضرات صحابہ کی خلافت شاہان اودھ کی سی بادشاہت نہ تھی کہ رات دن عیش اور مستیاں کرتے ہوں۔

وہاں تو اسی بادشاہت نہ تھی کہ ایک دن گرمی کی سخت دوپہر میں جب کہ لوچل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھا جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ امیر المؤمنین ہیں جب ان کے گھر سے قریب ہوئے تو آواز دی کہ امیر المؤمنین اس وقت سخت گرمی اور لو میں کہاں جا رہے ہیں فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ ضائع ہو گیا ہے اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کسی خادم کو نہ بھیج دیا۔ فرمایا قیامت میں تو سوال مجھ سے ہو گا خادم سے سوال نہ ہو گا عرض کیا پھر تھوڑی دیر تو قف کر کے تشریف لے جائے۔ ذرا گرمی کم ہو جائے فرمایا نار جہنم اشہد حوا۔ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے یہ کہہ کر اسی دھوپ اور لو میں جنگل تشریف لے گئے۔ یہ سلطنت تھی۔

ایک بار آپ عمر پر کھڑے ہوئے خطبہ پڑھ رہے تھے خطبہ میں فرمایا اسمعوا واطیعوا۔ (سنوا اور اطاعت کرو) ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا لانسمع ولا نطیع۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ نے دو کپڑے پہن رکھے ہیں جو مال غیرمت سے تقسیم ہوئے ہیں مگر سب کے حصہ میں تو ایک کپڑا آیا تھا۔ آپ نے دو کپڑے کیسے لئے۔ حضرت عمر نے فرمایا بے شک تم صح کہتے ہو اے عبد اللہ تم اس کو جواب دے دو۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور کہا امیر المؤمنین کے پاس آج کوئی کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز پڑھاتے تو میں نے اپنے حصہ کا کپڑا ان کو عمارتیاں دے دیا ہے اس طرح ان کے پاس دو کپڑے ہو گئے جن میں سے ایک کی لنگی بنالی اور ایک کی چادر۔ یہ جواب سن کر سائل روئے لگا اور کہا جزاک اللہ۔ اب آپ خطبہ پڑھیں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔

خلافت کی حقیقت

یہ ان حضرات کی حکومت تھی کہ رعایا کا ہر شخص ان پر روک ٹوک کرنے کو موجود تھا۔ تو اس صورت میں خلافت کوئی راحت کی چیز تھی جس کی تمنا کی جائے۔ ہرگز نہیں واللہ! اس سے زیادہ مصیبت کی چیز کوئی نہ تھی۔ تو کیا حضرت علی اس کے نہ ملنے سے رنجیدہ ہو سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ دوسرے اگر مان بھی لیا جائے کہ خلافت بڑی راحت کی چیز تھی تو اسکی تمنا وہ کرے جسکے دل میں دنیا کی ہوس اور وقعت ہو تو کیا تعود باللہ ان لوگوں نے حضرت علی کو دنیادار اور طالب دنیا سمجھ رکھا ہے جو وہ اس کے نہ ملنے سے رنجیدہ ہوئے ہوں گے اگر وہ ایسا سمجھیں تو ان کو یہ خیال مبارک ہو۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ حضرت علی کی نظر میں دنیا کی کچھ بھی وقعت یا ہوس نہ تھی کیونکہ ان کو تعلق مع اللہ کی سلطنت حاصل تھی جس کی یہ خاصیت ہے کہ۔

آل کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
جس شخص نے آپ کو پہچان لیا (یعنی وہ عارف باللہ ہو گیا) وہ جان مال و اسباب اور بیال بچوں کی پرواہ کیا کرے گا۔

پھر ان کو خلافت دیر میں ملی تو کیا اور نہ ملتی تو کیا۔ ان کو کبھی بھی اس کا رنج نہ ہو سکتا تھا بلکہ وہ تو اس سے خوش ہوتے۔ پھر جس بات سے ان کو خوشی ہوا آپ اس میں رنج کرنے والے کون ہیں؟ یہ تو وہی مثل ہوئی مدعی ست گواہ چست۔

اس دنیا کی بے قسمی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال و بنوں زینت حیوت دنیا ہیں اور ان کو زینت کہنے میں ایک نکتہ اور سمجھ میں آیا وہ یہ کہ زینت و آرائش اعراض میں سے ہے تو اس میں یہ بتلایا ہے کہ دنیا کے جواہر بھی اعراض ہی ہیں گو بظاہر جواہر نظر آتے ہیں مگر قافی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے وجود میں غیر مستقل مثل اعراض کے ہیں اس کے مقابلہ میں آخرت کے اعراض بھی جواہر ہیں کیونکہ وہ باقیات صالحات ہیں یہ نکات تو اس وقت ذہن میں ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اور بھی نکات نکل آئیں گے ان کی تو انتہاء ہی نہیں۔

باقیات الصالحات

مجھے اس وقت زیادہ تر آیت کے اسی جزو کا بیان مقصود ہے۔ وَالْبِقِيَّةُ الصَّلِحُّ

خیرِ عند ریک ثواباً و خیرِ املا باقی رہنے والے اچھے اعمال آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔

کیونکہ یہ بیان مدرسہ کے جلسہ میں ہو رہا ہے اور مدرسہ باقیات صالحات سے ہے سونئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیزوں سے (مراد اچھے اعمال ہیں) ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے تمہارے پروردگار کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں یہاں حق تعالیٰ نے لفظ اعمال کو مقدمہ فرمادیا ہے کیونکہ مقصود بقاء کا مدار خیریت بتلانا ہے گو تحقیق اس کا مادہ اعمال ہی میں ہو۔ پس اگر اعمال کا ذکر ہوتا تو باقیات کا مفہوم اس کی صفت واقع ہو کرتا ہے ہو جاتا تو مقصود نہ کور میں صرف تحقیق ہوتا۔

یہاں چند نکات طالب علمانہ ذہن میں اور ہیں ان کو مختصر آذ کر کرتا ہوں ایک یہ کہ یہاں حق تعالیٰ نے اعمال شر کو ذکر نہیں فرمایا حالانکہ وہ بھی باقیات سے ہیں کیونکہ جس طرح اعمال صالحہ کی جزا جنت ہے اور وہ باقی ہے ایسے ہی اعمال شر کی سزا جہنم ہے اور وہ بھی باقی ہے تو جب یہاں اعمال کی بقاء کا ثابت کرنا مقصود ہے تو ان کو بھی بیان کرنا چاہئے تھا۔

جواب یہ ہے کہ ان کو بقاء علی الاطلاق نہیں کیونکہ بعض اعمال شر کی جزا غیر باقی ہے اور بعض کی گو باقی ہے جیسے کفر و شرک کی مگر چونکہ اس جزا الوں کی یہ حالت ہے کہ لا یَمُوْث فِیْهَا وَلَا یَحْيِیْ کہ نہ ان کو وہاں موت ہے نہ زندگی ہے تو ایسی حیات جس کے متعلق لایحیٰ بھی ارشاد ہے اس قابل نہیں کہ اس کو باقیات کے ساتھ موصوف کیا جاوے اور ان کے لئے بقاء ثابت کیا جائے کیونکہ وہ بقاء مثل عدم بقاء کے ہے۔

دوسرے باقیات صالحات جو ہیں ان کی بقاء مخصوص لغوی نہیں بلکہ بناء بر ایصال الی الباقي کے ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق خیر ہی کو ہے شر کو نہیں بلکہ وہ تو اس سے تعلق کو قطع کرنے والی ہے اس لئے اعمال صالحہ باقیات کے ساتھ موصوف کرنے کے قابل ہیں پس صالحات کی قید مخصوص توضیح کے لئے ہے ورنہ صرف لفظ باقیات ہی اعمال صالحہ پر دلالت کے لئے کافی ہے اور یہ جو میں نے کہا کہ اعمال صالحہ کی بقاء بوجہ تعلق بحق کے ہے یہ ایک تفسیر کی بناء پر نص سے بھی موئند ہے۔ ٹکڑی شئی ہالیک الاؤ وجہہ (ہر شئی سوائے اس کی ذات کے ہلاک ہونے والی ہے) کی تفسیر ایک توازن سے کی گئی ہے اور ایک تفسیر ماکان لا جلد سے بھی کی گئی ہے اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اعمال صالحہ کیا فنا عالم کے وقت بھی باقی رہیں گے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ محققین کے نزدیک کچھ دیر کو فقا ہو جائیں گے مگر چونکہ وہ ساعت

قلیلہ ہے اس لئے عرفادہ گویا باقی ہی ہیں کیونکہ عرفانقطع تقیل کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں شخص صحیح سے شام تک چلتا رہتا تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے راستہ میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا ہو تو کوئی اس پر یہ اعتراض نہیں کرتا کہ وہ صاحب وہ تو پانچ منٹ بیٹھا بھی تھا۔ اور مثال لجھے شعلہ جوالہ سے حرکت کے وقت ایک پورا دائرہ روشن نظر آتا ہے۔ حالانکہ زیادہ حصہ اس کا تاریک ہے مگر عرفہ اس تاریکی کا اعتبار نہیں کیا جاتا بعدم الاحساس اور اگر اس کو خط مستدیر پر نہ گھما یا جائے بلکہ نہیں سے یہاں کو اور پھر رجعت قہقہی سے حرکت دی جائے تو رجعت کے وقت تو یہاں سے نہیں کو ضرور ہی تاریکی ہو گی لتعلی السکون بین الحر کہیں یعنی دو حرکتوں کے درمیان سکون کا ہوتا ضروری ہے لیکن عرفہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ روشنی مسٹر معلوم ہے کیونکہ سکون محض آنی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ پس ایسے یہاں سمجھئے کہ ساعت قلیلہ میں فنا ہو جانا اعمال صالحہ کے بقاء کو عرفہ مضر نہیں کیونکہ زیادہ حصہ تو بقاء ہی کا ہے اور گو غیر خیر میں بھی ایسا ہی بقاء ہے مگر اپنے دونوں میں فرق بیان ہو چکا ہے۔

اب ایک شبہ اور رہا وہ یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہاں اعمال کو باقی فرمایا ہے حالانکہ وہ تو اعراض ہیں وہ کیسے باقی رہ سکتے ہیں۔

لَمْ يَرَ عَرْضًا لَا بَقَاءً لِهِ بِالذَّاتِ بَلْ تَبَعًا لِلْمَعْرُوضِ وَالْمَعْرُوضِ

لَيْسَ بِبَاقِ نَصَائِهِ بِالْمَوْتِ

اس لئے کہ عرض کو بالذات بقاء نہیں بلکہ معروض کے تابع ہو کر بقاء ہے اور معروض مثلاً موت کے فانی ہونے کی وجہ سے باقی رہنے والا نہیں۔

مثلاً پھر بقاء تبعاً للمعروض بھی اعراض لازمہ کو ہے نہ کہ غیر لازمہ کو اور اعمال صالحہ ظاہر ہے کہ اعراض لازمہ نہیں بلکہ غیر لازمہ ہیں ان کا بقاء تو تبعاً للمعروض بھی نہیں رہ سکتا۔ مثلاً نماز پڑھ کر جہاں فارغ ہوئے بس عمل ختم ہوا۔ اب اس کا بقاء نہ اصلاح ہے نہ تبعاً۔

اس جگہ سب معقول تھک گئے مگر علامہ جلال الدین دواعی نے ”رسالہ زوراء“ میں لکھا ہے کہ آخرت میں یہ اعراض جواہر ہوں گے یعنی جو عمل ہم کرتے ہیں وہ یہاں تو عرض ہے مگر عالم آخرت میں (جو کہ مکان اس وقت بھی موجود ہے) جواہر ہوں گے فقط اور اس کے لئے یہ صورت جو ہر یہ صدور ہی کے وقت سے حاصل ہو جاتی ہے اور وہ صورت جو ہر یہ باقی رہے گی اب کوئی اشکال نہیں۔ عارفین تو کشفی

طور پر اس کے قابل ہیں، مگر ایک معقولی عقلی طور پر بھی اس کا قابل ہے اور عقل اس کو جائز و ممکن سمجھتا ہے تقریب الیاف ہم کے لئے میں طلباء کے واسطے ایک معقولی مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں۔

وہ یہ کہ حصول اشیاء با نفسہا فی الذہن بہت حکماء کے نزدیک حق ہے اور ظاہر ہے کہ حصول با نفسہا سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ بعینہ یہی ہے شے جو خارج میں ہے ذہن میں حاصل ہوتی ہے اگر بعینہ حصول ہو تو تصور جبال سے ذہن کا انشقاق اور تصور نار سے احراق لازم ہو گا وغیرہ وغیرہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حقیقت شے کی ذہن میں حاصل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ حقیقت جو ہر کی جو ہر ہے حالانکہ صورہ حاصلہ فی الذہن عرض ہے تو جو نسبت ذہن کو خارج سے ہے ہم کہتے ہیں کہ وہی نسبت دنیا کو آخرت سے ہے جس طرح اعراض ذہنیہ خارج میں جواہر ہیں اسی طرح اعراض دنیویہ آخرت میں جواہر ہوں تو اشکال کیا ہے۔

ایک نکتہ اس جگہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے الباقيات الصالحة نہیں بلکہ الباقيات الصالحة فرمایا ہے اس عنوان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اعمال میں ہر عمل میں مستقل صلاحیت ہے اس لئے صالح کا مصدق بھی متعدد ہو کر صالحات صادقة آؤے گائیں کہ مجموعہ میں صلاحیت ہوتا کہ ان کو مجموعہ بنا کر صالحۃ صفت مفردہ سے تعبیر کیا جائے یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو بعض اعمال صالح کو حقیر سمجھتے ہیں۔

عمل کی وقت

یہ سخت غلطی ہے بلکہ ہر عمل قابل وقت ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک بد کار عورت نے ایک کتے کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا تھا اس کی اسی عمل پر مغفرت ہو گئی تو اب بتائیے کیونکہ کسی عمل کو حقیر سمجھا جائے نہ معلوم ان کو کون سی بات پسند آ جائے۔

تایار کرا خواہد میلش بکہ باشد

محبوب کسی کو چاہتا ہے اور اس کا میلان کس کی طرف ہوتا ہے۔

یہاں سے سالکین کو سبق لیتا چاہئے کیونکہ اب نظاہر تو اپنے اعمال کو حقیر نہیں سمجھتے بلکہ وہ تو اپنے عمل کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اس کے گھٹانے کی ضرورت پڑتی ہے مگر اہل سلوک چونکہ مت چکتے ہیں اس لئے وہ اپنے کو بھی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی بیچ اور لاشے سمجھتے ہیں مگر اس میں بعض اوقات تواضع کے ساتھ ناشکری ہو جاتی ہے پس دونوں کے جمع کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس حیثیت سے تو کچھ نہ سمجھو کر تم نے کیا ہے مگر اس حیثیت سے کہ حق تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی بڑی

قد رکنا چاہئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یوں سمجھو کر ہم تو نالائق ہیں کسی قابل نہیں مگر حق تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ انہوں نے اپنے کرم سے یہ دلتیں ہم کو عطا فرمادی ہیں۔ اس صورت میں تواضع بھی ہے اور شکر بھی۔ پس اپنے اعمال کو مطلقاً ایسا حقیر نہ سمجھا جائے کہ نعمت حق کی ناشکری ہونے لگے۔

اللہ آباد میں ایک ولائی بزرگ محمد شاہ صاحب تھے۔ حافظ عبدالرحمن صاحب باہروی بیان کرتے تھے کہ میں ایک شخص کے ہمراہ ان کی زیارت کو گیا تو انہوں نے ساتھی سے پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حافظ بھی ہیں حاجی بھی ہیں۔ انہوں نے تواضع اکھد دیا کہ جی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں۔ بس محمد شاہ ان کے سر ہو گئے اور کہا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ تم سے حفظ کی دولت چھین لیں اور تمہارا ج بال کر دیں۔ یہ بڑے چپ ہوئے پھر جب جاتے تو شاہ صاحب کہتے آؤ ناشکر آؤ ناشکر۔

صاحب۔ اگر یہی تواضع ہے تو نہ معلوم اپنے کو کیا بناوے گے کیونکہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کمال ہے۔ اگر اپنے کو مسلمان کہو گے اس میں بھی کمال ہے آدمی کہو گے اس میں بھی کمال ہے بھنگی چمار کہو گے اس میں بھی کمال ہے کیونکہ آخر تواریخی آدمی ہیں جانوروں سے تواچھے ہیں دوسرے بھنگی اور چماروں کے پاس ایسا کمال ہے کہ اگر وہ آج اپنا کام چھوڑ دیں تو سارا عالم پریشان ہو جائے اور بڑے بڑے امراء ان کی خوشامد کرنے لگیں۔

یہ عالم تھا نہ بھوں میں اپنے ایک شاعر شاگرد کو چھیڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہر پیشہ والوں کی دنیا میں ایسی ضرورت ہے کہ اگر وہ نہ رہیں تو لوگ پریشان ہو جائیں حتیٰ کہ بھنگی بھی بجز شاعروں کے یہ کام کے نہیں۔ اگر سب کے سب بھی مر جائیں کسی کا بھی کچھ ہرج نہ ہو۔

غرض گھٹیا سے گھٹیا پیشہ کی طرف نسبت کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ کمال ضرور ہوگا اور کچھ نہ سہی آدمی ہونے کا ہی کمال ظاہر ہوگا۔ ہاں ایک صورت تو تواضع کی ہے کہ اپنے کو آدمی نہ کہو۔ جانور کہنے لگو جیسے آج کل بعض لوگ آدمی سے جانور بنتے ہیں کسی کا لقب طوٹی ہندے ہے کسی کا بلبل ہندے ہے اور مزایہ کے اس کو فخر سمجھتے ہیں بھلا اس میں بھی کچھ فخر ہے کہ آدمی سے طوٹی اور بلبل بن گئے کیا یہ جانور آدمی سے افضل ہیں خدا کا ناشکر کرو کہ اس نے تمہیں آدمی بنایا مسلمان بنایا۔ نمازی بنایا ذکر کی توفیق دی ان نعمتوں کی قدر کرو اور ایسی تواضع نہ کرو جس سے ان کی ناشکری ہونے لگے۔

عجیب بات ہے کہ آج کل سالکیں اعمال کی بے قدری کرتے ہیں ہاں احوال کی قدر کرتے ہیں چوبیس ہزار دفعہ ذکر اللہ کر کے جی خوش نہیں ہوتا ہاں ذرا کچھ کشف ہو جائے یا

گریہ طاری ہو جائے تو بس جامہ سے باہر ہیں یہ کیسی نادانی کی بات ہے یاد رکھو اصل چیز اعمال
ہی ہیں۔ یہی کام آنے والے ہیں احوال کا کیا ہے ہوئے یا نہ ہوئے۔ ہاں اگر اعمال کے ساتھ
احوال بھی نصیب ہو جائیں تو نور علی نور ہے، ورنہ صرف احوال کا اعتبار نہیں۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب سے جب کوئی شکایت کرتا کہ حضرت ذکر سے نفع نہیں
ہوتا تو فرماتے یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ تم ذکر کر رہے ہو۔ پھر یہ شعر پڑھتے۔

یا بم اورا یا نیا بم جستجوئے می کنم حاصل آید یا نیا ید آرزوئے می کنم
میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں جستجو کرتا ہوں ملے یا نہ ملے آرزو کرتا ہوں۔

دنیا کی حقیقت

غرض باقیات کے ساتھ صالحات کے جمع لانے میں ہر عمل کی وقت کا انہصار ہے اور
جب اعمال آخرت باقی رہنے والے ہیں اور اس کے مقابلہ میں مال و بنون کو زینت فرمایا گیا
ہے تو اس لفظ سے اس پر تنبیہ ہے کہ دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور جب دنیا کے اموال و
اولاد فانی ہیں تو اگر وہ آپ سے پہلے اور آپ کے سامنے ہی فنا ہو جائیں تو غم نہ کرو کیونکہ وہ تو فنا
ہونے والے تھے ہی۔ پس ایسی فانی چیزوں کے متعلق تمہارا یہ حساب لگانا کہ یہ لڑکا اتنی عمر کا ہو
گا تو اتنی تخلوہ کمائے گا پھر اس کی شادی ہو گی پھر اس کے بال پچھے ہوں گے۔ یہ سارا حساب
ایسا ہے جیسا دریا کے متعلق ایک بننے نے حساب کیا تھا۔

جس کا قصہ یہ ہے کہ ایک لالہ جی گاڑی کرایہ پر کر کے اپنے کنبہ کو لے کر چلے۔ راستے
میں دریا آیا جو خوب چڑھا ہوا تھا۔ گاڑی بان نے کہا معلوم نہیں کتنا پانی ہے۔ ڈوبنے کا خطرہ
ہے۔ بنئے نے ایک بانس لے کر ناپاکہ پانی کنارہ پر کتنا ہے اور بیچ میں کتنا اور دوسرا کنارہ کو
پہلے پر قیاس کر لیا۔ سلیٹ پر حساب نکلا اور بیچ کی گہرائی کو دونوں کناروں پر تقسیم کر کے او سط
نکالا۔ کمر تک ہے اور گاڑی بان سے کہا کہ تم بے فکر ہو کر گاڑی ڈال دو، ہم نے او سط نکال لیا ہے
کمر تک ہے چنانچہ گاڑی ڈلوادی۔ جب بیچ میں پہنچ تو لگے ڈوبنے۔ اب لالہ جی نے اپنے
حساب کو پھر دیکھا تو او سط پھر وہی نکلا۔ تو آپ کہتے ہیں لکھا جوں کا توں پھر کنبہ ڈوبای کیوں؟

تو جیسے اس احمق نے حساب لگایا تھا کہ جیسے سلیٹ پر پانی کا او سط نکل آیا ہے ایسے ہی دریا میں
بھی او سط برابر ہو گیا ایسا ہی اولاد کے متعلق یہ تمہارا حساب ہے جس کو تم اپنے ذہن میں لگا کریوں

سمجھتے ہو کہ نہ ایسا ہی ہو گا حالانکہ وہاں ہوتا وہ ہے جو پہلے سے مقدر ہے تمہارے حساب سے کیا ہوتا ہے اسی طرح اگر مال اور روپے ہلاک ہو جائیں تو غم نہ کرو یوں سمجھ لو کہ یہ تو ہلاک ہونے والے ہی ہیں۔ بعضے مال کے ہلاک ہونے سے غم کرنے کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ہم کو ثواب ملتا۔ میں کہتا ہوں اول تو یہ خیال ہی خیال ہے۔ ہلاک ہونے کے بعد ہی یہ خیال آتا ہے اگر روپے گھر میں رہتے تو بھی یہ خیال نہ آتا۔ اور اگر کسی کو واقعی یہ خیال ہو تو میں کہتا ہوں وہ شخص مطمئن رہے اس کو ثواب مل گیا کیونکہ ثواب کا مدار نیت پر ہے۔ جب تم نے یہ نیت کر لی تھی کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ثواب اسی وقت مل گیا اب چاہے خرچ کی نوبت آئے یا نہ آئے تمہارا ثواب ضائع نہ ہو گا پس اس وجہ سے بھی قلق نہ ہونا چاہئے۔

البته اعمال صالحہ اگر فوت ہوں اس کا قلق ہونا چاہئے مگر اس میں بھی ایک تفصیل ہے وہ یہ کہ اعمال صالحہ کے فوت ہونے کا عوام تو جس قدر چاہیں قلق کریں ان کو تو مفید ہے اور سالکین زیادہ اس کا بھی قلق نہ کریں بلکہ تھوڑی دیر تک رنج کر لیں پھر جی بھر کے توبہ کر لیں اور اپنے کام میں لگیں اور ماضی کی فکر میں نہ پڑیں کہ ہائے یہ کام کیوں فوت ہوا۔ ہائے یہ خطا کیوں ہوئی۔ ہر وقت اسی کا شغل رکھنا سالک کو مضر ہے کیونکہ یہ فکر ترقی تعلق مع اللہ میں حجاب ہو جاتا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ تعلق مع اللہ بڑھتا ہے نشاط قلب سے اور یہ قلق نشاط کو کم کر دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر تک تو قلق کرنا چاہئے اور خوب رونا و ہونا چاہئے تاکہ نفس کو کوتا ہی کی سزا تو ملے۔ پھر توبہ کر کے اور اچھی طرح استغفار کر کے اس سے التفات کو قطع کرے اور کام میں لگے۔

آج کل زیادہ قلق کرنے میں ایک اور بھی نقصان ہے وہ یہ کہ قلوب اس وقت بے حد ضعیف ہیں زیادہ قلق سے ان کا ضعف بڑھ جاتا ہے جس سے بعض اوقات تعطل کی توبت آجائی ہے جو کھلا ضرر ہے۔ بہر حال جب بعض منافع باقیہ کا فوت بھی زیادہ محل قلق نہیں تو منافع فائی یعنی منافع دنیوی تو بالکل ہی محل قلق نہ ہوں گے تو ان پر تحریر بالکل ہی بے معنی ہے خصوصاً جب کہ یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان کی جو چیز بھی ضائع ہوتی ہے سب حق تعالیٰ کے یہاں جمع ہو جاتی ہے جس کا اسے ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ ایک کاشا بھی لگتا ہے تو اس سے بھی ثواب ملتا ہے اس جگہ اسی اصل پر ایک آیت کی تفسیر سمجھ لو بڑے کام کی بات ہے وہ یہ کہ ایک جگہ حق تعالیٰ نے دنیا کی مثال میں فرمایا ہے۔

مَثُلُّ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الْأُنْدُلُّ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرْ أَصَابَتْ حَرْثٍ

قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ طَوْمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلِكُنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

حاصل ارشاد یہ ہے کہ کفار جوہ الدنیا میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی اسی مثال ہے جیسے کسی کافر قوم کی کھیتی پر پالہ پڑ جائے اور اس کوتاہ کروئے تو جیسے وہ کھیتی ہری بھری ہونے کے بعد بالکل ضائع ہو جاتی ہے یوں ہی کفار کا خرچ کیا ہوا مال بوجہ عدم ایمان کے ضائع محض ہوتا ہے یہ تو آیت کا حاصل تھا مگر سوال یہ ہے کہ اس مثال میں حَرْث قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کیوں فرمایا؟ حالانکہ پالہ تو کافر کی کھیتی کو بھی بتاہ کرتا ہے اور مسلمان کی کھیتی کو بھی۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان کی کھیتی کا پالہ سے کامل طور پر نقصان نہیں ہوتا گوہیتی بر باد ہو جائے مگر اس مصیبت سے اجر صبر بڑھ جائے گا اور آخرت میں جو ثواب اس کے بدله میں ملے گا وہ اس کھیتی سے لاکھ درجہ افضل ہو گا کیونکہ اجر آخرت کی شان یہ ہے۔

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد آنچہ در و ہمت نیا یہ آں دہد
خود کہ یابد ایں چنیں بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را
فانی جان لیتے ہیں باقی جان عطا کرتے ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا
وہ عطا کریں گے ایسا بازار کہاں پاؤ گے کہ ایک گل کے بد لے میں یہ تمام چمن خریدلو۔

پس ضیاع اعمال کافر کے لئے کافر ہی کی کھیتی مثال ہو سکتی ہے کہ پالہ سے فناۓ کامل اسی کو ہوتا ہے کیونکہ اس کا بدل بھی نہیں ملتا۔ مسلمان کو کامل اور حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لئے ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کی قید بڑھا دی۔ واللہ! یہ بڑے مزے کی قید ہے اور مسلمانوں کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے کسی نقصان سے بھی ان کا حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ حقیقی نقصان صرف کافر کو ہوتا ہے مسلمان کے لئے ہر وقت خوشی اور مسرت ہی ہے راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ غیر قومیں بھی تو کہا کرتی ہیں کہ مسلمان بڑھے تو امیر گھٹے تو فقیر، جن کی امیروں سے بھی زیادہ قدر ہے اور مر گئے تو پیر۔ اور دوسری قومیں بڑھیں تو سپوت اور گھٹھیں تو کپوت اور مریں تو بھوت کہ زندوں کو لپٹتے پھرتے ہیں۔ مسلمان کی مراد حاصل ہو جائے تب تو خوشی ہی ہے اگر نامراد بھی رہے تب بھی خوشی ہے کیونکہ مولا نا فرماتے ہیں۔

گر مرادت را مذاق شکرست بے مرادی نے مراد دلبرست
اگر چہ تمہاری مراد میں مزا شکر کا ہے کیا بے مرادی محبوب کی مراد نہیں ہے۔

اگر مراد میں مزا ہے تو بے مرادی میں ثواب ہے کیونکہ وہ حضرت حق کی مراد کے موافق ہے عشق
کیلئے تو یہی بات خوش ہونے کو کافی ہے گلوب بھی نہ ملتا مگر اب تو ثواب بھی ہے عشق کو تو اسی سے خوشی
ہوتی ہے کہ محبوب کی رضا اسی میں ہے لس یہ سوچ کر بڑی سے بڑی مصیبت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ مسلمانوں کے لئے کیا مصیبت ہو گی مگر حضور
کے وصال پر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے صحابہ کو اس طرح تسلی فرمائی تھی۔

ان فی الله جزاء من کل مصيبة و خلفا من کل فائت فبالله

فتقو اوایاہ فارجوا فانما المحروم من حرم الشواب

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر مصیبت سے تسلی ہے اور ہر فوت ہونے والے کا عوض ہے لس اللہ پر
بھروسہ رکھو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ پورا محروم تو وہی ہے جو ثواب سے بھی محروم رہے اور مسلمان کسی
 المصیبت میں ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
بھی بدل ہے تو اور کیا رہ گیا اب کوئی مصیبت اسی نہیں جس سے خدا کے ہوتے ہوئے مسلمان پریشان
ہو۔ ہاں دین میں کی ہو تو قلق ہونا چاہئے کیونکہ اس کا عوض کچھ نہیں مگر اس میں بھی اعتدال ہونا چاہئے
جیسا کہ اپر بتایا گیا کیونکہ نقصان دین کی تلافی بھی توبہ اور استغفار اور گریوز اسی سے ہو سکتی ہے۔

رجاء کی اہمیت

اب میں آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں اور چند باتیں اس کے متعلق بیان کر کے ختم کرنا
چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَالْبِقِيَّةُ الصِّلَاةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمْلا

کہ باقیات صالحات خدا کے پاس ثواب اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں یعنی اعمال
صالح سے ثواب کے ساتھ بندہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ امید بھی قائم ہو جاتی ہے کہ انشاء اللہ وہ ہم
سے راضی ہیں اور یہ امید بڑی چیز ہے اس کی قدر عشق سے پوچھنا چاہئے عشق تو اسی امید
کے بھروسہ جیتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

اگرچہ دور افتادم بدین امید خرسدم کہ شاید دست من بار دگر جاتاں من گیرد
اگرچہ میں دور پڑا ہوں اس امید میں خوش ہوں کہ کبھی میرا ہاتھ دوبارہ میرا محبوب پکڑے گا۔
اور یہ امید ہوتا کی کاتا نہیں ہے بلکہ یہ وہ رجاء ہے جس سے روح تازہ اور زندہ ہوتی ہے جیسے

ایک عاشق کا قصہ ہے کہ نزع کے وقت اسے محبوب کے آنے کی خبر ملی تو وہ فرط شوق میں انہیں بیٹھا پھر معلوم ہوا کہ وہ دروازہ تک آ کر لوٹ گیا۔ یہ سنتے ہی گر پڑا۔ تو یہ رجاء وہ چیز ہے جس سے مرتبے مرتے کو بھی ایک دفعہ حیات جدیدہ حاصل ہو جاتی ہے مگر اس عاشق کا محبوب تو مجازی تھا ظالم تھا اس لئے اس کی رجاء اذہوری رہی اور جن کو حق تعالیٰ سے رجاء ہو جو لمبی زیل والا یہاں ہیں اور حیم و کریم و عاشق نواز ہیں ان کا کیا پوچھنا۔ واللہ! ان کے لئے تو اس رجاء کی بدولت ہر دم تازہ حیات ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں نفع نقد بھی ہے صرف ادھار ہی ہیں۔ ہاں اپک چیز ادھار بھی ہے یعنی ثواب اور اس کے ساتھ ایک چیز نقد ہے وہ یہی رجاء اور امید ہے جو بدون اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتی اگر کسی مجرم کو امیدوار دیکھا جائے تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ امیدوار نہیں ہے بلکہ ہوس ناک اور بتلاعے غلطی ہے اور اگر صحیح امیدوار ہی ہو تو یقیناً اس کے پاس کوئی عمل صالح ہے جس کی بناء پر اس کو یہ رجاء حاصل ہے چاہے اور کچھ نہ ہو ایمان اور اسلام ہی ہو کیونکہ ایمان افضل الاعمال صالحہ ہے باقی کسی کافر کو ہرگز خدا سے صحیح امید نہیں ہو سکتی۔ اس کو تو محض ہوس اور غرور ہی ہو گا۔ غرض اعمال صالحہ کا یہ شمرہ نقد ہے۔

اعمال کا شمرہ

اور اسی طرح اعمال سینہ کا بھی ایک شمرہ ادھار ہے اور ایک نقد ادھار تو عذاب جہنم ہے اور نقد وہ وحشت اور ظلمت اور بے چینی ہے جو گناہوں کے لئے لازم ہے اسی واسطے بعض لوگوں نے تو کہہ دیا کہ جنت اور دوزخ ہر شخص کو اسی وقت محیط ہیں جس کے پاس اعمال صالحہ ہیں اس کو اسی وقت جنت محیط ہے کیونکہ رجاء کی وجہ سے اس کو بہت بڑی راحت حاصل ہے اور جس کے پاس اعمال سینہ ہیں اس کو اسی وقت دوزخ محیط ہے کیونکہ گناہوں کی وحشت اور ظلمت سے دنیا میں بے چینی اور عذاب ہے۔

میں نے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے خود سنائے ہے فرمایا کہ بھائی جنت کا مزہ برحق حوض کوثر کا مزا برحق مگر نماز میں جو مزا ہے وہ کسی چیز میں نہیں اور سجدہ میں جاتے ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیار کر لیا۔ سبحان اللہ! جس شخص کو اعمال کی یہ لذت نصیب ہواں کے لئے دنیا ہی میں جنت کیوں نہ ہوگی۔

یہاں سے ان لوگوں کا جواب بھی ہو گیا جو کہا کرتے ہیں کہ آخرت دنیا سے افضل تو ہے مگر وہ ادھار ہے اور یہ نقد ہے اور طبعاً انسان نقد کا عاشق ہے اس لئے افطر ارأ دنیا کو ترجیح دیتا

ہے۔ میں کہتا ہوں اول تو یہی غلط ہے کہ نقد کو ہر حال میں ترجیح دی جاتی ہے۔ بھلا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس وقت مکان لینا چاہو تو یہ کچا گھر ملے گا اور اگر سال بھر کے بعد لوتوڑا عالیشان پختہ محل ملے گا بتلائیے اس وقت آپ کس کو ترجیح دیں گے۔
یقیناً سال بھر کے انتظار کو گوارا کریں گے۔

دوسرے یہ بھی غلط ہے کہ آخرت ادھار ہے واللہ! اعمال آخرت کا شمرہ نقد بھی ملتا ہے اور جن کو اس شمرہ کا پتہ چل گیا ہے وہ فت اقیم کی سلطنت پر بھی نگاہ نہیں اٹھاتے وہ شمرہ یہی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ان سے امید کاوابستہ ہو جانا۔ اسی لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سلاطین دنیا کو اس دولت کی خبر ہو جائے جو ہمارے پاس ہے تو وہ تکواریں لے کر ہمارے اوپر چڑھا آئیں اور اس دولت کو چھیننے کا رادہ کریں حق تعالیٰ نے ایک مقام پر اعمال صالح کے دو شمرے بیان فرمائے ہیں۔

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پوری فلاج پانے والے ہیں یعنی اعمال صالح کا ایک شمرہ اخزوی فلاج تو ہے، یہ دوسرا شمرہ عاجله ہدایت بھی ہے یہاں ظاہر میں شبہ ہوتا ہے کہ ہدایت کا شمرہ ہونا کیا مزا تو وہ ہے جس میں حظ ہوا اور ہدایت تو خود عملی حالت ہے اس میں کیا حظ ہوتا۔ مگر ایک حکایت سے آپ کو اس کا شمرہ ہونا معلوم ہو جائے گا اور وہ قصہ خود مجھے پیش آیا۔
میں ایک دفعہ سہار پور سے کانپور جا رہا تھا تو سہار پور سے لکھنوجانے والی ریل میں سوار ہوا۔ اسی گاڑی میں میرے ایک دوست اور ہم وطن مگر جنتلمنیں بھی پہلے سے سوار تھے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی لکھنوجار ہے ہوں گے کیونکہ ایک زمانہ میں ان کے تعلقات لکھنؤ میں بہت رہ چکے ہیں سردی کا موسم تھا اور وہ حضرت بیک بنی دو گوش تھے نہ ساتھ میں کمل نہ رضائی کیونکہ آج کل جنتلمنیوں کے سفر کا اصول یہی ہے کہ سفر میں اسباب ساتھ نہیں لیتے۔ جب ریل چھوٹ گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لکھنوجا میں گے؟ کہنے لگے میں میرٹھ جا رہا ہوں میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ میرٹھ جا رہے ہوں لیکن میں افسوس کرتا ہوں یہ گاڑی لکھنوجار ہی ہے میں نے انہیں کے محاورہ میں گفتگو کی۔ اب تو بڑے چونکے کہنے لگے کیا یہ گاڑی لکھنوجار ہی ہے؟ میں نے کہا ہاں! پھر تو ان کی یہ حالت تھی کہ بار بار لا حول پڑھتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے جاتے ہیں میں نے کہا، میاں! اب تو رُز کی سے اس طرف یہ گاڑی نہ ہر تی نہیں پریشان ہونے سے کیا حاصل، اطمینان سے بیٹھو اور با تین کرو تو وہ جھلا کر کہتے ہیں کہ تم کوباتوں کی سوچی ہے اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔

اس وقت میں نے اپنی اور ان کی حالت میں غور کیا کہ حالانکہ میں ابھی تک منزل پر نہیں پہنچا اور یہ ابھی اپنے مقصود سے بہت دور نہیں ہوئے بلکہ لوٹی گاڑی میں یہ اپنی منزل مقصود پر مجھ سے پہلے پہنچ جائیں گے مگر پھر مجھی میں مطمین ہوں اور یہ غیر مطمین تو آخر میرے اطمینان اور اس کی بے اطمینانی کا سبب کیا ہے تو یہی معلوم ہوا کہ میرے اطمینان کا سبب یہ تھا کہ میں راہ پر تھا اور ان کی بے اطمینانی کا سبب یہ تھا کہ وہ راہ سے ہٹے ہوئے تھے اس وقت ریل جس قدر مسافت طے کرتی تھی مجھے مسرت و راحت بڑھتی تھی اور ان کو ہر ہر قدم خار تھا۔

تو اس واقعہ سے آیت کی تفسیر واضح ہوئی کہ اُولِّنَكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ مجھی ایک بڑا شمرہ ہے اور ہدایت پر ہونا بڑی نعمت ہے بڑی دولت ہے یہ شمرہ دنیا میں ہر مسلمان کو حاصل ہے کافر کو یہ بات نصیب نہیں۔

صدقہ جاریہ

پھر مزید برآں یہ بات سونے پر سہاگہ ہے کہ اعمال صالحہ باقیات صالحات بھی ہیں کہ آخرت میں ان کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے پھر اس بقاء میں بھی تفصیل ہے کہ بعض اعمال تو مطلقاً باقیات ہیں اور بعض کو ابھی کہنا چاہئے جیسے مدرسہ اور خانقاہ کہ یہ صدقات جاریہ ہیں۔ یعنی بعض اعمال کی تو یہ حالت ہے کہ زندگی کے بعد ان کا ثواب نہیں بڑھتا۔ بس جتنا ثواب زندگی میں کما چکے ہو، ہی باقی رہے گا اب اس میں ترقی نہ ہوگی اور صدقات جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر بڑھتا رہتا ہے تم قبر میں پڑے سور ہے ہو گے اور اس وقت بھی فرشتہ نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہوں گے۔ تو مدرسہ اور خانقاہ کی بناء ایسے ہی اعمال ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے مگر آج کل خانقاہ بنانے والوں کو چاہئے کہ خانقاہ کے نام سے نہ بنائیں بلکہ مدرسہ ہی کے نام سے بنائیں اور اس میں کام کریں خانقاہ کا کیونکہ ایک تو خانقاہ کے نام سے شہرت زیادہ ہوتی ہے دوسرے بعد میں خانقاہ کے اندر بدعاں ہونے لگتی ہیں کوئی عرس کرتا ہے کوئی قوالی کرتا ہے پھر گدی نشیشی کا قصہ ہوتا ہے جس میں بہت جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ خانقاہ کا نام نہ کیا جائے بلکہ مدرسہ بناؤ اور اس میں تہذیب اخلاق اور تعلیم سلوک کا کام کرو کرو ہی حقیقی مدرسہ بھی ہو گا اور ہی خانقاہ بھی ہو گی پس حقیقی مدرسہ وہ ہے جس میں علم کے ساتھ عمل کی بھی تعلیم اور نگہداشت ہو۔ پس اے مدرسہ والو! تم اپنے مدرسون

کی سنگال کرو اور ان کو حقیقی مدرسہ بناؤ۔ یعنی طلباء کے اعمال کی بھی نگہداشت کرو ورنہ یاد رکھو۔

کلکم راع و کلکم مسئول عن دعیتہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔

کے قاعدہ پر آپ سے اس کے متعلق سوال ہو گا کیونکہ آپ طلباء کے نگہبان ہیں اور وہ آپ کی رعایا ہیں۔ پس یہ جائز ہیں کہ آپ طلباء کو سبق پڑھا کر الگ ہو جائیں بلکہ یہ بھی دیکھتے رہو کہ ان میں سے کون علم پر عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا جس کو عمل کا اہتمام ہوا سے پڑھاو ورنہ مدرسہ سے نکال باہر کرو۔ جب تو آپ کا مدرسہ واقعی دارالعلم ہو گا ورنہ وہ دارعلم بلغت فارسی ہو گا کہ اس میں علم کو سولی دی گئی ہے طلباء کے تمام افعال کی نگہداشت کرو۔ لباس کی بھی دیکھ بھال رکھو جو لوگ کوٹ پتلون بوث وغیرہ پہنچتے ہوں ان کو لباس اہل علم کی ہدایت کرو ورنہ مدرسہ سے الگ کرو چاہے مشابہت تامہ ہو یا مشابہت ناقصہ سب کا انتظام کرو اور ان سے صاف کہہ دو۔

یا مکن با پیلیا ناں دوستی! یا بنا کن خانہ برانداز پیل

یا تو فیل بانوں سے دوستی مت کرو یا پھر اپنا گھر ہاتھی کے انداز پر بنالو۔

کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو طالب علموں کی یہ صورت بناو ورنہ رخصت یہ تو علماء سے خطاب تھا اب عوام کو خطاب کرتا ہوں کہ آپ مدرسہ کی خدمت کریں، مدرسہ کے جس کام میں بھی آپ امداد کریں گے یہ تمام باقیات الصالحات ہوں گے بعض لوگ صرف تعلیم کی امداد کو صدقہ جاریہ کجھتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ مدرسہ کی تعمیر اور طلباء کے کھانے پینے اور کپڑے کی امداد سب صدقات جازیہ ہیں کیونکہ سب سے تعلیم ہی کو امداد پہنچتی ہے پھر جب یہ لوگ پڑھ کر فارغ ہوں گے اور مخلوق کو جا کر تعلیم دیں گے تو ہمیشہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک اس مدرسہ کے طلباء سے علم کا فیض چلے گا برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا تو یہ لکھنی خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ کی امداد تو آپ نے پچاس برس تک یا کسی کی بہت عمر ہوئی تو سو برس تک کی اور نامہ اعمال میں ثواب لکھا گیا ہزار برس تک بلکہ قرب قیامت تک کیونکہ ان شاء اللہ قرب قیامت تک علم کا چرچا دنیا میں رہے گا اور اگر اپنی زندگی میں آپ نے ان کاموں میں امداد نہ کی تو روپیہ تو صرف ہو ہی جائے گا وہ توباتی نہ رہے گا مگر فضول یا تاجائز موقع میں صرف ہو گا یا بعد میں ورثاء پھرے اڑا میں گے اور ان گناہوں کے آثار آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہیں گے۔ جیسے ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ روز بستر پر پیشاب کر لیا کرتا تھا اس کی بیوی نے

لامات کی کہ یہ کیا خرافات ہے کہ تم اتنے بڑے ہو کر بستر پر پیشاب کرتے ہو۔ میں روز بستر کو دھوتی دھوتی تحکم گئی ہوں۔ کہنے لگا کیا بتلاؤں۔ رات کو ہر روز شیطان خواب میں آتا ہے کہ آؤ تمہیں سیر کرالاؤں پھر کہیں راستہ میں پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے تو میں خواب کے اندر قد مچہ پر بینچ کر پیشاب کرتا ہوں وہ بستر پر نکل جاتا ہے یہوی کہنے لگی کہ جب شیطان تمہارا اتنا بڑا دوست ہے تو آج اس سے یہ کہنا کہ تیری دوستی کس کام آئے گی۔ ہم غریب آدمی ہیں کہیں سے ہم کو بہت سے روپے دلوادے۔ مرد نے کہا، بہت اچھا آج ضرور کہوں گا۔ چنانچہ رات ہوئی اور شیطان آیا تو آپ نے یہوی کا پیغام پہنچایا۔ شیطان نے کہا، تمہارے واسطے روپے بہت ایک خزانہ میں اس کو لے گیا اور اس کی کمر پر اتنے روپے لادے کہ میاں کا پاخانہ نکل گیا صبح کو جو آنکھ کھلی تو بستر پر پاخانہ تو موجود اور روپے غائب۔ یہوی نے کہا، یہ کیا؟ آپ نے سارا قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگی، بس جی میں ایسے روپوں سے باز آئی، تم روز پیشاب ہی کر لیا کرو پاخانہ مت کرو۔

تو اسی طرح گناہ کے کاموں میں روپیہ صرف کرنے کا یہ انجام ہوگا کہ روپیہ تو غائب ہو جائے گا اور نامہ اعمال میں اس کے گناہ باقی رہیں گے پھر جہنم کا عذاب الگ رہا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرو اور اپنی کمائی کو اچھے موقع میں صرف کرو اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کی اطاعت میں کوشش کرو۔

اب میں ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مدرسہ کی جو کچھ کارروائی اس وقت ہو گی اس کو دیکھ کر جائیں۔ بیان کے بعد منتشر نہ ہوں اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ توفیق عمل اور فہم سلیم عطا فرمائیں۔ منبر سے اترتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس بیان کا نام ”منظہ بر الاعمال“ رکھ دیا جائے۔

سَبِيلُ النَّجَاح

اگر آپ کو فلاح کی تمنا ہے۔ فلاح دنیا کی تبعاً اور فلاح آخرت کی قصداً۔ تو اس کی یہ صورت ہے کہ دین کو اختیار کرو اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فلاح کو انہی پر مرتب فرمایا ہے۔

حصول فلاح کے متعلق یہ وعظ ۱۶ صفر المظفر ۱۳۳۱ھ کو جامع مسجد قوج میں منبر پر بیٹھ کر بیان فرمایا جواڑھائی گھنٹوں میں ختم ہوا۔ جسے مولانا سعید احمد صاحب نے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهُوَاءِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (آل
عمران آیت نمبر ۲۰۰) اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لئے
مسقعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوتا کہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔

شفقت الہی

یہ آیت سورہ آل عمران کے خاتمہ کی ہے۔ سورہ آل عمران میں حق تعالیٰ نے مختلف آداب
کے احکام بیان فرمائے ہیں جیسا کہ ان کی تفصیل مطالعہ سے معلوم ہو سکتی ہے ان سب احکام کو بیان
فرما کر خاتمہ پر انہی احکام کے متعلق چند ضروری امور بیان فرماتے ہیں جن پر ان کی تکمیل موقوف
ہے اور جس طرح یہ تکملہ ہیں ان احکام کا اسی طرح ان کی تسہیل کرنے والے بھی ہیں اور یہاں سے
آپ کو قرآن کا حسن ختم معلوم ہو گا کہ جس طرح قرآن کے مضمومین بے نظیر ہیں اسی طرح اس کا
اختتام اور افتتاح بھی بے نظیر ہے عموماً خاتمہ سورت پر جو مضمون ذکر کیا جاتا ہے وہ تمام سورت کا
خلاصہ اور اس کے احکام کا تکملہ اور ان کو ہل کرنے والا ہوتا ہے اور اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کو اپنے بندوں پر بہت ہی شفقت ہے کہ جن مضمومین کو تسہیل میں کچھ بھی دخل
ہے ان کو چھوڑنا نہیں بلکہ احکام بیان فرما کر ان کی تسہیل کا طریقہ بھی بیان فرمادیا ہے۔

یہی فرق ہے وحی اور غیر وحی میں کلام غیر وحی میں اتنے دقائق کی رعایت نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تکلم غیر صاحب وحی ہو گا تو اس کی نظر جو کہ مدار ہے کلام کا ضرور قاصر ہو گی اور اس کے کلام میں یہ بڑی کمی ہو گی کہ اس میں دقيق شقوں پر نظر نہیں اور صاحب وحی کی نظر محیط ہوتی ہی اس لئے اگر خود اس کا کلام بھی ہوتا بھی امداد وحی سے اس کی نظر تمام شقوں پر گہری ہوتی ہے اور اگر اس کے کلام میں کوئی شق دشوار ہوتی ہے تو وہ دشواری کو معلوم کر کے اس کی تسهیل بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہے اور اگر وہ یعنی وحی کا تاقل ہے تو یہ وصف اس میں اعلیٰ اور بالا ولی ہو گا غیر صاحب وحی کو اول تو بوجہ قصور نظر کے یہی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے کلام میں کوئی شق دشوار بھی ہے اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو وہ اس کی تسهیل پر قادر نہیں ہوتا اور صاحب وحی کی نظر چونکہ محیط ہوتی ہے اس لئے وہ تمام شقوں کی رعایت کر لیتا ہے اول تو اس کے کلام میں کوئی شق فی نفسه دشوار بھی نہیں ہوتی اور اگر کسی عارض سے مثلاً یہ کہ مخاطب اب تک آزادی کا عادی رہا ہے پابندی سے گھبرا تا ہے کوئی شق ظاہر میں دشوار بھی ہو تو اس کے آسان اور سہل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے اور صاحب وحی کے جیسا کہ اوپر بھی اشارہ ہوا ہے دو معنی ہیں ایک تو وحی کا نازل کرنے والا یعنی خدا تعالیٰ دوسرے وہ جس پر وحی نازل ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو اگر صاحب وحی سے مراد حق تعالیٰ ہیں تو ان کی نظر کا محیط ہونا ظاہر ہے اور اگر صاحب وحی سے مراد دوسرے معنی کے اعتبار سے نبی منزل علیہ ہیں تو ان کی نظر کا محیط ہونا بھی دلیل سے ثابت ہے۔ کیونکہ آپ کو نبوت و رسالت ایک وہی صفت بطور منصب کے عطا ہوئی ہے اور مناسب موبہہ میں نقش نہیں ہوتا جب حق تعالیٰ کی طرف سے ایک وہی منصب کسی کو عطا ہوتا ہے تو اس کے حواس بھی اعلیٰ وجہ الکمال عطا ہوتے ہیں۔

عصمت انبیاء

دیکھئے دنیا میں اگر کوئی حاکم کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو اپنے نزدیک وہ انتخاب میں کوتا ہی نہیں کرتا پھر اگر انتخاب کرنے والے خدا تعالیٰ ہوں تو اس انتخاب میں غلطی کا بھی احتمال نہیں حکام دنیا اپنی طرف سے گوا انتخاب میں کمی نہ کریں مگر ان کے انتخاب میں غلطی ممکن ہے لیکن حق تعالیٰ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام علماء و عملاء ہر طرح کامل ہوتے ہیں اسی لئے اہل حق نے انبیاء علیہم السلام کو معصوم کہا ہے جس کا حاصل کمال عمل ہے کیونکہ اگر عصمت نہ ہو اور نبی سے گناہ سرزد ہو سکیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کا عمل ناقص ہے کمال عمل

بھی ہے کہ کوئی کام رضا حق کے خلاف سرزد نہ ہو سکے اور نبی کے لئے یہ کمال لازم ہے کیونکہ ان کو حق تعالیٰ نے ایک منصب عطا فرمایا ہے اور منصب عطا کرنے میں چند امور کا لحاظ ضروری ہے۔

ایک یہ ہے کہ جس کو وہ منصب دیا گیا ہے اس میں اس منصب کی الہیت ہوتا کہ وہ اس کے فرائض بخوبی انجام دے سکے دوسرے یہ کہ وہ منصب عطا کنندہ کا پورا مطیع و تابع دار ہو۔

مثلاً اگر بادشاہ کسی کو واسراۓ بنانا کر بھیجے تو وہ دو باتوں پر نظر کرے گا ایک یہ کہ اس کو انتظام ملکی کا سلیقہ اعلیٰ درجہ کا ہو دوسرے یہ کہ اس میں گورنمنٹ کی اطاعت پوری پوری ہو مخالفت اور بغاوت کا شائستہ بھی نہ ہو کوئی بادشاہ اپنے شخص کو عہدہ نہیں دیا کرتا جس میں ذرا بھی مخالفت و بغاوت کا احتمال و شائستہ ہو پس اگر کوئی شخص واسراۓ میں قابلیت انتظام کی کی کا عیب نکالے یا اس کی وفاداری پر اعتراض کرے تو حقیقت میں یہ اعتراض بادشاہ پر ہو گا کیونکہ اسی نے اس کو یہ منصب دیا ہے پس اعتراض کا حاصل یہ ہو گا کہ بادشاہ نے ایک ناقابل کو یا مخالف گورنمنٹ کو واسراۓ بنایا ہے اور اس صورت میں معارض پر تو ہیں شاہی کا جرم قائم کیا جائے گا لیکن واسراۓ پر اعتراض کرنے میں ممکن ہے کہ کسی وقت معارض حق بجانب ہو کیونکہ شاہان دنیا کا علم محيط نہیں اس لئے ان سے انتخاب میں غلطی ہو جانا بعد نہیں لیکن خدا تعالیٰ کے اوپر تو اس اعتراض کی کسی طرح بھی گنجائش نہیں تو جس کو حق تعالیٰ اپنے انتخاب سے کوئی عہدہ دیں اس میں اس عہدہ کی پوری قابلیت اور خدا تعالیٰ کی کامل اطاعت ہونا لابدی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو جو عہدہ دیا جاتا ہے اس میں وہ عملًا کامل ہوتے ہیں اور چونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے انتخاب سے ایک منصب دیا ہے تو ان میں مخالفت و نافرمانی حق کا شائستہ نہیں ہو سکتا جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عملًا کامل ہوتے ہیں اور یہی معنی ہیں عصمت کے پس اگر کوئی شخص انبیاء علیہم السلام کے علم و عمل پر کسی قسم کا اعتراض کرے تو درحقیقت وہ خدا تعالیٰ پر اعتراض ہے پس نبوت کے ساتھ مخالفت حق ممکن ہی نہیں اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ عصمت انبیاء علیہم السلام مسئلہ مخصوص نقلی نہیں بلکہ عقلي بھی ہے۔

نیز انبیاء علیہم السلام کے علوم میں بھی نقش ممکن نہیں بلکہ ان کے علوم کا مل ہوتے ہیں یعنی وہ علوم جن کی اس منصب میں ضرورت ہے کیونکہ حق تعالیٰ اپنے شخص کو کسی عہدہ کے واسطے منتخب نہیں کرتے جس میں اس منصب کی قابلیت نہ ہو اور قابلیت کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس منصب کو جن علوم

کی ضرورت ہو وہ اس شخص کو کامل طور پر حاصل ہوں۔ ہاں یہ ضرور نہیں کہ اس منصب کے علاوہ دیگر امور کا بھی اسے علم ہو کیونکہ تحصیلدار کو انہی علوم کی ضرورت ہے جن کو تحصیلداری سے تعلق ہے یعنی قانون اسی طرح اگر کسی کو طبیب اور معانع بنایا جاوے تو اس کو انہی علوم میں کامل ہونا چاہئے جن کو طب سے تعلق ہے یعنی صحبت و مرض وغیرہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا بھی انہی علوم میں کامل ہونا ضروری ہے جو نبوت کے متعلق ہیں اور ان علوم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی نظر مصالح عباد میں وسیع ہواں لئے اگر صاحب وحی سے مراد نبی ہے تو اس کی نظر بھی مصالح عباد میں اس وجہ سے وسیع ہونا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے وہی طور پر ان کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے جس کا تعلق مصالح عباد سے ہے بہر حال یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ وحی میں تمام پہلوؤں کی اعلیٰ درجہ کی رعایت ہو گی اسی لئے قرآن میں ہر پہلو کی ایسی رعایت ہے کہ کسی کلام میں ویسی رعایت نہیں ہے۔

رابط کلام الٰہی

قرآن میں صرف ضابطہ کو پورا نہیں کیا گیا اس مضمون کو آپ سہولت سے یوں سمجھیں گے کہ حکام و قسم کے ہیں ایک وہ جو شخص ضابطہ کے پابند ہیں ضابطہ کی رو سے جو کام ان پر واجب ہے وہ کر دیا اور قانون کے موافق رعایا پر احکام لازم کر دیئے ان کو اس کی ضرورت نہیں کہ دشوار احکام کو قانون سے خارج کریں یا ان کے سہل و آسان کرنے کی تدبیر بتائیں دوسرے وہ حکام ہیں جن کو رعایا سے محبت ہوتی ہے اور مخلوق کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں وہ حتیٰ الامکان قانون میں کوئی دشوار حکم داخل نہیں کرتے اور اگر کسی مصلحت سے کوئی دشوار حکم رکھتے بھی ہیں تو رعایا کو اس کے سہل کرنے کی تدبیر بھی بتلاتے ہیں اور اس تجویز میں ان پر تعجب ضرور ہوتا ہے مگر یہ شفقت پرمنی ہے اتنی رعائیں وہی حاکم کر سکتا ہے جس کو رعایا پر شفقت ہو۔

اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے کہ نصیحت کرنے والا ایک تو استاد ہوتا ہے اور ایک باپ ہوتا ہے باپ کی نصیحت میں عام لوگوں کی نصیحت سے فرق ہوتا ہے استاد تو ضابطہ پری کرتا ہے مگر باپ ضابطہ پری نہیں کر سکتا وہ نصیحت کرتے ہوئے اس کا خیال رکھتا ہے کہ بیٹے کو ایسے عنوان اور ایسے طرز سے نصیحت کروں جو اس کے دل میں گھر کر لے کیونکہ وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ بیٹے کی اصلاح ہو جائے اور اس میں کوئی کمی شدہ جائے اور اگر وہ کوئی مشکل کام بھی بتلاتا ہے تو اس کا طریقہ وہ اختیار کرتا ہے جس سے بیٹے کو عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان سب رعائیوں کا

نشاوی شفقت ہے شفقت ہی کے ساتھ تمام پہلوؤں کی رعایت کی جاسکتی ہے اور اسی لئے باب کا کلام نصیحت کے وقت کبھی بے ربط اور بے ترتیب بھی ہو جاتا ہے۔

مثلاً باب میئے کو کھانا کھاتے ہوئے نصیحت کر لے کہ بری صحبت میں نہیں بیٹھا کرتے اور اس مضمون پر وہ مفصل گفتگو کر رہا ہوا اس درمیان میں اس نے دیکھا کہ میئے نے ایک بڑا سالقہ کھانے کو لیا ہے تو وہ فوراً پہلی نصیحت کو قطع کر کے کہے گا کہ یہ کیا حرکت ہے لقمہ بڑا نہیں لیا کرتے اس کے بعد پھر پہلی بات پر گفتگو شروع کر دے گا اب جس کو شفقت کی اطلاع نہ ہو وہ کہے گا کہ یہ کیسا بے ترتیب کلام ہے بری صحبت سے منع کرنے میں لقمہ کا کیا ذکر! اگر جو شخص کبھی کسی کا باب بنائے وہ جانتا ہے کہ یہ بے ترتیب کلام مرتب و مرتب کلام سے افضل ہے شفقت کا مقضنا یہی ہے کہ ایک بات کرتے ہوئے اگر دوسری بات کی ضرورت ہو تو ربط کا لحاظہ کرے دوسری بات کو تجھ میں کہہ کر پھر پہلی بات کو پورا کرے۔ یہی راز ہے اس کا کہ خدا تعالیٰ کا کلام ظاہر میں کہیں بے ربط معلوم ہوتا ہے اس ظاہری بے ربطی کا نشاء شفقت ہی ہے کہ حق تعالیٰ مصنفوں کی طرح گفتگو نہیں کرتے کہ ایک مضمون پر کلام شروع ہو تو دوسرے باب کا کوئی مضمون اس میں نہ آ سکے بلکہ وہ ایک مضمون کو بیان فرماتے ہوئے اگر کسی دوسرے امر پر تنبیہ کی ضرورت دیکھتے ہیں تو شفقت کی وجہ سے درمیان میں فوراً اس پر تنبیہ فرمادیتے ہیں اس کے بعد پھر پہلا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔

چنانچہ ایک آیت مجھے یاد آئی جس پر لوگوں نے غیر مرتب ہونے کا اعتراض کیا ہے۔ سورہ قیامہ میں حق تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان فرمایا ہے کہ انسان اس وقت بڑا پریشان ہو گا اور بھاگنے کا موقع ڈھونڈے گا اپنے اعمال پر اسے اطلاع ہو گی اس روز اس کو سب الگ پھٹلے کئے ہوئے کام جتلادئے جائیں گے پھر فرماتے ہیں۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْلَا اللَّهُ مَعَاذِيرَةٌ

یعنی (انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ اس جتلانے پر موقوف نہ ہو گا بلکہ اس دن (انسان اپنے نفس کے احوال و اعمال) سے خوب واقف ہے۔ (کیونکہ اس وقت حقائق کا انکشاف ضروری ہو جائے گا) اگرچہ (باتضاء طبیعت) کتنے ہی بہانے بنائے جیسے کفار کہیں گے واللہ! ہم تو مشرک نہ تھے مگر دل میں خود بھی جانیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں غرض انسان اس روز اپنے سب احوال کو خوب جانتا ہو گا اس لئے یہ جتلانا محض قطع جواب اور تمام جست اور دھمکی کے لئے ہو گا نہ کہ

یادو ہانی کے لئے یہاں تک تو قیامت ہی کے متعلق مضمون ہے اس کے بعد فرماتے ہیں۔

لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَهُ

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور گوارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتے ہوئے اس کے یاد کرنے کے خیال سے زبان نہ ہلایا کیجئے ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کا جمادینا اور زبان سے پورا کرو یعنی تو جب ہم قرآن نازل کریں اس وقت فرشتے کی قرات کا اتباع کیجئے پھر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ قرآن کا مطلب بھی بیان کرویں گے اس کے بعد پھر قیامت کا مضمون ہے۔

كَلَّا بَلْ تُحْبُّونَ الْعَاجِلَةَ (۲۰) وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ

کہ تم لوگ دنیا کے طالب ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو پھر فرماتے ہیں۔

وُجُوهٌ يَوْمَئِلْ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

بعضوں کے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ان تولاحت حکم بہ لسانک سے اوپر بھی قیامت کا ذکر ہے اور بعد کو بھی اسی کا ذکر ہے اور درمیان میں یہ مضمون ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جلدی یاد کرنے کیلئے زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے لوگ اس کلام کے ربط میں تھک گئے ہیں اور بہت سی توجیہات بیان کی ہیں مگر سب میں تکلف ہے اور کسی نے خوب کہا ہے۔ ”کلام میکہ محتاج معنی باشد لایعنی ست“ جو کلام یعنی کا محتاج ہو وہ لایعنی ہے تو جس کو حق تعالیٰ کے اس تعلق کا علم ہے جو حق تعالیٰ کو حضور کے ساتھ ہے اس کو آفتاب کی طرح نظر آتا ہے کہ اس کلام کا درمیان میں کیا موقع ہے صاحبو! اس کا وہی موقع ہے جیسے وہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بری صحبت میں نہیں بیٹھا کرتے اور اس کے مفاسد بیان کر رہا تھا کہ درمیان میں بیٹے کو بڑا سال قمہ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے لقمہ بڑا نہیں لیا کرتے تو ظاہر میں کا ذکر ترتیب کلام سے بالکل بے ربط ہے لیکن جو باپ ہو گا وہ جانے گا کہ نصیحت کرتے کرتے درمیان میں لقمہ کا ذکر کر اس لئے کیا گیا کہ لڑ کے نے بڑا قمہ لیا تھا باپ نے فرط شفقت سے درمیان کلام میں اس پر بھی تنبیہ کر دی۔ اسی طرح یہاں بھی حق تعالیٰ قیامت کا ذکر فرمائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ کہیں یا آیتیں ذہن سے نہ نکل جائیں جلدی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو درمیان میں خدا تعالیٰ نے

فرط شفقت سے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی فکر نہ کریں یہ کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے آپ بے فکر ہو کر سنتے رہا کہریں قرآن آپ کے دل میں خود بخود محفوظ ہو جائے گا تو اس مضمون کو درمیان میں ذکر فرمانے کی وجہ فرط شفقت ہے اور اس کا مقتضایہ تھا کہ اگر یہاں بالکل بھی ربط نہ ہو تو یہ بے ربطی ہزار ربط سے افضل تھی مگر پھر بھی باوجود اس کے مستقل ربط بھی ہے اور یہ خدا کے کلام کا ہتھی اعجاز ہے کہ جہاں ربط کی ضرورت نہ ہو وہاں بھی کلام میں ربط موجود ہے چنانچہ جو رسائلے ربط کے باب میں لکھے گئے ہیں ان سے اس آیت کا مضمون قیامت سے ربط معلوم ہو سکتا ہے میں نے بھی اپنے ایک رسالہ عربی میں اور اپنی تفسیر کے اندر اردو میں اس کا ماقبل سے ارتباً طی بیان کیا ہے جو کہ تبرع اور احسان کے درجہ میں ہے ورنہ یہاں ربط کی ضرورت ہی نہ تھی۔

شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب ربط کی ضرورت نہ تھی تو ممکن ہے کہ یہ روابط سب مخترع ہوں پھر ان کی حاجت ہی کیا تھی؟ (کیونکہ تقریر سابق سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرط شفقت کا مقضیا یہ ہے کہ ترتیب و ربط کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ مخاطب کی ضرورت کے موافق کلام کیا جائے چاہے) چنانچہ رسالہ سبق الغایات میں اس آیت کا ربط ماقبل سے اول وہی تحریر فرمایا ہے جو اس جگہ بیان ہوا کہ درمیان میں فرط شفقت سے حضور گوخر یک لسان سے اس لئے منع فرمادیا کہ آپ ”غائب“ اس وقت خود بھی پڑھنے لگے تھے دوسرا ربط نقل عن القفال یہ تحریر فرمایا ہے کہ لاتحرک بہ لسانک سے حضور گوخطاب نہیں بلکہ یہ خطاب قیامت میں انسان کو ہو گا کہ نامہ اعمال کے پڑھنے میں جلدی نہ کر۔ تم تیرے سب اعمال جلتائے ہیں تو نامہ اعمال کو دیکھا رہ اور ہماری تقریر سننا رہا اخ۔ اور تفسیر میں لاتحرک بہ لسانک لتعجل بہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب مان کر ربط یہ بیان فرمایا ہے کہ اور پر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کو قیامت میں اس کے تمام اعمال پر مطلع کیا جائے گا اور اس کا مطلع ہونا جتنا نہ ہر موقوف نہ ہو گا بلکہ علم ضروری کے طور پر وہ خود بھی اپنے نفس کے سب احوال سے خوب واقف ہو گا۔ اس سے دو مضمون متفاہ ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے عالم اور محیط ہیں۔ دوسرا یہ کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کسی حکمت سے بعض دفعہ مخلوق کے ذہن میں بہت سے غالب شدہ علوم کو دفعہ حاضر کر دیتے ہیں گو ان علوم غالبہ کیسرہ کا دفعہ حاضر ہو جانا عادت طبیعی کے خلاف ہو جیسا کہ قیامت میں ایسا کیا جائے گا جب یہ بات ہے تو آپ نزول وحی کے وقت یاد کرنے کی فکر کیوں کرتے ہیں بلکہ مطمئن ہو کر سنتے رہا کیجئے ہم قرآن کو آپ کے دل میں جمادیں گے اور جب بھی آپ پڑھنا چاہیں گے آپ کی زبان سے اس کو ادا کر دیں گے۔

قلت و هذا اولى مما قاله القفال رحمة الله لان نزول الايته في تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وقت التزير مذکور في الصحيحين لخوايل الايته لغيره لا يحرون ويعجبني ايضاً ما قاله الاستاذ بچھلے سخنگا حاشیہ العلامۃ الفاضل مولانا محمد اسحاق البردوانی ان هذه الايته مرتبط بقوله تعالى بلى قادرین على ان نسوی بنانہ هانہ لما كان مسحان و تعالى قادر على جمع العظام وهي رميم و على تسویته البنان وهي رفات فهو قادر بالاولی على جمع القرآن الازلی الابدی لا يزول ولا يفتی في قلب حی مثلک یا محمد فلا تعالج من نزوله شدة ولا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ فللہ درہ ما ابھی درہ والله تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم ۱۲ جامع۔

ربط ہو یا نہ ہو اور قرآن کا طرز کلام یہی ہے تو اس صورت میں جو کچھ ربط بیان کیا جائے گا وہ مختصر ہو گا کیونکہ متکلم نے ارتباط کا لحاظ کیا ہی نہیں) اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں باوجود طرز تصنیف اختیار نہ کرنے اور شفقت کا طرز اختیار کرنے کے پھر بھی ربط کا لحاظ کیا گیا ہے اس لئے مفسرین کے بیان کردہ روابط مختصر نہیں ہیں۔ اس ربط ملحوظ فرمانے کی دلیل یہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ ترتیب نزول آیات اور ہے اور ترتیب تلاوت مصحف اور ہے یعنی قرآن کا نزول تو واقعات کے موافق ہوا کہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے متعلق ایک آیت نازل ہو گئی پھر دوسرا واقعہ پیش آیا تو دوسری آیت نازل ہو گی وعلیٰ ہذا تو ترتیب نزول تو حسب واقعات ہے اگر تلاوت میں بھی یہی ترتیب رہتی تو واقعی ربط کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن ترتیب تلاوت خود جناب پاری تعالیٰ عز اسمہ نے بدلتی یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آیت کسی واقعہ کے متعلق نازل ہوتی تو جریل علیہ السلام بحکم خداوندی حضور سے یہ کہتے کہ اس آیت کو مثلًا سورہ بقری فلاح آیت کے بعد رکھا جائے اور اس کو فلاں آیت کے بعد اور اس کو فلاں سورت کے ساتھ وعلیٰ ہذا تو مصحف میں ترتیب آیات ترتیب نزول پر نہیں بلکہ اس کی ترتیب حق تعالیٰ نے دوسری رکھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس آیت کو بھی کسی آیت کے ساتھ ملایا گیا ہے دونوں میں کوئی مستقل ربط اور مناسبت اور تعلق ضرور ہے کیونکہ اگر اب بھی دونوں میں کوئی ربط نہ ہوا تو ترتیب نزول کا بدلتا مفید نہ ہو گا۔ تو عجب بے نظیر کلام ہے کہ باوجود ضرورت ربط نہ ہونے کے پھر بھی اس میں ربط ہے اور پورا ربط ہے۔ پس خدا تعالیٰ کے کلام میں اس مستقل دلیل سے ہم ربط کے قائل ہیں لیکن اگر ربط نہ بھی ہوتا تب بھی قرآن پر اعتراض کی گنجائش نہ تھی، ہم کہہ سکتے تھے کہ قرآن میں طرز تصنیف نہیں اختیار کیا گیا بلکہ طرز نصیحت مع لحاظ شفقت اختیار کیا گیا ہے۔

قرآن کا طرز کلام

اس میں ضرورت مخاطب کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے جس کی بے ربطی ہزار ربط سے افضل ہوتی ہے اور یہی شفقت مشاہدہ اس امر کا کہ قرآن کی ہر تعلیم کامل ہے جس میں تمام پہلوؤں کی پوری پوری رعایت کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ ہر سورت میں بہت سے احکام بیان فرمائے اخیر میں ایسی بات بیان فرماتے ہیں جو سب کی جامع ہوتی ہے اور جس پر عمل کرنے سے تمام احکام مذکورہ میں سہولت ہو جاتی ہے چنانچہ سورہ آل عمران میں مختلف ابواب کے احکام بیان فرمائے کلام کو ختم نہیں کیا بلکہ اخیر کی آیت میں بطور میزان الكل کے ایک بات ایسی بتا دی جو سب کو جامع ہے۔

یہ ایسا ہے جیسا تفصیلی حساب کے بعد میزان دی جایا کرتی ہے اگرچہ مفصل حساب بیان کرنے کے بعد میزان کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ظاہر ہے کہ میزان بیان کر دینے سے ایک قسم کا ضبط و تکرار ہو جاتا ہے مفصل حساب کا یاد رہنا دشوار ہے اور میزان کا یاد رہنا آسان ہے۔

اسی طرح یہ آیت اخیرہ تمام سورت کی میزان ہے جس میں بالاجمال جملہ احکام مذکورہ داخل ہیں اور دیکھنے میں دو تین باتیں ہیں جن پر عمل بہت سہل ہے خدا تعالیٰ نے اس بات کی رعایت ہر جگہ رکھی ہے یہ طرز سوائے قرآن کے کسی کلام میں بھی نہیں ہے کہ تمام باتوں کو ختم کر کے ایک بات ایسی بتلا دی جو سب کو جامع ہے۔

یہ ایسا ہے جیسے شفیق باب مفصل تفصیل کر کے اخیر میں ایک گرفتلا دیتا ہے اور منشا اس کا شفقت ہے کہ لڑکے کو ساری باتیں شاید یاد نہ رہیں یا اتنی باتوں کو سن کر گھبرا جائے تو اخیر میں ایک گرفتلا دیتا ہے کہ بس اس کو یاد کرو۔ تو جس نے دوسروں کو شفقت سکھلانی اس کے کلام میں شفقت کی پوری رعایت کیوں نہ ہوگی۔

غرض اس مقام پر اس آیت میں وہی بات مذکور ہے جو ساری سورت میں بیان کی گئی ہے اور اس میں ابہام نہیں ہے کہ ایک گول بات کہہ دی ہو جس کا مطلب بھی سمجھ میں نہ آوے بلکہ ساری سورت کا مضمون اس آیت میں بالاجمال کے ساتھ مذکور ہے (جس کو بلاغت میں ایجاد کہتے ہیں) کہ تھوڑے سے مختصر لفظوں میں بڑا مضمون ادا کر دیا جو تفصیل پر دلالت میں کافی وافی ہے اور بالاجمال کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اس آیت میں ایک گونہ کلیت ہے اور ہر چند کہ کلیات کے تحت میں جزئیات سب ہوتے ہیں مگر بالاجمال ہوتے ہیں نہ کہ تفصیل۔

یہ ایسی بات ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ!

ان شرائع الاسلام قد كثرت على فقل لى قولًا أحفظه واحذبه

(الصحيح المسلم كتاب الإيمان بـ: رقم ۲۲: مكتبة المصانع: ۱۵)

کہ یا رسول اللہ! احکام اسلام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں آپ مجھے ایک بات ایسی بتا دیجئے جس کو میں یاد کروں اور اسی کے موافق عمل کرتا رہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قبل امتحان بالله ثم استقم کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لا یا پھر استقامت کے ساتھ رہو حضور نے ساری شریعت ابتداء سے انتہا تک اس ایک جملہ میں بھروسی حالانکہ سائل نے ابتداء سے سوال بھی نہ کیا تھا اپنے امتحان بالله میں آپ نے بالاجمال تمام اعتقادیات کو بیان فرمادیا اور ثم استقم

میں اعمال کے اندر استقامت کی تعلیم دی ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات و معاشرت سب آگئے کیونکہ استقامت و اعتدال اعمال شرعیہ کی خاص صفت ہے ان سے تجاوز کر کے عمل میں اعتدال باقی نہیں رہے گا استقامت کی ہر جگہ ہر عمل میں ضرورت ہے۔ (تو حضور نے اس سائل کو ایسی بات بتلا دی جس سے وہ ہر عمل کا جواز و ناجواز دریافت کر سکے پس جہاں استقامت و اعتدال موجود ہو وہ شرعی عمل ہے اور جہاں یہ صفت مفقود ہو وہ شریعت سے خارج ہے)۔

باقی یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سائل کی درخواست یہ تھی کہ مجھے ایسی بات بتلا دیجئے کہ تمام شریعت میں اس ایک بات کو یاد کروں بلکہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ مجھے ایسی بات بتلا دیجئے جس کی تمام شریعت میں رعایت کروں اور جس سے ہر حکم کا شرعی و غیر شرعی ہونا معلوم کر لیا کروں۔ حضور نے اسی کے موافق ایسی بات بتلا دی جو شریعت کا موضوع ہے یعنی اعتقاد عظمت الہی و استقامت افعال و احوال۔

اور ظاہر ہے کہ موضوع علم معلوم ہو جانے سے اس کے تمام مسائل و سرے علوم کے مسائل سے ممتاز ہو جاتے ہیں اور جس موضوع کا علم ہے گویا بالا جمال اسے تمام مسائل کا علم ہے۔ کیونکہ اب جو مسئلہ اس کے سامنے آئے گا وہ با آسانی معلوم کر لے گا کہ یہ مسئلہ اس علم کا ہے۔ یا نہیں۔

چنانچہ اسی لئے ہر فن میں موضوع کی تعین کی جاتی ہے مثلاً طب میں چونکہ مسائل کثیرہ منتشہ ہیں جن کا ضبط دشوار ہے اور حفظ مسائل کے ذریعہ سے تمام جزئیات میں یہ امتیاز مشکل ہے کہ کوئی مسئلہ طب کے متعلق ہے اور کوئی نہیں مثلاً یہ بات کہ اتنے اوپرے مکان کی بنیاد کتنی گہری اور چوڑی ہوتا چاہے یہ طب کا مسئلہ ہے یا نہیں محض مسائل کے پڑھ لینے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کتابوں میں تمام جزئیات کا احصا نہیں کیا گیا اور نہ ہو سکتا ہے تو اب جن جزئیات کا کتاب میں ذکر نہیں یا ہم کو یاد نہیں ان کی بابت یہ کیسے معلوم ہو کہ ان کو طب سے علاقہ ہے یا نہیں۔ اس کے لئے حکماء نے طب کا ایک موضوع قرار دیا وہ یہ کہ بدن الانسان من حیث الصحة والمرض یعنی طب کا موضوع بدن انسانی ہے بحیثیت تدرستی اور بیماری کے یہ موضوع معلوم کر لینے کے بعد تمام مسائل کا امتیاز ہو گیا۔

اب اگرنا کہ بغشہ زکام کو تافع ہے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسئلہ طب کے متعلق ہے اور اگر یہ سنا کہ اتنی گہری بنیاد ہو تو اتنا اوپرچا مکان بنایا جا سکتا ہے تو سنتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسئلہ طب کے متعلق نہیں ہے اسی طرح اگر یہ سنا کہ بدن انسان حادث ہے جب بھی سمجھ لوگے کہ یہ طب کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ گواں میں بدن انسان کی ایک حالت مذکور ہے مگر اس حالت کو

صحت و مرض سے کوئی واسطہ نہیں اور موضوع طب بدن انسان مطلقاً نہیں ہے بلکہ صحت و مرض کی حیثیت سے ہے غرض جس کو موضوع معلوم ہو گا وہ ہر جگہ ہر مسئلہ میں اس کی رعایت کر لے گا۔

اسی طرح اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو شریعت کا موضوع بتلا دیا جس کے حفظ سے گویا تمام مسائل بالاجمال اسے محفوظ ہو گئے اور اب وہ ہر بات کے متعلق یہ معلوم کر سکے گا کہ اس کو شریعت سے تعلق ہے یا نہیں کیونکہ وہ اس موضوع کی ہر جگہ رعایت کرے گا۔

ایسے ہی اس مقام پر حق تعالیٰ بھی تمام احکام کو ذکر کر کے اخیر میں ایک ایسا گرفتار ہے جو گویا تمام سورت کا موضوع ہے جس کو اس کے سب احکام سے تعلق ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأَبِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے ایمان والو! (تکالیف پر) صبر کرو اور جب (کفار سے مقابلہ ہوتا تو) مقابلہ میں صبر کرو (احتمال مقابلہ کے وقت) مقابلہ کے لئے مستعد رہو اور (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ (حدود شرعیہ سے باہر نہ نکلو) تاکہ تم پورے کامیاب ہو (آخرت میں تو ضرور ہی اور اکثر اوقات ان اعمال پر محافظت کی بدلت دنیا میں بھی پوری کامیابی ہوتی ہے)

جن باتوں کا اس آیت میں ذکر ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو اس سورت کے احکام سے تو تعلق ہے ہی میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس قدر بھی احکام شرعیہ ہیں سب سے ان کا تعلق ہے اور اس سے آگے میں اور ترقی کرتا ہوں کہ اتفاق سے ہم کو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جیسے ان کو احکام شرعیہ سے تعلق ہے اسی طرح تمام دنیوی مصالح معاشریہ سے بھی ان کا تعلق ہے مگر نہ اس وجہ سے کہ یہ شریعت کا موضوع و مقصود ہے بلکہ اس لئے کہ شریعت تکمیل آخرت کے ساتھ تمہاری دنیا کی بھی تکمیل ساتھ ساتھ کرتی ہے اس لئے احکام شرعیہ اس طور سے مقرر کئے گئے ہیں جو تبعاً مصالح دنیویہ کو بھی مختص من ہیں۔

مصالح دنیویہ کا اثر

آج کل احکام شرعیہ میں مصالح دنیویہ بیان کرنے والوں کی تین جماعتیں ہیں ایک تو وہ جو اصل چیز مصلحت دنیا ہی کو سمجھتے ہیں اور احکام شرعیہ کو انہی مصالح پر مبنی سمجھتے ہیں چنانچہ یہ لوگ مصالح دنیا کی تکمیل کی طرف اول رغیب دیتے ہیں پھر ان کی تائید احکام شرعیہ سے کرتے ہیں اور اس طرز تقریر سے اکثر لوگوں کو ان کے حامی دین ہونے کا لامبا کا ہو جاتا ہے حالانکہ وہ اثر کے اعتبار سے ماحی دین ہیں۔

چنانچہ اس وقت کثرت سے اس قسم کے مضافین اخباروں اور لکھروں میں دیکھنے میں آتے

ہیں کہ اتفاق ایسی چیز ہے کہ شریعت میں اس کا اس قدر اہتمام ہے کہ پانچ وقت کی نماز میں خدا تعالیٰ نے جماعت کو اسی لئے واجب کیا تاکہ ہر محلہ کے سب مسلمان دن میں پانچ دفعہ کم از کم ملتے رہیں ہر شخص کو ایک دوسرے کی حالت کا علم ہوا اور میل جوں میں اتفاق بڑھے۔ پھر ہفتہ میں ایک بار تمام بستی کے آدمیوں کے باہمی اجتماع کے لئے جمعہ کی نماز مقرر کی تاکہ تمام بستی کے مسلمانوں سے شناسائی ہو اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا موقع ملے پھر بعض مسلمان ایسے ہیں جو شہر سے بھی دور ہتے ہیں ان کے اجتماع کے لئے عیدین کی نماز مقرر کی تاکہ سال بھر میں دو دفعہ آس پاس کے ویہاں مسلمانوں سے بھی ملاقات ہو جایا کرے پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لئے حج کی عبادت مشروع کی گئی کہ عمر بھر میں ایک دفعہ تو سب طرف کے مسلمان ایک جگہ ہو کر تبادلہ خیالات کریں۔

اس مضمون کو آج بڑے فتحدار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور بہت سے بھولے بھالے مقرریں کو شریعت کا راز دان سمجھتے ہیں کہ بس یہ شخص شریعت کے اسرار کو سمجھ گیا اور کہتے ہیں کہ دیکھنے عالم اس کو کہتے ہیں کہ فلی بات و عقلی بنادیا اور شریعت کے اسرار کو زمان کے موافق بیان کرو یا مگر واللہ! اس کی وہ مثال ہے

چوں ندید ند حقیقت راہ افسانہ زند

(جب حقیقت کا پتہ نہ چلا تو ڈھکنوں لوں کا راست اختیار کیا)

نہ کچھ راز ہے اور نہ اس میں سمجھنے والوں کا کچھ کمال ہے بلکہ اس طرز تقریر میں زہر بھرا ہوا ہے۔ جو اس کو جان لے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ ایسے اسرار بیان کر کے اسلام کے ساتھ دوستی نہیں کرتے بلکہ دشمنی کرتے ہیں اور یہ لوگ حامی اسلام کیا بلکہ اسلام کے نادان دوست ہیں اور دوستی بے خرد چوں دشمنی ست

(بے عقل کی دوستی دشمنی ہوا کرتی ہے)

اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس تقریر میں زہر کیا ہے اس مضمون کا حاصل یہ ہے کہ بس اصل چیز تو اتفاق ہے اور جماعت بخگانہ اور جمہ و عید و حج اسی اتفاق کے پیدا کرنے کے واسطے ذرائع و وسائل ہیں تو عجب نہیں کہ بعض لوگوں پر اس کا یہ اثر ہو کہ وہ ان احکام کو مقصود بالذات نہ سمجھیں اور اگر کبھی کسی دوسرے طریق سے اتفاق ممکن ہوا تو وہ بہت آسانی سے جماعت اور نماز دونوں کے چھوٹے پر آمادہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خیال میں تو یہ سب احکام حصول اتفاق کے لئے مقرر ہوئے ہیں اور ان کو کلب میں جانے اور تھیڑیں مل کر شریک ہونے سے بھی یہ بات حاصل ہو سکتی ہے جہاں راحت سے آرام کریں اور گدی تکیوں پر جگہ ملتی

ہے تو وہ خواہ مخواہ مسجد میں کیوں آنے لگے اور وضو اور نماز کی مشقت کیوں برداشت کرنے لگے چنانچہ اس وقت ان تقریروں کا یہ ضرر نمایاں ہو رہا ہے۔

اخباروں میں ایک شخص کا قول شائع ہوا تھا کہ وضو کی ضرورت ابتداء اسلام میں تھی آج کل نہیں ہے کیونکہ اس وقت بدوسی لوگ پاک و صاف نہ رہتے تھے جنگل کے کاروبار سے غبار آلو دا آتے تھے۔ اس نے ان کو وضو کا حکم کیا گیا اور ہم لوگ آج کل صفائی کا بہت اہتمام رکھتے ہیں ہر وقت موزے اور دستانے چڑھائے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہاتھ پر گرد سے محفوظ رہتے ہیں ہم کو وضو کی ضرورت نہیں۔ یہ نتیجہ ہے ایسے اسرار بیان کرنے کا کہ اب ہر شخص اس قسم کی مصلحتوں، ہی کو مقصود سمجھنے کا اور اس شخص سے کچھ تعجب نہیں کہ وہ نماز کو بھی چھوڑ دے اور یہ کہے کہ نماز کی ضرورت ابتداء اسلام میں اس لئے تھی کہ اس زمانہ کے لوگ جاہیت کی وجہ سے بڑے متکبر و سرکش ہوتے تھے اور ان کو مہذب بنانے کے لئے یہ افعال تواضع و خشوع کے تعلیم فرمائے گئے تھے اور ہم لوگ تعلیم یافتے ہیں ہمارے اندر تعلیم سے تہذیب پیدا ہو گئی ہے ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے۔

اسی طرح ایک شخص نے جو کہ مسلمان ہیں انگلستان سے مجھ کو لکھا تھا کہ قربانی شریعت کو مقصود نہیں اور یہ بالکل عقل کے خلاف ہے کہ ایک دن میں اتنے جانوروں کو ذبح کیا جائے جن کا گوشت آدمیوں سے کھایا بھی نہ جائے چنانچہ اسی لئے منی میں قربانی کرتے ہی جانوروں کو کھیتوں میں ڈال دیا جاتا ہے غصب یہ ہے کہ آج کل خدا پر بھی عقل کی حکومت ہونے لگی۔ افسوس! میں کہتا ہوں کہ اگر ایک جمع کسی مجرم کو سزا دے اور مجرم یہ کہے کہ یہ سزا تو عقل کے خلاف ہے تو کیا وہ اس بات کی سماught کرے گا ہرگز نہیں! بلکہ وہ صاف یہ کہے گا کہ قانون پر تمہاری عقل کی حکومت نہیں بلکہ قانون عقل پر حاکم ہے اور اس کے اس جواب کو سب عقلاً تسلیم کرتے ہیں مگر حیرت ہے کہ قانون الہی کو آج کل کے مسلمان اپنی عقل پر حاکم نہیں مانتے بلکہ اس کو اپنی عقل کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور یہ جواب علی سبیل المترزل ہے ورنہ قانون الہی تو بالکل عقل کے مطابق ہے بشرطیکے عقل سليم ہو۔ یہ کیا ضرور ہے کہ ہر شخص کی عقل میں اس کی حکمتیں آ جایا کریں۔ آخر پاریمنٹ کے عقلاً جو قوانین تجویز کرتے ہیں کیا ہر عالمی کی عقل اس کی مصالح تک پہنچ جاتی ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کے مصالح و حکم کو خاص حکام ہی سمجھتے ہیں پھر قانون الہی کی حکمتیں اور مصالح کو ہر شخص اپنی عقل سے کیوں معلوم کرنا چاہتا ہے اور یہاں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ قانون الہی عقل کے مطابق ضرور ہے مگر ہماری عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں خاص لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور بالفرض اگر کسی

قانون کی حکمت خاص لوگوں کی عقل میں بھی نہ آئے تو قانون کے بد لئے کاسی کو اختیار نہیں کیونکہ قانون پر عقل حاکم نہیں بلکہ اس کے ماتحت اور تابع ہے۔

غرض ان حضرت نے مجھے لکھا کہ قربانی خود شریعت کو مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود غرباء کی امداد ہے اور ابتداء میں لوگوں کے پاس نقدم تھا، مویشی زیادہ تھے اس لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جانور ذبح کر کے غرباء کو گوشت دے دو اور اس زمانہ میں نقد بھی بہت موجود ہے۔ پس آج کل بجائے قربانی کرنے کے نقدر و پیسے غرباء کی امداد کرنا چاہئے۔

تو اس شخص نے قربانی کی حکمت امداد غرباء سمجھ کر جب یہ دیکھا کہ یہ حکمت دوسرے طریقہ سے بھی یا آسانی حاصل ہو سکتی ہے قربانی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا حالانکہ یہ حکمت مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود تو تعییل حکم ہے اگر یہ حکمت مقصود ہوتی تو اس کی کیا وجہ کہ غرباء کو زندہ جانور دینے سے واجب ادا نہ ہوتا۔ اگر اس زمانہ میں نقد اور غلہ کم تھا اور مویشی زیادہ تھے اس لئے جانوروں کے ذریعہ سے غرباء کی امداد کا طریقہ مقرر ہوا تھا تو اس کے کیا معنی کہ جانور کو ذبح کر کے غرباء کو گوشت ہی دیا جائے تو واجب ادا ہو۔ اور زندہ جانور کسی غریب کو دے دیں تو واجب ادا نہ ہو۔ پھر کیا پہلے زمانہ میں مسلمانوں پر نقد کی وسعت کبھی نہ ہوئی تھی۔ بالکل غلط! تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تو معلوم ہو کہ صحابہ نے جس وقت کسریٰ و قیصر کے خزانے فتح کئے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس نقد سوتا اور چاندی اس قدر تھا کہ آج کل تو اس کا عشر عشیر بھی نہ ہو گا۔ پھر اس وقت صحابہ کو یہ بات کیوں نہ سوچھی جو اس شخص کو انگلستان میں بینڈ کر سوچھی؟ اور صحابہ نے بجائے قربانی کے نقد امداد کو کیوں نہ اختیار کیا؟

دوسرے اگر یہ حکمت قربانی سے مقصود بالذات ہوتی تو اس کا مقتضاء یہ تھا کہ قربانی کے گوشت میں کسی حصہ کا تصدق ضرور واجب ہوتا حالانکہ شریعت میں یہ حکم بھی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص سارا گوشت خود ہی کھالے اور غریبوں کو جب برا برا بھی نہ دے تو قربانی میں کچھ مقصود نہیں آتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امداد غرباء قربانی سے مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود کچھ اور ہے مگر آپ نے دیکھ لیا کہ اس قسم کے اسرار بیان کرنے کا نتیجہ کہاں تک پہنچا ہے کہ ہر شخص اپنی مختصر حکمتوں پر احکام کا مدار سمجھنے (۱۲۳)

اور اس خال کا یہ اثر ہوا کہ چندہ بلقان میں یہ مادہ ہی پھوٹ پڑا آخراں جرات نے یہ فتویٰ دے دیا، خدا ان کو ہدایت کرے کہ اگر مسلمان اس سال قربانی نہ کریں اور بلقان کے چندہ میں جانور کی نقد قیمت دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی کیونکہ قربانی

سے مقصود غریب مسلمانوں کی امداد ہے اور اس وقت ترکوں کو نقد امداد سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب ایک عالمی آدمی نے خوب دیا۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی غزوات ہوئے تھے یا نہیں اور اس وقت عازیزوں کے لئے نقد امداد کی ضرورت ہوتی تھی یا نہیں، تو کبھی حضور نے یہ بھی تجویز کیا کہ اس سال قربانی کو موقوف کر کے مسلمان نقدر روپیہ سے غزوات میں امداد کریں اس کا جواب کسی کے پاس پکھنہ تھا۔

تو جب قربانی کے متعلق بعض لوگوں کو ایک خیال فاسد ہوا تھا، جو بالآخر پھوٹ کر رہا اسی طرح اور احکام کی حکمتوں میں بھی جو رنگین مفہامیں آج کل لکھے جاتے ہیں ان کا بھی اثر یہی ہے کہ لوگ ان مصالح اور حکمتوں کو مقصود بالذات سمجھنے لگیں گے اور جب وہ حکمت کسی اور طریقہ سے حاصل ہوتی ہوئی دیکھیں گے فوراً احکام کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔

اس کی ایک اور نظریہ مجھے یاد آئی۔ اس وقت سب لوگ مانے ہوئے ہیں کہ اتفاق ضروری ہے اور کچھ ٹھوکریں کھا کر یہی ان کو ثابت ہو گیا ہے کہ اتفاق بدون پابندی مذہب کے حاصل نہیں ہو سکتا، تو اب عموماً پیغمروں میں پابندی مذہب پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا اور بدون اتفاق کے ترقی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر میں یہ بہت ہی خوش کن جملہ ہے مگر اس میں بھی وہی زہر مخفی ہے کہ اصل میں تو مذہب مقصود نہیں بلکہ اتفاق مطلوب ہے مگر جو نکہ مذہب اس کا ذریعہ ہے اس لئے مذہب کی بھی ضرورت ہے اس کا یہ تجھے ہو گا کہ جب تک ان لوگوں کو اسلام پر رہنے سے اتفاق کی امید ہے اس وقت تک تو یہ اسلام پر رہیں گے اور رسول کو بھی اس کی ترغیب دیں گے اور جہاں یہ امید منقطع ہوئی اسی دن یہ اسلام کو ترک کر دیں گے۔

مثلاً فرض کر لو کہ کسی زمانہ میں مسلمانوں پر ایسی کشاکشی کا وقت آپنے کہ وہ اسلام کو قائم رکھ کر اتفاق نہ پیدا کر سکیں اور ان لوگوں کو یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں مذہب اختیار کر لینے سے اتفاق حاصل ہو گا تو یہ فوراً اسلام کو خیر باد کہہ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیں گے کیونکہ ان کے نزدیک تو اسلام محض اتفاق کے لئے مطلوب تھا مقصود بالذات نہ تھا تو یہ بڑا خطرناک مسلک ہے کہ مصالح دینیویہ پر احکام کی بناء قرار دی جاتی ہے اس کا بھی نام بھی نہ تجھے۔ سو ایک تو اس مشرب کے لوگ ہیں جو اس درجہ میں مصالح دینیویہ کا اثبات کرتے ہیں ان کی غلطی تو واضح ہو گئی۔

طاught اور فلاج

ایک دوسرا مشرب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ مذہب سے فقط دین ہی کی فلاج

حاصل ہوتی ہے دنیوی فلاج حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ مصالح دنیویہ کی بالکل ہی لفی کرتے ہیں یہ اس درجہ کا تو غلط نہیں جیسا پہلا مشرب غلط تھا اور اگر نصوص اس کے خلاف نہ ہوئیں تو ہم اس کو مان لیتے مگر نصوص اس کے بھی خلاف موجود ہیں اس لئے یہ بھی غلط ہے کیونکہ نصوص سے ثابت ہے کہ اطاعت خداوندی سے دنیاوی مصالح اور راحتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور معصیت اور مخالفت خداوندی سے دنیوی خسارہ بھی ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَوْاَنْ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَمْنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلِكُنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھوں دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی اور ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کپڑا لیا۔ اور ایک جگہ اہل کتاب کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلَوْاَنْهُمْ أَقَامُوا التُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُّهُ
مِنْ فُوقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

یعنی اگر اہل کتاب تورۃ و انجیل پر اور جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اس پر پوری طرح عمل کرتے (اور جیسا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا امر ہے اس کے موافق آپ کا اتباع اختیار کر لیتے) تو اپر سے بھی روزی حاصل کرتے (یعنی آسمان سے) اور اپنے پیروں تلے سے بھی (یعنی زمین سے) ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيرٍ
کہ تم کو جو کچھ مصائب پہنچتے ہیں یہ تمہارے اعمال کے سبب سے ہیں اور حق تعالیٰ بہت سی باتوں کو معاف ہی کر دیتے ہیں۔

ان کے علاوہ اور بہت سی نصوص ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعت سے دنیوی فلاج بھی ہوتی ہے اور معصیت سے دنیوی خسارہ ہوتا ہے تو ہم اس مشرب کے بھی نہیں ہو سکتے۔ اب سامعین کو شہیدا ہوا ہو گا کہ جو لوگ احکام میں دنیوی مصالح بتلاتے ہیں ان کے مشرب کو بھی غلط کر دیا اور جو نہیں بتلاتے ان کے مشرب کو بھی غلط کر دیا۔ یہ دونوں غلط کیونکر ہو سکتے ہیں ان میں ایک بات تو صحیح ہونی چاہئے۔

تو ہاں صاحب میں نے دونوں کو غلط کر دیا اور ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں بلکہ ان دونوں کے علاوہ ایک درمیانی درجہ ہے وہ صحیح ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں وہ یہ کہ احکام شرعیہ سے فلاج دنیوی حاصل تو ہوتی ہے مگر احکام شرعیہ سے فلاج دنیوی مقصود نہیں بلکہ ان سے اصل مقصود تورضاً نہ خدا ہے۔ ہاں ساتھ میں تبعاً یہ دنیوی نعمت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے حج کے راستے میں بھی آتا ہے مگر بھی مقصود نہیں۔ تواب یوں سمجھتے کہ تم مشرب ہوئے ایک تو یہ کہتا ہے کہ حج سے بھی کی سیر ہی مقصود ہے تاکہ مسلمانوں کو دنیا کے کار و بار اور تجارت و صنعت کی اطلاع ہو جائے اور ایک یہ کہتا ہے کہ حج سے مقصود زیارت کعبہ ہے اور بھی رستہ میں بھی نہیں آتا۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح مشرب تیرا ہے کہ حج سے مقصود زیارت بیت اور رضاً نہ خدا ہے اور رستہ میں بھی بھی آتا ہے مگر وہ مقصود نہیں۔

اسی طرح احکام شرعیہ کو فلاج دنیا سے نہ توانا تعلق ہے کہ وہی مسود ہو اور نہ اتنی بے تعلقی ہے کہ وہ ان پر مرتب بھی نہ ہو۔ صحیح مذہب یہ ہے کہ احکام شرعیہ پر فلاج دنیا کا ترتیب تو ہوتا ہے مگر یہ مقصود نہیں اور اگر کوئی شخص اعمال صالحہ سے دنیا کو مقصود سمجھے گا اور مصالح دنیویہ کے لئے ان کو اختیار کرے گا تو وہ اعمال صالحہ نہ رہیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انما الاعمال بالنيات و انما لکل امری مانوی فمن کانت هجرته

(انما الاعمال) الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله و من

کانت هجرته الی دنیا يصييها او امراة يتزوجها فهجرته الی ما

هاجر اليه (سنن ابی داؤد: ۲۲۰۱، سنن الترمذی: ۱۶۳۷)

کہ اعمال کا اعتبار نیت سے ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اسے مقصود ہے اگر کوئی اللہ و رسول کے واسطے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت تو واقعی اللہ و رسول کے واسطے ہے اور مقبول ہے اور جو کوئی دنیا کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت خدا و رسول کی طرف نہیں بلکہ اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اس سے صاف فیصلہ ہو گیا کہ دنیا کو اعمال صالحہ میں مقصود سمجھنے سے اعمال صالحہ باقی نہیں رہتے بلکہ صرف اعمال کی نقل رہ جاتی ہے پس اعمال شرعیہ سے دنیا کو غرض بنانا تو ناجائز ہے مگر تبعاً طاعات نے فلاج دنیوی بھی حاصل ہو جاتی ہے اب وہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گا جو میں نے اور پر کہا تھا کہ اس مقام پر حق تعالیٰ نے جو احکام کلیہ بتلائے ہیں ان کا تعلق مصالح دنیویہ سے بھی ہے گو وہ دنیوی مصالح مقصود نہیں۔

آیت کے معنی و تفسیر

اب سمجھئے کہ وہ احکام کیا ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 یعنی اے ایمان والو! صبر کرو اصبروا کا تعلق تو اعمال لازمہ سے ہے جن میں دوسروں سے کچھ تعلق نہیں۔ ان میں حکم ہے صبر کا اور ایک صبر ہے دوسرے مقام پر وہ یہ کہ کسی عمل میں مخالفت کی مزاحمت ہو اس کے متعلق ارشاد ہے وصابر و اکہ مقابلہ میں بھی صبر کرو یعنی استقلال کے ساتھ رہو۔ آگے ارشاد ہے و رابطوا۔ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ مرحد کی حفاظت کرو دوسرے یہ کہ مستعد رہو۔ پہلے معنی خاص عمل کے متعلق ہیں اور دوسرے معنی سب اعمال کو عام ہو سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم کو فلاج حاصل ہو جائے۔ اس ترجمہ سے معلوم ہوا ہو گا کہ اس مقام پر ایک تو صبر کا حکم ہے اور صبر کے دو درجے ہیں اور ایک رباط کا حکم ہے اور ایک تقویٰ کا تو چار حکم ہوئے۔ ایک پانچویں اور ایک چھٹی چیز اور ہے جن میں سے ایک کا اول میں ذکر ہے اور ایک کا آخر میں اول میں ایمان ہے اور آخر میں فلاج ہے ایک چیز بطور مبداء کے ہے اور ایک صورت نتیجہ میں ہے اور چار حکم درمیان میں ہیں کل چھ ہوئے اور ان کے مراتب میں فرق ایسا ہے جیسے سفر اور مسافت اور منزل میں فرق ہے کہ سفر کی ایک ابتداء ہوتی ہے اور ایک درمیانی مسافت ہوتی ہے جس کے بعد کے لئے کچھ مراتب ہوتے ہیں ایک نتیجہ ہوتا ہے یعنی منزل مقصود پر پہنچنا۔

پس یہ کلام ایسا ہے جیسے ہم کسی سے یوں کہیں کہ اے مسافر فلاں رستہ سے جانا اور فلاں مقامات پر ٹھہرنا اور چوروں سے اپنی حفاظت رکھنا تو دہلی پہنچ جائے گا۔ اس کلام سے تمین باقی معلوم ہوں گی ایک یہ دہلی پہنچنے کے لئے سفر کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ وعدہ مسافر ہی سے کیا گیا ہے مگر اس کو بصورت امر اس لئے ظاہر نہیں کیا کہ مخاطب خود ہی سفر شروع کر چکا ہے اب اس سے یہ کہنا کہ اے مسافر سفر کرنا تحریک حاصل ہے اور بلا ضرورت کلام کو طول دینا ہے بس سفر کی ضرورت اس کو مسافر کہہ کر خطاب کرنے ہی سے معلوم ہو گئی۔ یہ مختصر کلام ہے اور دلالت اس کی علی التمام ہے۔ غرض ایک تو سفر کرنا ضروری ہوا اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منازل پر سے گزرنا اور اپنی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ اس طرح تم دہلی پہنچ جاؤ

گے۔ تو سفر شرط وصول ہے اور درمیانی باتیں احکام و اصول ہیں اور تیسری بات نتیجہ ہے ہر مقصود کے لئے ان تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔

اس کی ایک مثال اور نتیجے مثلاً کوئی کہے کہ اے طالب علم رات کو جا گنا اور محنت کرنا تو علم آؤے گا اس کلام سے اول تو طلب علم کا ضروری ہونا معلوم ہوا۔ دوسرا رات کو جا گئے اور محنت کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ تیسرا نتیجہ کا وعدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے علم حاصل ہو جائے گا مگر یہاں بھی طلب علم کو بصورت امر اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا کہ مخاطب خود ہی طلب میں مشغول ہے۔

اسی طرح یہاں بھی یاٰیٰہَا الَّذِينَ آمَنُوا سے ایمان کی ضرورت معلوم ہوئی لیکن اس وقت بصورت امر آمنوا کہہ کر اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا کہ مخاطب اہل ایمان ہی ہیں ان کو آمنوا کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ احکام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ احکام جو ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور دوسرے وہ جو ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے پہلی قسم میں اول ایمان کا حکم کیا جائے گا اور دوسری قسم میں ایمان کا حکم صیغہ امر سے نہ کیا جائے گا۔ جیسے طالب علم کے متعلق ایک تو غیر طالب کو خطاب کیا جائے گا اور ایک طالب علم کو تو جس وقت غیر طالب کو خطاب کیا جائے گا اس وقت یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ علم طلب کرو اور جس وقت طالب علم مخاطب ہو اس وقت اس شرط کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں بھی اسی طرح دونوں قسم کے خطاب ہیں۔

یہ مثالیں میں نے اس لئے دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کے مضامین کوئی نئے نہیں ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو جس طرح ہم لوگ محاورات میں گفتگو کرتے ہیں اسی طرح قرآن میں بھی کلام کیا جاتا ہے۔ ہاں طرز تعلیم ایسا عجیب ہے کہ دوسرے سے ممکن نہیں کیونکہ قرآن میں تمام پہلوؤں کی پوری رعایت ہوتی ہے بہر حال چونکہ اس سورت میں زیادہ احکام اور اکثر خطابات مومین کو ہیں اس لئے آمنوا بصیغہ امر نہیں کہا گیا۔ مگر یاٰیٰہَا الَّذِينَ آمَنُوا ہی سے ایمان کا شرط ہونا معلوم ہو گیا جیسا کہ اوپر چند مثالوں سے میں نے اس کو سمجھا دیا ہے مجھ کو اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اس غلطی میں بٹلا ہیں کہ وہ فلاج کے لئے ایمان کو بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ اس وقت ہم کو دنیوی فلاج سے توبحث نہیں اس کے متعلق تو ہماری حالت یہ ہے۔

ماقصد سکندر و دارا نہ خواندہ ایم ازما بجز حکایت مہرو وفا مپرس
۔ ہم نے سکندر اور دارا کے قصے نہیں پڑھے ہیں ہم سے تو محبت اور وفا کے علاوہ کچھ نہ پوچھو۔

سلامتی کی تعریف

ہم دنیوی ترقی سے منع بھی نہیں کرتے مگر اس کے ساتھ ہی ہم کو اس کے احکام بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں تو ہم اس سے بحث نہیں کرتے کہ دنیوی فلاج و ترقی کے لئے بھی ایمان شرط ہے یا نہیں۔ بلکہ اس وقت فلاج آخرت سے بحث ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمان فلاج آخرت اور وصول الی اللہ کے لئے بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ چنانچہ بہت لوگ ایسے بھنگڑوں کے پیچھے پھرتے ہیں جن کو نہ ایمان سے واسطہ ہے نہ نماز روزہ سے اور کہتے ہیں درویشی کارستہ ہی ایسا ہے چنانچہ اگر کوئی ہندو جوگی آجائے اور دو چار شعبدے ظاہر کر دے اور کسی پر اس کی توجہ سے کچھ اثر بھی ہونے لگے تو اس کو ولی سمجھنے لگتے ہیں اور بہت سے لوگ معتقد ہو جاتے ہیں۔

کانپور میں ایک عیسائی تھا بالکل سرہی اور مجنون مگر کانپور کے عوام الناس اس کو ولی اور اہل خدمت سمجھتے تھے حالانکہ اس کی صورت پر ایسی خوست برستی تھی کہ الامان! مگر اس پر بھی لوگ معتقد تھے۔ غرض عوام کے نزدیک ولایت کے لئے کوئی شرط نہیں۔ ہاں ترک شریعت کی البتہ شرط ہے تو یہ ایسا عجیب عہدہ ہے کہ اس کے لئے کسی کورس کے پڑھنے اور پاس کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں سارے کورس کے چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔

کانپور میں ایک وکیل کہتے تھے کہ ایک بھنگڑیہاں آیا جو "ہے اوست" کہتا تھا۔ اس نے آکر رنڈیوں میں قیام کیا اور بھنگ پی کر رنڈیوں سے بھی منہ کالا کیا مگر عوام اسکے بہت معتقد تھے کہ یہاں پہنچا ہوا ہے۔

اس کے لئے یہ بات یاد کر لی ہے کہ بزرگوں میں ایک فرقہ ملامتی ہوتا ہے جو ظاہر میں ایسے افعال کرتے ہیں جن سے لوگ ان کو با بھلا کہیں اس بناء پر لوگوں نے ان بھنگڑوں کو بھی ملامتی فرقہ میں داخل کر کے ان کے افعال میں تاویل کر لی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آخر ملامتی کی کوئی جامع تعریف بھی ہے یا اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر صحابہ نے بڑی غلطی کی کہ تکوار لے کر کفار کو قتل کیا۔ جب ملامتی کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ کفار بھی اس کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں تو صحابہ نے کفار کو ملامتی سمجھ کر ان کے کفر میں کیوں تاویل نہ کر لی۔ اگر تاویل اتنی ہی ستی ہے تو یوں تو ہر امر کی تاویل ہو سکتی ہے پھر شریعت نے خواہ مخواہ اسلام و کفر کے احکام بیان کئے۔ صاحبو تاویل تو وہاں کی جاتی ہے جہاں آثار تقویٰ غالب ہوں اور ذرا سی کوئی بات خلاف تقویٰ سرزد ہو جائے تو اس میں تاویل کی جاتی ہے

نہیں کہ تاویل اور ہنا بچھونا ہو جائے کہ سرے پیر تک تمام افعال ہی میں تاویل کی جائے۔

یوں تو پھر یہ بھی ایک تاویل ہے جو میرے ایک عزیز نے ایک ہندو سے سنی تھی۔ وہ ریاست گوالیار میں ملازم تھا گھر کے قریب ایک مندر تھا وہاں ایک بٹ پرست روزانہ صبح کو آ کر بہت کوپانی دیا کرتا تھا ایک روز جو وہ پانی دے کر لوئے رگا تو ایک کتا آیا اور ناگ اٹھا کر بہت پر پیشاب کرنے لگا تو میرے عزیز نے اس ہندو کو آواز دی کہ پنڈت جی! ذرا یہاں تو آؤ۔ وہ لوٹ کر آیا تو کہا کہ دیکھئے یہ کتا آپ کے دیوتا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہندو نے کہا حضور کچھ نہیں یہ بھی دیوتا کو پانی دے رہا ہے۔

اگر تاویل ایسی ہی ستی ہے تو پھر کتنے کے پیشاب کرنے کو پانی دینا کہنا یہ بھی ایک تاویل تھی۔ یہی حال آج کل عوام کی تاویلوں کا ہے کہ چاہے کوئی کافر ہو یا فاسق فاجر ہو اور کیسی ہی بیہودہ حرکتیں کرتا ہو سب میں یہ تاویل ہے کہ یہ ملامتی بزرگ ہیں۔ آپ کو خبر بھی ہے کہ ملامتی کی تعریف کیا ہے۔ یہ لفظ صوفیہ کی اصطلاحات میں سے ہے اس کے معنی انہی سے دریافت کرنے چاہئیں۔ غصب تو یہ ہے کہ لوگ کسی فن کو حاصل تو کرتے نہیں محض چند الفاظ یاد کر کے ان کو گاتے پھرتے ہیں۔

سینے ملامتی اس کو کہتے ہیں جو اعمال صالحہ کو سوائے فرائض کے مخفی رکھے اور چھپ چھپ کر نوافل پڑھے کھلم کھلانو افل کو ادا نہ کرے تاکہ لوگ اس کو معمولی آدمی سمجھیں۔

اسی طرح ایک فرقہ قلندر کہلاتا ہے۔ قلندر کی تعریف یہ ہے کہ جو اعمال نافلہ کم کرے اور قلب سے ذکر و شغل زیادہ کرے۔ اس کو اعمال ظاہرہ میں فرائض و واجبات کے سوا اور اعمال کا اہتمام نہیں ہوتا بلکہ باطن کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ملامتی گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے یہ تو محض اختراع و افتراء ہے جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہو اس کو ولایت سے کیا واسطہ! باں شیطانی ولایت سے اس کو البتہ واسطہ ہے۔ پس ان بھنگڑوں کو ملامتی کہنا بالکل غلط ہے۔

ہاں اس جگہ ایک سوال پاٹی رہا۔ وہ یہ کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے بعضی باتیں خلاف شرع کی ہیں تاکہ لوگ ان کو برا بھلا کہیں۔ تو یہ لوگ بزرگ تھے یا نہیں؟ اگر وہ بزرگ تھے تو یہ بھنگڑ بھی دیے ہی بزرگ ہیں ہم ان کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔

تو اس کا جواب بھی سنئے۔ اول تو جن بزرگوں سے ایسی ویسی باتیں منقول ہیں وہ محض وضع کے خلاف تھیں شریعت کے خلاف نہ تھیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے میں صرف پا جامد پہن کر بازار میں چلا جاؤں۔ اس میں گناہ کچھ نہیں البتہ وضع کے خلاف ہے کہ اس صورت سے نکلنے

والے کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور اگر کسی نے کوئی کام خلاف شریعت بھی کیا ہے تو وہ محض ظاہر میں ہیں تا واقفوں کو خلاف شرع معلوم ہوتا تھا واقع میں خلاف شرع نہ تھا۔

(جیسے ایک بزرگ چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت ملی انہوں نے دوڑ کر اس کا بوسے لے لیا۔ یہ حرکت دیکھ کر بہت سے مرید برگشتہ ہو گئے۔ مگر چند لوگ پھر بھی ساتھ رہے آگے چل کر ایک دکان پر پہنچے اور بدوں دکان دار کی اجازت کے حلوا اٹھا کر کھانے لگے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت ان کی باندی تھی جس کا بوسہ لینا شرعاً جائز تھا اور وہ حلوائی ان کا جان شمار مرید تھا جو شیخ کو آتا ہوا دیکھ کر خود ہدیہ پیش کرنے کی نیت کر رہا تھا اور شیخ کے اس طرح بے تکلف کھانے سے وہ باغ بارغ ہو گیا)

دوسرے یہ بات دیکھنا چاہئے کہ پہلے بزرگوں نے ایسے اعتراض کے کام کس غرض سے کئے تھے اس کا اصلی فرشا کبر کا علاج تھا کہ لوگ ہم کو بزرگ نہ سمجھیں۔ اس وقت یہ غرض رندانہ وضع سے حاصل ہوتی تھی اور ایسی وضع بنانے والوں کو سزا میں دی جاتی تھیں۔ اس لئے وہ ایک دو حرکت رندانہ کر لیا کرتے تھے تا کہ عوام معتقد ہو کر پریشان نہ کریں اور اب تو ایسے لوگوں کو عوام قطب وابدال سمجھتے ہیں تو اب یہ غرض رندانہ وضع سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اب یہ بات حاصل ہوتی ہے ملنوں کی سی شکل بنانے اور شریعت کی پابندی کرنے سے آج کل جو شخص ملنوں کی سی شکل بنالے تو ساری دنیا اس کو مکالات سے خالی سمجھتی ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اس کو سوائے مسئلے مسائل کے کچھ نہیں آتا۔ پس آج کل ملامتی بننے کا طریقہ بھی پابندی شریعت ہی ہے۔ غرض یہ بالکل غلط ہے کہ پہلے بزرگوں نے قصد اخلاق شرع کام کئے ہیں بلکہ اس کی حقیقت وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی۔

انظام شریعت کے مجازین

خوب سمجھ لو کہ جو شخص شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا اور اگر تم کو کسی پر ایسا ہی رحم آتا ہے تو اس کو برا بھلامت کہو لیکن معتقد نہ بنو۔ کسی کو برا کہنے کا منصب عوام کا نہیں بلکہ یہ علماء کا منصب ہے۔ تم کسی کو کچھ نہ کہو۔ بلکہ یہ کام جس جماعت کا ہے اسی پر چھوڑ دو۔ اور علماء کو فاسقوں کے برا کہنے کا تو منصب ہے ہی ان کو تو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اچھوں کو بھی برا کہہ دیں اگر انظام شریعت کے لئے اس کی ضرورت ہو۔

چنانچہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بزرگ عالم ساری عمر زندیق کہتے رہے مگر جب شیخ اکبر

کے انتقال کی خبر آئی تو رونے لگے اور فرمایا کہ افسوس آج بہت بڑے صدیق کا انتقال ہو گیا لوگوں کو حیرت ہوئی کہ عمر بھر تو ان کو زندگی کہتے رہے اور آج بہت بڑا صدیق بتلاتے ہیں آخر دریافت کیا کہ اگر وہ ایسا عالی مرتبہ شخص تھا تو آپ نے اب تک زندگی کہہ کر ہم کو اس کے برکات و فیوض سے کیوں محروم رکھا؟ فرمایا واقعی وہ بہت بڑا صدیق تھا مگر تم کو اس سے کچھ نفع نہ ہوتا۔ اگر تم اس کی صحبت میں رہتے تو زندگی ہی بن جاتے کیونکہ اس کے دقيق علوم عام عقول سے بالاتر تھے تم اس کی باتوں کو سن کر اپنی سمجھ کے موافق مطلب نکالتے، حقیقت تک نہ پہنچتے اور زندگی میں بتلا ہوتے۔ اس لئے میں تم کو اس بچاتارہا اور ظاہر میں زندگی کہتا رہا۔

غرض علماء نے انتظام شریعت کے لئے بعض اچھے آدمیوں کو بھی جان کر برائی ہے مگر یہ علماء ہی کا منصب ہے عوام کا منصب نہیں تو اگر آپ کو کسی بھنگر سنگو پرواہیت کا شہر ہو تو آپ اس کو برانہ کہنے کیونکہ برائنا آپ پر فرض نہیں ہے حضرت رابعہ تو شیطان کو بھی برانہ کہتی تھیں اور فرمایا کرتیں کہ مجھے دوست کی یاد سے اتنی فرصت کہاں جو دشمن کا ذکر لے کر بیٹھوں تو اگر آپ کسی کو برانہ کہیں تو اس پر ملامت نہ کی جائے گی یہ تو اچھی بات ہے بلکہ ملامت اس پر کی جاتی ہے کہ تم ان بھنگڑوں سے دینی نفع یاد نیوی فائدہ حاصل کرنے جاؤ۔

مجذوبوں کا معاملہ

اگر ان میں سے کوئی بچ بھی مجذوب ہو تو تمہیں اس سے کیا نفع دین کا، نفع نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے دنیا کا بھی ان سے کچھ نفع نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجذوب سیف زبان ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ ان کی زبان سے نکتا وہی ہے جو ہونے والا ہوتا ہے ان کے کہنے کو دفع میں کچھ دخل نہیں۔ اس میں بھی لوگوں کو نادانی ہے کہ ان کی باتوں کو دفع کا سبب سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اپنے اختیار سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو ہونے والا ہے اگر وہ نہ کہتے جب بھی اس کا دفع ضرور ہوتا۔ تو جب مجذوبوں سے نہ دین کا نفع ہے نہ دنیا کا، پھر تم مفت میں وہاں جا کر گالیاں کیوں کھاتے ہو؟ عجب بات ہے کہ جو بزرگ خوش اخلاقی سے ملیں، ان سے تو عوام بھاگتے ہیں اور جو بات بات میں گالیاں دیں ان کو لپٹتے ہیں۔

وہی قصہ ہو گیا جیسے ایک شخص کی حکایت ہے کہ اس کی بیوی نہایت حسین تھی مگر وہ اسے منہ نہ لگاتا تھا بلکہ ایک رنڈی سے پھنسا ہوا تھا۔ بیوی کو فکر ہوئی کہ دیکھنا چاہئے وہ رنڈی کیسی ہے۔ دیکھا تو صورت میں خاک بھی نہ تھی مگر حالت یہ تھی کہ میاں جب اس کے پاس پہنچتے تو

اس نے دوچار جوتے لگائے کہ بھڑوے کے کہاں تھا اتنی دیر کہاں لگائی۔ وہ جوتے ملتی اور یہ خوشامدیں کرتا۔ بیوی نے سمجھ لیا کہ اس مرد کے لئے اس انداز کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو مرد گھر میں آیا تو بیوی نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ دوچار جوتے لگائے اور گالیاں بر سانے لگی۔ تو وہ مرد نہ سر کرنے لگا کہ بی بی تیرے اندر بس اسی کی کسر تھی اب سے میں کہیں نہ جاؤں گا۔ (تو واقعی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے) بعض آدمی اسی کے مشتاق ہوتے گا۔

ہیں گالیاں کھائیں برا بھلا سین۔ سو یہ طریقہ توبہ کو آتا ہے مگر تہذیب مانع ہوتی ہے۔

بعض لوگ مجذوبوں سے دعا کے واسطے کہتے ہیں تو یاد رکھو وہ کسی کے واسطے دعا نہیں کرتے۔ وہاں دعا کا حکمہ ہی نہیں بلکہ وہ توبہ دیکھتے ہیں کہ حکم کیا ہو رہا ہے مولانا اس کی بابت فرماتے ہیں کفر باشد نزد شان کروں دعا کاے خدا ازما بگردائ ایں قضا

ان کے نزد یک دعا کرنا کفر ہے کماے خدا ہم سے اس حکم کو پھیر دے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ ایک تو کو توال ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مصاحب تو کو توال کی یہ مجال نہیں کہ وہ کسی مجرم کی سفارش کرے تو وہ حکم کا تابع ہے جس کے لئے سزا کا حکم ہوا سزا کر دیتا ہے اور جس کے لئے رہائی کا حکم ہو گیا اسے رہا کر دیتا ہے اور مصاحب کو سفارش کا اختیار ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے مجرم کی سفارش کرتا ہے۔

تو مجذوبوں کا درجہ کو توال کا سا ہے وہ سفارش اور دعا نہیں کر سکتے اور سالک کی حالت دوسری ہے یعنی ان میں مصاحبہ کی شان ہوتی ہے وہ دعا اور سفارش کر سکتے ہیں گو ان کے اختیارات زیادہ نہیں ہوتے مگر مقبول یہی زیادہ ہیں۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے سلطان محمود کے سامنے ایک توایا ز تھا اور ایک حسن میمندی حسن میمندی کے اختیارات بہت کچھ تھے کیونکہ وزیر اعظم تھا اور یا ایز کے اختیارات باضابطہ کچھ نہ تھے کیونکہ وہ کسی عہدہ پر معین نہ تھا مگر مقبولیت اور قرب کی یہ حالت تھی کہ جب محمود کو کسی بات پر غصہ آ جاتا تو کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی اور حسن میمندی کے سب اختیارات رکھے رہ جاتے اس وقت سب لوگ ایاز ہی کی خوشامدیں کرتے تھے کہ اس وقت سلطان سے تمہارے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا۔

پس سالکین کی وہ شان ہے جو ایاز کی شان تھی یہ ہر وقت دعا اور سفارش کر سکتے ہیں تو دنیا بھی انہی کے پاس سے ملتی ہے اور ملنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ خود تم کو خزانے دے دیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ

حاکم سے عرض کر دیں گے اور دین تو انہی میں منحصر ہے مگر لوگوں نے عجیب خلط ملط کر رکھا ہے کہ مجد و بول، ہی سے دنیا بھی طلب کرتے ہیں۔ اور دین بھی حالانکہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں گوہ صاحب ولایت ہوتے ہیں مگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے اور یہ بھی جب ہے کہ وہ مجد و بول ہوں اور صاحب حال ہوں۔ اور اگر صاحب حال نہ ہوں جیسے آج کل عموماً بھنگر سنگر پھر تے ہیں تو وہ صاحب ولایت بھی نہیں بلکہ ان میں بعض تو پاگل مردی ہوتے ہیں اور بعض بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو پورے شیطان ہیں اور صاحب حال کی پیچان اہل علم کے لئے یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر خدا کی محبت زیادہ ہو اور دنیا کی کم ہواب دیکھے! ان بھنگر ہوں کے پاس جا کر بھی بھی ایسا ہوتا ہے ہرگز نہیں۔

پس خوب سمجھ لو کہ ہر مجنون مجد و بول نہیں اور اگر کوئی ہو بھی تو وہاں نہ دنیا ہے نہ دین۔ دنیا تو اس لئے نہیں کہ وہ دعا نہیں کر سکتا اور دین اس لئے نہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں۔ پس ان کی زیارت تو کرو وہ بھی جب کہ ان میں صاحب حال ہونے کی علامت موجود ہو جس کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں ورنہ جاہل کو تو مجد و بول اور مجنون میں فرق نہیں معلوم ہو سکتا مگر زیارت کے سوا اور کوئی تعلق نہ رکھو جی کہ میں تو اہل علم کو بھی خاص طور پر یہی کہتا ہوں۔

دین اور ترقی

غرض يَا إِيَّهَا الْذِينَ آمَنُوا سے یہ مسئلہ مرتبط ہو گیا کہ فلاج آخرت کے لئے ایمان یقیناً شرط ہے اور اس سے قرآن کی جامعیت معلوم ہوتی ہے کہ ذرا سے لفظ سے کتنا بڑا مسئلہ ثابت ہو گیا گویہاں اس پر کوئی زور نہیں دیا گیا کہ نہ صیغہ امر سے اس کو تعبیر کیا گیا مگر طرز خطاب ہی سے یہ لفظ اس مفہوم پر دلالت کر رہا ہے کہ فلاج کے لئے سب سے اول ایمان شرط ہے۔ پس اول درجہ تو ایمان کا ہے دوسرا درجہ اس کے بعد مراتب متواتر کا ہے جن کو۔

اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

صبر کر و خود تکالیف اور کفار کے مقابلہ پر اور مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

میں بیان کیا گیا ہے یہ چار چیزیں ہیں اور تیسرا درجہ نتیجہ کا ہے جس کا بیان لَعْلُكُمْ تُفْلِحُونَ (امید ہے کہ تمہیں فلاج حاصل ہو) میں ہے جو شمار میں چھٹی چیز ہے۔

گورنمنٹ کا مقضیا یہ تھا کہ میں اول مراتب متواتر کو بیان کرتا لیکن میں ضرورت کی وجہ سے نتیجہ کو مقدم کرتا ہوں کیونکہ آج کل ترقی و فلاج پر بہت گفتگو ہو رہی ہے اور ہر شخص اس کا طالب ہے۔ تو سنئے۔ حق تعالیٰ ایمان اور چند احکام بیان فرمائے بطور نتیجہ کے فرماتے ہیں لَعْلُكُمْ تُفْلِحُونَ کہ امید ہے تم کو فلاج حاصل ہو۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اخیر چیز اور

مقصود فلاج ہے دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اس کا وعدہ ان اعمال مذکورہ پر کیا گیا ہے اور یہاں فلاج مطلق ہے جس کو فلاج دین وغیرہ کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا تو اس درجہ میں عموم الفاظ کی بنابری میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ فلاج خواہ دین کی ہو یاد نیا کی ان احکام پر ہی عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اعمال شرعیہ سے مقصود تو شخص فلاج دین ہے مگر ترتیب فلاج دنیا کا بھی ہوتا ہے پس فلاج دین تو اس لفظ کا مدلول مطابق ہے اور فلاج دنیا مدلول التزامی ہے یعنی اعمال شرعیہ کے لئے فلاج دنیا لازم ہے گو مقصود نہ ہو۔

اب سنئے کہ اس زمانہ میں ہر شخص فلاج کا طالب ہے فلاج دنیوی کے طالب تو بہت کثرت سے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے لئے دین کو بھی برپا کر دیا جاتا ہے اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دین کو برپا نہ کریں اس وقت تک فلاج دنیوی حاصل نہیں ہو سکتی چنانچہ بعض لوگوں کو جب گناہوں سے بچنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو دنیا دار آدمی ہیں ہم سے تقویٰ طہارت کہاں ہو سکتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا دار ہونا تقویٰ طہارت کے منافی ہے۔ گویا یوں کہئے کہ دین کی ترقی دنیا کے لئے مضر اور مانع سمجھتے ہیں اسی لئے کوئی تجارت کرتا ہے تو اس میں احکام شرعیہ کی رعایت نہیں کرتا کوئی زراعت کرتا ہے تو اس میں ناجائز امور سے اجتناب نہیں کرتا اور عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ دین دار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تجارت و زراعت وغیرہ سب کو بالائے طاق رکھ دے اور ان کا ملوں میں مشغول ہو کر دین دار بنا مشکل ہے کیونکہ دین ان کا ملوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔

سو خوب سمجھ لو کہ یہ خیال بالکل غلط ہے دین ہرگز فلاج دنیا اور ترقی دنیا کے لئے مانع نہیں ہے اور دین دار بن کر بھی تجارت و زراعت ہو سکتی ہے مگر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ذریعہ معاش دین کے خلاف نہ ہوتی تو وہ دنیا نہیں ہے بلکہ عین دین ہے کیونکہ حدیث میں ہے۔

کسب الحلال فرضة من بعد الفريضة (حدیث لا ولیاء: ۱۶۲، کشف الخفاء للحجلوی ۱۶۲۲)

حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ اس صورت میں تجارت و زراعت بھی باعث ثواب ہے بلکہ ان کا ملوں میں مشغول ہو کر دین کی پابندی کرنا یہ نرے ذکر و شغل سے افضل ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا جو بہت بڑے تارک اور زاہد اور صوفی تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھے بخش دیا گیا۔ مگر بھائی ہمارے پڑوس میں جو ایک مزدور صاحب عیال رہتا تھا وہ ہم سے افضل رہا۔ کیونکہ وہ رات دن اپنے بال بچوں کے لئے محنت مزدوروی کرتا اور ذکر و شغل کم کرتا تھا مگر ہر

وقت اس کی تمنا یہ تھی کہ فرصت ملے تو میری طرح ذکر میں مشغول ہو۔ حق تعالیٰ نے اس نیت کی برکت سے اس کو وہ درجہ عطا کیا جو مجھے بھی نصیب نہیں ہوا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کب حلال کے ساتھ احکام الہی کی پابندی کرنا ترے ذکر و شغل ہونے سے بعض دفعہ افضل ہو جاتا ہے مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھئے کہ سب کے لئے یہی طریقہ افضل ہے اور اس ہر شخص اسی طریقہ کو اختیار کر لے۔ بات یہ ہے کہ مصالح باہم متعارض ہیں کسی کے لئے ایک طریقہ مصلحت ہے اور کسی کے لئے مفسدہ ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے طب میں ایک ایک مرض کے لئے متعدد دوائیں میں نافع ہوتی ہیں مگر ہر دوہر شخص کے لئے مفید نہیں ہوتی بلکہ اس میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہر شخص کے مزاج کا لحاظ کر کے چند دوائیں میں سے ایک منتخب کیا جائے اور اس کے ساتھ کچھ اور دوائیں بھی ملائی جائیں جو اس کی مضرتوں کی اصلاح کرو دیں اور نفع کو قوی کر دیں چنانچہ طبیب ان سب باتوں کا لحاظ کر کے نسخہ مرتب کرتا ہے اب اگر کوئی مریض حکیم کے نسخہ کو چھوڑ دے اور اس میں سے صرف ایک دوائی کو چھانٹ لے تو یہ اس کی غلطی ہے اس طرح وہ کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ گو وہ خود دوایوں نے منتخب کی ہے اس مرض کو مفید ہے مگر اس مریض کے مزاج کے لحاظ سے اس کے ساتھ بد رقتہ اور مصلح کی ضرورت تھی جس کے بغیر یہ دوامرض کو زائل نہیں کر سکتی۔

ای طرح باطن میں بھی ہر مریض کو شیخ کی تجویز کا اتباع ضروری ہے اپنی رائے سے کسی طریقہ کے تجویز کر لینے کا سے حق نہیں ہم نے مانا کہ اشتغال بالکسب بھی بعض دفعہ وصول کے لئے کافی ہو جاتا ہے مگر ہر ایک نہیں بلکہ خاص استعدادوں کو کافی ہوتا ہے اور بدون خاص استعداد کے اس سے نفع نہیں ہوتا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے طلباء میں مشہور ہے کہ شرح ملا جامی کسی کو اچھی طرح آجائے تو استعداد علوم کے لئے کافی ہے تو ایک طالب علم نے یہ بات سن کر اول ہی سے شرح جامی شروع کر دی اور دس بارہ برس تک اسی میں مشغول رہا۔ تو یہ اس کی جماقت ہے کیونکہ شرح جامی گواستعداد علوم کے لئے کافی ہے مگر خود اس کے لئے بھی تو خاص استعداد کی ضرورت ہے جو میزان منشعب اور نحو میر و بدایۃ الخ وغیرہ کے بغیر حاصل نہ ہوگی۔

ای طرح اشتغال بالکسب ضرور کافی ہے مگر اس کے لئے بھی خاص استعداد کی ضرورت ہے اور وہ استعداد حاصل کرنے کے لئے طبیب کامل سے مشورہ کی ضرورت ہے پھر جس کے لئے وہ اشتغال بالکسب تجویز کرے اس کو یہی طریقہ مناسب ہے اور جس کے لئے ترک اسباب تجویز کرے اس کے مناسب یہی طریقہ ہے کیونکہ جس طریقہ کو شیخ تجویز کرتا ہے حق تعالیٰ اس کو

طالب کے مناسب ہی کر دیتا ہے کسی طریق کا مناسب ہونا یا غیر مناسب ہونا تو دراصل حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور وہیں سے سب کچھ ملتا ہے مگر وہ اکثر مشائخ کاملین کے دل میں ہر ایک کے مناسب ایک بات ڈال دیتے ہیں کہ اس مریض کے لئے فلاں طریق تجویز کرنا مناسب ہے۔

کار زلف تست مشک افشا نی اما عاشقان مصلحت راجحہ تجویز برآ ہوئے چیں بستہ اندر (مشک انشانی تیرے زلف کا کام ہے مصلحت کیجسے چیں کے ہنوف پا سکی تہست باندھ دی ہے)

غرض حق تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے ایک خاص طریق مقرر کیا ہے کہ اس کو اسی سے وصول ہوتا ہے کسی کو اشتغال بالکرب سے دولت ملتی ہے اور کسی کوترک اسباب سے پس جس کے لئے جو طریقہ تجویز کردئے وہ اسی کو اختیار کرے اور اسی پر راضی رہے کسی کے لئے خندہ مناسب ہے اور کسی کے لئے گریہ مناسب ہے اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دینا چاہئے اسی کو کہتے ہیں۔

بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندہ است بعد لیب چہ فرمودہ کہ نالاں است
گل کے کان میں کیا کہہ دیا ہے کہ وہ خندہ ہے اور بمل سے کیا فرمادیا ہے کہ وہ نالاں ہے۔
مولانا فرماتے ہیں۔

چونکہ بر صحبت بہ بندوبستہ باش چوں کشاید چاک و برجستہ باش
یعنی جب وہ باندھ دیں بندھے رہو اور جب کھول دیں کو دتے پھرو۔
اگر وہ بے فکری دیں بے فکر رہو اور اگر افکار میں بنتا رکھیں تو اسی میں خوش رہو کیونکہ افکار و
تشویشات سے بھی ترقی ہوتی ہے اور ثواب بڑھتا ہے طلب اسی کا نام ہے اور بدون اس کے کام
نہیں چل سکتا۔ اس طریق میں اپنی تجویز کو فنا کر دینا چاہئے بعض لوگ ان تجویزوں ہی کی وجہ
سے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے لئے ایک خاص حالت تجویز کر لیتے ہیں کہ ہم اس حال
میں رہیں تو اچھا ہے پھر جب اس کے خلاف دوسری حالت طاری ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں۔

میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو عالم آدمی معمڑ پی کلکشتر تھے جب ان کی پیش ہو گئی تو ان کا
جی چاہتا تھا کہ الگ بیٹھ کر اللہ اللہ کروں۔ خدا کی قدرت کے ذکر و شغل شروع کرنے کے بعد ان
کے دو بیٹے ایک دم مجنون ہو گئے۔ ایک تو ان کا لڑکا ہے اور ایک لڑکے کا لڑکا ہے۔ تو وہ سخت
پریشان ہو گئے کیونکہ اب ان کے علاج معالجہ میں مشغول ہونا پڑا۔ وہ خلوت و یک سوئی فوت ہو گئی
اور بعض دفعہ اللہ اللہ کرنا بھی نصیب نہ ہوتا تھا لیکن عارف کے لئے کچھ پریشانی نہیں کیونکہ عارف

اپنے لئے کوئی حالت تجویز نہیں کیا کرتا۔ جب تک حق تعالیٰ خلوت میں رکھیں خلوت میں رہتا ہے اور جب وہ خلوت سے نکالنا چاہیں نکل جاتا ہے اور اسی میں راضی رہتا ہے اسی کو فرماتے ہیں۔

چونکہ بریخت بہ بند دستہ باش چوں کشاید چاک و برجستہ باش یعنی جب وہ باندھ دیں بند ہے رہا اور جب کھول دیں کوڈتے اچھلتے پھر و۔

میں کہتا ہوں کہ اصل مقصود تورضائے حق ہے اور وہ جس طرح خلوت میں ہوتی ہے بعض دفعہ خدمت خلق میں بھی ہوتی ہے تو کیا ان کو مجنون کی خدمت میں ثواب نہ ملتا، ضرور ملتا، اس صورت میں یہ فکر ہی ترقی کا موجب ہے اس وقت بے فکری اور خلوت مفید نہیں بلکہ خلوت میں اللہ اللہ کرنے سے جو ثواب ملتا۔ خدمت مجنون میں اس سے زیادہ ملتا پھر پریشانی کس لئے؟ ایک شخص حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں یہاں ہو گیا تھا کتنی وقت سے حرم میں جا کر نماز بھی نہ پڑھ سکا اس کا بہت رنج ہے حضرت نے فرمایا کہ قرب کے طریقے مختلف ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ گھر پر نماز پڑھو اور حرم کی حاضری کو ترسو۔ جس حال میں وہ رکھیں اسی میں راضی رہتا چاہیے۔

پھر فرمایا کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے حج کو بسمی سے بھی جاتے ہیں اور کراچی سے بھی۔ اگر وہ بسمی سے بلاو میں بسمی سے چلے جاؤ اور کراچی سے بلاو میں تو کراچی سے چلے جاؤ۔ مقصود دونوں حالتوں میں حاصل ہے اسی کو فرماتے ہیں۔

چوں کہ بریخت بہ بند دستہ باش چوں کشاید چاک و برجستہ باش یعنی جب وہ باندھ دیں بند ہے رہا اور جب کھول دیں تو کوڈتے اچھلتے پھر و۔

اسی طرح اگر حق تعالیٰ کسی کو اسباب میں رکھیں اسباب میں رہا اور ترک اسباب میں رکھیں تو اسی میں رہو چنانچہ اگر کوئی شخص زراعت و تجارت اس طرح کرے کہ وہ دین کے موافق ہو کوئی بات خلاف شرع نہ ہو تو یہ عین ثواب ہے اور اس حالت میں یہ دنیا نہیں بلکہ عین دین ہے ہاں اگر کوئی بات دین کے خلاف ہو تو البتہ یہ دنیا ہے جو دین کو مضر ہے لیکن یہ خیال غلط ہے جو عام طور پر لوگوں کے دل میں جما ہوا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کے کام نہیں ہو سکتے اور دنیاوی فلاج بدون ترک دین کے حاصل نہیں ہو سکتی خدا تعالیٰ کا کلام اس خیال کو غلط بتا رہا ہے کیونکہ یہاں حق تعالیٰ نے چند احکام بیان فرمایا کر لعلکُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا ہے جو اپنے عموم سے فلاج دنیوی کو بھی شامل ہے۔

فلاج کی حقیقت

اس میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ یہ اعمال شرعیہ فلاج اخروی کا طریق تو ہیں ہی مگر فلاج دنیوی

بھی ان کو لازم ہے لیکن سب سے پہلے فلاح کی حقیقت سمجھنا چاہئے تو سمجھو کر فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ آج کل لوگوں نے کثرت مال کو فلاح سمجھ لیا ہے۔ یہ غلط ہے دیکھئے قارون کو بہت لوگ صاحب نصیب اور صاحب فلاح سمجھتے تھے وہ بھی اسی خیال کے لوگ تھے جیسے آج کل بعض لوگوں کا خیال ہے چنانچہ حب وہ اپنے حشم خدم لے کر ساز و سامان کے ساتھ نکلا ہے تو ان لوگوں کی راہ پر پڑی اور کہنے لگے

يَلِيْسَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ فَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٌ

کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے تو اس وقت جو عقلاء تھے انہوں نے ان لوگوں کو ان کی غلطی پر متنبہ کیا اور بتلایا کہ فلاح اور خوش نصیبی کثرت مال سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اطاعت خداوندی سے حاصل ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. وَلَا يُلْقَهَا إِلَّا الصَّرُورُونَ

اور جن لوگوں کو فہم عطا ہوا تھا وہ کہتے گے کہ اسے تمہارا تاس ہو (تم اس مال اور سامان پر کیا لمحاتے ہو) اللہ تعالیٰ کا ثواب ہزار درجہ اس سے) بہتر ہے جو (دنیوی حرص و طمع سے) صبر کرنے والے ہیں۔ اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ کثرت مال سے خوش نصیبی اور فلاح نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی فلاح اور خوش نصیبی بھی اطاعت الہیہ تی سے حاصل ہوتی ہے اس زمانہ کے عوام عقلاء تو اس جواب سے خاموش ہو گئے ہوں گے مگر شاید کسی کو دلیل حسی کا انتظار رہا ہو تو وہ زمانہ عجیب تھا کہ بات بات کے لئے دلائل و آیات ظاہر ہوتی تھیں چنانچہ حق تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے دنیا واروں کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ واقعی خدا تعالیٰ کی تافرمانی کرنے والوں کو دنیوی فلاح بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ گوہ کیسے ہی مالدار ہوں بلکہ دنیا میں بھی خوش نصیب اور صاحب فلاح دیندار ہی ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَخَسَقْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ ذُؤْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَةً بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُ اللَّهُ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسْفٌ بِنَا وَيُكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفَّارُونَ

پھر ہم نے قارون کو اور اس کے محل سرائے کو زمین میں دھنسا دیا سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی

تمنا کر رہے تھے وہ آج اس کو دھنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہے بیشگی سے دیتا ہے (یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم کثرت مال کو خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ بس جی خوش نصیبی اور بد نصیبی کامدار اس پر نہیں بلکہ یہ تو محض کسی حکمت کی وجہ سے ہے) اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا (کیونکہ حب دنیا کے گناہ میں ہم بھی بتلا ہو گئے تھے) بس جی معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی (گوچند روزمرے لوٹ لیں مگر انعام پھرنا کامی اور خسان ہی ہے) اس میں حق تعالیٰ نے دنیاداروں کا قول نقل فرمایا ہے کہ آخوندوں نے بھی اقرار کر لیا کہ کافروں کو فلاح اور کامیابی نہیں ہوتی اور یقیناً قارون کی جو حالت اخیر میں ہوتی اس کو دیکھ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قارون کامیاب تھا۔ ہرگز نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مال یا ب تھا۔ پس معلوم ہو گیا کہ فلاح کامیاب کا نام ہے نہ مال یا ب کا۔

تمول اور کامیابی

یہ ضروری نہیں کہ جو شخص مال یا ب ہو وہ کامیاب بھی ہو، مگر عجیب اندھیر ہے کہ آج کل لوگ تمول ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مال خود مقصود نہیں بلکہ یہ تو مقصود کا وسیلہ ہے مال تو ایسا ہے جیسے بادام کا خول اور مقصود ایسا ہے جیسے بادام کا مغز، تو بڑانا داں ہے وہ شخص جو حملکے کو مقصود سمجھے اور ان ہی کو جمع کرنے میں ساری عمر گنوادے اس کا دماغ کو بادام سے خاک بھی قوت حاصل نہ ہوگی اور یقیناً وہ مقصود سے ناکام رہے گا اور جو شخص مغز کو مقصود سمجھے اور اسی کو جمع کرے گواں کے پاس چھملکہ ایک بھی نہ ہو وہ کامیاب ہے۔ اس کے دماغ میں بے شک قوت پہنچ گی۔ اب سمجھو کر اصل مقصود کیا ہے تو سب جانتے ہیں کہ مال آرام و راحت کے لئے جمع کیا جاتا ہے۔ پس راحت و آرام اصل چیز ہے اور یہی مغز ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کو بدون مال کے آرام و چین حاصل ہو تو وہ کامیاب ہو گا یا نہیں؟ یقیناً وہ کامیاب ہو گا۔

اہ کی لیکی مثل ہوگی جیسے کسی کے پاس بادام کی گریاں موجود ہوں گوچھلکے نہ ہوں اور اگر کسی کو باوجود کثرت مال کے آرام و چین نصیب نہ ہو تو بتائیے وہ ناکام ہے یا نہیں؟ یقیناً وہ ناکام ہے اور بے چینی کے ساتھ اس کے پاس مل کا جمع ہونا ایسا ہے جیسے کسی کے پاس خالی بادام کو چھلکے جمع ہوں جن میں معز کا نام نہ ہو۔ تو میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ مطیع خدا کے برابر دنیا کا آرام و چین بھی کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو وہ راحت ہے جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں۔ مجھے آپ کوئی دین دار دنیوی آسائش سے محروم دکھا دیجئے اور میں دنیادار ہزاروں آرام سے محروم بتلاتا ہوں جو ہر وقت

سینکڑوں تشویشات اور ہزاروں افکار میں بنتا ہے۔

میں بقسم کہتا ہوں کہ مجھ کو امیروں پر غریبوں سے زیادہ حرم آتا ہے کیونکہ غریبوں کو اتنے افکار نہیں ہیں جتنے امراء کو ہیں ہمارے اکثر بھائی چندوں میں امیروں کی گرد نہیں دباتے ہیں اور ان سے زیادہ وصول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر میں وہ غریبوں سے زیادہ مالدار ہیں مگر مجھے ان پر حرم آتا ہے کیونکہ جیسا مال ان کے پاس زیادہ ہے ویسے ہی ان کے افکار بھی زیادہ ہیں اور خرچ بھی بہت ہیں۔ مثلاً کسی کی آمدنی پانچ سور و پیہ ماہوار کی ہے تو اس کے اخراجات سات سور پے ماہوار کے ہیں۔ اور خرچ کا آمدنی سے زیادہ ہوتا جز ہے لفقت اور پریشانی کی اور جو لوگ غریب ہیں ان کی آمدنی اور خرچ عموماً برابر ہے جتنا کمالیا، ہی کحالیا پہن لیا بلکہ اس میں سے بعض دفعہ کچھ بچایتے ہیں اس لئے غریب آدمی دس پیسوں میں سے ایک پیسہ بآسانی دے سکتا ہے اور امیر آدمی ایک ہزار میں سے بھی ایک روپیہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ وہ ہزار سے زیادہ کام مقرض ہے۔ وہ اگر ایک روپیہ دے گا تو اس سے بھی قرض میں ہی کچھ اضافہ ہو گا۔ تو جو اس راز کو سمجھنے گا وہ امیروں پر غرباء سے زیادہ حرم کرے گا۔ مگر لوگ ان کے ظاہری سامان کو دیکھ کر انہی کی گردان دباتے ہیں۔ تو ان بے چاروں کو زیادہ نہ ستانا چاہئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ غریب آدمی کا گراخراجات بڑھتے ہیں تو وہ آمدنی بھی بڑھادیتے ہیں مثلاً پہلے دو آنے یومیہ پر مزدوری کرتے تھے کسی سال گرانی ہو گئی تو انہوں نے مزدوری بڑھادی ساب چار آنے یومیہ پر کام کرنے لگا اور کام لینے والے مجبور ہو کر وہی دیتے ہیں جو مزدور مانگتا ہے تو غریبوں کی آمدنی ان کے اختیار میں ہے اور امراء کی آمدنی ان کے قبضہ میں نہیں۔ نیز امراء کے تعلقات بھی وسیع ہوتے ہیں غرباء کے تعلقات اس درجہ وسیع نہیں ہوتے۔ غریب کو بہت سے بہت اپنے گھر کا فکر ہے اور بال پھول کا یادو چارجنوروں کا اور امیروں کو گھر کا الگ فکر، حباب اور حکام کی خاطر مدارات کا جدا فکر، پھر جائیداد اور زمین کا بھی خیال ہے کوئی بیمار ہو جائے تو طبیب کے بلا نے کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے، غرباء اول تو بیمار کم ہوتے ہیں اور جو ہوئے بھی تو ویسے ہی دو چار دن پھر پھر اکراچھے ہو جاتے ہیں غرض امراء کے ساتھ تعلقات بہت لگے ہوئے ہیں اور جتنے یہ تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی سوہان روح زیادہ ہوتا ہے

اولاد کا عذاب

حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا

ان کے اموال واولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے دنیوی زندگی میں ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔

حق تعالیٰ نے اموال واولاد کو اس جگہ عذاب فرمایا ہے اور واقعی غور کر کے دیکھا جائے تو کثرت مال واولاد کے ساتھ افکار و تشویشات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہی کلف و پریشانی کی حقیقت ہے جس میں امراء اکثر بتتا ہیں چنانچہ کسی مالدار کے اولاد نہ ہو تو اس کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد یہ تیرے میرے پاس پہنچ گا اس لئے وہ کسی نہ کسی کو منع نہیں بناتا ہے اور بعد میں اپنے بھی اولاد ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے اور اگر کسی کو مال کے ساتھ اولاد بھی نصیب ہو جائے تو خیر ایک غم تو وہلا اب یہ فکر ہے کہ بچہ بڑا ہوا ہے اس کی تعلیم و تربیت کرنا چاہئے اور یہ ایسی چیز ہے کہ کسی کے قبضہ و اختیار میں نہیں۔ بعض دفعہ لاکھ کو شش کرو گمراہ اولاد نالائق اٹھتی ہے اور جو لاائق بھی ہوئی تو پھر اس کے نکاح کی فکر ہے سو پریشانیوں کے بعد نکاح بھی ہو تو اب یہ فکر ہے کہ میئے کے اولاد نہیں ہوتی۔ اگر لڑکا بے اولاد رہ گیا تو پھر جائیداد کے غیروں کے پاس جانے کا اندیشہ ہے غرض عمر بھر یہی پریشانی رہتی ہے۔

میں نے ایک بڑی بی کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بہت چاہتی تھیں رات کو سب بچوں کو اپنے ہی پلنگ پر لے کر سوتی تھیں جب اولاد زیادہ ہوئی تو پلنگ کی بجائے فرش پر سب کو لے کر سوتی تھیں اور رات کو یہ حالت تھی کہ بار بار اٹھ کر سب کو ہاتھ سے ٹوٹتی تھیں کہ سب زندہ بھی ہیں یا نہیں اور اگر ذرا کبھی کسی کو تکلیف ہو گئی تو بس ساری رات کی نیند اڑ گئی تو بھلاں صورت میں یہ اولاد عذاب نہیں تو کیا ہے خدا کی قسم راحت میں وہ ہے جس کدل میں صرف ایک کی محبت ہو وہ ایک کون خدا تعالیٰ اور یہ حالت ہو۔

یک ہی کو دیکھا ایک ہی کو جان ایک ہی کو چاہ ایک ہی کو پڑھ اور ایک ہی کی تلاش کر۔

خلیل آسا در ملک یقین زن نوائے لا احباب الاقلین زن
حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح یقین کا دروازہ کھنکھٹا اور لا احباب الاقلین (میں فانی ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا) کی صدابلند کرائی کو ایک عارف فرماتے ہیں۔

مصلحت دید من آنست کہ یاراں ہمہ کار بگزارند و خم طرہ یارے گیرند
مصلحت یہ ہے کہ دوست سارے جہاں کی مصلحتوں کو چھوڑ کر محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہوں۔

اور فرماتے ہیں۔

دلار امیکہ داری دل دروبند ڈگر چشم از ہمہ عالم فرو بند
جس محبوب سے تمہارا دل بستہ ہے تو پھر تمام جہان سے آنکھیں بند کرلو۔

پریشانی افکار کی وجہ

شاید کسی کو یہاں پر یہ شہہ ہو کہ پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ پریشانی میں بھی ثواب ہوتا ہے اور اب پریشانی کی نہ مدت کرنے لگے۔ تو تم بھوکہ پریشانی و قسم کی ہے۔

۱۔ ایک اضطراری

پہلی قسم کی میں نے فضیلت بیان کی تھی کہ اگر من جانب اللہ کسی کو افکار میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ اسی پر راضی رہے۔ اس وقت فکر ہی سے ترقی ہو گی اور ثواب بڑھے گا اور دوسری قسم کی نہ مدت کر رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے پریشانی کو مول لینا سراسر موجب کلفت ہے غرض تعلقات ماسوی اللہ یہ ہیں حقیقت میں تکلیف وہ۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سلاسل و اغلال جہنم کی حقیقت تعلقات ماسوی اللہ ہیں۔ یعنی سلاسل و اغلال جہنم ان تعلقات کی صورت ہیں جو دنیا میں انسان غیر اللہ سے پیدا کرتا ہے جن سے یہاں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ سلاسل و اغلال کی صورت میں ظاہر ہوں گے تو کیا ایسے مالدار کو کامیاب کہیں گے جو باوجود کثرت مال کے راحت قلب سے محروم ہو۔ ہرگز نہیں۔ البتہ اگر مال سے قلب کو تعلق نہ ہو تو پھر وہ آلہ عذاب نہ ہو گا اور نہ اس صورت میں کثرت مال کا کچھ حرج ہے۔

غرض اصل مقصود راحت و آسائش ہے اور وہ دنیا میں بھی دین داروں ہی کو حاصل ہے۔ پس آخرت کی فلاح توان کے لئے ہی دنیا کی فلاج بھی انہی کے لئے ہے کیونکہ روحانی راحت دنیا میں ان کے سوا کسی کو نہیں بلکہ میں اس سے بھی ترقی کر کے کہتا ہوں کہ دین داروں کو روحانی راحت تو حاصل ہے ہی جسمانی راحت بھی انہی کو حاصل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں نہیں ہوتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہاں ای اور حادث میں ان کو روحانیطمینان کے ساتھ جسمانیطمینان بھی حاصل ہوتا ہے وہ مصائب میں نہایت استقلال اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں اور دنیا داروں کو ایسے وقت میں روحانیطمینان تو ہوتا ہی نہیں جسمانی راحت بھی نہیں ہوتی۔ ان کے چہروں پر ہوائیں اڑتے نکلتی اور باتوں سے گھبراہٹ و بے صبری نہیں ہوتی ہے۔

مثلاً جب طاعون آتا ہے تو جتنے لوگ دین دار ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوتی نہ وہ گھبراہٹ کی

باتیں کرتے ہیں نہ مردوں کا شمار کرتے پھر تے ہیں کہ آج کتنے مرے اور کل کتنے نہ اپنی مجلسوں میں ہر وقت اس کا تذکرہ کرتے ہیں بلکہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور نہ وہ اپنے مرنے سے گھبراتے ہیں ان کو طاعون کی پروا بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا توماق یہ ہے اَنَا إِلٰهٌ لِّمَنْ قَبْلَنِي وَكُلُّ رَبٍّ لَّمْ يَرْبُّنِي کہ مر کر، ہم اپنے خدا کے پاس پہنچ جائیں گے تو جو شخص موت کو میراج سمجھتا ہے وہ طاعون سے کیا ڈرے گا بلکہ اَللَّهُ تَوَسُّعُ كَمَا تَوَسَّعَ

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم راحت جان طلیم وز پئے جاناں بروم
ند رکرم کہ گر آید بسراں غم روزے تادر میکدہ شاداں و غزل خواں بردم

اس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے اور محبوب حقیقی کے پاس جاؤں میں نے نذر کی ہے کہ اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو خوش و خرم اور غزلیں پڑھتا ہو جاؤں۔

وہ تو موت کو ایسا شیریں سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے نذر میں مانتے ہیں خیر یہ تو بڑے دین داروں کی حالت ہوتی ہے مگر معمولی دین داروں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ طاعون سے اس قدر پریشان نہیں ہوتے جتنے دنیادار پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے طاعون میں ایک ہندو کو مرتے دیکھا چونکہ وہ سب سے میل جوں رکھنے والا تھا اس لئے یکاری میں اس کے دیکھنے کو ہندو مسلمان بھی جاتے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ ہائے ہائے کرتا تھا اور سخت پریشان تھا حالانکہ بڑا مالدار تھا مگر اس وقت مال نے اس کی پریشانی کو کچھ کم نہ کیا۔

اور ہم نے مسلمانوں کو بھی طاعون میں مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بڑے خوش و خرم جان دیتے تھے ہمارے یہاں ایک دفعہ طاعون بہت زور کا ہوا تو مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب سے پردیسی طلباء اپنے اپنے وطن جانے لگے کیونکہ مولانا کا اسی طاعون میں وصال ہو چکا تھا تو ان میں ایک طالب علم نور احمد نامی تھا جس کی عمر ۱۸ سال تھی گھر جانے کے لئے تیار تھا کہ رات ہی کو اسے بخارہ والی نمودار ہوئی سب کو بڑا رنج ہوا کہ اس بے چارہ کو اپنے وطن کی کسی حسرت ہو گی گھر جانے کو تیار بیٹھا تھا اور اب موت کا سامان ہونے لگا تو بعض لوگوں نے تسلی کے طور پر اس سے کہا کہ نور احمد گھبراو نہیں ان شاء اللہ تم اچھے ہو جاؤ گے اور تند رست ہو کر اپنے گھر جاؤ گے تو وہ کہنے لگا بس اب میرے واسطے ایسی دعا نہ کرو اب تو خدا تعالیٰ سے ملنے کو جی چاہتا ہے یہ دعا کرو کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسے گھر کی ذرا بھی حسرت نہیں چنانچہ ایک دو روز میں اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جنازہ پر ایک نور تھا۔

صاحب۔۔ بھلا ایسے لوگ کیا پریشان ہوں گے جو خدا تعالیٰ کے ہر حکم پر راضی ہیں۔ کھانے کو کم ملے تو اس پر راضی، پہنچنے کو کپڑا پھٹا پر اندا ملے اس پر راضی، بیماری آؤے تو اس پر راضی، پھر انہیں کا ہے کاغم۔ ان کی طرف سے دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے وہ بھی پریشان نہ ہوں گے۔ کیونکہ وہ سب کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں اور۔

ہر چہ از دوست میر سند نیکو ست
(جو کچھ دوست سے پہنچ اچھا ہے) اور
ہرچہ آل خروکند شیریں بود
(جو کچھ بادشاہ حقیقی تصرف کریں دل پسند ہوتا ہے)

حضرت بہلوں داتا نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ فرمائیے کہ آج کل کیونکر گزرتی ہے؟ فرمایا، اس شخص کی خوشی کا کیا حال پوچھتے ہو، جس کی خواہش کے خلاف عالم میں کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہے بہلوں نے کہا کہ یہ کیوں کر؟ فرمایا کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یقیناً خدا کے ارادہ کے موافق ہوتا ہے اور میں نے اپنے ارادہ کو ان کے ارادہ میں فنا کر دیا تو اب جو کچھ ہوتا ہے وہ میری خواہش کے بھی موافق ہوتا ہے۔

سوہنلا یئے! جس نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا کر دیا ہواں کو پھر غم کا ہے کا۔ اس سے بڑھ کر کیا آسائش ہوگی۔ صاحب آپ کسی اہل اللہ کے پاس بیماری کی حالت میں جا کر دیکھنے جو نادر بھی ہوں۔ واللہ آپ ان کو پریشان نہ پاویں گے۔

امراء سے ہمدردی کا فقدان

اس کے بعد کسی والی ریاست کے پاس جا کر دیکھنے تو وہ بیماری میں سخت پریشان ہو گا کو ظاہر میں اس کے خدمت گار اور تیماردار بہت ہوں گے مگر وہ راحت میں نہ ہو گا، نہایت بے چین ہو گا، اور ایسا بھی کم ہوتا ہے کہ امراء و روسا کو بیماری میں تیماردار اور خدمت گار خیر خواہ نصیب ہو جائیں۔ زیادہ تو یہی دیکھا ہے کہ بیماری میں راحت جسمانی بھی دینداروں کو امراء سے زیادہ نصیب ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو دل سے خدمت کرنے والے جان ثانی خادم بہت میر ہوتے ہیں اور امیروں کو ایک بھی میر نہیں ہوتا۔ ان کے خدمت گار محض اوپر کے دل سے خدمت کرتے ہیں پھر کوئی بزرگ بیمار ہوتا ہے تو ہر مرید اور ہر عالم ان کے لئے دل سے دعا ی صحت کرتا ہے اور امیروں کے لئے ایک بھی دل سے دعا نہیں کرتا۔

چنانچہ ایک رئیس بیمار ہوئے اور حکیموں نے سخت لکھتے تو ان کے ورثاء نبخوں کو چھپاتے پھرتے تھے کہ وہاں میں استعمال کر کے اگر یہ جی گیا تو سارا مال اور ریاست کا کام پھراہی کے قبضہ میں رہے گا۔ یہ تو ملداروں کی حالت ہے اور چرچاول میں ایک مزدور کو، ہم نے دیکھا کہ وہ بیمار ہوا تو اس کے سب بچے اور گھر والے عظیفے پڑھ پڑھ کر دعا کرتے اور یہ چاہتے تھے کہ خدا کرے یہ نہ مرے اور کسی طرح اچھا ہو جائے۔

تو بتلا یے! کیا اس پر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاج و کامیابی کثرت مال سے حاصل ہوتی ہے اور ایک کھلی ولیل اس کی یہ ہے کہ اہل دنیا دینداروں کے دروازوں پر دنیا کی حاجتیں لے کر جاتے ہیں چنانچہ اہل اللہ کے دروازوں پر آپ ہزاروں دنیاداروں کو جاتا دیکھیں گے معلوم ہوا کہ دنیادار بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی ان دینداروں ہی کے پاس ہے جب تو ان کے پاس دنیا کی حاجتیں لے کر جاتے ہیں اور آپ نے کسی دین دار بزرگ کو اہل دنیا کے پاس کوئی حاجت لے کر جاتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ اہل دنیا محتاج ہیں اور اہل دین غنی ہیں گو وہ کیسے ہی ختہ حال ہوں۔ یہ تو واقعات ہیں ان کھلے ہوئے مشاہدوں سے کون انکار کر سکتا ہے اور کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یوں ہی ہوا ہے کہ اہل دنیا دین کے محتاج رہے اور دینداران کے محتاج نہیں ہوئے۔

گدا بادشاہست و نامش گداست

(فقیر بادشاہ ہے اور اس کا نام فقیر ہے)

ہاں اگر کوئی دنیادار ایسا ہو کہ اس کو خدا تعالیٰ نے دین اور دنیا کی دونوں دولتیں دی ہوں۔ جیسے اہل اللہ سلطان وقت ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے وقت کا سلیمان ہے۔ اس کو دینداروں سے استغنا ہو سکتا ہے مگر اس کو بھی یہ استغنا دین کی بدولت حاصل ہوازی دنیا کے ساتھ اس کو کبھی اہل دین سے استغنا نہیں ہو سکتا تھا اور گفتگو اس میں ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی دولت ہو تو دونوں میں کون سی حالت اچھی ہے تو میں اس کو بتلارہا ہوں کہ اہل دین تو بدون مال کے کامیاب ہیں اور اہل دنیا بغیر دین کے کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ پریشان رہیں گے تو اب ثابت ہو گیا کہ بدلون دین کے اختیار کئے دنیا کی راحت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

مطیع اور باغی کا فرق

اگر کسی کو اس پر یہ شبہ ہو کہ اہل یورپ تو بغیر دین کے آرام میں ہیں تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ وہ آرام میں نہیں ہیں۔ آپ محض ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ آرام میں ہیں حالانکہ راحت اصل میں اطمینان قلب کا نام ہے اور واللہ! وہ بے دین کو کبھی حاصل

نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ جواب ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا بلکہ جس کو قلوب کفار کی حالت منکشf ہو گئی وہی اس کو سمجھ سکتا ہے اس لئے میں دوسرا جواب دیتا ہوں۔

وہ یہ کہ اچھا میں فرض کرتا ہوں کہ وہ آرام میں ہیں مگر آپ اپنے کوان پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ان کو بدون دین کے راحت دنیا حاصل ہو سکتی ہے مگر آپ کو بدون دین کے دنیا کی راحت ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ مدعا طاعت کے ہیں اور وہ اطاعت کے مدعا نہیں بلکہ کفر اختیار کر کے وہ خدا سے باغی ہو چکے ہیں پس آپ کے ساتھ وہ برتاب و کیا جائے گا جو مدعا طاعت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بات بات پر گرفت ہو گی اور جہاں ذرائع قانون شریعت سے باہر قدم رکھا فوراً سزا ہو گی اور ان سے وہ برتاب و کیا جا رہا ہے جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ باغی اگر دن میں سودفعہ قانون کی مخالفت کرے تو اس سے جزوی تعریض نہیں کیا جاتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تو بلقانی ریاستیں سلطان سے باغی ہو کر ان کے احکام کی مخالفت کرتی ہیں اور ایک کوئی ترک سلطان کے کسی حکم کی مخالفت کرے تو بلقانی ریاستوں کی جزوی مخالفتوں پر نظر نہیں کی جاتی بلکہ ان کو بغاوت کی سزا اکٹھی دی جاوے گی۔ اور اس کا کچھ تذکرہ بھی نہ ہو گا کہ بغاوت کے بعد انہوں نے اور کون کون سے کام خلاف قانون کئے تھے کیونکہ بغاوت اتنا بڑا جرم ہے جس نے دوسرے جرام کو نظر انداز کر دیا اور ترک ذرائع مخالفت کرے تو فوراً سزا کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے کو مطیع سلطنت کہتا ہے اس لئے اس کی ہربات پر موافذہ ہوتا ہے۔

ایسی طرح یہاں سمجھئے کہ مسلمان کو تو ذرا ذرائعی مخالفت پر سزا ملتی ہے اور جہاں اس نے کوئی گناہ کیا فوراً اسکی دنسیوں راحت سلب کر لی جاتی ہے گو ظاہری ساز و سامان جلدی سلب نہ کیا جاوے مگر راحت قلب تو فوراً سلب ہو جاتی ہے جو کہ فلاج و کامیابی کی اصل حقیقت ہے کیونکہ وہ اطاعت کا مدعا ہے اور کفار کے جزوی افعال پر نظر نہیں کی جاتی بس انکلو بغاوت کی سزا اکٹھی دی جائیگی۔ جس کیلئے ایک میعاد معین ہے شاید اس پر کوئی یہ کہے کہ اس دعویٰ اطاعت سے تو بغاوت ہی اچھی کہ روز رو ز کی گرفت سے تو بچ رہیں گے تو سمجھ لیجئے کہ مطیع کو تو ابھی سزا ہو گی مگر یہ سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ ہمیشہ کے لئے راحت میں ہے۔ جیسے کوئی ترک چوری یا زنا کرے تو اس کو اس وقت کچھ دنوں کے واسطے قید کر دیا جاتا ہے مگر قید کا نئے کے بعد پھر سلطنت میں وہ کوئی عہدہ لے سکتا ہے اور اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے مگر باغی کو چند روز یا چند سال کے لئے گو کچھ نہ کہا جاوے لیکن جب کپڑا جاوے گا تو اس کی سزا سولی سے ادھرنہ ہو گی۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ سے بغاوت کرے گا وہ

چند روز دنیا میں گورا حت سے گزار لے گامگر جب اس کو پکڑا جائے گا تو عبدالآباد کے عذاب جہنم سے ادھراں کی سزا کچھ نہ ہوگی۔ اب اختیار ہے جس کو چاہو اختیار کرو۔

غرض آسائش کی دوہی صورتیں ہیں یا تو کوئی بالکل باغی ہو کر ہے تو سزا نے بغاوت کے وقت سے پہلے اس کو چین ہے اور یا بالکل مطیع ہو کر ہے تو اس کو ہمیشہ کے لئے چین ہے یہاں بھی اور آخرت میں بھی باقی مطیع و نافرمان دونوں بن کر دنیا کی راحت تو حاصل نہیں ہو سکتی، ہاں آخرت میں کچھ سزا بھگتے کے بعد پھر راحت ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آسائش کا طریقہ جو کہ اصل ہے فلاج کی، بدون دین کی پابندی کے ممکن نہیں۔

اس مضمون کو میں نے اس لئے بیان کیا کہ آج کل سب لوگ فلاج کے طالب ہیں جن میں زیادہ تر فلاج دنیا کے طالب ہیں تو میں نے بتلا دیا کہ فلاج دنیا بھی دین ہی کے اتباع سے مل سکتی ہے اس کے بغیر مسلمان کو تو مل نہیں سکتی اور اس وقت مسلمانوں ہی سے خطاب ہے یہ مسئلہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سے مستبط ہوا اور یہاں لعل شک کے لئے نہیں ہے بلکہ ترجی یعنی امید والانے کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال بجالا کر فلاج کے امیدوار ہو لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی وعدہ تو ہے ہی نہیں تو شاید ایسا نہ بھی ہو کیونکہ یہ شاہانہ کلام ہے اور بادشاہ کسی کو امید دلا کرنا امید نہیں کیا کرتے۔ شاہانہ کلام میں امیدوار ہونا ہزار پختہ وعدوں سے زیادہ ہوتا ہے پھر رفع شک کے لئے بعض مقامات پر حق تعالیٰ نے پختہ وعدہ بھی فرمادیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (ہم پر مومنین کی مدد کرنا حق ہے)

رہایہ کہ پھر سب جگہ حَقًا عَلَيْنَا ہی کیوں نہ فرمایا کہیں کہیں لعلکم کس لئے فرمایا؟ تو اس میں ایک راز ہے جو اہل سنت نے سمجھا ہے وہ یہ کہ پختہ وعدہ کے بعد بعض جگہ لعل فرمائیں پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم وعدہ کر کے مجبور نہیں ہو گئے بلکہ اب بھی جزا کا دینا اور نہ دینا ہمارے اختیار میں ہے تمہاری مجال نہیں کہ ہم پر تقاضا کرنے لگو اور ہم کو ایفا نے وعدہ پر مجبور بمحض کوچھ ہانکنے اور بکنے لگو۔ ہماری شان یہ ہے۔ **لَا يُسْتَأْلِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَأْلَوْنَ**

(جو وہ کرتا ہے اس سے اس کو نہ پوچھا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا)

یہ اور بات ہے کہ ہم وعدہ کر کے ایفا ضرور کریں گے مگر اس پر مجبور بھی نہیں بلکہ وعدہ کے بعد بھی ویسے ہی مختار ہیں جیسے قبل وعدہ تھاں لئے تم تو لعلکم ہی کے مفہوم پر نظر رکھو لان پر نازنہ کرو گوہارے

یہاں لعل بھی لان، ہی کے حکم میں ہے۔ اس نکتہ کو پہلی سمت ہی نے سمجھا ہے۔ معتزلہ نے یہاں بہت ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وہ خدا پر بھی بعض امور کو واجب سمجھتے ہیں یہاں تک تو جزو اول اور جزو اخیر کا بیان تھا۔

فلاح کا انحصار

اب میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو درمیان میں مذکور ہیں جن پر فلاح کو موقوف کیا گیا ہے ارادہ تو تھا ان کے مفصل بیان کا مگر وقت نہیں ہے اس لئے مختصر بیان کر دوں گا اور گو مفصل بھی پورا پورا تو نہ ہوتا مگر خیر کسی قدر تفصیل ہو جاتی تو سمجھئے کہ وہ چار چیزیں ہیں۔

۱۔ اصْبِرُوا ۲۔ وَصَابِرُوا ۳۔ وَرَأَبِطُوا ۴۔ وَاتَّقُوا اللَّهُ

میں نے تمہید میں کہا تھا کہ ان احکام کو تمام سورت سے بلکہ تمام شریعت سے بلکہ تمام مصالح دنیویہ سے تعلق ہے اب میں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں۔

۱۔ ایک تو وہ جن کا وقت آ گیا ہے۔ ۲۔ ایک وہ جن کا وقت نہیں آیا۔

سو یہاں ایک حکم قسم اول کے متعلق ہے اور ایک حکم قسم دوم کے متعلق ہے قسم اول کے متعلق تو اصبروا ہے یعنی جس عمل کا وقت آ جاوے اس وقت صبر سے کام لو یعنی پابندی اور استقلال سے رہو۔ تو حق تعالیٰ نے اس میں اعمال حاضرہ میں مستقل رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینداری کے یہی معنی ہیں کہ ہر کام کو پابندی اور استقلال سے کیا جاوے۔ آج کل لوگ ولوں اور جوش میں بہت سا کام شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نیا نہیں ہوتا تو یہ دینداری کامل نہیں ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے اتنا ہی کام بتایا ہے جس پر نیا ہو سکے۔ واجبات و فرائض و سنن موكدہ پر نیا کچھ دشوار نہیں۔ اس سے زیادہ کام کرنے میں البتہ بعض نیا نہیں ہوتا۔ تو ان کو اپنے ذمہ اتنا ہی کام بڑھانا چاہئے جس پر نیا اور دوام ہو سکے تو اصبروا کا حکم ان اعمال کے متعلق ہے جن کا وقت آ گیا ہے۔

پھر ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہے دوسرے وہ جن کا تعلق دوسروں سے بھی ہے ان کے متعلق صابردا فرمایا ہے کہ دوسروں کے ساتھ صبر و استقلال سے کام لو۔ بعض لوگ اپنے ذاتی کام تو کر لیتے ہیں مثلاً نماز وغیرہ مگر دوسروں کے متعلق باہم نہیں ہوتے اور اگر کچھ ہمت بھی کی تو وہ اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کوئی دوسرا مزاحم نہ ہو اور اگر کوئی مزاحم ہوا تو پھر مستقل نہیں رہتے۔ جیسے نکاح وغیرہ کی رسوم میں اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ بیٹے والا بیٹی والوں کی مزاحمت کو برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ جس

طرح چاہتا ہے ان کو نچاتا ہے پھر یہ دین پر مستقل نہیں رہ سکتے۔ اس کے متعلق صابر و امیں یہ حکم ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں بھی ثابت قدم رہو۔ اسی طرح اگر کبھی اعداء اللہ دین میں مزاحمت کرنے لگیں تو ان کے مقابلہ میں بھی مستقل رہنے کا صابر و امیں حکم ہے۔

غرض ایک تو وہ افعال ہیں جن میں کسی سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا۔ ان پر مدامت وہ استقلال کرنے کا حکم تو اصبر و امیں ہے اور جن میں دوسروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے ان میں ثابت قدم رہنے کا حکم صابر و امیں یہ یہ تو وہ افعال تھے جن کا وقت آ گیا اور ایک وہ افعال ہیں جن کا بھی وقت نہیں آیا۔

رباطوا کی تفسیر

ان کے متعلق حکم رابطوا میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کاموں کے لئے تیار و مستعد رہنا چاہئے اور یہ میں نے اس سے سمجھا کہ لغت میں رباط کے معنی اعداء کے مقابلہ میں سرحد پر گھوڑے باندھنا ہے۔ یعنی سورچہ بندی اور ظاہر ہے کہ سورچہ بندی حفظ مالقدم کے لئے اور پہلے سے مقابلہ کو تیار و مستعد رہنے کے واسطے کی جاتی ہے عام افت کے موافق ایک تفسیر تو رباط کی یہ ہے۔

دوسری ایک تفسیر حدیث میں آئی ہے انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ۔ یعنی ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے لئے منتظر رہنا۔ حضور نے اس کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ یہی رباط ہے اور اس تفسیر میں اور پہلی تفسیر میں کچھ منافات نہیں بلکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ رباط اعداء ظاہری کے ساتھ ہی مختص نہیں بلکہ جیسے اعداء ظاہری کے مقابلہ میں رباط ہوتا ہے اسی طرح کبھی اعداء باطنی یعنی نفس و شیطان کے مقابلہ میں رباط ہوتا ہے وہ مجاہدہ ظاہری کا رباط ہے اور یہ مجاہدہ باطنی کا رباط ہے اسی کو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب

(سنن الترمذی: ۶۲۱ مکملة المصباح: ۳۳)

مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں سے بچتا ہے۔ یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے مقابلہ میں مجاہدہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجاہدہ کی ایک قسم مجاہدہ نفس بھی ہے اور اس کے لئے بھی ایک رباط ہے جیسے اعداء ظاہر کے مقابلہ کی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے اسی طرح نفس و شیطان کے مقابلہ میں سورچہ بندی کی ضرورت ہے کیونکہ

یہ بھی بڑے سخت دشمن ہیں جو بدوں مورچہ بندی کے قابو میں نہیں آتے اسی کو فرماتے ہیں۔

اے شہاں کشتم ماضیے بروں ماند خصے زو تبردر اندرؤں
اے بزرگو، ہم نے ظاہری دشمن کو تو بلاک کر دیا مگر ایک دشمن جو اس سے بھی بدتر اور زیادہ ضرر رہا ہے باطن میں رہ گیا جس کو نفس کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

کشن ایں کار عقل و ہوش نیست شیر باطن سترہ خرگوش نیست
اس باطنی دشمن کو بلاک کرنا محض عقل و ہوشیاری کا کام نہیں ہے کیونکہ شیر باطن خرگوش کے قابو کا نہیں ہے۔
یعنی اس کا زیر کرنا عقل و ہوش کا کام نہیں کیونکہ شیر خرگوش کے پھندے میں نہیں آیا کر بلکہ ان کو زیر کرنے کے لئے شارع علیہ السلام کی تعلیم کا اتباع ضروری ہے چنانچہ اسی کا ایک شعبہ یہ رہا ہے یعنی نماز کا انتظار کرنا بعد ایک نماز کے یہ نفس پر سب سے زیادہ گراں ہے کیونکہ اس میں کوئی حظ نہیں ہے بس نماز پڑھ کر خالی بیٹھتے ہیں اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔

آج کل بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس خالی بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں کہ اس میں دو فائدے ہیں ایک تو نفس کو طاعت پر جانا و سراوہ فائدہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ ان العبد فی الصلوة ما انتظر الصلوة

کہ بندہ جب تک نماز کے انتظار میں رہے اس وقت تک وہ نماز میں ہی رہتا ہے یعنی اگر انتظار میں بالکل وہ ثواب ملتا ہے جو نماز پڑھنے میں ملتا ہے مگر چونکہ ثواب نظر نہیں آتا اس لئے نفس پر یہ انتظار گراں ہوتا ہے اسی واسطے حضور نے اس کو رباط فرمایا ہے۔ تو ایک تفسیر رہا کہ یہ ہے جو پہلی تفسیر کی بھی موید ہے اور ان دونوں میں ایک امر مشترک ہے یعنی مستعد اور تیار رہنا اگلی عبادت اور آئندہ کام کے لئے۔ تو رہا کی رو حاصل میں تیاری اور استعداد ہے۔ اس لئے میں نے رابطوا کی تفسیر یہ کی کہ جن کاموں کا وقت نہیں آیا ان کے لئے تیار و مستعد رہنا چاہئے۔

پس صبر کی ضرورت تو ان افعال میں ہے جن کا وقت آ گیا اور رہا کی ضرورت ان کاموں میں ہے جن کا وقت نہیں آیا۔ دین کا خلاصہ یہی ہے کہ جن کاموں کا وقت آ گیا ہو ان کو استقلال و پابندی سے ادا کیا جائے اور جن کا وقت نہیں آیا ان کے لئے تیار و مستعد رہے کسی وقت بے فکر ہو کر نہ بیٹھے بلکہ یہ حال ہونا چاہئے۔

اندر میں راہ می تراش د می خراش تادم آخر دے فارغ مباش

تم کو چاہئے کہ اس طریق وصول الی اللہ میں ہمیشہ خراش تراش میں لگے رہو آخadem تک ایک لحظہ بھی فارغ مت ہو۔

تادم آخر دے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سربود کیونکہ آخر وقت تک تو کوئی گھڑی ایسی ہو گی جس میں عنایت دبانی تمہاری ہمراز ہو فتنہ بن جائیگی۔ بس دین یہ ہے کہ آدمی کو ہر دن ایک دھن لگی رہے یا تو کسی کام میں لگا ہو یا کسی کام کی تیاری میں مشغول ہو۔

تعلق باللہ کی صورت

اے مسلمانو! خدا کے ساتھ وہ حالت تو ہونی چاہئے جو ایک محظوظ مجازی کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر دم عاشق اسی کی دھن میں رہتا ہے گو دنیا کے سارے دھنے بھی کرتا ہے مگر اس کا خیال کبھی دل سے نہیں اترتا بس یہ حال ہوتا ہے۔

چو میرد بتلا میرد چو خیزد بتلا خیزد

جب مرتا ہے بتلا مرتا ہے جب اٹھتا ہے بتلا اٹھتا ہے۔

تو کم از کم طالب خدا کا یہ حال تو ہونا چاہئے جو ایک مردار کسی کے عاشق کا ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت دل سے نہیں اترتی۔

عشق مولیٰ کے کم از لیے بود گوی گشتہ بہر او اولے بود
اللہ تعالیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے بھی کیا کم ہواں کیلئے تو کوچہ گردی کرنا اولیٰ اور ختم ہے۔
صاحبو۔۔۔ کیا خدا کی محبت ایک مخلوق کی محبت سے بھی کم ہو گئی اگر نہیں تو پھر کیا وجہ کہ خدا کی ایسی دھن نہ ہو۔ واللہ! جو سچا طالب ہو گا اس کے دل کو ہر وقت خدا تعالیٰ کی دھن لگی ہو گی۔
چنانچہ ایسے ہی لوگوں کی بابت ارشاد ہے۔ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلَا يَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔

ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کا بھی کام کریں اور اس کے ساتھ خدا کی بھی یاد رہے۔ میں نے کہا یہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے آپ کو خدا کے کام کے ساتھ دنیا یاد رہتی ہے۔ اگر ایک کام کے ساتھ دوسرے کی یاد نہیں ہو سکتی تو پھر نماز اور تلاوت قرآن اور ذکر میں دنیا کیونکر یاد رہتی ہے اگر دنیا کے ساتھ خدا کا یاد رہنا تعجب کی بات ہے تو اس پر تعجب ہونا چاہئے اور اگر اس پر تعجب نہیں تو اس کے عکس پر کیوں تعجب ہے۔

بات یہ ہے کہ جو چیز دل میں بس جاتی ہے وہ ہر کام کے ساتھ یاد رہا کرتی ہے چونکہ ہمارے دلوں میں دنیا بھی ہوتی ہے اس لئے خدا کے کام میں بھی یاد رہتی ہے اور اگر بھی خدا دل میں بس جائے گا تو پھر وہ بھی دنیا کے کاموں میں یاد رہے گا اور اس کی ایک بڑی نظر طاعون کی بدولت مل گئی ہے اس سے ایک حدیث پر سے اشکال رفع ہو گیا حدیث میں آتا ہے۔

ان اصحبت فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا فسيت فلا تحدث نفسك

بالصباح و علنفسك من اصحاب القبور (احف السادة المغافل ۱۰: ۲۳۶، ۲۵۱)

یعنی جب صبح کرو تو اپنے دل میں شام کا خیال نلا اور جب شام ہو تو دل میں صبح کا خیال نلا اور اپنے آپ کھر دوں میں شمار کرو۔ یہ حضور کا ارشاد ہے بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی تھی اور کہتے تھے کہ ایسا سمجھنا بیٹھیں تو پھر دنیا کے کاروبار سب چھوٹ جائیں گے کسی سے کوئی کام دنیا کا نہ ہو سکے گا مگر طاعون نے اس کو حل کر دیا کہ اس زمانہ میں دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹا۔ وکاندار تجارت کرتے رہے کاشتکار کھتی کرتے رہے۔ ملازمت پیشہ اپنی ملازمت کے کام میں لگے رہے میں اور تار اور ڈاک اور کارخانے سب بدستور رہے مگر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ صبح کو شام کی امید نہ ہوتی تھی اور شام کو صبح کی امید نہ ہوتی تھی۔ ہر شخص کو موت کا خطرہ لگا ہوا تھا تو سارے کام بھی ہوتے رہے اور مراقبہ موت بھی حاصل ہو گیا۔ بس اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا تم طاعون و ہیضہ کے زمانہ میں ہو جاتے ہو بارہ مہینے ایسے ہی رہو۔ مگر آج تو یہ حالت ہے کہ جہاں طاعون گیا اور بے فکر ہو گئے گویا اب خدا تعالیٰ ان کو مارتی نہیں سکتے۔ تو جیسے طاعون کے زمانہ میں ہر کام کے ساتھ موت کا دھیان لگا رہتا ہے اور اس سے کسی کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی یوں ہی اہل اللہ کو دنیا کے ہر کام میں خدا تعالیٰ کی یاد بھی رہتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔

رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔

اور اس سے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی اور یہی حاصل ہے اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأِطُوا کا کہ ہر وقت کے متعلق جو کام ہے اس کو بجا لاؤ اور جس کا وقت نہیں آیا اس کے دھیان میں رہو اور اس کے لئے پہلے سے تیار و مستعد رہو اور احکام الہیہ کے دھیان میں رہنا اور ان کے لئے تیاری کرنا یہی ذکر اللہ بھی ہے اور اسی سے خدا کی یاد دل میں پیوستہ ہو جاتی ہے۔

لذت مقصود ہمیں

اصبر و افرمانے سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا وہ یہ کہ اصل مقصود احکام کی پابندی ہے لذت

مقصود نہیں۔ پس اگر کوئی شخص احکام کو پابندی سے بحالاتا ہو گولدت اور مزانہ آتا ہو تو وہ مقصود سے کامیاب ہے۔ اگر ناگواری مطلوب نہ ہوتی تو حق تعالیٰ اصبر وانہ فرماتے۔ پس جا بجا اہتمام کے ساتھ اصبر و افرمانا بتلارہا ہے کہ لذت مقصود نہیں بلکہ صبر و استقلال مطلوب ہے۔ مگر آج کل اکثر سالکین اس کے شاکی نظر آتے ہیں کہ ہم کو طاعات میں مزائیں آتا اور اس کو طاعات کے لئے نقص سمجھتے ہیں حالانکہ یہ نقص کا ایک کید ہے کہ اس کو دنیا میں بھی حظ مطلوب ہے حالانکہ طاعات سے دنیا میں حظ مطلوب نہیں بلکہ آخرت میں اس سے حظ حاصل ہو گا لیکن اگر کسی کو بدون طلب کے حظ نصیب ہو جائے تو یہ لذت بے کار بھی نہیں نعمت الہی ہے اس کی ناقدری نہ کرے کیونکہ بعض کے لئے یہ بہت مفید ہوتی ہے پس جس کو یہ دولت حاصل ہو وہ کلفت کا ثواب سن کر زوال لذت کا بھی طالب نہ ہوا اور جس کو حاصل نہ ہو وہ اس کے درپے نہ ہو۔ غرض جس حالت میں وہ رکھیں اسی میں خوش رہنا چاہئے۔ وہ تمہارے لئے جس کیفیت کو مصلحت جانیں وہی بہتر ہے۔

گیوش گل چخن گفتہ کہ خندال است بعد لیب چہ فرمودہ کہ نالاں ست
 گل کے کان میں کیا کہہ دیا ہے کہ وہ خندال ہے اور بلبل سے کیا فرمادیا ہے کہ وہ نالاں ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے طبیب ایک مریض کو حب ایارج دے اور ایک کو خیرہ گاؤڑ زبان دے وہاں کوئی مزاحمت نہیں کرتا کہ اس کو میٹھی دوا اور مجھے کڑوی کیوں دی۔ اس جگہ سب عاقل بن جاتے ہیں کہ بھائی کے لئے یہی مصلحت ہے اور اس کے لئے یہی مناسب ہے مگر یہاں طب باطنی میں لوگ طبیب سے مزاحمت کرتے ہیں کہ فلاں کو تو خدا تعالیٰ نے لذت و سط میں رکھا ہے اور ہم کو کلفت و قبض دے دیا ہے نہ معلوم وہ کیا ان کو عزیز ہے۔

صاحب عزیز کوئی نہیں سب غلام ہیں اور غلام کو تجویز کا کوئی حق نہیں۔ غلام کی تو وہ حالت ہوئی چاہئے جیسے ایک غلام کی حکایت ہے کہ اس کو کسی نے خرید اور گھر لا کر پوچھا کہ تیرنا نام کیا ہے؟ کہا ب تک تو جو کچھ نام تھا وہ آج سے میرا نام وہ ہے جس سے آپ پکاریں پوچھا تم کھاتے کیا ہو؟ کہا ب تک تو جو کچھ بھی کھاتا تھا آج سے وہ کھاؤں گا جو آپ کھلائیں۔ اے صاحبو! غلام کا تو یہ نہ اق ہونا چاہئے۔

زندہ کنی عطاۓ تو ورکشی فدائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چکنی رضاۓ تو
 زندہ کریں آپ کی عطا ہے اور اگر قتل کریں آپ پر قربان ہوں دل آپ پر فریفہ ہے جو کچھ کریں میں راضی ہوں۔

اور یہ مذہب ہونا چاہئے۔

خوش وقت شوریدگان غمش اگر ریش بیند و گرم ہمش
گدايان ازباد شاهی نفور باميدش اندر گدائی صبور
دامدم شراب الم درکشند و گر تلخ بیند دم در کشند
اس کے غم کے پریشان لوگوں کا کیا اچھا وقت ہے اگر زخم دیکھتے ہیں اور اگر اس پر مرہم رکھتے
ہیں ایسے فقیر ہیں جو باشدشاہی سے نفرت کرنے والے ہیں اس کی امید پر فقیری میں قناعت کرنے
والے ہر دم رنج و غم کی شراب پیتے ہیں۔ جب اس کی کڑواہٹ دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ راہ محبت اسکی ہی چیز ہے کہ اس میں طالب کو کسی تجویز کا حق نہیں۔

محبت تو نام ہی فتا کا ہے پھر یہ آواز کیوں نکلتی ہے کہ ہائے یوں ہوتا ہانے دوں ہوتا۔ اور
صاحب! اس وقت تو طاعات میں ناگواری اور بد مرگی ہی ہے آپ ایسے گھبرا گئے یہ کیا چیز ہے
اگر کبھی آپ پروہ امور پیش آتے جو بزرگوں کو پیش آئے ہیں تو حقیقت نظر آ جاتی۔

بزرگوں کی آزمائش

بزرگوں کو تو اس راہ میں وہ سختیاں پیش آئی ہیں کہ ان کے سامنے یہ ذرا سی ناگواری کچھ بھی
نہیں۔ ایک بزرگ کو تہجد کے وقت غیب سے آواز آئی کہ کچھ بھی کریہاں کچھ قبول نہیں اور اس زور
سے آواز آئی کہ ان کے ایک خادم نے بھی سن لی۔ مگر وہ ایسے عاشق تھے کہ وضو کر کے پھر بھی نماز
میں لگ گئے۔ اگلے دن پھر لوٹا بدهنا لے کر تہجد کو اٹھئے۔ مرید نے کہا حضرت جب وہ منہ بھی نہیں
لگاتے اور کچھ قبول نہیں کرتے تو آپ کیوں مصیبت جھیلتے ہیں لیٹ کر سو بھی رہئے۔ بس ان بزرگ
پر حال طاری ہو گیا اور وہ کفر فرمایا کہ بینا میں ان کو چھوڑ تو دوں مگر یہ تو بتاؤ کہ ان کے در کے سوا کوئی اور
در بھی اس قابل ہے جہاں چلا جاؤں۔ ظاہر ہے کہ اور کوئی در اس قابل نہیں۔ تو پھر میں تو اسی در جان
دے دوں گا۔ چاہے وہ قبول کریں یا رد کریں۔ اس جواب پر رحمت حق کو جوش آیا اور پھر آواز آئی۔

قبول ست گرچہ ہنر عیستت کہ جزا پناہے دگر نیست
قبول ہے اگر چہ تیراہنر نہیں ہے اس لئے کہ سوائے ہمارے تیرے لئے دوسری پناہ گاہ نہیں ہے۔
اگر آج کسی کولسی آواز آجائے تو بس سلاکام چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جائے کیونکہ محبت پوئی نہیں ہے
اسی طرح ایک بزرگ کو ذکر کے وقت یہ آواز آتی تھی کہ چاہے کتنا ہی کرتی راخاتمہ کفر پر ہو

گا، کافر ہو کر مرے گا۔ جب بہت دن اسی قصہ میں ہو گئے اور یہ آواز موقوف ہی نہ ہوئی تو آخر گھبرا گئے مگر کام نہیں چھوڑا گھبرا ہبٹ کا اثر یہ ہوا کہ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے یہ قصہ عرض کیا۔ واقعی شیخ کا زندہ ہونا بھی بڑی نعمت ہے شیخ نے فرمایا کہ یہ دشنا م محبت ہے۔ محبوبوں کی عادت ہے کہ عاشقوں کو چھیڑ چھاڑ سے تنگ کیا کرتے ہیں اس سے دل گیرنا ہو۔

اسی طرح ایک بار حضرت شبی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی طرف چلے جا رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے شبی! کیا یہ ناپاک قدم اس قابل ہیں کہ ہمارا راستہ ان سے قطع کیا جاوے یہ کھڑے رہ گئے پھر آواز آئی کہ اے شبی! تم کو ہماری طرف سے چلنے سے کیسے صبر آ گیا۔ حضرت شبی ایک چین مار کر بے ہوش ہو گئے کہ نہ چلنے دیتے ہیں نہ شہرنے دیتے ہیں۔

صاحبو... اگر آپ ایسے ایسے شکنجوں میں کے جاتے تو پھر آپ کا کیا حال ہوتا۔ اب تو اتنا ہی ہے کہ ذکر میں مزانہیں آتا۔ آپ اس سے ہی گھبرا گئے۔ اول تو اگر اس کلفت پر اجر بھی نہ ملتا، تب بھی آپ کیا کر لیتے محبت کا مقضا یہ تھا کہ بدون اجر کے بھی اس پر راضی رہتے مگر اب تو اجر بھی ملتا ہے پھر ناگواری اور شکایت کیوں ہے اور اگر مزا مطلوب ہوتا تو آپ دنیا ہی میں کیوں آتے۔ مزا تو جنت میں تھا وہاں سے جو آپ دنیا میں آئے ہیں تو مزے کے لئے تھوڑا ہی آئے ہیں۔ بلکہ بد مزگی اور کلفت کے لئے آئے ہیں خوب کہا ہے۔

کیا ہی چین خواب عدم میں تھا نہ تھا لف یار کا کچھ خیال

سوچ گا کے سور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھسادیا

حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِدِكَہ ہم نے انسان کو مشقت میں بتلا کر کے پیدا کیا ہے اور جناب آپ تو کیا چیز ہیں اس کلفت سے تو بڑے بڑے بھی نہیں بچے۔ چنانچہ جب سید نار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول وحی نازل ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد تین برس تک منقطع رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک وحی کو ترستے رہے اور شدت حزن کی یہ حالت تھی کہ بعض دفعہ پہاڑ پر سے گر کر اپنے کو ہلاک کرنا چاہتے تھے مگر فوراً جریل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو سنبھالتے تھے تو جب تین برس تک حضور کو کلفت میں رکھا گیا تو ہم کیا چیز ہیں۔ ہمیں تو اگر تین سو برس تک بد مزگی میں رکھا جائے تو حق ہے۔

دیکھو! اگر کوئی حاکم با اختیار اپنے بیٹے کو کسی ملازمت کے لئے تین برس امیدوار رکھے اور

ہم تین روز میں جا کر ملازم ہو جانا چاہیں۔ تو یہ حماقت ہے یا نہیں۔

پس جو لوگ ذکر شغل شروع کرتے ہی بدمزگی اور قبض کی شکایت کرنے لگیں وہ کم از کم تین برس تو صبر کریں۔ گو حق تو یہ تھا کہ زیادہ مدت تک صبر کریں۔ مگر افسوس! آج کل تو لوگ اتنے عرصہ تک بھی صبر نہیں کرتے جتنے عرصہ تک حضور کوفترہ وحی میں قبض رہا۔

غرض اول تو مزا مطلوب نہیں۔ دوسرے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ مزے کا طالب نہ ہو۔ تیسرا اگر مزا مطلوب بھی ہو تو کم از کم کچھ دنوں تک تو بدمزگی کا خل کیا جائے۔ چوتھے اس میں ثواب بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں باطنی مصلحت بھی ہوتی ہے بعضی اقسام تربیت کے اسی پر موقوف ہیں کہ طالب کو ظاہر آنا کام رکھا جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعضی عورتوں کو اس قاطع میں سات آٹھ دن تک طبیب بھوکار کرتا ہے اور ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے وہ روٹی کے لئے صند بھی کرتی ہیں مگر اس وقت ان کا ناکام رکھنا ہی تربیت ہے آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ اس وقت ان کو روٹی دینا محبت ہے یا نہ دینا؟ یقیناً نہ دینا ہی محبت ہے اور اسی میں مصلحت ہے پس اسی طرح باطن میں سمجھ لو کہ بعض دفعہ لذت سے محروم کر دینا ہی محبت ہے۔

آں کس کہ تو انگریز نمی گرداند اور مصلحت تو از تو بہتر داند

جس نے تجھ کو مالدار نہیں بنایا تو تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔

افسوس! کیا اللہ میاں طبیب کے برابر بھی نہیں کہ طبیب بھوکا مارے تو اس کو شفقت سمجھتے ہو اور اللہ میاں لذت سے ترسادیں تو شکایتیں کرتے ہو۔

اعمال کی اقسام

بہر حال اصبر و اوصابرو اکا تعلق تو ان اعمال سے ہے جن کا وقت آگیا اور اب طوا کا تعلق ان اعمال سے ہے جن کا وقت نہیں آیا اب سمجھو کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہر ہے ایک باطن، اور اعمال ظاہرہ کی یہ تقسیم تھی جو میں نے اب تک بیان کی کہ ان میں ایک قسم تو وہ ہے جس کا وقت آگیا اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک اپنے متعلق ایک دوسروں کے متعلق اور دوسری قسم وہ ہے جس کا وقت نہیں آیا۔ ان سب اقسام کے احکام تو اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ ابْطُوا میں مذکور ہوئے اور اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان احکام کا تعلق تمام تر شریعت سے ہے کیونکہ کوئی عمل اس تقسیم سے باہر نہیں نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مصالح دنیوی سے بھی ان احکام کو پورا تعلق ہے کیونکہ

دنیا کے کام بھی دو ہی قسم کے ہیں ایک وہ جن کا وقت آ گیا ان میں استقلال و ثبات قدم کی ضرورت ہے دوسرے وہ جن کا وقت نہیں آیا۔ ان کے لئے تیاری و مستعدی کی ضرورت ہے۔ اب ایک قسم رہ گئی یعنی اعمال باطنہ، اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں والقو اللہ کہ خدا سے ڈرتے رہو یہ تمام اعمال باطنہ کی جڑ ہے مگر اس میں بہت بسط کی ضرورت ہے جس کے لئے وقت نہیں۔ کتب تصوف سے اس کی تفصیل معلوم ہو سکتی ہے مگر میرا مقصود حاصل ہو گیا وہ یہ کہ اگر آپ کو فلاج کی تمنا ہے فلاج دنیا کی سبua اور فلاج آخرت کی قصداً تو اس کی صورت یہ ہے کہ دین کو اختیار کرو اور ان احکام پر عمل کرو کیونکہ حق تعالیٰ نے فلاج کو انہی پر مرتب فرمایا ہے سوا س مقصود کے لئے اتنی تقریر کافی ہے اور ہاں التقو اللہ کو مخفرمانے میں یہ نکتہ ہے کہ یہ اعمال ظاہرہ اسی وقت مقبول ہیں جب کہ تقویٰ بھی ساتھ ساتھ ہو اور اسی وقت ان پر فلاج کا ترتیب ہو سکتا ہے۔

اب میں ختم کرتا ہوں اور اس بیان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ لوگ اس وقت طلب فلاج میں کدھر کدھر اٹھے جا رہے ہیں اور جو اصلی طریقہ فلاج کا ہے اس پر کسی کو توجہ نہیں۔ بس ان لوگوں کی حالت پر یہ شعر صادق آتا ہے۔

ترسم نری بکعبہ اے اعرابی کیس رہ کہ تو میر وی بہ کفرستان ست
اے اعرابی مجھے خوف ہے کہ تو بیت اللہ نہ پہنچ گا کیونکہ جس راستہ پر تو چل رہا ہے وہ
کفرستان ہے۔

شعر میں تو ترکستان ست ہے مگر میں نے کفرستان ست اس لئے کہا کہ آج کل لوگ کفار کے طریقے اختیار کر کے ہی فلاج حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اس کا انجام فلاج نہیں بلکہ کفر سے نزدیک ہونا ہے۔ بس فلاج کا طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے جو سچے فلسفہ سے معلوم ہوا کہ دین ہی فلاج کا طریقہ ہے اور اگر دین ہی نہیں تو خدا کی قسم اگر ساری دنیا کی سلطنت بھی حاصل ہو جائے تو فلاج حاصل نہ ہوگی۔ یعنی راحت و اطمینان جو اصل فلاج ہے۔

اب دعا کیجئے کہ حق سجانہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

طَرِيقُ النَّجَاهَةُ

تاریخ اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ
درست ہوتی ہے۔ یعنی جب ان کے دین میں ترقی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی ترقی
ہوتی ہے اور جب دین میں کوتا ہی ہوتی ہے تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے۔

نجات کے طریقوں کے متعلق یہ وعظ ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۳۰ھ کو جامع مسجد
کیرانہ ضلع مظفرنگر میں قریباً تین ہزار کے مجمع میں ہوا۔ جو سوا تین گھنٹے میں
ختم ہوا۔ مولوی سعید احمد صاحب تھانوی نے قلمبند کیا۔ خطبه بیٹھ کر فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَغْوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْلَحِ السَّعْيِ (سورة الْمَلَك آیت نمبر ۱۰) اور (کافر فرشتوں سے یہ بھی) کہیں
گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں (شامل) نہ ہوتے۔

مقصود حیات

یہ ایک آیت ہے سورہ مک کی۔ اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی ایک حکایت نقل
فرمائی ہے یعنی ان کا ایک قول ہے جو کہ وہ قیامت میں کہیں گے مگر مقصود حکایات سے خود وہ
حکایات نہیں ہوتیں خواہ وہ حکایات ماضیہ ہوں یا حکایات مستقبلہ بلکہ ان سے مقصود کوئی عبرت یا
کسی بات کا جتنا ہوا کرتا ہے چنانچہ اس کے متعلق ایک آیت میں ارشاد بھی ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّلْأُولَى الْآتُابَ

کہ ہم نے جو قرآن شریف میں اگلی قوموں کے قصے بیان کئے ہیں ان سے عقائد لوگوں
کو عبرت حاصل ہوتی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ قصوں کے نقل کرنے سے غرض عبرت دلانا
ہوتا ہے عبرت کا ما حصل قیاس ہوتا ہے یعنی پہلی قوموں کے حالات پر اپنے حالات کو کسی امر
مشترک کی وجہ سے قیاس کرنا اور اپنے لئے بھی ان کی حالت کے مشابہ اپنی کسی حالت کی تقدیر

پر اس امر کو ثابت کرنا جو کہ ان کے لئے ثابت ہو چکا ہے۔

اس مقام پر بھی حکایت کو قتل کرنے سے بھی مقصود ہے کہ وہ حکایت ہم کو نہ میں تاکہ ہم غور کریں اور جانچیں کہ جس امر پر ان کو وعید ہو رہی ہے ہمارے اندر بھی وہ پایا جاتا ہے یا نہیں اور ہماری حالت اس پر منطبق ہے یا نہیں اور اس سے نجات کا کیا ذریعہ ہے کہ ہم اس کو اپنادستور العمل قرار دیں۔ یہ حاصل ہے مجملًا اس آیت کا جیسا کہ ترجمہ سے آپ کو معلوم ہو گا اور تفصیل اس کی بیان سے معلوم ہو جائیگی۔

ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار یوں کہیں گے کہ اگر ہم سختے یا سمجھتے تو آج ہم اصحاب جہنم میں نہ ہوتے۔ اس ترجیح سے معلوم ہوا کہ کفار اپنی بدحالی کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم بہت چوکے کہ ہم نے دنیا میں کرنے کا کام نہ کیا اور اس کرنے کو خدا نے اس حکایت میں دو باقتوں میں منحصر کیا ہے۔ ایک تو سننے میں اور ایک تعقل اور سمجھنے میں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عمل علی الحق کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کسی سے سنا ہو دوسرا یہ کہ خود سمجھا ہو کفار نے چونکہ نہ سنا تھا نہ خود سمجھا تھا اس لئے ان کو فسوس اور حررت کی نوبت آئی۔ اس سے آپ کو آیت کا حاصل مجملًا معلوم ہو گیا ہو گا۔

کفار کی حررت

خدا تعالیٰ نے اس حکایت کو قتل کر کے اس پر انکار نہیں فرمایا اور اس کو غلط نہیں کہا بلکہ اُنکی آیت میں اس کی تصدیق فرمائی فَاعْتَرْفُوا بِذَنْبِهِمْ جس سے معلوم ہوتا ہے انکا ذنب یہی تھا تو معلوم ہوا کہ یہ امر حق ہے اور ان ہی دو کانہ ہونا باعث دخول جہنم ہوا بلکہ اگر اس کو قتل فرمائے کہ سکوت بھی کیا جاتا تب بھی یہ حق سمجھا جاتا کیونکہ عقلی قاعدہ ہے کہ جس بات کو بیان کر کے اس پر سکوت کیا جائے اور دو انکار نہ کیا جائے تو وہ حاکی کے نزدیک امر مرضی ہوا کرتا ہے نیز اصولیں نے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔

نیز قطع نظر اس مقدمہ کے اس کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ مقولہ قیامت کا ہے اور قیامت میں چونکہ سب امور مکشف ہو جائیں گے اس لئے کوئی جھوٹ نہ بولے گا اور اگر بعض آیات سے مثلاً وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (قسم ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے ہم مشرک نہیں ہیں) یہ شبہ ہو کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا۔ چنانچہ ارشاد ہے اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ ایک عارض کی وجہ سے بولا اور وہ عارض یہ ہے کہ بولنے میں ان کو نفع کی توقع تھی اور یہاں یہ بات نہیں ہے بلکہ اس قول میں خود ان ہی کا ضرر ہے کہ اعتراف ذنب لازم آتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں کشف حقیقت کا اصل مقتضاء یہ ہے کہ وہاں جو بات کہی جائے بالکل صحیح کہی جائے لیکن بعض لوگ عارض نفع کی وجہ سے اس مقتضاء کے خلاف کریں گے تو جس جگہ وہ عارض پایا جائے گا اس موقع پر توان کے قول میں کذب کا احتمال ہو گا اور جس موقع پر وہ عارض نہ ہو وہاں اصل مقتضاء کی وجہ قول کو صادق ہی سمجھا جائے گا۔ لہذا اکفار کا یہ قول بالکل سچا ہے اور پھر جب کہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید بھی موجود ہے تو اس کے صدق میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ فَاغْتَرِفُوا بِذَنِّهِمْ فَسُخْقًا لَا يَضْلِعُ
السَّعِيرُ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ جس کی اوپر تقریر ہو چکی ہے۔

اب میں اصل مقصود کو بیان کرتا ہوں اور اس آیت سے ان شاء اللہ اس کو ثابت کر دوں گا کیونکہ وہ مضمون اس آیت کامل نہیں ہے اور اس کی ضرورت نہایت عام ہے۔ ہر وقت ہر جگہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے ایسے مضافاً میں بتلانا نہایت ضروری ہیں۔ اور جیسے اس کی ضرورت عام ہے ایسا ہی اس کا فائدہ بھی نہایت عام ہے یعنی اس کے استعمال کے بعد حقیقی فائدہ اس میں ہے۔ نیز یہ مضمون نہایت بہل ہے تو ان تینوں باتوں پر نظر کر کے اس کی ضرورت میں ذرا بھی کلام نہیں رہتا۔

مرض اور علاج

دیکھئے عقلی قائدہ یہ ہے کہ مرض جس قدر صعب ہوتا ہے اس کا علاج بھی اسی قدر صعب ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی ایک شہر میں کوئی سخت مرض پھیل جائے تو عقلاً اس کے لئے نہایت سخت مداری تجویز کرتے ہیں اور جب یہ قاعدہ مسلم ہے اور عقلاً میں اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی تاب نہیں ہوتی تو علاج سے مایوس ہونا پڑتا ہے چنانچہ بعض مرتبہ اطباء کہتے ہیں کہ تمہارا مرض امیرانہ ہے۔ مثلاً کسی غریب آدمی کو جنون ہو جائے اور کوئی طبیب اس کا علاج شروع کرے اور کسی طرح اس کو فائدہ نہ ہو تو پریشان ہو کر طبیب کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی تمہارا مرض تو امیرانہ ہے اور تم دوچار پسیے کی دوامیں اس کا علاج چاہتے ہو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے لئے بہت سخت مداری ضرورت ہے جن کی وسعت تم میں نہیں ہے لہذا تم اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو از روئے عقل ہر مرض صعب کی مداری بھی صعب ہوتی ہیں اور بعض اوقات مایوسی کی نوبت آتی ہے لیکن اس طب میں جس کا نام طب ایمانی ہے کوئی درجہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر مایوس کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہارا مرض لا علاج ہو گیا ہے بلکہ ہر مرض کے لئے

علاج موجود ہے۔ اور نہایت سہل علاج موجود ہے میں اس کو ان شاء اللہ بدیل بیان کر دوں گا کہ صعب سے صعب مرض میں بھی نہایت سہل نسخہ تجویز کیا ہے اور یہ دلیل ہے خدا تعالیٰ کی رحمت عامدہ کی کہ اتنا بڑا مرض اور اس کا علاج اس قدر سہل۔

دین کی آسانی

اس سے اس آیت کے معنی بھی منکشف ہو جائیں گے کہ **يُؤْنِذُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُؤْنِذُ بِكُمُ الْعُسْرَ** (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتے) اور **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** یعنی خدا تعالیٰ نے دین میں تم پر کچھ تنگی نہیں کی۔

یہاں سے ایک جملہ مفترضہ عرض کرتا ہوں۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں ہے حالانکہ مشاہدہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی اکثر دینداروں کو عمل بالشرع میں بہت تنگی پیش آتی ہے اور جو لوگ آزاد ہیں وہ نہایت مزے میں ہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا۔ ان کو کارروائی میں تنگی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں تنگی ہے اور آزاد رہنے میں آسانی۔ کیونکہ دیندار آدمی کو تو قدم بقدم حرام کی فکر لگی رہتی ہے بلکہ جس بات کو ان سے پوچھئے اس کو حرام ہی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو نہایت پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔

مثلاً اب آموں کی بہار آ رہی ہے جو لوگ آزاد ہیں وہ تو نہایت چین میں رہیں گے کہ فصل شروع ہوتے ہی فروخت کر دیں گے اگرچہ ابھی تک نہ اپھول ہی ہو اور ان کو نہایت اچھے دام اٹھیں گے اور جو لوگ دیندار ہیں وہ اس فکر میں لگے رہیں گے کہ اپھول فروخت کرنا حرام ہے لہذا اس وقت فروخت کرنا چاہئے کہ جب پھل آ جائیں اور پھل بھی بڑھ جائیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کی حفاظت کے لئے کم سے کم ۵ روپے ماہوار کا ایک ملازم رکھیں گے یا خود حفاظت کریں گے۔ پھر آندھیوں میں جو کچھ آم گریں گے سب ان کے گریں گے ان کی وجہ سے قیمت کم اٹھے گی۔ علی ہذا اگر تجارت کریں تو شریعت پر عمل کرنے میں کوئی صورت تماریں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ کسی دادوستد میں سود لازم آ گیا وہ اس لئے حرام ہے۔ غرض شریعت پر عمل کرنے میں ہر طرح تنگی و مصیبت ہے اور جب کوئی چیز بھی تنگی سے خالی نہیں تو یہ تو قرآن ہی میں شبہ پیدا ہوا جاتا ہے۔ (نحو ذا اللہ ممن ذا لک)

تو یہ شبہ بعض لوگوں کو پیدا ہونا ممکن ہے میں نے متعدد مقامات پر اس کا جواب عرض کیا ہے اس وقت بھی وہی جواب دیتا ہوں مگر توضیح کے لئے اول ایک مثال بیان کرتا ہوں۔

فرض کرو کہ ایک شخص مریض ہوا اور وہ کسی طبیب کے پاس گیا اور نسخہ دریافت کیا اور حکیم صاحب نے نسخہ لکھا لیکن اتفاق سے مریض ایسی جگہ رہتا ہے کہ اس گاؤں میں دوادستیاب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے پرہیز بتلایا اور اتفاق سے اس گاؤں میں صرف وہی چیزیں ملتی ہے جن کی ممانعت کی گئی ہے اور جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں۔ پس اگر یہ مریض حکیم صاحب کے نسخہ کو دیکھ کر اور پرہیز کو سن کر یہ کہنے لگے کہ طب میں نہایت تی تینگی ہے کیونکہ دوائیں وہ بتلائیں جن میں سے ایک بھی میسر نہیں۔ غذا میں وہ تجویز کیس جو کبھی گاؤں بھر میں بھی نہیں آئیں۔ اور جتنی چیزیں کھانے کی ہیں وہ سب منوع کی نہ بینکن کھانا نہ آلو کھانا نہ بھینس کا گوشت کھانا اور اس کے ساتھ ہی حکیم صاحب کو بھی اپنے جہل کی وجہ سے برا بھلا کہنے لگے۔ تو عقلااء اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ طب میں توڑا بھی تینگی نہیں۔ اس شخص کے گاؤں ہی میں تینگی ہے کیونکہ طب میں تینگی تو اس وقت بھجی جاتی جب کہ دوچار چیزوں کی اجازت ہوتی اور باقی چیزیں منوع ہوتیں اور جب کہ میں کی اجازت ہے اور صرف چار کی ممانعت تو طب میں تینگی ہرگز نہیں بلکہ اس شخص کے گاؤں میں تینگی ہے کہ اس میں صرف وہی چیزیں منتخب ہو کر آتی ہیں جو کہ سراسر مضر ہیں تو علاج اس کا نہیں ہے کہ حکیم صاحب کا نسخہ روی کر دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے بلکہ علاج یہ ہے کہ اپنے گاؤں کی اصلاح کی جائے۔ وہاں کی تجارت کو دست دی جائے لوگوں کو مفید چیزیں فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے۔

جب یہ مثال ذہن نشین ہو گئی تو اب غور و انصاف سے دیکھئے کہ تینگی شریعت میں ہے یا یہ کہ آپ کے معاملات میں۔ شریعت کو تینگ اس وقت کہا جا سکتا تھا جب تجارت اور داد و ستد کی صرف دوچار صورتیں شریعت نے جائز بتلائی ہوں اور ان کے مساوا ساری صورتیں حرام کر دیں اور جب کہ شریعت نے دوچار صورتوں کو حرام کر کے باقی سب کو جائز قرار دیا ہے تو شریعت کو تینگ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن شریعت اس کا کیا علاج کرے کہ آپ کے معاملہ کرنے والوں نے بدقتی سے ان ہی صورتوں کو اختیار کر رکھا ہے جو حرام کر دی گئی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ متفق ہو کر اصلاح کریں اپنی تجارت کو درست کریں جو شریعت نے کہی ہے نہ یہ کہ شریعت کو تینگ کہہ کر اس پر عمل کرنا ترک کر دیں اور شترے مہار کی طرح آزاد ہو جائیں تو آپ لوگوں کا شریعت پر اعتراض کرنا واقع میں اپنے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

حملہ برخود می کنی اے سادہ مرد ہچھو آں شیرے کہ برخود حملہ کرو

اے سادہ لوح شخص تو خود اپنے اوپر حملہ کر رہا ہے اس شیر کی طرح جو کنوں کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھ کر کنوں میں کو دیکھتا ہے۔

مشہور ہے کہ ایک جبشی چلا جا رہا تھا راستے میں ایک آئینہ پڑا۔ کبھی آئینہ دیکھنے کا اتفاق ہوا نہیں تھا اس کو اٹھا کر دیکھا تو اپنی کالی بھجنگ صورت نظر پڑی کہنے لگا کہ ایسے بد صورت تھا جب تو کسی نے یہاں پھینک دیا تھا۔ یہی بعینہ حالت ہم لوگوں کی ہے کہ اپنے عیوب کو شریعت میں ثابت کرتے ہیں۔

صاحب۔۔۔۔۔ اگر کسی معاملہ کی دس صورتوں میں سے نو صورتوں کو حرام اور ایک کو حلال کہا گیا ہوتا تو بے شک شریعت کو تجھ کہہ سکتے تھے اور جب کہ دس صورتوں میں سے آٹھ حلال اور صرف دو حرام ہیں تو شریعت کو تجھ کیسے کہیں گے البتہ اپنے کو ملزم کہیں گے کہ ہم نے حلال صورتوں کو ترک کر کے صرف ان دو کو اختیار کر لیا جو حرام تھیں۔ اگر آپ شریعت سے دریافت کر کے تمام معاملات کو کرتے اور پھر بھی کوئی صورت جواز کی نہ لفڑی تو شریعت پر تنگی کا الزام تھا۔ غصب ہے کہ ہم اپنی ہوا و ہوس سے معاملات کو مقرر کریں اور پھر شریعت کو مجبور کریں کہ ان معاملات کو جائز کہے۔ گویا شریعت ہماری محتاج یا نوکر ہے کہ جو کچھ ہم کریں وہ اس کو جائز کر دیا کرے۔

یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ ایک رینیس کو لغو بولنے کی عادت تھی بہت اور اکثر بے تکمیل ہائیکے تھے لوگ ان پر ہنسا کرتے۔ آخر ہمبوں نے ایک شخص کو اس لئے نوکر کھا کہ ہم جو کچھ کہا کریں اس کی کوئی معقول توجیہ کیا کرو۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ کسی مجلس میں تھا کہنے لگا کہ ہم شکار میں گئے ہر ن کو جو گولی ماری تو وہ سم توڑ کر ما تھا پھاڑ کر نکل گئی۔ یہ سن کر تمام لوگ ہنرنے لگے کہ سم اور ماتھے کو کیا تعلق؟ فوراً اس نوکرنے کہا، حضور بجا ارشاد ہے وہ اس وقت کھر سے ماتھے کو ہجلا رہا تھا۔

تو ہمارے ہوا پرست اور دنیا پرست بھائی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے منہ سے نکل جائے اس نوکر کی طرح شریعت اس کو جائز ہی کر دے تو گویا شریعت آپ کی لونڈی ہوئی۔ صاحبو! آپ خود شریعت کے غلام بن جائیے اور پھر دیکھنے کے کس قدر آسانیاں شریعت میں ہیں۔ حالت موجودہ میں دینداروں کو جودقت پیش آتی ہے اس کا سبب زیادہ تر یہ بد دین لوگ ہیں اس واسطے کہ دیندار آدمی معاملہ تو دوسروں ہی سے کرے گا اور وہ دوسرے وہی ہیں جو دین سے بالکل آزاد ہیں اور جنہوں نے اپنے سب معاملات بگاڑ رکھے ہیں تو اگر ایک آدمی تقویٰ اختیار بھی کر لے تو اس کو بیشک تنگی پیش آئی چاہئے مگر یہ تنگی قوم کے معاملات میں تنگی ہونے کی وجہ سے ہوئی نہ کہ شریعت میں تنگی ہونے کی وجہ سے۔

اصلاح کی صورت

پس آپ لوگ دو طرح اپنی اصلاح کیجئے ایک تو اس طرح کہ شریعت مطہرہ کو کمی الزام نہیں کرے۔ دوسرے علماء سے طمع نہ رکھئے کہ وہ ناجائز صورت کو جائز کہدیں یا جائز کروں۔ صاحبو! مسائل شریعت ایک قانون ہے اور قانون میں کسی شخص کی رائے سے تغیر نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر مفہمن خود ہی بدل دے تو وہ دوسری بات ہے۔ اسی طرح اگر سب لوگ قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ان کے چھوڑ دینے سے قانون نہیں بدل سکتا۔ بالخصوص خدا تعالیٰ کا قانون کان کی حکومت کا مدار بندوں کی اطاعت پر نہیں۔

اگر کوئی کہے کہ نزول وحی کے وقت ہماری آئندہ حالت پر نظر کر کے قانون دوسرے مقرر ہوتا کیونکہ شریعت میں ہر زمانے کی مصالح کی رعایت ہونا چاہئے تو جواب اس کا یہ ہے کہ قانون میں مصلحت عامہ پر نظر ہوتی ہے مصالحہ خاصہ کی رعایت اس میں نہیں ہو سکتی۔

مثلاً گورنمنٹ کا قانون ہے کہ کوئی شخص بغیر لائنس کے بارو دا رچھرے نہیں بچ سکتا۔ اس قانون کوں کرا گر کوئی حق یہ کہنے لگے کہ گورنمنٹ کے قانون میں بڑی تنگی ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بارو دا رچھرے خوب فروخت کیا کریں لیکن قانون لائنس کی بخ لگاتا ہے تو عقلاً اس کو یہی جواب دیں گے کہ قانون مصلحت عامہ کی بناء پر مقرر ہوا کرتا ہے نہ کہ مصلحت خاصہ کی بناء پر کیونکہ اگر مصلحت خاصہ کی رعایت کی جائے اور ہر شخص کو بندوق و بارو درکھنے کی اجازت دے دی جائے تو اسن عامہ میں خلل پڑ جائے اور جس شخص کا جو جی چاہے سو کر دے۔ میسوں خون روزانہ ہوا کریں تو اسن عامہ کا مقضیا یہ تھا کہ ایسا جکڑ بند کیا جائے کہ عام طور پر اجازت نہ ہو اگرچہ کسی خاص شخص کا نقصان ہی کیوں نہ ہو البتہ اگر کسی شخص کا چال چلن اچھا اور اس سے کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو اور وہ لائنس بھی حاصل کر لے تو اس کی اجازت ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ قانون مصلحت عامہ کی بناء پر مقرر کئے جاتے ہیں۔

اب جو لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں وہ غور کر کے دیکھیں کہ شریعت کے کسی قانون میں بھی مصلحت عامہ فوت ہوئی۔ ہاں مصالحہ خاصہ بعض جگہ فوت ہو جاتی ہیں جہاں ان کی رعایت کرنے سے مصالحہ عامہ میں خلل ہونے والا ہوتا ہے اور انہی پر نظر کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔

مثلاً اب آموں کی فصل آ رہی ہے اس میں باغ والوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ شریعت نے بہت تنگی کی ہے اور وجہ اس وہم کی یہی ہے کہ شریعت کے قانون پر عمل کرنے میں اپنی ذاتی منفعت فوت ہو جاتی ہے حالانکہ شریعت نے مصلحت عامہ کی بناء پر یہ قانون مقرر کیا تھا اور وہ

مصلحت عامہ یہ ہے کہ فیق المعدوم میں آئندہ احتمال ہے مشتری کے خسارہ کا کہ اگر پھل نہ آیا تو اس کا روپیہ مفت ہی ضائع گیا اور پھل آنے کے بعد فروخت کرنے میں عام لوگ اس مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں اگرچہ کسی ایک کے تھوڑے سے داموں کا نقصان ہو۔

پھر غصب یہ ہے کہ تنگی کا وہم کر کے بعض تو اس حکم کے شرعی ہونے ہی سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی اختراع ہے حالانکہ یہ محض الزام اور افتراء ہے اور اس کا سبب قلت علم اور کثرت جہل ہے جس شخص نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا اس کے ترجمے کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب احکام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں اور بعض لوگ حکم شرعی ہونے سے تو انکار نہیں کرتے لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ہم سے شریعت پر کیسے عمل ہو سکتا ہے میں ان لوگوں کو مناطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا نہیں چاہتے تو خدا تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بھی چھوڑ دو یہ کیا کہ شریعت پر عمل تو کریں مولوی اور خدا کا دیا ہوا کھاؤ پیو تم لوگ بھی۔

غرض شریعت میں تنگی محسوس ہونے کا راز یہ ہے کہ لوگ اپنی مصالح خاصہ پر نظر کرتے ہیں اور جب ان کفوت ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو شریعت کو تنگ سمجھتے ہیں حالانکہ شریعت یا کوئی قانون مصالح خاصی کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے کیونکہ مصالح خاصہ باہم متناقض ہوتے ہیں جن کا جمع ہو سکنا بھی محال ہے بلکہ قانون مصالح عامی کی حفاظت کرتا ہے سو بحمد اللہ! قانون شریعت مصلحت عامہ کے خلاف نہیں ہے۔

مثلاً اسی آموں کی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ پھل آنے کے قبل فروخت کی اجازت نہ دینا مصلحت کے خلاف ہے کیونکہ بسا اوقات آندھی وغیرہ سے سارا پھول یا چھوٹے آدم گر جاتے ہیں اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ نقصان عام ہے یا خاص۔ ظاہر ہے کہ یہ نقصان خاص ہے کیونکہ اگر کسی جگہ دس ہزار کی مردم شماری ہو تو بمشکل سو آدمی ایسے نکلیں گے جو کہ باغ رکھتے ہوں گے۔ باقی نو ہزار نو سو وہ ہوں گے جو باغ نہیں رکھتے۔ پس یہ قانون مقرر کر کے شریعت نے ان سو کی خاص خاص مصالح کے مقابلہ میں نو ہزار نو سو کی مصالح کو ترجیح دی ہے اور ان کی حفاظت کی ہے کیونکہ فیق معدوم میں ان بقیہ کا نقصان محتمل ہے۔

اگر کوئی کہے کہ ان بقیہ کی اگرچہ وہ عدد میں زیادہ ہوں رعایت ضروری نہ تھی کیونکہ یہ جب اپنے اختیار سے خریدتے ہیں تو نقصان خود گوارا کرتے ہیں پھر ان کی رعایت کیا ضرور؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنے پیٹ اور اپنی ہوس کا جنم بھرنے کے سوائے اور کوئی امر ہی پیش نظر نہ ہوا اور دنیا میں کسی سے بھی اس کو محبت نہ ہو۔

دیکھو! اگر کوئی بچا آگ میں گرنے لگے اور مشق باپ دوڑ کر اس کو پکڑ لے اور باپ کی یہ حرکت دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ آپ نے تحقیق تکلیف اٹھائی آپ کو دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے اختیار سے گرتا تھا سو گرنے دیا ہوتا تو عقولاً اس شخص کی بابت کیا فتویٰ دیں گے ظاہر ہے کہ اس کو نہایت وجہ سنگ دل اور بے رحم کہا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند عالم جو شفیق باپ سے بھی درجہ زیادہ شفیق ہیں کیوں کریم گوارا فرماتے ہیں کہ تم کو ضرر برداشت کرنے کی اجازت دے دیتے؟

غرض یہ شبہ علی وجہ الاحسن زائل ہو گیا اور یہ بات ثابت رہی کہ دین میں نہایت سہولت اور آسانی ہے البتہ عقل کی تجاویز بعض سخت ہیں۔ مثلاً ایک یہی بات ہے جس کا اوپر ذکر تھا کہ مرض صعب کے لئے عقل علاج بھی صعب تجویز کرتی ہے اور شریعت مرض صعب کے لئے علاج سہل تجویز کرتی ہے پس کتنا بذا فرق ہے اسلام کی تعلیم اور عقل کے فتوے میں کہ عقل تو مرض صعب کے لئے تذکیر بھی صعب تجویز کرتی ہے اور اسلام سخت سے سخت مرض کے لئے بھی نہایت سہل سخی تجویز کرتا ہے۔

مسلمانوں کے امراض

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں کیا مرض ہے جس کے لئے اس آیت میں علاج تجویز کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی تخصیص اس وجہ سے نہیں کہ دوسروں میں امراض نہیں ہیں دوسروں میں وہ امراض ہیں جو اللہ مسلمان ان سے بچے ہوئے ہیں بلکہ تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ دوسروں سے ہمیں کیا غرض اور مرض دریافت کرنے کے بعد ان کا سبب دریافت کیجئے تو مرض کی نسبت تو یہ کہا جاتا ہے۔

تن ہمسہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم
ہمارا بدن رخی ہے کپاس کا پھویہ کہاں کہاں رکھیں۔

ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ اس کا کوئی عضو بھی صحیح نہیں کیونکہ ہماری دو حالتیں ہیں ایک دنیا دوسرے دین اور پھر ہر ایک کے اجزاء ہیں اور اس کا مقضا یہ تھا کہ دین کے ساتھ دنیا کی بھی ایک بڑی فہرست بتائی جاتی بالخصوص اس وقت کہ ریفارمروں کی رائے یہ ہے کہ اگر دنیا کی اصلاح نہ کی جائے گی تو دین کی کیا اصلاح ہو سکتی ہے افسوس! ان مصلحین نے جتنی اصلاح کی کوشش کی اسی قدر مرض بڑھتا گیا۔ وہ حالت ہو گئی کہ

ہرچہ کردند از علاج و از دوا رنج افزوں گشت و حاجت ناروا
انہوں نے جو کچھ علاج اور دوا کی تکلیف زیادہ بڑھتی رہی اور ضرورت پوری نہ ہوئی۔
یا ایک کنیز کا قصہ ہے مولانا نے مثنوی میں اس کو قتل کیا ہے یعنی طبیبان ظاہری جوں جوں علاج
کرتے گے سرض میں افزونی ہوئی گئی آخر جب طبیب مرحان آئے اور انہوں نے حالت کمھی تو یہ کہا
گفت ہر دارد کے ایشان کردہ اند آں عمارت نیست ویراں کردہ اند
بے خبر بودند از حال دروں استعید اللہ مما یفترون
انہوں نے ہر قسم کا علاج کیا مگر علاج مرض کے خلاف ہونے سے مزاج میں بجائے
درستی کے نادرستی بڑھ گئی۔ یعنی جس قدر دوائیں کی ہیں سب نے تباہ کیا ہے اور حقیقت حال
سے ان کو کچھ خبر بھی نہیں ٹلی اور یہ ہوا کہ

دید از زاریش کو زار دلت تن خوش است اما گرفتار دلت
عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چوں بیماری دل
اس کی گریہ وزاری سے اس نے معلوم کر لیا کہ وہ بیماری دل میں جتنا ہے بدن اچھا خاصہ
ہے مگر دل کہیں پھنسا ہے دل کے غذہ حال ہونے سے عاشق ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ بیماری دل
(عشق) کے برابر کوئی بیماری نہیں۔

کہ مرض دل کا تھا اور علاج بدن کا ہو رہا تھا جس میں مرض کا بڑھنا لازمی تھا۔ یہی حالت
اس وقت کے لیڈروں کی ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا مرض روپیہ کے نہ ہونے کو سمجھا کہ
روپیہ ہوتا تو یہ ہوتا اور وہ ہو جاتا۔ صاحبو! جہاں روپیہ بہت سا ہے وہاں کیا نور برس رہا ہے
ذراء امراء کی حالت کو ملاحظہ کر لیجئے اگر روپیہ کا نہ ہونا دین کے ضعف کا سبب ہے تو امراء میں
دین زیادہ ہونا چاہئے تھا اس لئے کہ ان کے پاس روپیہ زیادہ ہے۔

آج کل تو مشاہدہ کی بڑی پرستش ہوتی ہے سو آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ روپیہ والوں میں
دین زیادہ ہے یا غریبوں میں اور صورت اس کی یہ ہے کہ کیف ماتفاق چند غریبوں اور امیروں کو
لے لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ زیادہ دین دار کون ہے خود خدا تعالیٰ اس کے متعلق فرمائے ہے ہیں کہ۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى

ترجمہ۔ ہر گز نہیں برشک انسان پسے آپ کوئی ہو رہا تھا مدد کرتا ہے تو وہ مرکشی کرنے لگتا ہے

بس، ہم کو تو یہ کہنے کا حق ہے کہ دنیا کی ترقی کو مانع ہے جیسا کہ مشاہدہ و مضمون آیت
دونوں اس کی شہادت دے رہے ہیں لیکن ہم اپنے بھائیوں کی خاطر سے یہ کہتے ہیں کہ روپیہ فی نفس نہ
مضر ہے نہ مفید ہے اگر ہمارے بھائیوں کے پاس اس قسم کی کوئی دلیل ہوتی تو وہ ہرگز بھی رعایت نہ کرتے
تو ہم اپنے اس دعویٰ سے کہ روپیہ مانع ترقی دین ہے دست بردار ہوتے ہیں لیکن کوئی یہ بھی ثابت نہیں کر
سکتا کہ روپیہ نافع ہے دین میں۔ پس معلوم ہوا کہ نافع فی الدین واقع میں کوئی دوسری چیز ہے۔

قلب سلیم کی خاصیت

اور وہ قلب سلیم ہے یعنی اگر قلب سلیم ہے تو روپیہ کا ہونا نہ ہوتا دونوں مضمر نہیں اور اگر
قلب سلیم نہیں ہے تو روپیہ کا نہ ہونا تو کم مضر ہوتا ہے اور روپیہ کا ہوتا زیادہ مضر ہو جاتا ہے۔
روپیہ اور قلب سلیم کی مثال بالکل تکوار اور ہاتھ کی ہی ہے کہ تکوار کاٹتی ہے لیکن اسی وقت جب کہ
ہاتھ بھی ہوا اور اس میں قوت بھی ہوا اور اگر ہاتھ نہیں یا ہاتھ تو ہے لیکن اس میں قوت نہیں تو نری تکوار کیا
کام دے سکتی ہے بلکہ بعض اوقات خود اپنے ہی رخم لگ جاتا ہے اسی طرح اگر قلب سلیم نہ ہو تو نر اور روپیہ
کیا کام دے سکتا ہے۔ اصل چیز قلب سلیم ہے۔ اگر ایسے شخص کے پاس مال ہے تو وہ بے شک
حدیث نعم المآل الصالح عند الرجل الصالح کا مصدقہ ہے مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

مال اگر بہر دین باشی حمول نعم مال صالح گفت آں رسول

اگر دین کی ترقی ہی کے لئے مال کام میں آتا ہو تو ایسے مال کے متعلق حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا پا کیزہ مال اچھا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں۔

آپ درکشی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است
یعنی اگر کشتی کے اندر پانی بھر جائے تو اس کے ہلاک کا سبب ہوتا ہے اور اگر کشتی کے نیچے
رہے تو اس کے لئے معین ہوتا ہے اسی طرح اگر مال قلب کے اندر گھس گیا تو وہ قلب کے لئے
مہلک ہے اور اگر قلب سے باہر رہے تو وہ معین ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب صاحب
قلب سلیم کے پاس روپیہ ہو۔ غرض روپیہ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہی ہوئے۔ لہذا یہ دعویٰ غلط ہے
کہ ترقی دین دنیا کی ترقی پر موقوف ہے۔ مولانا علیہ الرحمۃ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

زرو نقہ چیست تا مفتون شوی چیست صورت تا چنیں مجنوں شوی
سونا اور چاندی کیا چیز ہے کہ جس پر تم اتنے دیوانے ہوتے ہو یہ صورت ہی کیا چیز ہے

کہ تم اس پر اس قدر دیوانے ہوتے ہو۔

کہ یہ صورت ہی کیا چیز ہے جس پر اس قدر مفتون ہوتے ہیں۔

صاحبوا۔۔۔ اپنے بزرگوں ہی کو دیکھ لجھتے کہ ان کے پاس اس قدر روپیہ کہاں تھا اور پھر دینداری میں ان کی حالت کیا تھی غرض ایک ضرورت کی چیز تو دنیا تھی تو اس کے توجانے والے مجھ سے زیادہ ہیں دوسراے دنیا کے متعلق کچھ بتانا ان کے وہیات میں ان کی مدد کرنا ہے تیرے ہم لوگ طالب علم ہیں ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے اس کو آپ خود ہی کریں البتہ مولویوں سے پوچھ کر اور حلال و حرام کو دریافت کر کے کریں آج کل بہت ہی صورتیں آپ نے ایسی اختراع کر لی ہیں کہ وہ بالکل ناجائز ہیں مثلاً شادی فنڈ، موت فنڈ، کہ سب قمار میں داخل ہیں۔

دریافت احکام شرعیہ

افسوں ہے کہ لوگ ترقی کی صورت تجویز کر کے ان پر خود ہی عمل کر لیتے ہیں یہ احتمال ہی نہیں ہوتا کہ ممکن ہے یہ جائز نہ ہو۔ صاحبو! جو چاہو وہ کرو لیکن خدا کے لئے مولویوں سے حل و حرمت کو دریافت کر لیا کرو۔ اور یہ کوئی عار کی بات نہیں۔ دیکھو تم بہت سی ضرورتوں میں مختلف جماعتوں سے پوچھتے اور مدد لیتے ہو۔ مثلاً اگر تجارت کرنا چاہو تو قانون و ان لوگوں سے پوچھتے ہو اس کی اجازت کے پہلو دریافت کرتے ہو۔ علی ہذا تو اگر شریعت کے احکام پوچھنا بکھیرا اور دردسر ہے تو گورنمنٹ کے قانون پوچھنا کیوں دردسر نہیں۔ جو آزادی قانون شریعت پر عمل کرنے میں فوت ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ کے قانون پر عمل کرنے میں بھی فوت ہوتی ہے تو سب سے بڑی آزادی تو اس میں ہے کہ کسی قانون پر عمل نہ کیا جائے اور ڈیکیتی ڈالنی شروع کر دی جائے پھر کیا کوئی عاقل اس کو آزادی کہے گا اور اگر چند احمدی مل کر ڈیکیتی ڈالنی تجویز کریں اور کوئی عقلمند آدمی ان سے کہے کہ یہ قانون میں ناجائز ہے تو کیا ان کو محض اس بنا پر کہ یہ قانون آزادی کے خلاف ہے اس قانون پر عمل کرنا ضروری نہ ہو گا معلوم ہوا کہ جس گورنمنٹ کے ملک میں رہوا اس کے قانون پر عمل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پس بموجب اس قaudah کے یا تو خدا تعالیٰ کے ملک سے نکل جاؤ اور کوئی دوسرا ملک تلاش کرو اگر خدا کے ملک میں رہو تو حیرت کی بات ہے کہ ساری گورنمنٹوں کے قانون پر تو عمل کرو مگر خدا کے قانون پر عمل نہ کرو۔ غرض دنیا کے کام آپ لوگ خود ہی کریں اور علماء سے پوچھ کر کریں۔ باقی علماء سے اس کی امید نہ رکھیں کہ وہ دنیا کے کاموں میں آپ کی اعانت کریں اور ان کی مدد ابیر آپ کو

بتلائیں۔ دنیا کا کام آپ کا کام ہے علماء کا نہیں۔ علماء سے اس کی امید رکھنا ایسا ہے جیسے کوئی چھار حکیم عبدالجید سے جوتے گنٹھوانے کے کام میں مدد چاہئے لگے۔

مثلاً اگر حکیم عبدالجید کے پاس کوئی دق کام ریض جائے اور وہ نسخہ لکھ دیں۔ نسخہ لے کر مطب سے باہر آئے تو ایک چمار مٹے اور مریض سے پوچھئے کہ تم کہاں گئے تھے اور وہ بتلائے۔ اس پر وہ چمار کہنے لگے کہ حکیم عبدالجید بھی عجیب بے خبر آدمی ہیں کہ ان سے اتنا ہوا کہ اس نسخے میں جوتی گنٹھوانے کی بھی لکھ دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کی حالت سے بالکل بے خبر ہیں۔ تو ساری دنیا اس چمار کو حمق بتائے گی اور کہے گی کہ حکیم عبدالجید کا یہ کام نہیں کر وہ جوئی گا نہ بننے کی ترکیب بتلائیں یا اس کام کے چلنے میں مدد یا کریں۔ حکیم عبدالجید کا کام امر ارض کے لئے ادویہ تجویز کرنے کا ہے تو علماء کو بھی حکیم عبدالجید ہی سمجھنا چاہئے کہ ان کا کام امر ارض باطن کے لئے نسخہ تجویز کرنے کا ہےنہ کہ دنیا کے کاموں میں تجویز بتلانے کا۔ اگر حکیم صاحب پر جوئی سلوانے کا نہ بتلانے کا الزام صحیح ہے تو علماء پر بھی صحیح ہے البتہ حکیم صاحب کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اگر جوئی سینے سے پہنچنے والے کے ہمراں میں زخم نہ پڑے اور پیر کے سڑنے کا اندر یہ شدید ہو تو جوئی سینے سے منع نہ کریں ورنہ منع کرنا ضرور ہو گا۔ مثلاً ایک شخص نے پہلے پہلے اس طرح جو تا سلویا کہ سوا پیر کی کھال کے اندر سے ہو کر لکھا تو حکیم صاحب کو اطلاع ہونے پر منع کرنا ضرور ہے اسی طرح علماء کے ذمہ بھی یہ ہے کہ اگر دنیا کے کام کرنے سے لوگوں کے قلب میں بد دینی کا زخم نہ پڑے تو ان کاموں سے نہ کوئی اور اگر قلب ذمی ہونے لگتا تو پھر ان کو روکنا ضرور ہے اور اگر زخم کے ڈر سے دوکنے میں حکیم صاحب بڑے شفیق ہیں تو زخم قلب سے بچانے کے لئے روکنے میں علماء بھی بڑے شفیق ہیں اور اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو میں وہ بر س کی مہلت دتا ہوں۔ الحاصل جب کسی حکیم پر یہ ضروری نہیں کہ وہ جوئی سینے کی ترکیب بتلایا کرے یا اس میں مدد کرے تو علماء کو بھی جو کہ طبیب روحانی ہیں کامل حق ہے کہ وہ اس باب میں یہ کہہ دیں کہ۔

نہ شم نہ شب پر تم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہم آفتاب گویم
نہ میں رات ہوں نہ رات کا پوچھنے والا ہوں کہ خواب کی باتیں کروں میں چونکہ سورج کا غلام ہوں اس لئے بیداری کی باتیں کروں گا۔

دنیا کی مثال بالکل خواب کی ہے اس کو وہ بتلائے جو شب پرست ہو، ہم آفتاب دین کے غلام ہیں ہم سے اس کی بابت پوچھئے۔ ہم اس کے سوا کچھ تباہیں میں گے اور نہایت غیر سے یہ کہیں گے۔

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کہ تکرار می کنیم
 ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سب بھلا دیا سوائے محبوب کی باتوں کے جس کا ہم سمجھ رکیا کرتے ہیں۔
 ہاں یہ علماء کا احسان ہو گا کہ وہ منع نہ کریں۔ یہ تو آپ کے بیہات اور اعتراضات کے جواب کی بناء پر گفتگو
 تھی اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ وقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ علماء دنیا بھی سکھلاتے ہیں۔

دین و دنیا کا تعلق

وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست ہوتی
 ہے۔ یعنی جب ان کے دین میں ترقی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اور جب دین میں کوتاہی ہوتی
 ہے تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم دین سکھلاتے ہیں معاملات معاشرت اخلاق کو درست
 کرتے ہیں تو گویا ہم دنیا کی ترقی کی تدبیر بھی بتلاتے ہیں البتہ ہماری تدبیر اور دوسروں کی تدبیر میں تھوڑا
 سا فرق ہے اور وہ یہ کہ دوسروں کی تدبیر میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ

چو میرد بتلا میرد چو خیزد بتلا خیزد

جب مرتے ہیں جب مصروف ہوتے ہیں جب اٹھتے ہیں مصروف ہوتے ہیں۔

واللہ العظیم! جو لوگ بظاہر نہایت آسانش میں معلوم ہوتے ہیں ان کی اندر ورنی حالت
 اگر دیکھی جائے تو معلوم ہو گا کہ ساری پریشانیوں کا نشانہ یہی ہیں۔

ان لوگوں کی حالت پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا میرے استاد علیہ الرحمۃ فرماتے تھے کہ ایک
 شخص نے یہ دعا کی مجھے خواجہ خضرمل جائیں۔ چنانچہ خواجہ خضر اس کو مل گئے اس نے کہا کہ
 حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے دیں کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں
 خواجہ خضر نے کہا کہ بے فکری اور راحت دنیادار میں نہیں ہو سکتی اس نے پھر اصرار کیا انہوں نے
 فرمایا کہ اچھا تو کسی ایسے شخص کو انتخاب کر جو تیرے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام میں
 ہو میں یہ دعا کروں گا کہ تو بھی اسی جیسا ہو جائے اور تین دن کی اس کو مہلت دی آخراں نے
 لوگوں کی حالت کو دیکھنا شروع کیا۔ جس کو دیکھا کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت و پریشانی میں بتلا
 پایا بہت سی تلاش کے بعد اس کو ایک جو ہری نظر پڑا جس کے پاس حشم و خدم بھی بہت کچھ تھے
 صاحب اولاد بھی تھا اور اس کو بظاہر کوئی فکر نہ معلوم ہوتی تھی اس کو خیال ہوا کہ اس جیسا ہونے
 کی دعا کراؤں گا لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کسی بلا میں بتلا ہو اور میں بھی

دعا کی وجہ سے اسی میں بتلا ہو جاؤں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اول اس سے اس کی اندر ونی حالت دریافت کرلوں۔ چنانچہ اس جو ہری کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو کہہ سنایا۔

جو ہری نے ایک آہ سرد گھنٹی اور کہا کہ خدا کے لئے مجھے جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرنا میں تو ایک مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی اس میں گرفتار ہو واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی یا مار ہوئی اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئی میں اس کو مرتے دیکھ کر رونے لگا اس نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو میں مر جاؤں گی تم دوسری کرلو گے۔ میں نے کہا کہ نہیں میں اب ہرگز نکاح نہ کروں گا۔ کہنے لگی کہ سب کہا ہی کرتے ہیں ایفا کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں چونکہ اس کی محبت میں مغلوب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنج دل پر تھا میں نے اس کے کہنے پر استرا لے کر اپنا اندام نہانی فوراً کاٹ ڈالا اور اس سے کہا کہ اب تو تجھ کو بالکل اطمینان ہو گیا۔ اتفاق سے وہ اپنے مرض سے جانب ہو گئی اب چونکہ میں بالکل بے کار ہو چکا تھا اس لئے اس نے میرے نوکروں سے سازباز کر لیا یہ جس قدر اولاد میں دیکھتے ہو سب میرے نوکروں کی عنایت ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھتا ہوں لیکن اپنی بدنامی کے خیال سے کچھ نہیں کہہ سکتا اس واسطے تم مجھے جیسے ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا۔

آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں جب تیرے دن حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہو کیا راتے ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے اپنی محبت کامل اور دین کامل عطا فرمائے چنانچہ آپ نے دعا فرمادی اور وہ نہایت کامل دیندار ہو گیا۔

تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی آرام سے نہیں ہے اندر ونی حالت سب کی پریشانی ہے اس واسطے کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ لا ینتہی ارب الالی ارب ایک آرزو ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے اور تفویض و رضا بالقضا ہے نہیں۔ ہر کام میں یوں چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے اور سب امیدوں کا پورا ہونا دشوار اس لئے نتیجہ اس کا پریشانی ہی پریشانی گو ظاہر میں اموال اولاد سب کچھ ہے مگر اس حالت میں وہ خود آں تعذیب ہیں اسی کو فرماتے ہیں۔

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ

ان کے مال اولاد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حیرت میں نہ ڈالے۔

بظاہر اگرچہ ان کے پاس مال و دولت بہت کچھ ہے لیکن وہ ان کے لئے عذاب ہے۔ میں نے کانپور میں ایک رئیسہ کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے اس قدر محبت تھی کہ اولاد

کی بدولت کبھی چار پائی پر سوتا نصیب نہیں ہوا کیونکہ بچے کئی تھے ایک چار پائی پر کیسے سماں میں اور سب اپنے پاس لے کر سوتی تھیں۔ کسی پر ایک ہاتھ رکھ لیا کسی پر دوسرا ہاتھ رکھ لیا کسی پر پیرو رکھ لیا پھر غصب یہ کہ رات کو انٹھ کر ٹوٹتی تھیں کہ سب ہیں بھی یا نہیں۔ تمام رات ان کو اس مصیبت میں گزرتی تھی اتفاق سے ان کا ایک بچہ مر گیا تو وہ اس قدر پریشان ہوئیں کہ اس کے کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوئیں اور کانپور چھوڑ کر لکھنؤ یا اور کہیں چل دیں۔

علی ہذا مال بھی اکثر لوگوں کو عذاب جان ہو جاتا ہے اور راز اس کا بھی بھی ہے کہ واقعات تو اختیار میں ہوتے نہیں اور ہوں زیادہ ہوتی ہے اس واسطے ہمیشہ مصیبت میں گزرتی ہے برخلاف اس شخص کے کہ جس کے پاس دین ہو کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور محبت میں یہ حالت ہوتی ہے کہ۔

ہرچہ آں خرو کند شیریں بود
وہ بادشاہ جو کچھ بھی کرتا ہے میٹھا ہی ہوتا ہے۔

حضرت غوث اعظمؑ کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے ایک آئینہ چینی نہایت بیش قیمت لا کر دیا آپ نے خادم کے سپرد کر دیا کہ جب ہم مانگا کریں تو ہم کو دے دیا کرو۔ ایک روز اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ خادم ڈر اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ۔

از قضا آئینہ چینی نکلت

(قضا سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا)

آپ نے بیساختہ نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ

خوب شد اسباب خود بنی نکلت

(اچھا ہوا خود بنی کے اسباب ختم ہوئے)

اور مال تو کیا چیز ہے اولاد کے مر جانے پر بھی یہ حضرات پریشان نہیں ہوتے یہ دوسری بات ہے کہ طبعی رنج ہو سو یہ کوئی نہ موم نہیں انبیاء علیہم السلام کو بھی ہوا ہے غرض دین کے ساتھ اگر دنیا ہوگی تو وہ دنیا بھی مزیدار ہوگی بلکہ اگر زاد دین ہو تب بھی ان کی زندگی نہایت مزیدار ہے اس لئے کہ وعدہ ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً

جس کسی نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ صاحب ایمان ہو پس ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔

ان حضرات کو بیچ ندارد میں بھی لطف آتا ہے۔

حضرت شاہ ابوالمعالیٰ کی حکایت ہے کہ ایک مرتب آپ گھر پر موجود نہ تھے کہ آپ کے مرشد تشریف لائے اتفاق سے اس روز گھر میں فاقہ تھا۔ اہل خانہ نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں آپ کے لئے کوئی انتظام ہوتا چاہئے آخ خادمہ کو محلے میں بھیجا کہ اگر قرضہ مل جائے تو کچھ لے آئے خادمہ دو تین جگہ جا کر واپس چلی آئی اور کچھ نہ ملا۔ متعدد مرتبہ کی آمد و رفت سے حضرت کوشہ ہوا اور آپ نے حالت دریافت فرمائی معلوم ہوا کہ آج فاقہ ہے آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے ایک روپیہ نکال کر دیا کہ اس کا اناج لاو چنانچہ اناج آیا آپ نے ایک تعویذ لکھ کر اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس اناج کو مع تعویذ کے کسی برتن میں رکھ دو اور اسی میں سے نکال کر خرچ کرتے رہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس اناج میں خوب برکت ہوئی چند روز کے بعد جو شاہ ابوالمعالیٰ صاحب آئے تو کئی وقت تک کھانے کو برابر ملا۔ آپ نے ایک روز تعجب سے پوچھا کہ کئی روز سے فاقہ نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ ایک طرح سے حضرت ایک تعویذ دے گئے تھے۔ اب اس موقع پر ملاحظہ فرمائیے حضرت شاہ ابوالمعالیٰ کے ادب کا اور آپ کی خداداد سمجھ کا کہ ادب تو کل کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ادب پیر کو بھی ملحوظ رکھا۔ فرمانے لگے کہ اس اناج کو ہمارے پاس لاو۔ چنانچہ لایا گیا آپ نے اس میں سے تعویذ کو نکال کر تو اپنے سر پر باندھا اور فرمایا کہ حضرت کا تعویذ تو میرے سر پر رہنا چاہئے اور اناج کی بابت حکم دیا کہ سب فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ سب تقسیم کر دیا گیا اور اسی وقت سے پھر فاقہ شروع ہو گیا۔ ان حضرات کا فاقہ اختیاری فاقہ تھا کیونکہ اس کو منت سمجھتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ پر تین تین دن فاقہ کے گزر جاتے تھے اور جب بیوی بہت پریشان ہو کر عرض کرتیں کہ حضرت! اب تو تاب نہیں رہی فرماتے کہ تھوڑا صبر اور کرو جست میں ہمارے لئے عمده عملہ کھانے تیار ہو رہے ہیں لیکن بیوی بھی ایسی نیک ملتحی کو وہ نہایت خوشی سے اس پر صبر کرتیں۔

صاحبو۔۔۔ ان حالات پر آپ کو تعجب نہ کرنا چاہئے اور اگر تعجب ہے تو یہ ایسا ہی تعجب ہے جیسے کوئی عنین تعجب کرنے لگے کہ صحبت میں بھی لطف ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا سا بھی اور اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ محبت میں تو مطلق ای عالم ہوتا ہے کہ۔

چودر چشم شاہد نیا یہ زرت زرو خاک یکسان نماید برت
اگر تیرے روپے کی محبوب کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے تو تیرے نزدیک روپیہ اور مٹی

برا برا ہو جائیں گے۔

دیکھو اگر محبوب کو ایک ہزار روپیہ دو اور وہ لات مار دے تو تمہارے دل میں بھی اس روپیہ کی قدر نہیں رہتی اور محبت مجازی میں جب یہ حالت ہے تو حقیقی کا کیا پوچھنا اسی کو فرماتے ہیں۔

تراعشق ہچھو خودے ز آب و گل رباید ہمہ صبر و آرام دل عجب داری از سالکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریق ایک معشوق نے اپنے عاشق سے کہا کہ اے جوان تو نے سفر میں بہت سے شہر دیکھے دیکھئے اگر کوئی محبوب اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دے اور اس درمیان کھانے کا وقت آجائے اور محبوب کہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو جا کر کھانا کھا لو۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ عاشق اس وقت اٹھنے اور کھانے کو گوارہ کرے گا۔ ہرگز نہیں تو جب محبت کی یہ حالت ہوتی ہے تو شیخ کے فاقہ پر کیا تعجب ہے۔ وہ حضرت حق محبوب حقیقی سے معیت رکھتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں۔

گفت معشوقہ بعاشق کاے فتا تو بہ غربت دیدہ بس شہرها پس کدا می شہر زانہا خوشنتر ست گفت آں شہرے کہ دروے دلبرست ایک معشوق نے اپنے عاشق سے کہا کہ اے جوان تو نے سفر میں بہت سے شہر دیکھے تو کون سا شہر ان میں سے تیرے نزدیک اچھا ہے اس نے جواب دیا بس وہی شہر جس میں محبوب ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں۔

ہر کجا دلبر بود خرم نشین فوق گردون ست نے قعر زمین
ہر کجا یوسف رخ باشد چو ماہ جنت ست آں گرچہ باشد قعر چاہ
جس جگہ محبوب خوشی سے رہتا ہو وہ تو آسمانوں سے بھی اوپنجا ہے جس کسی کی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے چہرہ والا موجود ہو وہی جنت ہے اگر چہ وہ کنویں کی گہرائی، ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو اگر محبوب کنویں کے اندر ہو وہ بھی جنت ہے۔ تو جب محبوب مجازی کی معیت کی یہ حالت ہوتی ہے تو محبوب حقیقی کی معیت اگر میر ہو جائے تو کیا حالت ہو گی۔

غرض دنیا دار آپ کو بے مزہ دنیا سکھلاتے ہیں اور ہم مزے دار دنیا سکھلاتے ہیں اور وہ وہی دنیا ہے جو کہ دین کے ساتھ ہو کہ وہ نہایت لطیف اور مزے دار ہوتی ہے اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ضابطہ کا جواب وہی ہے کہ دنیا کا بتلانا ہی میرے ذمہ نہیں ہے۔

اجزائے دین

یہ توانیا کے متعلق تھا اب رہ گیا دین۔ سواں کی یہ حالت ہے کہ اس کے پانچ جزوں۔

۱۔ عقائد ۲۔ دیانت ۳۔ معاملات ۴۔ معاشرت ۵۔ اخلاق۔

ان میں سے ہر جز کے اعتبار سے ہماری حالت ناگفتوں ہے۔ عقائد میں توحید و رسالت کے متعلق جو گرد بڑکر کھلی ہے سمجھی جانتے ہیں کہیں تجھیں فلسفی کی وجہ سے اس پر اعتراض کئے جاتے ہیں کہیں باطل تصوف کی وجہ سے شکوک گزرتے ہیں اولیاء اللہ کو انبياء کے درجے سے متجاوز کر دیا ہے انبياء کو خدا کے درجے سے متجاوز بنادیا ہے اور وہ حالت ہے کہ جس شخص کو شریعت سے جتنا بعد ہے اس کو خدا تعالیٰ سے اسی قدر زیادہ مقرب کہا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فساق اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگے ہیں۔

دوسرے جز دیانت ہیں۔ ان کے متعلق معلوم ہے کہ روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں زکوٰۃ کتنے ادا کرتے ہیں۔ حجج کتوں نے ادا کیا۔

تمیرا جز معاملات کا ہے ان کو لوگوں نے شریعت سے بالکل ہی خارج سمجھ رکھا ہے ان کے یہاں نہ بیع المعدوم حرام ہے نہ معاملات سود حرام ہیں۔ ان کا مطیع نظریہ ہے کہ جس طرح ہو سکے بہت ساروپیہ سمیت لیا جائے کھانے میں کھی خوب زیادہ ہو۔ کسی کی زمین دلبی ہے تو کچھ پروانہیں ڈگریاں سود سمیت کرائی جاتی ہیں تو کچھ غم نہیں۔

چوتھا جز معاشرت ہے اسکی جوگت ہے سمجھی واقف ہیں۔ شادی غنی میں جس طرح جی چاہتا ہے کرتے ہیں نہ انکو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ فتویٰ لینے کی حاجت جو کچھ بیوی صحبہ نے کہہ دیا وہ کر لیا گویا وہی شریعت کی مفتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہ پائیگی جنکی سردار اعودت ہوگی۔ علی ہذا۔

قومی شعار

وضع کو دیکھئے تو اس کی یہ حالت ہے کہ صورت سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر داڑھی بالکل صاف سر پر جھیلوں کے سے بال بڑھے ہوئے۔ صاحبو! آج قوم قوم پکارا جاتا ہے لفظ قوم کی بڑی پرستش کی جاتی ہے لیکن افسوس ہے کہ آپ کو امتیاز قومی کی بھی پروانہیں اگر آپ پر داڑھی کا رکھنا فرض بھی نہ ہوتا بھی قومی شعار ہی سمجھ کر اس کو رکھنا چاہئے تھا آخرون قومی شعار بھی تو کوئی چیز ہے کتنا افسوس ہے کہ مسلمان ہندوؤں کا شعار اختیار کریں اور ہندو مسلمان کا۔

میرے بھائی کے پاس دو شخص عہدہ دار آئے ایک ان میں سے ہندو بہ شکل مسلمان تھا۔

ایک مسلمان بے شکل ہندو تھے۔ مسلمان صاحب کے لئے گھر سے پان آیا خادم چونکہ دونوں سے ناواقف تھا اس لئے اس نے ہندو کے سامنے پان پیش کیا اس پر وہ دونوں نہیں۔ اس سے وہ خدمت گار سمجھا کہ مسلمان یہ ہیں جن کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔

صاحب! اگرچہ گناہ بہ حیثیت گناہ ہونے کے تو سب ہی برے ہیں لیکن تاہم بعض گناہ ایسے ہیں کہ گوہ ہم ہی کے درجے میں ہو لیکن انسان اس میں اپنی مجبوری اور عذر بیان کر سکتا ہے مثلاً رشوٰت کا لینا کہ اس کی جس قدر مجبوریاں بیان کی جاتی ہیں گوہ سب وہی ہیں لیکن تاہم ہیں تو بھلا داڑھی منڈانے کی ناشائستہ حرکت میں کیا مجبوری ہے۔ اس پر کون سا کام انکا ہے اگر کوئی صاحب کہیں کہ اس سے حسن بڑھتا ہے تو میں کہوں گا کہ بالکل غلط ہے ایک عمر کے دوآدمیوں کو پیش کیا جائے جن میں ایک کی داڑھی منڈی ہو اور دوسرے کے چہرے پر داڑھی ہواں کے بعد موازنہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ کس چہرے پر حسن برستا ہے اور کس پر پھٹکار برستی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت یہی تسبیح پڑھتے ہیں۔

سبحان من زین الرجال باللحى والنساء باللواطب۔ (کشف الخفاء للحجوني: ۵۲۸)

وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو چوٹی سے زینت بخشی۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے داڑھی کا ہونا زینت ہے اور اگر اس زینت کے رکھنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کا سر بھی منڈانا چاہیے غرض داڑھی منڈانے کی وجہ حسن و جمال تو نہیں ہو سکتی۔
لکھتہ میں ایک مخد نے مولانا شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی۔ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خلاف فطرت ہونے کی وجہ ہے تو دانت خلاف فطرت ہیں ان کو بھی توڑوں کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہیں تھے۔

غرض داڑھی کا منڈانا نہایت لغوح رکت ہے اور میں نے اس وقت بالقصد داڑھی کا تذکرہ نہیں کیا لیکن میں چونکہ اپنے عیوب و امراض بتلارہا ہوں۔ اسی ذیل میں اس کا تذکرہ بھی آ گیا صاحبو!
واللہ بعض دفعہ داڑھی کے تذکرہ سے شرم آتی ہے کہ شاید کسی کو ناگوارگز رے مگر منڈانے والوں کو اتنا حجاب بھی نہیں ہوتا اور اب تو غصب یہ ہے کہ بعض لوگ داڑھی منڈانا حلال بھی سمجھنے لگے ہیں اور جب اس کی بابت ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کی حرمت دکھلائیے۔

شرعی دلائل کی بنیاد

یہ سوال آج کل ایسا عام ہوا ہے کہ ہر شخص ہر بات کو قرآن سے مانگنے لگا ہے میں اس سوال کا ایک فیصلہ کن جواب دیتا ہوں یہ کوئی لطیفہ نہ ہو گا بلکہ قابل غور جواب ہو گا لیکن اول ایک شرعی اور ایک تحدی قاعدہ بیان کرتا ہوں۔

تحدی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں ایک ہزار روپے کا دعویٰ پیش کرے اور اس کی شہادت میں دو شاہد ایسے پیش کر دے جن میں مدعا علیہ کوئی نقص یا عیب نہ نکال سکے تو مدعا علیہ پڑ گری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مدعا علیہ کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ ان گواہوں کو تسلیم نہ کرے اور یہ کہہ کر میں تو دعویٰ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ خود صاحب نجح اور محضزیریث ضلع آ کر گواہی نہ دیں اور اگر مدعا علیہ ایسا کرے تو عدالت اس کو کہہ گی کہ دعویٰ کے اثبات کے لئے مطلق شاہد کی ضرورت ہے شاہد خاص کی ضرورت نہیں ہے پس یا تو ان گواہوں میں کلام کرو یا دعوے کو تسلیم کرو۔ یہ قاعدہ تحدی بھی ہے اور شرعی بھی۔

اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے چار دلائل ہیں۔ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، تو گویا یہ شاہد ہیں احکام کے پس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہذا حکم "شرعی" تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ان چاروں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت ہے۔ اور یہ دعویٰ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ایک ہزار روپیہ کا دعویٰ کرے۔ پس اس شخص کی طرح اس کو بھی اختیار ہے کہ جس دلیل سے چاہے ثابت کر دے خواہ حدیث پڑھ دے خواہ امام ابوحنیفہ کا قول لقل کر دے۔

ان دونوں قاعدوں کے معلوم کرنے کے بعد اس سوال کا جواب سننے وہ یہ ہے کہ دائری کٹانے یا منڈانے کی حرمت حدیث شریف سے ثابت ہے اور حدیث بھی دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے اگرچہ قرآن اس سے بڑا ہے تو قرآن سے دلیل کا طلب کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص خاص محضزیریث کی گواہی پر ثبوت مدعا کا مدار کئے البتہ یہ حق ہر شخص کو حاصل ہے کہ اگر ممکن ہو حدیث میں کلام کرے لیکن اگر حدیث میں کلام نہ کر سکے تو آگے گنجائش باقی نہیں رہتی۔

میں بھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اتنی خوش اخلاقی نہ کیا کیجئے کہ جس کسی نے جس قید کے ساتھ کوئی بات پوچھی آپ اسی طرح جواب دینے کی فکر میں پڑ گئے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بد اخلاق ہوتے ہیں حالانکہ مولوی اس قدر خوش اخلاق ہوتے ہیں کہ ان کی خوش اخلاقی کی

بدولت آپ خراب ہو گئے۔ غرض قرآن شریف سے داڑھی منڈانے کی حرمت کو تلاش کرنا اور حدیث وغیرہ کو جنت نہ سمجھنا بڑی غلطی ہے اسی طرح مجیب صاحبوں سے عرض ہے کہ آپ نے جو اس کی حرمت کو قرآن سے ثابت کر بھی دیا تو ہر ہر مسئلہ کو کہاں تک قرآن سے ثابت کیجئے گا۔ مثلاً مغرب کی تین رکعتیں و تر کا وجوب اور اس کی تین رکعتیں قرآن کی کس آیت سے ثابت کرو گے۔

ہماری اخلاقی حالت

رہے اخلاق اور یہ پانچواں جز ہے سواس کی بابت بھی جانتے ہیں کہ اخلاق کی خرابی سے ہمارے علماء اور طلباء بھی بہت ہی کم بچتے ہیں۔ اکثر دیندار لوگوں کو اس کی تو فکر ہوتی ہے کہ داڑھی بھی ہو۔ شخص سے اوپر پاجامہ بھی ہو۔ لباس سارا شریعت کے موافق ہو لیکن اخلاق کو دیکھئے تو اس قدر خراب کہ گویا بھی شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی جس سے وہ حالت ہوتی ہے کہ۔

از بروں چوں گور کافر پر حلل و اندروں قهر خدائے عزوجل

از بروں طعنہ زنی بر با یزید وز درونت ننگ میدارد یزید

باہر سے تو ایسا ہے جیسے کافر کی قبر بھی ہوئی ہوتی ہے اور اندر خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے باہر کی حالت تو نے ایسی بنارکھی کہ حضرت بایزید بسطامی جیسے بزرگ پر اعتراض کرنے لگے اور تیر سے اندر کی حالت ایسی ہے کہ یزید جیسے شخص کو بھی شرم آنے لگے۔

بہت لوگ ہماری پارسایانہ صورت کو دیکھ کر دھوکہ میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے خاص مقبولیں میں ہیں حالانکہ ہم میں یہ جزا خلاق کا جو کہ شعب دین سے ایک عظیم الشان شعبہ ہے، ہم میں نشان تک نہیں ہوتا۔ ہماری ساری حرکتیں تکلف پر منی اور سارے افعال بناؤٹ سے ناشی ہوتے ہیں۔ تو یہ امراض ہم میں ہیں جن کا علاج نہایت ضروری ہے اور جن کی وجہ سے ہماری حالت نہایت ناگفتہ ہے سو میں ان کا علاج بتلاتا ہوں۔

علاج کی فتمیں

علاج ہر مرض کا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک علاج کلی اور ایک علاج جزئی۔ علاج جزئی تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر ہر شکایت اور ہر ہر مرض کا فرد افراد اعلان کیا جائے اور علاج کلی اس کو کہتے ہیں کہ تمام امراض کی جزو یعنی ایک امر مشترک کا ازالہ کر دیا جائے کہ اس سے ہر شکایت خود بخود جاتی رہے۔ شریعت میں

پہلی قسم کے علاج بھی ہیں اور دوسری قسم کے بھی لیکن پہلی قسم کے علاج کی آج کل اگوں میں ہمت نہیں رہی البتہ پہلے لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ ریا، عجب، حسد، کبر، بعض وغیرہ سب کا علاج علیحدہ علیحدہ کرتے تھے اور معانع کے لئے بھی ہمیں ہے گوریض کے لئے اس میں دشواری ہے۔

مثلاً اگر ایک شخص سر سے پیرتک بیماریوں میں بتلا ہوا س کے لئے بہت اچھا یہ ہے کہ کوئی ایسا نسخہ تجویز کیا جائے کہ اسی ایک نسخے سے سب مرض جاتے رہیں مگر یہ معانع کو نہایت دشوار ہے۔ شریعت اسلامیہ کے قربان جائیے کہ اس نے ایسا علاج بتلا دیا کہ ایک ہی علاج میں ہر مرض سے رہا ہو جاتی ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ بعض شکایتوں میں اصل مرض ایک ہوتا ہے اور باقی سب اعراض ہوتے ہیں جو کہ اس مرض سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

جیسا ایک شخص کا قصہ ہے کہ اس نے ایک طبیب سے شکایت کی کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا بڑھاپ کے سبب۔ پھر اس نے کہا کہ میرے سر میں درد بھی رہتا ہے طبیب بولا کہ یہ بھی بڑھاپ کے سبب۔ اسی طرح اس نے بہت سی شکایتیں بتلائیں اور طبیب نے سب کا بھی جواب دیا کہ یہ سب بڑھاپ کی بدولت ہے تو اصل مرض اس شکایت میں بڑھاپا تھا اور باقی سب اس کے اعراض تھے۔ ایک اور نظیر لجھے۔ رات کے وقت آپ نے چراغ گل کر دیا اور چوہے، چچھوندر چھپلی وغیرہ نکلنے شروع ہوئے تو بظاہر یہ بہت سے موزیوں کا ہجوم ہے کہ فرد افراد اہر ایک کا دفع کرنا دشوار ہے لیکن سب ان سب کی طرف ایک چیز ہے یعنی ظلمت۔ اب اس کو دور کر دیا جائے گا تو یہ سارے موزی خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کی یہ خوبی ہے کہ اس نے تمام شکایتوں میں سے اصل مرض کو منصب کر کے بتلا دیا۔

بنیادی امراض

اس کی تدبیر بتلا دی کہ اصل مرض ہم میں دو ہیں علی سبیل منع الخلو، یعنی کبھی تو وہ دونوں ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس میں سے ایک کبھی نہ ہو۔ میں اس کو مفصل ذرا اس لئے بیان کرتا ہوں کہ ہماری حالت بہت کچھ محتاج اصلاح ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری اصلاح ممکن ہی نہیں حالانکہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ صاحبو! اگر دین ایسا نگہ ہوتا تو قرآن شریف میں یہ ارشاد نہ ہوتا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرَيْةً

اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کی یہ بیان اور اولاد تھی۔ نیز مسلمانوں کے لئے خلافت اور سلطنت عطاہ ہوتی۔ بس یہ سمجھنا کہ اصلاح حالت کے لئے بالکل یہ ترک تعلق کر دینا ضروری ہے مخفی غلطی ہے وہ اصل مرض ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں تعلیم نہیں اور علم دین سے بالکل ناواقف ہیں۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں کی صحبت نصیب نہیں اور میرے اس جملہ سے عقلاء کو اس بیان کی اصل غرض کا پتہ چل گیا ہو گا اور ایک بڑا شہر بھی حل ہو گیا ہو گا۔ کیونکہ بعض لوگ علی المعموم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا مقصود تعلیم دین کی ترغیب سے پورا مولوی بنانا ہے اور بدون اس کے ان کے نزدیک مقصود حاصل نہیں ہوتا تو میرے اس عطف سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان کے نزدیک پورا مولوی بنانا ضروری نہیں۔ بلکہ یا تو پورا مولوی بنایا جائے اور یا بزرگوں کی صحبت ہو۔ اس کو تفصیل سے ذرا یوں سمجھتے کہ ایک تو علم دین کی تعلیم بقدر ضرورت ہے اس تعلیم کا عام ہونا تو نہایت ضروری ہے اور ایک تعلیم ہے اصطلاحی عالم بننا۔ یہ سب کے لئے ضروری نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گورنمنٹ کا قانون کہ بقدر ضرورت قانون کا جانشناز عالیاً میں سے ہر فرد واحد کے لئے ضروری ہے اور قانون میں پاس کرنا ساری رعایا کے لئے ضروری نہیں اور اگر کوئی گورنمنٹ اس پر مجبور کرے تو بے شک یہ نگی ہے۔ تو اصطلاحی علماء سب نہیں بن سکتے بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ہم تو سب کا اصطلاحی عالم بنانا مناسب بھی نہیں سمجھتے۔ اب تو آپ کے شہر کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی اور وجد اس کی یہ ہے کہ اگر سب مولوی ہو جائیں اور ملوویت میں مشغول ہو جائیں تو معاش کے اسباب بالکل گم ہو جائیں اور ان اسباب کا حفاظ کر کرنا خود شریعت کو مقصود ہے۔

مقصود علماء

اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ سب کا مولوی بنانا جائز بھی نہیں ہے۔ اس پر شاید لوگوں کو تعجب ہو لیکن بات یہ ہے کہ مولوی ہونے سے مراد مقداء ہونا ہے اور مقداء ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں جن میں سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس شخص میں حق پرستی ہو نفس پرستی نہ ہو طمع اور لامجہ اس میں نہ ہو کہ اپنی طمع کی وجہ سے مسئلہ کو بدل دے۔ علماء بنی اسرائیل میں یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اسی کی نسبت کہتے ہیں۔

بے ادب را علم و فن آموختن دادن تنق ست دست راہزن
بری فطرت والے شخص کو علم اور فن سکھانا ایسا ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تکوار دے دی جائے۔

اور یہ مشاہدہ ہے کہ طمع میں بہت طبائع بتلا ہیں جب یہ ہے تو فرض کیجئے کہ ایک شخص میں طمع اور نفس پرستی ہے اور اس کو مقتدا بنادیا گیا تو وہ کیا کرے گا ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح قوم کے قوم کو تباہ کرے گا۔ اور اپنی طرف سے تراش کر میلے لکھے گا۔ میں نے ایک شخص کا فتوی دیکھا ہے کہ اس نے ایک ہزار روپیے لے کر ساس سے نکاح کو حلال کر دیا تھا۔

دہلی کے ایک بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس کو ایک مرتبہ حریر پہننے کی طرف میلان ہوا۔ بعض تنخواہ دار مولویوں نے اس کی حلت کا فتوی دے دیا اور بہت سے وجہ حلت کے لکھ دیئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ملاجیوں بھی دستخط کر دیں تو میں پہنن لوں گا۔ ملاجیوں کے پاس استفتاء گیا آپ نے کہلا بھیجا کہ میں دہلی آ کر جواب دے دوں گا اور جامع مسجد میں جواب دوں گا۔ چنانچہ آپ دہلی تشریف لائے اور جامع مسجد میں ممبر پرجا کر بعد نقل سوال جواب کے احتلال معصیت کی بناء پر بطور زجر کے فرمایا کہ مفتی و مستفتی ہر دو کافراند بادشاہ یہ سن کر نہایت غضب ناک ہوا اور اس نے قتل کا حکم دیا۔ بادشاہ کے ایک فرزند کو جو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے ملاجی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے قتل کی تدابیر ہو رہی ہیں۔ ملاجی نے سنا تو بہت براہم ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے اور فرمایا کہ وضو کے لئے پانی لاو کہ میں بھی ہتھیار باندھ لوں کیونکہ الوضو سلاح المون۔ حقیقت میں ان حضرات کو تہائے سمجھنا چاہئے۔ حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

بس تجربہ کردیم دریں دیر مكافات بادر دکشاں ہر کہ در افتاد بر افاد
ہم نے اس دنیا میں بہت تجربہ کیا ہے تو یہ بھی بدلہ ملنے کی جگہ ہے جو بھی عاشقان الہی
کے ساتھ ابھتتا ہے خود نقصان اٹھاتا ہے۔

شہزادہ نے جو آپ کے جلال کی حالت دیکھی تو دوڑا ہوا باب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کیا غصب کرتے ہیں ملاجی آپ کے مقابلہ کے لئے وضو کر رہے ہیں اور بزرگوار سلاح و ضودرست کر رہے ہیں تج رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر تھرا گیا اور کہا کہ اب کیا کرو؟ میں تو حکم دے چکا ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ سب کے سامنے میرے ہاتھ ایک خلعت بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تب ملاجی کا غصہ فرد ہوا۔

اس قسم کے لوگ البتہ مقتداء ہونے کے قابل ہیں اور ایسے بہت لوگ گزرے ہیں برخلاف ان طماع لوگوں کے کہ یہ بجز فساد کے اور کیا کریں گے۔

چنانچہ ایک ایسے ہی بزرگوار کا قصہ ہے اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہے کہ ان سے ایک عورت نے جس کا دوسرا شخص سے تعلق تھا کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی اور وہ مجھے طلاق نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ تو کافر ہو جا (نعوذ باللہ) اس سے نکاح ثبوت جائے گا۔ فرمائیے! اب ایسے لوگ مقتدا ہوں گے تو قوم کی کیا حالت ہو گی اور عجب نہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ان کے پڑھانے والوں سے بھی باز پرس ہو جب کہ ان کو قرآن سے معلوم ہو کہ یہ ایسے ہوں گے اور یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین انتخاب کر کے پڑھاتے تھے۔ ہر کس ونا کس کو علم دین مقتدا ہست کے درجے تک نہ سکھلاتے تھے۔

اس مقام پر شاید متکبرین خوش ہوں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جلا ہے تیلیوں کو نہ پڑھایا جائے۔ وہی بات ثابت ہو گئی۔ سوانح کو سمجھ لیتا چاہئے کہ حضرات سلف صالحین کا انتخاب انساب سے نہیں ہوتا بلکہ ملکات سے ہوتا تھا۔ یعنی جس شخص میں ملکات فاضلہ دیکھتے تھے ان کو علم دین کی تعلیم کامل دیتے تھے اور جس شخص میں ملکات رذیلہ دیکھتے تھے اس کو بقدر ضرورت سکھلا کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی رائے دیتے تھے اگرچہ پہلا کسی ادنیٰ اور معمولی گھرانے کا ہو۔ اور دوسرا کسی عالی خاندان کا۔ اور اگر آپ کو جلا ہے تیلیوں سے اس قدر عار آتی ہے تو انکی جنت میں بھی نہ جائیے گا بلکہ فرعون وہاں کیسا تھے چلے جائیے گا کیونکہ وہ بہت بڑے لوگوں میں تھے۔

صاحب۔۔۔ نسب کا علو اور سفل غیر اختیاری ہے اور ملکات کے مقتضا پر چلنَا اختیاری ہے اور غیر اختیاری امور میں عزت یا ذلت نہیں ہوا کرتی۔ عزت و ذلت کا مدار اختیاری افعال ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قیامت میں ان انساب کا اعتبار نہ ہو گا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَءُ لَوْنَ

اور اس روزان کے درمیان نہ نسب و خاندان ہوں گے اور نہ اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر یہ کہ شریف تو پڑھیں نہیں اور اس اسفل کو پڑھنے نہ دیں۔ کیا ظلم ہے۔ خدائی نہ ہب کا نشر اور اس کا شیوع تو ضرور ہونے والا ہے اور اس کے لئے ہر زمانے میں غیب سے سامان ہوتا رہا ہے جس وقت تک شرفاء علم کی طرف متوجہ رہے خدا تعالیٰ ان میں بڑے بڑے لوگ پیدا کرتا رہا۔ جن سے دین کی اشاعت ہوئی جب انہوں نے تقاعد کیا اور علم دین کی طرف سے روگردانی کی خدا تعالیٰ نے یہ دولت دوسری قوموں کو دے دی۔ غرض انساب کون دیکھئے اخلاق اکہ، لکھنا ما۔

میں اہل مدارس کو یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ اپنی ضابطہ پری اور کارروائی و کھلانے کی غرض سے بد طینت لوگوں کو داخل نہ کریں۔ کثرت و قلت تعداد طلباء کی ذرا پرواہ کیا کریں بلکہ جس شخص کی حالت مقتداست کے مناسب نہ دیکھیں اس کو فوراً مرد سے سے خارج کر دیں۔

میں جب کانپور میں تھا تو ایک مرتبہ تقریباً آٹھ طالب علموں کو جو کہ قریب بفراغ تھے مدرسہ سے خارج کر دیا تھا۔ اہل مدرسہ نے بہت کچھ کہا سنا کہ ان کے نکلنے سے مدرسہ کی کارگزاری میں بڑی کمی واقع ہو گی اور اس سال کارروائی بالکل نہ وکھلائی جاسکے گی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کارروائی و کھلانے کا تو اس قدر خیال ہے اور اس کا خیال نہیں کہ یہ لوگ مقتداست دین ہوں لوگ ان کی پیروی کریں گے اور حالت ان کی یہ ہے تو بجز گمراہ کرنے کے اور کیا ان سے ہو سکے گا۔ تب ان لوگوں کی سمجھ میں آیا۔

غرض آپ لوگ اس کا ہرگز اندیشہ نہ کریں کہ ہم سب کو مولوی بنانے کی فکر میں ہیں کیونکہ ہم بہت سوں کو مولوی بنانا جائز بھی نہیں سمجھتے اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے۔

زیاد میکند مرد تفسیر دان کے علم و ادب می فروشد بنال تفسیر کا جانے والا شخص جو علم و ادب کو روٹی کے بدله بنتا ہے دین کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ آج کل جو علماء کا گروہ بدنام ہے یہ انہی طماعوں کی بدولت۔ واللہ! اگر علماء آج دست کش ہو جائیں جیسا کہ اہل حق بحمد اللہ ہیں تو یہ بڑے بڑے متكبرین ان کے سامنے سرتسلیم خم کریں۔ بلکہ علماء کے لئے تو یہ مناسب ہے اگر کوئی دنیادار ان کے سامنے کوئی چیز پیش کرے بھی تو یعنی سے انکار کر دیں۔ صاحبو! علماء کا وجود فی نفسہ ایسا محبوب تھا کہ اگر یہ کسی کے گھر چلے جاتے تو اس دن عید ہونی چاہئے تھی۔ حالانکہ آج وہ دن یوم الوعید ہو جاتا ہے اور وجہ اس کی بھی ہے کہ ان طماعوں کی بدولت ہر عالم کی صورت دیکھ کر یہ خیال ہوا ہے کہ یہ کچھ مانگنے آئے ہوں گے۔ صاحبو! استغنا و آزادی میں علماء کا تو یہ مذہب ہونا چاہئے کہ۔

اے دل آں بہ کہ خراب ازے گلگلوں باشی
بے زرو گنج بہ صد حشمت قاروں باشی
دررہ منزل لیلے کہ خطر ہاست بجاں شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی
اے دل بہتر بات یہ ہے کہ عشق کی شراب میں مست ہو کر بغیر زرا اور قانون بے خزانہ زندگی بسر کرے لیلیں تک پہنچنے کے لئے راستہ میں جان کو بہت سے خطرات ہیں لیکن قدم آگے

بڑھانے کی شرط ہے کہ تو مجھوں بن جائے۔

یعنی وہ حالت ہونی چاہئے کہ مال اور جاہ دونوں کو آگ لگا دو۔ اگر تم ان امراء کے دروازے پر جاتا چھوڑ دو تو یہ خود تمہارے دروازے پر آئیں گے۔

نیک صحبت کی ضرورت

تو ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے تعلیم کامل عام نہیں کرنا چاہئے البتہ تعلیم بقدر ضرورت عام ہونی ضروری ہے اور تعلیم کامل کا بدل ایک دوسری چیز ہے یعنی اہل اللہ کی صحبت کہ اس سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ تعلیم کامل کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے۔ دیکھئے! بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ بالکل بھی پڑھنے نہ تھے اور اسی حالت پر حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

نَحْنُ أَمْةٌ لَا نَكْتَبُ وَلَا نَحْسُبُ (المسند للإمام أحمد بن حنبل، ۱۲۲: ۲)

لیکن چونکہ حضورؐ کی صحبت اور معیت حاصل تھی وہی بالکل کافی ہو گئی۔ یہ تو دینی پہلو سے گفتگو تھی۔ اب میں تمدنی پہلو سے صحبت کی ضرورت اور بدون صحبت کے تعلیم کامل کے مفاسد بتلاتا ہوں۔ یہ توبہ کو معلوم ہے کہ اجتماع اور تمدن کے تمام مصالح علی وجہ الکمال امن و امان سے اس وقت پورے ہو سکتے ہیں کہ جب تمام لوگوں کی زندگی میں نہایت سادگی اور معاشرت میں بالکل بے تکلفی ہو۔ بناوٹ اور چالاکی کے ساتھ تمام مصالح کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ نیز یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر علم کامل ہو اور تربیت نہ ہو تو چالاکی اور دھوکہ وہی کامادہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر جاہل ہو اور تربیت نہ ہو تب بھی یہی حالت ہوتی ہے اور مصالح تمدن کا پورا ہونا ضروری ہے۔

پس خلاصہ یہ لکھا کہ مصالح تمدن کا پورا ہونا ضروری اور وہ علی وجہ الکمال بدون سادگی اور امن و امان کے پورے ہونہیں سکتے۔ اور سادگی بدون تربیت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور تربیت بغیر علم بقدر ضرورت کے ممکن نہیں۔ تو تربیت کے لئے علم بقدر ضرورت حاصل ہونا ضروری اور سادگی کے لئے تربیت ضروری اور مصالح تمدن کے پورا ہونے کے لئے سادہ زندگی ضروری۔ لہذا مصالح تمدن کے لئے علم بقدر ضرورت اور تربیت ضروری ہے۔ چونکہ علم بدون تربیت مورث عیاری ہے اور عیاری مصالح تمدن کے لئے مضر ہے۔ لہذا علم کامل بدون تربیت کے مضر ہے اور چونکہ ہر شخص سامان تربیت کا حاصل نہیں کرتا۔ لہذا ہر شخص کو علم کامل پڑھانا مفید نہیں بلکہ مضر ہے۔

لیکن اس پرناخواندہ لوگ خوش نہ ہوں کہ ہماری امیتی ایک درجے میں مطلوب ہو گئی۔ پس

اچھا ہوا کہ ہم نے علم حاصل نہ کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی نعمتی توحید سے بہت زیادہ گزری ہوئی ہے کہ صحبت سے بھی محروم ہو۔ لہذا یہ مطلوب نہیں ہو سکتی۔ تو یا تعلیم کامل مع صحبت ہو یا نرمی صحبت ہو کیونکہ نرمی تعلیم کافی نہیں اور نرمی صحبت کافی ہے مگر ایک شرط وہ یہ کہ جس کے پاس جائے اس کو اپنے دنیاوی قصوں میں مشغول نہ کرے اور اپنے تمام امراض باطن کو بلا کم و کاست اس کے سامنے پیش کر دے اور وہ جو کچھ کہے اس پر کار بند رہے۔ ہم نے ایسا ایک آدمی بھی نہیں دیکھا کہ پورا عالم ہو اور صحبت یافتہ نہ ہو اور پھر اس سے ہدایت ہوئی ہو۔ اور ایسے بہت سے دیکھے ہیں کہ شین اور قاف بھی ان کا درست نہیں لیکن دین کی خدمت کرتے ہیں۔ پس زا علم شیطان اور بلعوم یا عور کا سا علم ہے۔

طریق تعلیم و تربیت

لیکن پھر بھی ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے کہ وہ ان سب کے لئے مرکز ہو۔ یعنی سب تو پورے عالم نہ ہوں مگر چند لوگ ہوں کہ ضرورت کے وقت یہ لوگ ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک تو ایسی جماعت کی ضرورت ہے کہ جو علماء کہلائیں۔ دوسرے یہ ضرورت ہے کہ ہر شخص بقدر ضرورت عمل عالم ہے۔ تیرے اس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو۔

اب میں ہر ایک کی تدبیر بتلاتا ہوں۔ سو اول کی تدبیر یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ بچے ایسے انتخاب کئے جائیں جو کہ ذکی اور ذہین ہوں طبیعت میں سلامتی ہو اور ان کو باقاعدہ تعلیم دی جائے اور ان کے لئے ہر شہر میں ایک ابتدائی مدرسہ ہو۔ مثلاً اس بستی میں ایک ابتدائی مدرسہ قائم کیا جائے کہ اس میں شرح و قایہ نور الانوار تک تعلیم دی جائے اور یہاں تک پڑھ لینے کے بعد ان کو کسی بڑے مدرسہ میں بھیج دیا جائے کہ وہاں ان کی درسیات پوری ہو جائیں۔ اس کی فکر ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے بالخصوص امراء پر اس کا حق زیادہ ہے کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے اور ان چھوٹے مدرسون کو کسی بڑے مدرسے سے وابستہ کیا جائے کہ وہاں کی سندان لوگوں کے لئے جگت ہو اور وہ مدرسہ ان سب مدارس کے لئے دارالعلوم کے طور پر ہو۔ پھر ایسے لوگوں کے فتوے اور تعلیمات پوری طرح اطمینان سے ہوں گے بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ وعظ کہنے کے لئے آئے ہوں ان کی بنسخت بھی تحقیق کر لیں کہ وہ کسی مدرسے کے سند یافتہ بھی ہیں کیونکہ آج کل کے داعظوں سے نفع کی بجائے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔

میں نے دیوبند میں ایک واعظ کو وعظ کہتے سن۔ اور اس نے یہ آیت پڑھی۔ ذلِّکُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو)
اس کے بعد ترجمہ اس آیت کا کیا کہ تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ تم تالا لگا کر نماز جمعہ کو
جایا کرو۔ یہ خرابی تعلمون کی یعنی تلاموند۔ اس زمانے میں چناب مولانا رفیع الدین صاحب
دیوبندی مہتمم مدرسہ زندہ تھے۔ اس واعظ کو بہت ڈانٹا۔

ایک اور واعظ کا نپور میں آئے تھے۔ جامع العلوم میں انہوں نے وعظ کہا۔ یہ آیت پڑھی
وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتِنَ اور ترجمہ کیا کہ جنت میں ایک تخت ہو گا جس کا ایک ایک پایہ
ایک ایک ہزار کوس کا ہو گا اور طرہ یہ کہ کوس کی تفسیر بھی کی کہ بڑے کوس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم
نے ایسے واعظ بھی دیکھے ہیں کہ وہ وعظ کہتے ہیں اور لوگوں سے معلوم ہوا کہ شراب پیتے ہیں۔
آج کل مقتداء بننا بھی ایسا ستا ہو گیا ہے کہ جس کا جی چاہے وہی مقتدا بن جاتا ہے اور وجہ
اس کی یہ ہے کہ لوگ کسی ایک بڑی جگہ اور مرکزی جماعت سے وابستہ نہیں۔ اس لئے سب خود مختار
ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ سب کے سب کسی ایسی جگہ اور ایسی جماعت سے وابستہ ہوں کہ ان کا
ہر فعل وہاں کی اجازت اور سند کے بعد ہو۔ بدون خاص اہتمام کے یہ جماعت علماء کی قائم نہیں ہو
سکتی۔ اس لئے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر اس کا تمام تراہتمام مولویوں پر نہ رکھو۔ کیونکہ
اس میں بعض کام ایسے بھی ہوں گے کہ اس کو مولوی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لئے مناسب ہے۔
مثلاً اس قائم کرنے کے لئے چندہ کرنے کی ضرورت ہو گی سو علماء کو مناسب نہیں کہ وہ
چندہ کی تحریک میں حصہ لیں۔ اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عام لوگ ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ
اگر ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تو وہ بھی یہی مانگنے کا کام کریں گے پس مولوی پڑھانے کا کام
کریں اور رئیس چندہ وصول کریں کیونکہ ان پر یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ خود کھا جائیں گے
دوسرے جب مولوی پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو کھانے کمانے کے کام بھی ان ہی کے سر
کیوں ڈالے جائیں آج کل۔ عوام مولویوں کو بھانڈ کا ہاتھی سمجھتے ہیں۔

مشہور ہے کہ اکبر نے کسی بھانڈ کو خوش ہو کر ایک ہاتھی دے دیا تھا۔ بھانڈ نے ہاتھی تو لے لیا
لیکن اس کو خیال ہوا کہ میں غریب آدمی، اس ہاتھی کو کھلاؤں گا کہاں سے۔ اس کی تو چار خوراکوں
میں میرا سارا گھر بھی ختم ہو جائے گا۔ آخر اس کو معلوم ہوا کہ آج اکبر کی سواری فلاں طرف سے

فلان وقت گزرے گی جب وہ وقت آیا تو آپ نے ہاتھی کے گلے میں ایک ڈھول ڈال کر اسی طرف اس کو چھوڑ دیا۔ اکبر کی سواری جب گزری تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ہاتھی چلا آ رہا ہے اور گلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ خاصہ کا ہاتھی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہاتھی اس حالت میں کیوں پھرتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور نے اپنے بھائی کو یہ ہاتھی دے دیا تھا۔ اکبر نے بھائی کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے ہاتھی کو اس حالت میں کیوں چھوڑا ہے؟ کہنے لگا کہ حضور نے مجھے ہاتھی تو عنایت فرمایا مگر میرے پاس کھلانے پلانے کو کیا دھرا تھا۔ آخر یہ سمجھ میں آیا کہ جو میرا پیشہ ہے وہی اس کو بھی سکھ لادوں۔ اس لئے میں نے گلے میں ڈھول ڈال کر چھوڑ دیا کہ مانگو اور کھاؤ۔ اکبر کو یہ لطیفہ پسند آیا اور اس نے ایک گاؤں بھی انعام میں دیا۔

تو لوگوں نے مولویوں کے لئے بھی یہی تجویز کر رکھا ہے کہ کام بھی کرو اور مانگو اور کھاؤ بھی۔ صاحبو! ان کو کیا غرض پڑی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو دولت علم دی ہے۔ ان کو کیا مصیبت پڑی کہ وہ تم سے بھیک مانگیں اور میں مولویوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کامل توکل کرنا چاہئے۔ نیز مولویوں کے مانگنے میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ ان پر یہ اعتراض کریں لے گئے کہ یہ لوگ دوسروں سے تو مانگتے ہیں لیکن خود بھی نہیں دیتے اور جو محرك نہ دے اس کی تحریک میں شہرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور رؤساً اگر دوسروں سے پچاہ مانگیں گے تو کم سے کم میں خود بھی دیں گے۔ اس لئے ان پر اعتراض کرنے کا کسی کو موقع نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کام کرنے کا اس طور پر مدرسے کا قائم ہونا نہایت ضروری ہے۔ بالخصوص اس شہر میں کہ یہاں کے لوگوں کو

اگرچہ لوگوں کا یہ اعتراض نظر برداعج سمجھ نہیں ہے کیونکہ اول تو مولویوں کے پاس اس قدر سرمایہ کھاں ہوتا ہے کہ وہ چندے دیں۔ دوسرے وہ با وجود سرمایہ نہ ہونے کے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ میں چند مثالیں بطور مشتملہ از خروارے پیش کرتا ہوں۔ اول حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم نے زمانہ قیام کا پور میں مدرسہ کی آمدی میں قلت و یکھ کر اپنی تختواہ ایک قلم چھوڑ دی تھی جو کہ ۵۰ روپے ماہوار تھے۔ دوم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سلمہ مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم ۳۰ روپے ماہوار پاتے ہیں۔ اہل مدرسے نے بہت کوشش کی کہ مولانا کی تختواہ میں اضافہ کر دیا جائے لیکن مولانا نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ سیرے لئے بھی بہت کافی ہے۔ سوم حضرت مولانا مولوی محمود حسن صاحب سلمہ مدرس اول مدرسہ دارالعلوم دیوبند ۵۰ روپے ماہوار پاتے ہیں اہل مدرسے نے مولانا سلمہ کی (چھپلے صفحہ کا حاشیہ) ترقی کرنی چاہی لیکن آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ چہارم مولانا مولوی عنایت الہی صاحب سلمہ، پنجم مدرسہ سہارپور ۵۰ روپے ماہوار پاتے ہیں ارائیں مدرسے کے کہنے پر آپ نے اس تختواہ سے زیادہ لینے سے انکار فرمایا میرے خیال میں آج کوئی شخص دنیا واروں میں اس کی ایک نظر بھی پیش نہیں کر سکتا کہ کسی نے اپنے باب ترقی کو بالکل مسدود کر دیا ہو یا اپنی پوری تختواہ گلہ کے حوالے کر دیا ہو اور یہ امداد بعض وجوہ سے متعارف چندہ دینے سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور اس قسم کی بہت مثالیں ہیں۔ سعید

دین کی طرف بہت ہی کم رغبت ہے۔ سراسر دنیا ہی میں کچھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو علماء کی صحبت بہت ہی کم ہے۔ جس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود علماء کو یہاں بلا و آور ان سے فیض حاصل کرو۔ عالم کی مثال آفتاب کی ہی ہے کہ اس کے طلوع ہوتے ہی نصف کردہ زمین منور ہو جاتا ہے اور ظلمت بالکل جاتی رہتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیندار عالم ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے تابع بن جائے۔ اس کی صفت یہ ہو کہ۔

لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا إِيمَانٍ (اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے)

اور اس کے لئے کم سے کم ۲۰ یا ۲۵ روپے ماہوار کا انتظام کر دو۔ آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عالم تو بہت بڑا ہو لیکن دس بارہ روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ دینے پڑیں۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے پاس ایک عالم کی طلب میں ایک خط آیا تھا اس میں ان عالم کے لئے بہت سی شرطیں لکھی تھیں کہ وہ ایسے ہوں اور ایسے ہوں کل دس روپے تخفواہ لکھی تھی۔ مولانا فرمائے گئے کہ بھلے مانوس افی وصف ایک روپیہ تو رکھا ہوتا۔

صاحب! خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو وسعت دی ہے۔ کچھ مشکل نہیں کہ دس پندرہ روپیہ ماہوار کا ایک مولوی کے لئے انتظام کر دیں۔ عمائد شہر اگر اس پر متوجہ ہو جائیں تو بہت آسانی سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ تو بقاء علماء کی صورت تھی۔

دوسرے کام یعنی عمل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ مدرسے میں جو عالم ہوں ان سے مسائل دریافت کر کے اور حلہت و حرمت کو معلوم کر کے ان کے فتوے کے موافق عمل کیا جائے اور جس وقت تک مدرسے کا انتظام نہ ہو اس وقت تک یہ کہجئے کہ کسی ذی علم کو وعظ کے لئے تو کر کر لجھئے اس کا کام یہ ہو کہ محلوں میں جا کر وعظ کہئے اور ترغیب و تہذیب اور احکام شرع کو اس میں بیان کرے۔ آپ اس طریق پر عمل کر کے دیکھئے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی حالت درست ہو جائے گی۔

دوسرے یہ کہجئے کہ محلے کے لوگوں کو ہفتے بھر میں ایک دفعہ کسی جگہ جمع کر کے ایک آدمی مسائل کی کتاب لے کر ان کو مسائل سنادیا کریں اور جو لوگ خود پڑھ لکھے ہیں وہ مسائل کی کتاب میں خرید کر اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ ان کو دیکھا کریں اور جہاں شیر ہے کسی عالم سے حل کر لیں۔ غرض اس کو عمر بھر کا شغل رکھیں اور عورتوں کے لئے یہ کریں کہ جو پڑھی لکھی ہیں وہ تو یہ کریں کہ کتاب پس خرید کر ان کو سبق اس بقا پڑھ لیں اور جو بے پڑھی ہیں وہ پڑھی لکھی عورتوں سے سن لیا کریں۔

صحبت نیک کے فوائد

تیسری چیز یعنی صحبت کہ بدون اس کے نہ اعلیٰ درجے کی تعلیم کافی ہے اور نہ ادنیٰ درجے

کی اور اسی لئے علماء طلباء سب کے ذمہ اس کا اہتمام ضروری ہے۔ پہلے زمانہ میں جو سب لوگ اچھے ہوتے تھے اس کی بڑی وجہ بھی تھی کہ وہ سب اس صحبت کا اہتمام رکھتے تھے اس وقت یہ حالت ہے کہ تعلیم کا اہتمام تو کسی قدر ہے بھی کہ اس ہزاروں پر روپیہ صرف کیا جاتا ہے اور بہت سا وقت اس کو دیا جاتا ہے مگر صحبت کے لئے فی سال ایک ماہ بھی کسی نے نہیں دیا۔ واللہ! اگر کسی کو اس میں شبہ ہو تو وہ اب امتحان کر دیکھئے اور خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب کرے۔ میں ان شاء اللہ پانچ برس کے بعد دکھلاوں گا کہ سب کے اقوال افعال، اعمال، کس قدر درست ہوئے۔ اس وقت شائستگی کے عام ہونے سے یہ حالت ہوگی۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کارے نباشد

جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں اور کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں۔

کارے نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کار موزی نہ ہوگا اور اس لئے دنیا جنت کی مثل ہو جائے گی۔ اور راز اس کا یہ ہے کہ علم سے نیک باتیں معلوم ہوں گی اور صحبت سے اخلاق رذیلہ دور ہوں گے اور یہی دو چیزیں جہل اور بد غلطی ساری خرابیوں کی جڑ ہیں۔ کیونکہ مثلاً اگر کسی شخص میں تکبر ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا تکبر کبھی اعتراف اور قبول حق کی اجازت نہ دے گا بلکہ وہ اپنی غلطی پر مصروف ہوگا اور ہزاروں آدمی اس غلطی سے گمراہ ہوں گے اور جب تکبر کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ بات نہ رہے گی اور اثر اس کا یہ ہوگا کہ ہر غلطی کو تسلیم کر لے گا۔

سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں تشریف فرماتھے کہ ایک شخص نے عشاء کے وقت مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اس کا جواب دے دیا مستفتی کے جانے کے بعد ایک شاگرد نے عرض کیا کہ مجھے یہ مسئلہ یوں یاد ہے آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو اور مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس وقت رات زیادہ ہو گئی ہے آپ آرام فرمائیے ہم صبح ہونے پر اس کو کو بتلاؤیں گے لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ گھر میں سے اس کو بلا یا اور فرمایا کہ ہم نے اس وقت مسئلہ غلط بتلایا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد ایک شخص نے صح مسئلہ ہم کو بتلایا اور وہ اس طرح ہے جب یہ فرمائے تب چین آیا اور واپس آ کر آرام فرمایا۔ تو اس بے چینی کا سب کیا زار علم تھا۔ ہرگز نہیں۔ یہ صرف حال کا اثر تھا جو صحبت سے عطا ہوا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں۔

قال را بگوار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو

باتیں بنانا چھوڑ دو اپنے اندر کیفیت پیدا کرنے والے بنو اور کسی کامل درجہ کے بزرگ کے پاس رہ کر اپنے آپ کو مٹا دو۔

بعض لوگ جن کی تربیت نہیں ہوتی اور مقتداء ہو جاتے ہیں ان کے اخلاق نہایت خراب ہوتے ہیں اور وجہ اس کی بھی ہے کہ وہ چھوٹا ہونے سے قبل بڑے ہو جاتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی
تاراہ ہیں نباشی کے راہبر شوی
در مکتب حلقہ پیش ادیب عشق
ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی

اے بے خبر تو کوشش کر کے معلومات حاصل کر جب تک تو خود راستہ نہ جائے گا راستہ بتانے والا کیسے بتائے گا جہاں حقیقوں کا علم سکھایا جاتا ہو وہاں عشق کا ادب سکھانے والے کے سامنے پیش ہو اور وہاں پیارے بیٹے کوشش کرتے رہو کسی دن باپ بن جاؤ گے۔

تو پسر بننے سے پہلے پدر بن جانا بہت سی خرابیوں کا باعث ہے اس لئے سخت ضرورت ہے کہ اول چھوٹا بن کر اخلاق کی درستی کی جائے کہ اس سے اعمال کی درستی ہو جائے گی اور تدبیر اس کی بھی ہے کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے وہ تو کم از کم پہنچ ماہ تک کسی بزرگ کی خدمت میں رہیں لیکن اس طرح کہ اپنا تمام کچا چھٹا ان کے سامنے پیش کر دے اور پھر جس طرح وہ کہیں اس طرح عمل کریں اور اگر وہ ذکر و شغل تجویز کریں تو ذکر و شغل میں معروف ہو جائے۔ اگر وہ اس سے منع کر کے کسی دوسرے کام میں لگادیں اس میں لگ جائے اور ان کے ساتھ محبت بڑھائے اور ان کی حالت کو دیکھتا رہے کہ کسی چیز کے لینے کے وقت یہ کیا برداشت کرتے ہیں اور دینے کے وقت کس طرح پیش آتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہو گا کہ تخلق بہ اخلاق اللہ ہو جائے گا اور پھر اس کی ذات سے سرا سر لفغ ہی پہنچے گا اور جن لوگوں کو فراغ نہیں ہے وہ یہ کریں کہ وقتاً جب ان کو دو چار یوم کی مہلت ہوا کرے اس وقت کسی بزرگ کے پاس رہ آیا کریں۔

اولاد کی ذمہ داری

اور اپنی اولاد کے لئے یہ کرو کہ روز مرہ جیسا ہر کام کے لئے نظام الاوقات ہے ایسا ہی اس کے لئے بھی ایک وقت مقرر کرو کہ فلاں مسجد میں فلاں بزرگ کے پاس جا کر کچھ دیر پیٹھا کریں صاحبو! کس قدر افسوس کی بات ہے کہ فٹ بال کے لئے وقت ہو اور درستی اخلاق کے لئے وقت نہ نکل سکے اور اگر اس شہر میں کوئی ایسا شخص نہ ہو تو چھٹی کے زمانہ میں کسی بزرگ کی خدمت میں بھیج دیا کرو۔ اس زمانے میں تو ان کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا کم بخت دن رات مارے مارے پھرتے ہیں نہ نماز کے نہ روزے کے مال باپ خوش ہیں کہ ہم نماز کے بہت پابند ہیں حالانکہ ان کو یہ خبر نہیں کہ قیامت میں وہ اولاد کے سبب ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے۔

کلکم راع و کلکم مستول عن رعیتہ (سن ابو داؤد کتاب الخراج ب اسنن الترمذی: ۵۰۵)

آج کل لوگ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ قصائی گائے کی تربیت کیا کرتا ہے کہ اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے حتیٰ کہ وہ خوب موٹی تازی ہو جاتی ہے لیکن غرض اور مال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے پر چھری پچھری جاتی ہے اسی طرح یہ لوگ اپنی اولاد کو جب زیب زینت اور تعیش میں پرورش کرتے ہیں اور انعام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جہنم ہوتے ہیں اور ان کی بدولت مریبی کی بھی گردان ناپی جاتی ہے کیونکہ اس تعیش کی بدولت اولاد کو نہماز کی خبر ہوتی ہے اور نہ روزے کی بعض نامعقول تعداد سے اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو اسلام کی کسی بات کی بھی خبر نہیں ہوتی۔

ایک نوجوان کی نسبت میں نے سنا ہے کہ وہ بیر شری پاس کر کے آ رہے تھے ان کے باپ نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ میرا لڑکا لندن سے آ رہا ہے۔ تمہارے شہر سے اس کا گزر ہو گا اگر تم ایشیش پر اس سے مل لو تو بہتر ہوتا کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ان کے لکھنے کے موافق یہ مکتوب الیہ ایشیش پر گئے اور جا کر ان بیر شر صاحب سے ملے۔ اس وقت بیر شر صاحب کھانا کھا رہے تھے چونکہ رمضان شریف تھا اس لئے ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے دریافت کیا کہ رمضان شریف ہے آپ نے روزہ نہیں رکھا صاحبزادے پوچھتے ہیں کہ رمضان کیا چیز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان ایک مہینہ کا نام ہے۔ کہنے لگا جنوری فروری ایخ ان میں تو رمضان کہیں نہیں آیا۔ آخر اس کی یہ حالت دیکھ کر ان کو سخت صدمہ ہوا اور سمجھے کہ منع الکفر کا سخ شدہ ہے اس کی حالت میں تغیر نہ آتا معلوم ہوا اور ان اللہ پڑھ کر چلے گئے۔

اب آپ غور کیجئے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ مسلمان خواتین کی گودوں کے پرورش کئے ہوئے ہیں اور آن غوش جہنم میں دیئے جا رہے ہیں۔ صاحبو! اگر یہی رنگ رہا تو عجب نہیں کہ چاں برس کے بعد یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہنا بھی ننگ و عار سمجھیں اتنا اثر تواب بھی آگیا ہے کہ اسلامی نام پسند نہیں ہے۔ آپ خوش ہیں کہ ہم نے بی اے کروایا۔ ایم اے کرا دیا حالانکہ آپ نے جہنم کی پگڈنڈی پر چھوڑ دیا ہے اور آنکھوں پر ایسے چشم بند چڑھائے ہیں کہ شاہراہ جنت نظر ہی نہ آ سکے۔

صاحب! آپ کہتے ہیں کہ مولوی انگریزی پڑھنے سے منع کرتے ہیں واللہ ہم منع نہیں کرتے۔ خدا کے لئے ان کا دین تو خراب نہ ہونے دو۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو۔ خیر اگر چھ میئے وزن میں جانے کا کام کریں گے تو چھ میئے جنت میں جانے کا کام بھی تو کر لیں گے یاد رکھو کہ اہل اللہ کی صحبت وہ اکسیر ہے کہ

گر تو سنگ خارہ مر شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

اگرچہ تو سُنگ خارہ اور مرمر جیسا سخت دل بھی ہو جب کسی صاحبِ دل کے پاس پہنچے گا
گوہر کی سی قدر و قیمت پائے گا۔ اور کہتے ہیں۔

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعوت بے ریا
صحبت نیکاں اگر یک ساعت است بہتر از صد سالہ زہد و طاعوت است
تھوڑی اسی دیراللہ والوں کے پاس بینہ جانا سو سال کی بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے نیکوں
کی صحبت اگر ایک گھنٹی کی بھی حاصل ہو جائے تو سو سال کی زہد و طاعوت سے بڑھ کر ہے۔

مذہب کی روح

صاحب! صحبت سے وہ بات حاصل ہوگی اس کی بدولت اسلام دل میں رج جائے گا اور یہی
مذہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت دل میں رج جائے اگرچہ کسی وقت نماز روزے میں کوتا ہی ہو
جائے اگرچہ یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ کوئی شخص نماز روزے کو خفیف سمجھو
جائے مگر مقصد و میراج کو کچھ ہے ظاہر ہے غرض ضرورت اس کی ہے کہ مذہب دل میں رچا ہو اور اگر دل
میں یہ حالت نہیں ہے تو نہ ظاہری نماز کام کی اور نہ روزہ وہ حالت ہے جسے طوٹے کو سورتیں رثا دیں
کہ وہ شخص اس کی زبان پر ہیں۔ ایک شاعر نے طوٹے کی وفات کی تاریخ لگا کی ہے لکھتا ہے۔

میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے رات دن ذکر حق رثا کرتے

گربہ موت نے جو آدابا کچھ نہ بولے سوائے نئے نئے

اس میں ۱۲۳ ہتاریخ موت نکلتی ہے یہ تاریخ اگرچہ ہے تو مسخرہ پن لیکن غور کیا جائے تو اس
نے ایک بڑی حکمت کی بات کہی ہے یعنی یہ بتلا دیا کہ جس تعلیم کا اثر دل پر نہیں ہوتا مصیبت کے
وقت وہ کچھ کام نہیں دیتی تو اگر دین کی محبت میں رچی ہوئی نہ ہو تو حافظ قرآن بھی ہو گا تب بھی
آئے دال کا بھاؤ ہی دل میں لے کر مرے گا۔ جیسا کہ اس وقت غالب حالت رہتی ہے کہ دل
میں سے اسلام کا اثر کم ہوتا جاتا ہے اور صاحبو! اسی کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے اسلام
نکلا جاتا ہے خدا کے لئے اپنی اولاد پر حرم کرو اور ان کو اسلام کے سیدھے ڈگر پر چلاو۔

صاحبِ کمال کی علامتیں

اب میں اپنے بیان کو ایک ضروری بات پر ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ صحبت کیلئے جس شخص کو تجویز
کیا جائے وہ کیسا ہو اور اسکے صاحبِ کمال ہو۔ تسلی علامتیں کیا ہیں۔ سو علامتیں اسکی یہ ہیں کہ۔

(۱) ایک تو بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو۔ (۲) دوسرے شریعت پر پوری طرح کاربند ہو۔

(۳) تیسرا اس میں یہ بات ہو کہ جس امر کو خود نہ جانتا ہو علما سے رجوع کرتا ہو۔

(۴) چو تھے علماء سے اس کو وحشت نہ ہو۔

(۵) پانچویں یہ کہ اس میں روک نوک کی عادت ہو۔ مریدین اور متعلقین کو ان کی حالت پر نہ چھوڑ دیتا ہو۔

(۶) چھٹے یہ کہ اس کی صحبت میں برکت ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے۔

(۷) ساتویں یہ کہ اس کی طرف صلحاء اور دین کے بیکھنے والے لوگ زیادہ متوجہ ہوں اور یہ بڑی علامت ہے کمال کی۔

جس شخص میں یہ علمائیں پائی جائیں وہ مقبول ہے اور کامل ہے اس کے پاس جائیے اور اس کی صحبت سے مستفیض ہو جائے اور اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اس سے بیعت ہو جائیں کیونکہ پیری مریدی کی حقیقت مقصود ہے اور وہ یہی ہے جو مذکورہ ہوئی اس کی صبرت مقصود نہیں ہے جیسے آج کل کہ وہ محض رسم کے طور پر رہ گئی ہے جیسے کہ بعض جگہ نکاح ایک رسم سمجھ کر کیا جاتا ہے گوئینہ ہی ہو۔ ایسے ہی بطور رسم کے مرید بھی ہوتے ہیں ہاں اگر قلب میں نہایت تقاضا پیدا ہو تو مرید ہونے میں بھی مضاائقہ نہیں۔ لیکن مرید ہونے کے لئے سخت جائزی کی ضرورت ہے ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھنہ دینا چاہئے یہ سات علمائیں جو اور پرمند کو ہوئیں ضرور دیکھ لیں۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ نے ان کو ولفاظوں میں ادا کر دیا ہے فرماتے ہیں۔

کار مردان روشی و گرمی ست کار دوناں حیله و بے شرمی ست

مردوں کا کام روشی اور گرمی اور کمینوں کا کام بہانے بنانا اور بے حیائی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ست پس بہر دستے نباید دست
بہت سے لوگ جو آدمی کے جیسی صورت تو رکھتے ہیں مگر شیطان ہیں اس لئے ہر شخص کے
ہاتھ میں ہاتھنہ دینا چاہئے۔

نیک صحبت کے آداب

البته صحبت کے کچھ آداب بھی ہیں بدوں ان کے صحبت نافع نہیں۔ مخملہ ان آداب صحبت کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جا کر دنیا کی باتیں نہ بنائیے جیسے کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر بھی دنیا بھر کے قصہ جھکڑے اخبار کے واقعات ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیز حتی الوع بزرگوں کو تعویذ گندوں کی تکلیف بھی نہ دینی چاہئے ان حضرات سے تعویذ گندے لینا

ایسا ہے جیسا کہ سنار کے پاس کھر پایا کلہاڑی بنوانا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہے وہ اللہ میاں کا انعوف بالقدر شدہ دار ہو جاتا ہے کہ جو کام بھی اس سے کہا جائے وہ اللہ میاں سے ضرور پورا کردا رہتا ہے حالانکہ ایسا مختار سمجھنا خلاف توحید ہے کسی کی کیا مجال ہے کہ بجز عرض کے ذرا کچھ خلل دے سکے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا مقدمہ مولانا نے فرمایا کہ دعا کروں گا۔ اس نے کہا کہ دعا کرنے نہیں آیا۔ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں یوں کہہ دیجئے کہ میں نے یہ کام پورا کر دیا۔ مولانا نا خوش ہوئے۔

پہلی بھیت میں ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کچھ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰفضل کرے۔ اس نے نہیں ایک شخص اور بیٹھے تھے انہوں نے حکایت کے طور پر اس سے کہا کہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰفضل کرے گا۔ وہ بزرگ سخت بہم ہوئے اور کہا کہ مجھ کو کیا خبر کہ فضل کرے گایا نہ کرے گا۔ تم نے اپنی طرف سے گا کیسے بڑھایا۔ اسی طرح تعویذوں کی فرمائش بھی ان حضرات کے مذاق کے بالکل خلاف ہے بھلا جس نے عمر بھر طالب علمی اور اللہ اللہ کیا ہو وہ کیا جانے کہ تعویذ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے اور پھر لطف یہ کہ تعویذ بھی دنیا سے نزالے کاموں کے لئے۔ بھبھی سے ایک پہلوان کا خط آیا کہ میری کشتی ہونے والی ہے۔ مجھے ایک تعویذ لکھ دو کہ میں جیت جاؤں۔ میں نے لکھا کہ اگر تمہارا مقابل بھی کسی سے تعویذ لکھا لے تو کیا ہو گا۔ پھر تعویذ تعویذ میں کشتی ہو گی۔ عجب نہیں کہ لوگ چند روز میں مردوں کے بچہ پیدا ہونے کے لئے بھی تعویذ ہی لکھواليا کریں جس میں نکاح ہی کی ضرورت نہ رہے کیونکہ جب تعویذ میں ایسا اثر ہے کہ وہ ہر ایک کام میں کام آ سکتا ہے تو مردوں کے بچہ پیدا ہونے میں بھی ضرور کام آنا چاہئے۔ صاحبو! اہل اللہ کے پاس اللہ کا نام دریافت کرنے کے لئے جاؤ۔

خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لئے اہل اللہ کی صحبت طویلہ کو تجویز کرو۔ یہ تو مردوں اور تندروں کے لئے ہے۔

صحبت نیک کا بدل

اور جو اپنی یا عورتیں ہوں تو ان کے لئے صحبت کا بدل یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات دیکھا کریں یا سنا کریں۔ ان کے توکل صبر و شکر تقویٰ طہارت کی حکایتیں دیکھنا سننا یہی صحبت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے متعلق کسی نے خوب کہا ہے۔ صحبت کے متعلق تو کسی کا قول ہے۔

مقام امن و مے بغش و رفیق شفیق گرت مدام میر شود زے ہے توفیق
امن کا تو مقام ہو اور شراب بغیر کسی دھوکے کے ہو اور سچا دوست موجود ہو تو اگر یہ چیز

ہمیشہ کے لئے حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔

اور ان کے حکایات و ارشادات کے متعلق کسی کا شعر ہے۔

دریں زمانہ رفیقہ کہ خالی خلل ست صراحی مسی ناب و سفینہ غزل ست
اس زمانہ میں وہ دوست جو برائی سے خالی ہو عمدہ شراب کی بھری صراحی اور غزل کی کشتی
مگر وصیت کرتا ہوں کہ مشنوی اور دیوان حافظ یعنی علوم مکاشفہ اور اہل حال کا کلام نہ
دیکھیں کیونکہ اکثر اوقات ان کی بد دلت ہلاک ہوتے ہیں۔ مولا نافرماتے ہیں۔

نکعتا چوں تنغ فولادست تیز چوں نداری تو سپر واپس گریز
پیش ایں الماس بے اسپر میا کز بریدین تنغ را نبود حیا!
تصوف کے نکتے فولاد کی طرح چیز ہیں اگر تیرے پاس ڈھال حفاظت کا سامان نہ ہو تو
واپس جاں الماس کے سامنے بغیر ڈھال کے مت جا کیونکہ مکوار کو کائنے وقت کی کا شرم و لحاظ نہیں ہوتا۔
اور جب اہل حال صادق کے کلام میں اس قدر احتمال مضرت ہے تو جاہل بے شرع
بد لگام ہیں ان کا کلام تو کس درجہ مضر ہو گا۔ ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں۔

ظالم آں قوے کہ پشماس دوختند از سخنا عاملے را سوختند
وہ لوگ کیسے ظالم ہیں جو آنکھیں بند کر کے اپنی باتوں سے دنیا کو جلانے دیتے ہیں۔
اسی طرح جو لوگ محض بزرگوں کے کلام کی نقل بے سمجھے کیا کرتے ہیں ان کی تحریر و تقریر سے
بھی بوجہ اس کے اصل سے بد لی ہوئی ہوتی ہے کچھ نفع نہیں ہوتا ایسou کی نسبت فرماتے ہیں۔

حرف درویشاں بدد ز مرد دوں تابہ پیش جاہلاں خواند فسوں
نا سمجھ کہیں لوگ درویشوں کے الفاظ کو چرا کرنا واقف لوگوں کے سامنے منتر کی طرح
پڑھتے ہیں۔ ہاں احیاء العلوم کا ترجمہ دیکھوار بعین کا ہے۔ یکھوان شاء اللہ تعالیٰ ہر طرح کا فائدہ
ہو گا۔ یہ بیان ختم ہو چکا۔ اس بیان میں آپ نے دیکا۔ ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے وہ نسخہ بتلایا ہے کہ
اس میں نہ معاش کا حرج ہے نہ کوئی نقصان ہے اور مسلمانوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔

اس آیت میں اسی کے متعلق ارشاد ہے نسمع میں تقلید اور نعقل میں تحقیق کا ذکر فرمایا
ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دوزخ سے بچنے کے لئے دو طریق ہیں یا تقلید ہو یا تحقیق۔

اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیق عملِ طافر مائیں۔ یہ بھی دعا کیجئے کہ یہاں

مدرسہ ہو جائے کہ اس کے بہانے سے پھر آنا ہو۔

آمین یارب العالمین۔